

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَقُرْآنُ رَبِّ الْعٰالٰمِينَ
صَلَوةُ الرَّحْمٰنِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَوةُ الرَّحِيْمِ عَلَىٰ اٰشْفَاقٍ

ضیا القرآن

جلد اول
فاتحہ تا نعم

پیر محمد کرم شاہ یامے (الازہر) سجادہ بن ھبیہ

ضیا القرآن سلیک پیشہ

گنجشہ دہلوی لاهور



جملہ حقوق بھی ضیاء القرآن پبلی کیشنر محفوظ ہیں

| | |
|-------------|--|
| کتابت | خوشی محمد ناصر قادری خوش قم بنک کالی فی سمن کا بلاہو |
| تعداد | تین ہزار (۳۰۰۰) |
| تاریخ طباعت | ۱۹۹۵ |
| ناشر | ضیاء القرآن پبلی کیشنر، لاہور |

تحقیق مرکز پژوهش لامور

فهرست مضمون

| مسموں | نمبر شار | صفحہ |
|-------------------|----------|------|
| طبع جدید | ۱- | ۵ |
| مفتّدہ | ۲- | ۷ |
| الف تحری | ۳- | ۲۰ |
| البغتہ | ۴- | ۲۷ |
| آل عمران | ۵- | ۴۰۳ |
| النساء | ۶- | ۳۱۱ |
| المائدہ | ۷- | ۴۳۱ |
| الأنعام | ۸- | ۵۲۹ |
| تحقیقات لغویہ | ۹- | ۴۲۳ |
| التحقیقات التجویہ | ۱۰- | ۴۲۸ |
| فہرست مطالب | ۱۱- | ۴۲۹ |

فہرست نقشہ جات

| نمبر شار | عنوان | صفحہ |
|----------|--|------|
| ۱ | نقشہ مقامات حج | ۱۳۶ |
| ۲ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی "اُر" سے لکھان تک ہجرت اور دیگر اسفار | ۱۸۰ |
| ۳ | نقشہ جنگ احمد | ۲۸۴ |
| ۴ | بني اسرائیل کی مصر سے ہجرت اور صلوٰۃ نور دی | ۲۶۰ |

طبع جدید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي ب توفيقه توال صالحات والصلوة والسلام على حبيبه الذي بجاہه تقبل الطاعات وتمحى السيئات وعلى الله معادن السعادات واصحابه منابع البركات ومن احبابه وابتعه باحسان الى يوم الدین۔

۳۸۲ سے چھری ۱۹۴۵ء میں ضیا۔ القرآن کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ ۱۹۷۴ء میں دوسرا جلد طبع ہوئی۔ ان دونوں جلدوں کی کتابت اور طباعت اتنی غیر میکاری تھی کہ ان کا مطالعہ فاریین کے ذوق لطیف پر ایک ناخوشگوار بوجھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار میں دستیاب بھی نہیں ہوتی تھی جس سے شاپنگ کو گناہوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ ساری باتیں میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھیں لیکن اس سے رستگاری کی کوئی صورت نظر نہ آرہی تھی۔ آخر کار اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا کہ متوكلاً علی اللہ تعالیٰ اس کی طباعت و اشاعت کی ذمہ داری خود سنبھالی جائے کیا گیا۔ اُسی کی زیرخانی ضیا۔ القرآن طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

- تمام تفسیر کی کتابت از سر نہ کرانی گئی ہے اور ملک کے بہترین خوشنویسوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔
- ضیا۔ القرآن کو تین جلدوں میں شائع کرنے کے بجائے پانچ جلدوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا کیونکہ مزادیاہ تھا۔
- تفسیر کو عاشیہ پر لکھنے کا اسلوب ترک کر کے موجودہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔
- مطبوعہ جلدوں میں بھی متعدد مقامات پر اضافے کیے گئے ہیں جن سے آیات کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
- مناسب مقامات پر مضافین قرآن کی توضیح کے لئے نقشوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔
- ہر جلد کی فرمت طالب از سر نہ اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ فاریین کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو جاتے۔
- پانچوں جلد کے آخر میں فضاح القرآن نامی ایک رسالہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے فاریین کو مطلوبہ آیت کی تلاش میں مدد ملے گی۔
- پہلی طباعت بلاکس پر تھی۔ آپ فلٹ افست کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔
- قرآن کریم کے نور کو ہر سلیم گھر میں پہنچانے کی غرض سے ضیا۔ القرآن دوسرے میں آپ کے سامنے ہے۔ اعلیٰ قسم اور

اڑازاں قسم۔ تاکہ ہر شخص اپنے ذوق اور مقدرت کے مطابق اسے حاصل کر سکے۔

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ کے فاضل نوجوان عزیزم مولانا محمد سعید اسعد نے دس لیارہ سال بڑی محنت اور دلی لگن سے شب و روز میرے ساتھ کام کیا۔ اپنے آرام و آسائش کی بھی پواہ نہ کی۔ ان کی ذہانت ہوش ذوقی اور خلوص کا مجھے اعتراف ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خلاصہ زفاقت اور مسلسل محنت کو شرف قبول بخش اور انھیں اپنے دین حنفیت کی خدایت جلیہ سر انجام دینے کی توفیقات اڑازی فیتابے۔ آمین ثم آمین۔

اللہ کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ کے فاضل عزیزم مولانا عبد الرسول ارشادیم۔ اس روکاظ مذید است کہ ایں منون ہوں جھوٹوں نے میری گزارش پر سکاری ملازمت سے استغفار دے کر ضیاء القرآن پلی کیشنا کا کام سنبھالا۔ انہی کی ان تحک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ضیاء القرآن کو اس دیدہ زیب صورت میں آپ کے سامنے پہنچ کیا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا محمد عراج الاسلام صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ اور جناب عبدالظامی مدیر معاون ماہنامہ ضیاتے حرم میرے شخصی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان کے مفید شوروں سے میں نے استفادہ کیا۔ ضیاء القرآن پلی کیشنا کے اراکین کے بھرپور تعاون کے بغیر اس نظم منصوبہ کو عملی جامہ پہنانا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ خدمت اسلام کو ہمیشہ سلامت رکھے اور انھیں مزید توفیقات سے بہرہ و رفرائے۔

رب اوزعنی ان اشکر نعمتاك التي انعمت علىٰ وعلی والدى وان اعمل صالحًا ترضاه واصلح
لی فذريتی رأی تبت اليك وان من المسلمين۔

يارب صل وسلام داشابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

ناک راہ صاحد لال
محمد کرم شاہ
سبجادہ بھیرہ ضلع سرگودھا

دو شنبہ
۲۱۔ محرم الحرام سنه ۱۳۹۸ھ
۲۔ جنوری ۱۹۶۸ء

ضياء القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وازكي الصلوات واطيب التسليمات واسنى التحيات على حبيبه المعظوم ونبيه المكرم سيد ولد آدم مولانا محمد بن المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر الحجلين وعلى آله الطيبين واصحابه المكرمين اللهم اياك نعبد وآياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

امين بحق طه وليس -

محمد وعمر پرو دگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی تحقیقی فلاح و کامرانی کے لیے بھی خصیفہ خاقان الائین امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ہنری پر نازل فرمایا ستم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک کتاب ہے۔ اور کتابیں آن گفتہ ہیں بڑی اضخمی بڑی آدق بڑی دل آوزیں اس کتاب کی شان ہی زیارتی ہے۔ صیحہ بیکث قت کتاب بھی سے اور علم و معرفت کا آفتاب بھماں تاب بھی جس میں زندگی کی حرارت اور برداشت کا اُزروں و نون بیجا ہیں اس کا حسن و مجال قلب بہگا کو میساں متاثر کرتا ہے۔ اس کی تجربیات سے دُنیا و عینی دونوں بچکار ہے ہیں۔ اس کافیں ہر پیاس سے کو اُس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت حستجو بخشتا ہے تو قلب و رُوح کو بھی شوق فراہم سے مالا مال کرتا ہے اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی۔

یہ کتاب تقدیس ہر لحاظ سے سر اپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو اتنا دل رہا ہے کہ اپنے ٹھنے والے کو مسح کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب سے اس کا نزول ہوا اس نے اپنی فطری جاذبیت سے نور انسان کے ہر طبقہ سے سنبھیجہ اور ذہن افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ قرآن حکیم کے متعلق بتنا کچھ لکھا گیا ہے اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیکانے بھی محقق بھی تھے اور منصب بھی۔ ادب بھی تھے اور فلسفی بھی۔ عربی بھی تھے اور تجھی بھی۔ شمع علم کے پروانے بھی تھے اور زینانہ عرقان کے متوا بھی تھے اور اس کی خدمت کی بلکہ سب ہی سے اس نے اپنی خدمت لی اور ہر ایک نے اس

چاکری کو اپنے لیے باعثِ عزت و سعادت سمجھا۔

اس بھرے پیدائشیں نو احمدی کرنے والوں نے غواصی کا حق ادا کیا۔ ہر ایک نے اپنی ہست کے مطابق انہوں نے متنوں سے اپنی جھولیاں بھریں یعنی اس کے معارف کے خرینے بھرے کے بھرے ہی رہے۔ اس کے اسرار و رموز کے گنجیوں میں کمی نہ ہوتی تھجھوں نے اس گلستانِ معنی میں گل چینی کرتے کرتے گزار دیں۔ انہوں نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سب چھوٹ چھوٹ ریے ہیں بلکہ سب نے بے تائل یہ اعتراف کیا۔ دامانِ نگاہِ تنگ و گل حسن تو بسیار گل چین تو از تنگی دامان گلہ دارہ

اور ان کا یہ اعتراف بھر از راہِ تواضع و انکسار نہ تھا بلکہ حقیقت کا اظہار تھا اور وہ مجبور تھے کہ اس روشن حقیقت کا اظہار کریں۔ ہسن میدان میں ابن حجر عسکر اور ابن شیر حسے محدث اور مورخ، زمخشری اور ابن حیان اُندلسی جیسے ادب اور تکمیل، رازی اور بیضاویٰ حسینی قلم اور فلسفی، ابو بکر جصاص اور ابو عبد اللہ القرطبی جیسے فقیہ اور عقین (علیم الرحمۃ) قرآن کی عظمت و جلال کے سامنے دم بخود اور سرگرمیاں کھڑے ہوں یہ مرے جیسے تھامان یہ تھمیز کا ادھر رخ کرنا یقیناً محل تبعیب و یحربت سے۔

خداآشہد ہے کبھی بھوٹے سے بھی بیخیاں نہیں آیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنے ہے یا میں یہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں یا اپنے فہم و ادراک کے ناخن سے کسی پچھڑہ گردہ کو ہوں سکتا ہوں۔ یہ مرے قلم میں اتنا ذرورت ہے کہ میری نگارشات قرآن فہمی کے راستے سے ساری رکاوٹیں دو رکر سکتی ہیں۔ ان تمام کوتاہیوں کا لوڑ اس ساس ہوتے ہوئے یہ پوچھو گیا۔ اس کی توجیہ میرے پاس اس کے علاوہ چھیتیں کہیں یہ کوئی کہ المدد رب العزت نے چاہا اور یہ ہو گیا۔ اسی مسبب لاسباب نے اس بار فرامیں کیے اسی کی توفیق نے شنگیری فماں اسی کی عنایات پھم کے سہارے قدم اُپنے ہے اسی کی تائید میں سلسلے میں یہاں تک پہنچا اور اسی کی بارکات میں پناہ میں دامن طلب پھیلاتے ہے صد عجز نیاز فراہ کنال ہوں کہ اے ذریں کو شک افتاد بنا نے والے اے قطاوں کو مندر کی وضعتیں بخشنے والے اے گداوں کو ہفت افلم کی سلطانی کا تاج پہنانے والے اے دلوں کے ظلمت کدوں میں اپنی معرفت کا چاراغ روشن کرنے والے اے اس ذرہ ناچیز کروں اس قطرہ حقیر کو اس بے نوافیکرو، اس سیاہ رُو اور سیاہ دل کو اپنے محبوبِ مکرم رسول معلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی عنایات خسرا نہ سے، اپنے اطافتِ شہانہ سے، اپنی فوازشات کریمانہ سے ہمیشہ سفر از فرمائے رکھنا۔

رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الیت اعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحات رضاہ

واصلاح لی فی ذریتی انی تبت المیٹ وانی من المسلمين۔ (۱۵: ۳۴)

فاران کی وادیوں سے قرآن کا حاشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا ہر تک جھوٹوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے لی گزاں کو سیرا کیا اور انھیں حکمت و دانش کی جلوہ گاہ بنادیاں ایک کتاب مجید نے ہمارا پہلے علوم کو حیاتِ فوجیت و بخشی وہاں اس نے بے شمار جدید علوم کی تکمیل کا سامان فراہم کر دیا علم تفسیر، لغت و فہمۃ اللعنت، فرقہ و اصول، فقہ، معانی و بلاغت و مدلیع، صرف و نو، قرات و تجوید، وعظ و خطابت، قصر و اخبار، امثال و حکایات ان کے علاوہ اور کئی علوم میں جھوٹوں نے قرآن کیم کے سایہ علاقہ تھفت میں جنم لیا اور اسی کے آشوش تبریت یا ان چڑھے اس طرح قرآن حکیم رفیض سے دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالک بلکہ خالق بن گئی۔

ہر ہدیہ میں تلت اسلامیہ کے ذمین و فطیل افراد نے جو روشن دماغ بھی تھے اور روشن ضمیر بھی، انہی ذاتی استطاعت، ذاتی صلاحیت، استعداد اور اپنے مخصوص ماہول کی ضروریات اور لفاظوں کی پیش نظر قرآن مجید کے ان خادم علوم میں سے کسی ایک کو اپنے لئے منتخب کیا اور خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ اور اپنے اپنے موضوع پر ایسی زندہ جاوید تالیفات و تصنیفات کا اگر ان بہاؤغیرہ بچوڑا جن کی روشنی سے دینیابھر کے کتب خانے اور دانش گاہیں آج بھی چکاری ہیں لیکن اس ناضیر کے نزدیک قرآن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے اس کے نازل فرمانے والے نے بارہا اس کا تعارف اس قسم کے کلمات سے کرایا ہے:-

ہذابیان للناس وہدی و موعظة للمتقین (۳: ۱۴۸)

آج ہمیں قرآن مجید کے اسی پہلو پر زیادت سے زیادہ توجہ دینی چاہیے لیکن شومتی تقدیر ملا حظہ ہو آج قرآن کا یہی پہلو توک اور مجاہد ہے۔ قرآن حکیم کا مقصد اؤین انسان کی اصلاح ہے۔ تربیت پھم سے اس کے نفس امارہ کو نفس مطہنہ بنانا ہے، یہاں وہوس کے غائب سے ایمنیہ دل کو صاف کر کے اسے اوارہ بیان کی جلوہ گاہ بنانا ہے۔ انسانیت و غور و تمرد و سرکشی کی بخ کنی کو کے انسان کو اپنے مالک ترقی کی اطاعت و التقادیر کا خواجہ کرنا ہے یہی کام سب سے اہم بھی ہے اور سب سے مشکل اور کھن بھی۔ قرآن مجید نے اسی اہم ترین اور مشکل ترین کام کو سر انجام دیا اور اس حسن و فوپی سے کوئی ناکافی نہ نہشہ بدی گیا۔

یصرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے زندہ جا ویح حقیقت اور ناقابل انکا حقیقت کہ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہے انسان سدهرا اور سہر کر ساری کائنات کے لیے آئی رحمت بن گیا۔ خور فرمائی تھکت اللہ نے نزوں قرآن کے لیے جس سر زین کو منتخب کیا ہے عرب کا خط خدا۔ وہاں بستے والے لوگ شکل و صورت میں تو انسان تھے لیکن انسانیت سے ان کا دُر کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، رعنی و نجور، خلم و ستم، وحشت و بربریت، بھالت اور اجدان اس پر فرو افلس مستراد، غرضیکہ کوئی سایب تھا یا کوئی سنسنی گرامی تھی جو ان میں بدر جنم اتم موجود نہ تھی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی تاثیر اور صاحب قرآن کی برکت سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اگر قرآن عرب کے اجد بدو دل کو ادم و بنی آدم کے لیے باعث ہے تو شرف بنا سکتا ہے۔ اگر ان جاہلی کو جو اجد خواں ہی نہ تھے بزم علم و دانش کا صدر نہیں بنا سکتا ہے اگر حرم کعبہ میں ۴۰ سو بتوں کی پوچا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزان کر سکتا ہے تو ہمارے صم کدرہ تصورات کے لات ہیں کوئی لوگ ریزہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے علمت خانہ چیات کو اس کی کریں کیوں منور نہیں کر سکتیں۔ بخدا ہو سکتا ہے سب کچھ ہو جو قرآن نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔

اے دریانہ راہ قوم! قرآن تھیں عظمت و عزت کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے جا سکتا ہے بشر طبیعت اس کی قیادت قبول کرلو۔ اے اپنی قسمت بگشۂ پرآہ و فخار کرنے والے نوجوانوؤ دنیا کی امامت تھماری متعار کم گشۂ ہے تھیں یہ واپس مل سکتی ہے اگر تم میں اس کی واپسی کی ترپ ہو۔ — قرآن تھیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔

زندگی کی یہ ساری چیل ہل تقسیم کا رکار کے باعث ہے ایک ہی تلت کے مختلف افراد مختلف کام سر انجام دیتے ہیں کسی کے ہاتھیں حکماں کی بگ ڈور ہے۔ کوئی مجلس مشاہدات کا اگر کن رکیں ہے کوئی تجارت و صنعت کو چارچاند لا کار ہا ہے کوئی شکم زین سے اونک کے

سر بہر خزانے نکال کر اُن کے ڈھیر لگا رہا ہے کوئی وعظ و نصیحت کے منبر رچلوہ نہما ہے۔ کوئی تعلیم و تدریس کی مند کورونق سخنے ہے اور کوئی سجائہ فقر و دلشی پر تشریف فرمائے تو قم کو مجموعی طور پر اصلاح یافتہ اُسی وقت کہا جاسکتا ہے جب کہ اُس کے تماہ عناصر حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوتے ہوں اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں قرآن مجید کی پڑا بند ہوں اور اپنے اپنے فراز کی انجام ہتھیں پوری دیانت داری سے صروف کارہوں۔ ان عناصر کا ابھی تعقیل اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخصی جادہ حق سے برگشته ہو جاتے تو وہ سرے عناصر اس سے متاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے اس لیے قرآن حکیم نے ہر ایک کو اپنی شخصی توجہ کا مستحق سمجھا ہے اور ہر گروہ میں راہ پانے والی خوبیوں کی شاندی کی ہے اور انھیں اس کے عبر ناک انجام سے اگاہ کیا ہے۔

ہم اکثر بگڑی ہوتی قوموں کے حالات اور ان کے سرست ناک انجام کے متعلق قرآن میں پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ توقف کیے بغیر آگے ملک جاتے ہیں، ہم یہ زحمت بہت کم کوڑا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کا موازنہ ان برباد شہر قوموں کے اعمال سے کریں اور یہ سوچیں کہ یہیں ہم بھی اخیں نافرایتوں کا شکار تو نہیں اور اگر خدا غواستہ ہیں تو اپنے انجام کی ہولناکیوں سے غافل کیوں ہیں؟ کیا مکافاتِ عمل کا قانون قدرت کا اٹل قانون نہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ دلن بخت لسنۃ اللہ تبدیلا۔

یہ نے ہر ایسے موقع پر کوشش کی ہے کہ مطالعہ کرنے والے کے دجدان کو جھبھوڑوں اور اُسے اپنا محسوس کرنے کی رغبت بلا دل اس تک دُہ اپنی بخش عمل کو اسلام اور قرآن کے مقدار کیے ہوتے ترازوں میں تولے اور اسی کی کسوئی پر پر کھے تاکہ اسے اپنے متعلق کوئی غلط فہمی یا اشتباہ نہ ہے۔ اور اگر اس کا قدم جادہ حق سے پھیسل گا ہے تو وہ سمشنے کی بروقت کوشش کرے۔

قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو ایک واضح اور متمم ضابطہ سیحیات (شریعت) بھی عطا کیا ہے اور یہ ضابطہ اتنا ہی وسیع ہے جتنی نہیں اپنے قوموں تنوع کے ساتھ وسیع ہے بلکہ بلا بدل القاسم سے بھی وسیع تر انسان گیا ہے؛ اس کا متعلق اپنے خالق کے ماقبل اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہو چاہیے؟ اگر وہ حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر وہ رعایا ہے تو اس کے فراز کی نوعیت کیا ہے؟ اگر وہ دولت مند ہے تو اس کا طرز عمل کیسا ہو اور اگر وہ فقیر و محتاج ہو تو کس طرح با وقار ازندگی سبکر سکتا ہے؟ قرآن نے جو شریعت کا ملم ہیں دی ہے اس میں ان سوالات کا مکمل جواب موجود ہے۔ اسی لیے عبادات، سیاست، معاملات، نظام اخلاق وغیرہ تما امور کو شریعت نے اپنے دامن میں سمیا ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں بھاں بھی یہ مباحثت آتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اُن کو اس واضح اسلوب میں پیش کیا جائے جسے عصرِ حاضر کا انسان تجھ بھی سکے اور قبول ہی کر سکے۔

یہ ایک بڑی دلخراش اور روح فراسیقیت ہے کہ مرور زمانہ سے اس اممت میں بھی افتراق و انشمار کا دروازہ ھٹل گیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ اممت بھی بعض خود غرض اور بدغواہ لوگوں کی ریشہ دو اینوں سے منتزع گو ہوں میں بڑ کٹڑے ٹھکرے ہو گئی اور جذبات میں آتے دن کشیدگی اور نلخی بڑھتی ہی پلی جا رہی ہے۔ اس پر اگذہ شریازہ کو کیجا کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انھیں قرآن حکیم کی طرف بُلایا جائے اور اس کی تعلیمات کو نہایت شایستہ اور لذیثین پر ایسیں پیش کیا جائے۔ پھر ان کی عقول سیل میں غور و تحریکی دعوت دی جائے۔ ہمارا اتنا ہی فرض ہے اور یہیں یہ فرض بڑی دل سونی سے ادا کرنا چاہیے اس کے

بعدِ عامل خداستے برتو کے پرُور کردیں۔ وہ حی و قیوم چاہے تو انھیں ان شہمات اور غلط فہمیوں کی دلائل سے نکال کر راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیقِ محنت فرماتے۔ وَمَا ذلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

اس باری اور داخلی انتشار کا سب سے المذاک پہلوں ایں السنۃ و اجماعت کا اپس میں اختلاف ہے جس نے انھیں دلوں میں بانٹ دیا ہے دین کے اصولی مسائل میں دلوں تفہیم میں ایلہ اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی تصور بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت بے لیکن بسا اوقات طرزِ تحریر میں بے اختیاطی اور اندازِ تقریر میں بے اعتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوتی تیں اور باری بھی شوہر ظن ان غلط فہمیوں کو ایک بھی ناکشکل دے دیتا ہے اگر تقریر و تحریر میں اختیاط و اعدال کا مسلک اختیار کیا جاتے اور اس بدفنی کا قلع مقع کر دیا جاتے تو اکثر و بیشتر مسائل میں اختلاف ختم ہو جاتے اور اگرچہ انہوں میں اختلاف باتی رہ بھی جاتے تو اس کی نویت ایسی نہیں ہو گی کہ دلوں فریقِ عصرِ حاضر کے سارے تقاضوں سے حصہ پوشی کیے استینین چڑھاتے، لطفِ ریسے ایک دوسرا کی تکھیر میں عرضی پر باد کرتے رہیں۔

ملتِ اسلامیہ کا حکم پہلے ہی اخیار کے چڑکوں سے چلنی ہو چکا ہے۔ یہاڑا کام تو ان فونچکاں زخمیوں پر مسمم رکھنا ہے اُن راستے ہوئے ناسوروں کو مندل کرنا ہے۔ اس کی خالع شدہ توانائیوں کو والپس لانا ہے۔ یہ کہاں کی دلنش مندی اور عقیدت مندی ہے کہ ان زخمیوں پر نک پاشی کرتے رہیں۔ اُن ناسوروں کو اور اذیتِ ناک اور تکلیف دہ بناتے رہیں۔

میں نے پورے خلوص سے کوشش کی ہے کہ ایسے مقامات پر افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے مسلک کی صحیح ترجیحی کر دوں جو قرآن کریم کی آیاتِ بینات، احادیث صحیحہ یا امت کے علماء حق کے رشادات سے مانوذہ ہے تاکہ نادان دسوں کی غلط آمیزوں یا اہل غرض کی بہتان تراشیوں کے باعث تحقیقت پر پورے پڑ گئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور تحقیقت آشکارا ہو جاتے بفضلہ تعالیٰ اس طرح بہت سے ایزامات کا خود بخواہ الہ ہو جاتے گا اور ان لوگوں کے دلوں سے یہ غلط فہمی دوڑ ہو جاتے گی جو غلط پروپگنڈے سے متاثر ہو کر یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ واقعی ملت کا ایک حصہ ترک سے آسودہ ہے یا ان کے اعمال اور منشکین کے اعمال میں مغلظت پائی جاتی ہے العیاذ باللہ۔ خداوند کریم ہمارے حال ڈاپر رحم فرمادے اور دلوں کو سد اور نفرت کے جذبات سے پاک کر کے ان میں مجتہ و اُنقت پیدا فرماؤے و هو علیٰ کل شیٰ قدیر۔

فرقانِ حمیدِ عربی زبان میں نازل ہوا عربی کا اپنا ادب ہے فضاحت و بلا غشت کا اپنا معیار ہے اس کے اپنے مجازات استعارات اور امثال میں مفردات کے اشتقاق اور جملوں کی ترتیب کے الگ فaudیں۔ اس کا دامن الفاظ کی کثرت سے محروم ہے اور قاعده اشتقاق نے تو اس میں اتنی دسعت پیدا کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ زبان بھی اس کا مقابله نہیں کر سکتی۔

اس کتابِ تقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم عربی زبان سے ربط پیدا کریں۔ اس کے قاعد و ضوابط سے اچھی طرح و تفہیم بھیجا تیں اس کے ادب اور اسلوب اشارة کی خصوصیات کو سمجھیں تاکہ کلمات کے آبلینوں میں حقیقت کی بوشراب طور پر چلا کر رہی ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔

جمال کہیں کوئی نجومی یا صرفی انجمن معلوم ہوتی یا لغوی سچی پیدا گئی نظر آئی میں نے کوشش کی ہے کہ امکن کے مستند اقوال

سے اس کا حل پیش کر دوں تاکہ دوں میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔

ہر سورۃ سے پہلی میں نے اس کا تعارف لکھا ہے جس میں سورۃ کا زمانہ نزول، اس کا ماحول، اس کے اہم اغراض و مطالب اس کے مضامین کا خلاصہ۔ اور اگر اس میں کسی سیاسی یا تاریخی واقعہ کا ذکر ہے تو اس کا پس منظہ بیان کیا ہے۔ تاکہ قاریین جب پہلے اس تعارف کو پڑھ لیں گے تو سورۃ کا مطالعہ کرتے وقت وہ ان امور خصوصی پر زیادہ توجہ مبذول کر سکیں گے۔

قرآن کریم کے اُردو تراجم جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ عموماً دو طرح کے ہیں۔ ایک فتحت اللفظ تراجم کی ہے لیکن ان میں وہ زور بیان محفوظ ہے جو قرآن کریم کا طریقہ امتیاز بلکہ اس کی روح رواں ہے۔ دوسری قسم بالحاوہ تراجم کی ہے۔ ان میں وقت یہ ہے کہ لفظ کہیں بتاتے ہے اور اس کا ترجمہ دو سطح پر ہے یاد و سطر بعد درج ہوتا ہے اور مطالعہ کرنے والا یہ علوم نہیں کر سکتا کہ میں جو بخشے لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا متعلق کس کلمہ یا جملہ سے ہے۔

میں نے سعی کی ہے کہ ان دونوں طرزوں کو اس طرح مکجا کر دوں کہ کلام کا سلسہ اور روانی بھی برقرار رہے زور بیان میں بھی (حتی الامکان) فرق نہ آئے پائے اور ہر بلکہ کا ترجمہ اس کے بخشے بھی مرقوم ہو۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہواؤں اس کا فصلہ تو قاریین کرام ہی کریں گے بہ حال اگر مجھے اس میں کامیاب ہوئی ہوئی ہے (پوری نسیہ ادھوری سی) تو یہ میرے مولائے کیم کا اپنے اس ناچیز بندے پر ایک مزید احسان عظیم ہے جس کی شکرگزاری سے یہ بھرمان بھی ہمہ برآئیں ہو سکتا۔ آب مجھے قرآن حکیم کی جمع و تدوین اور اس کی موجودہ ترتیب کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ان امور کے متعلق اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔

جمع و مُتَّهِمٌ مُحَمَّدٌ

حنوْنیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے فضل اور فخریں ماہر صحابہ کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے تین فرمایا ہوا تھا جنہیں کتابیان وحی کیم جاتا تھا۔ جب بھی کوئی آیت یا جمُوْمَه آیات یا سورہ نازل ہوتی تو ارشاد بنوی کے مطابق کتابیان وحی اسے ضبط تھریں لے آتے۔ حضور ہر آیت کے متعلق یہ قصر تک فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں مقام اپنی جانے اس طرح جوں جوں قرآن نازل ہوتا ہا رسول مکرمؐ کی تکرانی میں حضور کی پدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا ہا لیکن یہ تحریر یہ کتابی شکل میں مدون نہیں تھیں بلکہ کاغذوں، ٹہنی کے ٹکڑوں، بھجور کے چلکوں، پتھر کی سلوں وغیرہ اشیا پر لکھی جاتی تھیں۔

سخاطت قرآن کا سب سے اہم ذریعہ حفظ قرآن حمید تھا۔ حضور اپنے صحابہ کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے۔ قیامت کے زمانے میں قرآن کو مقامات رفعہ اور مدارج سنپڑتے پڑا تو ہونے کی بشارتیں دیتے۔ نمازیں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا ضروری ہو گیا۔ اور کسی صحابہ ایسے تھے جنہیں تمام کام قرآن حکیم یاد تھا۔

رحمتِ عالم علیہ الصلوات والسلام کے رفیق اعلیٰ سے جاننے کے بعد جب ارتداء کا فتنہ اٹھا اور حضرت صدیق اکرمؐ نے اس کو کچلنے کے لیے صحابہ کے لشکر روانہ کیے تو مسیلمہ کذاب سے یمامہ کے مقام پرسانوں کی جو خُرُزِ زنجگ ہوئی اس میں اگرچہ مسیلمہ اور اس کی محبوثی

بُوٽ کا تو غائب ہو گیا لیکن ختمِ رسالت کے فدایکاروں کا بھی بے انداز جانی نقصان ہوا جس میں سات سو کے قریب صرف ھفت اٹ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ (القرطبی)

اس ساختے نے حضرت فاروق اعظمؑ کو بہت پریشان کر دیا۔ بارگاہِ خلافت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ اے صدیق اپا! باطل سے جنگوں کا جو سلسلہ شرع ہوتا ہے وہ ختم ہو تااظنہ نہیں آتا۔ اگر خطاً قرآن کے قتل کی یہی رفتار ہی تو مجھے انذیریت ہے کہ کمیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے مُرُوم نہ ہو جائیں اس لیے صلحت کا تقاضا ہے کہ اسے کتابی شکل میں بھیجا جمع کر دیا جاتے حضرت صدیقؑ نے کہا آئے عمر! میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہیں کیا۔ لیکن حضرت فاروقؓ کے ہم اصرار کے باعث آپ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو بھیجا جمع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت زیدؓ کا قول ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرا جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا شاق نہ گزرتا۔ حقیقی اس حکم کی تعمیل شاق گزرا۔

پہلے آپ نے بھی ایسا کام کرنے سے انکار کیا جو عمدہ رسالت میں نہیں کیا گیا تھا لیکن خلیفہ اولؑ کی فہماش سے انہیں بھی انتشار حصر حلال ہو گیا۔ اور اس کام کی اہمیت کا انہیں بھی احساس ہو گیا۔ بڑی جانشنازی، ہجت ہبس اور جستجو سے قرآن حکیم کا پہلا شخمرہ مولیٰ کیا گیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکابرؑ کے عدم خلافت میں یہ خدا آپ کے پاس رہا۔ آپؑ کے بعد حضرت فاروق اعظمؑ کے پاس رہا۔ اور ان کے بعد امام امویین حضرت ہفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رکھ دیا گیا۔ اور صدورت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا۔

یہ امر مخفی نہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے جن کی مادری زبان عربی تھی۔ اگرچہ سب قبائل کی مشترک بان عربی ہی تھی لیکن ان کے بھوں میں، فقط الفاظ ایں اور بعض اعراب میں ہیں تفاوت تھا۔ یہ صورت حالات ہر زبان میں ہوتی ہے۔ جس علاقوں میں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے ضلع بلکہ تحریص کے لوگوں کے لب والہیں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں مختلف قبائل کی سہولت کے پیش نظر انہیں اُن کے مخصوص انداز کے مطابق قرأت قرآن کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کیونکہ سب اہل زبان تھے اس لیے ایسے تفاوت سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تھی لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور دوسرے مالک بھی قلمرو اسلامی کا حصہ بن گئے اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید رضھنا شروع کیا تو ہر ایک نے قرآن کے فقط اسی الجم اور تلفظ کو صحیح لیکن کیا جو اُس کے اُستاد نے سکھایا تھا۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگردان خلافات کے باعث ایک دوسرے کی تخلیط کرنے لگ کے اور فتنہ و فساد کی آگ لہستہ ہستہ سلنگ لگی اسی فتح کا ایک واقعہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے نہاد میں حضرت خلیفہ رضیؓ کے سامنے میش آیا جس نے آپؑ کو حیران و سراسری کر دیا۔ حضرت خلیفہ علیؓ امینیں شرکیت تھے عراق اور شام کے نوسلم بھی اس جگہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے عمل کی سکھائی تھوڑی قرأت کے طابق قرآن مجید رضھنا شروع کیا۔ جس سے باہمی زلزال پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کی تخلیط کی اور اسے محرف قرآن کہا۔ حضرت خلیفہ نے جب یہ ما بر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سخت فکردا من گیروئی چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس آتے اور پسے گھرانے سے پہلے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ ادرک ہندہ الامۃ قبل ان تھلک؛ اس اُمّت کی چاروں سوادی کیجئے اس سے پیشتر کہ یہاں ہو جاتے اور پھر سارا ماجرہ کہہ سُنایا اور کہا انی اخشی علیہو ان مخالفوں کے تباہ کا اختلاف

الیہود والنصاری یعنی مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ ہمیں یہی یہود و انصاری کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کرنے لگیں۔

قرآن کریم کا انزوں لغت قریش کے مطابق ہوا تھا مخصوص آسانی اور سہولت کے بیش نظر و سرے قبل کو اپنے اپنے لب والہ بسے اس کی تلاوت تی اجازت دی گئی تھی لیکن اب یہ رخصت ایک عظیم فتنہ کا باعث بن رہی تھی۔ ان حالات میں اس کو برقرار رکھنا اسرار نقصان وہ اور رضیر خدا چنانچہ صحاح کرام کے مشورہ سے حضرت عثمانؓ نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک شخصیت لغت قریش کے مطابق لکھیں چنانچہ وہ تیار کر کچھ تو اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف دیار و انصار میں پھیجی گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور وہ سرے تمام نشووناک ممنوع عزاداری دیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمانؓ کی سعی و کوشش سے ایک ہملاک تین فتنے کا سد ریا ہو گیا۔

امنیت اسلام میں حضرت عثمانؓ کے اس احسان کا شکر یاد انہیں کر سکتی اسی وجہ سے ہی آپ کو جامِ آیات القرآن کے معزز قلب سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس بحث کو تمہری نے سے پہلے یہ نہ مذکور ہوتا ہے کہ لب والہ بکے تفاوت اور قراؤں کے اختلاف کی نوعیت بیان کر دی جاتے تاکہ اس کے متعلق کوئی وسوسمہ ول میں نہ رہ جائے چند مثالیں ڈکر کر دینے سے ان امور کی حقیقت واضح ہو جائے گی لہر پتہ چل جائے گا کہ یہ اختلاف منہجی قسم کا تھا یا ملائکہ قریش حتیٰ جب تک) کہتے اور بنی ہندیل اور بنی قفیف اس کا تلفظ اتنی کیا کرتے ہیں اسہد ضارع میں حرث "ایمن" کو محصور پڑھا کرتے جیسے تعلمُون۔ اور قریش کی لغت میں ہرگز "ایمن" مفتوج ہیں تعلمُون۔ میر من اب بھی عام لوگ اپنی لفظوں میں ہرگز "ایمن" کو سرہ دیا کرتے ہیں۔ قریش کی لغت میں ماء غیرہ آسن ہے۔ لیکن بنی قیم اسے ماء غیریاں پڑھتے۔

ان امثلہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا۔ لیکن قرآن کا تقدیس اور اس کی عظمت اتنے سے اختلاف کی بھی متحمل نہیں اس لیے اس کو بھی ممنوع عزاداری دیا گیا چنانچہ وہی قرآن جو عرش عظیم کے رب نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور جس کو حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ ذوالنوریؓ نے خاص قریشی لغت کے مطابق جس میں اس کا انزوں ہوا تھا ایک صحفیں مددوں فرمایا ہی قرآن جوں کاں لوں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی محوالی تغیریکے، بغیر کسی دلیل و دليل کے اب تک محفوظ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور اس کا اعتراف دوست دشمن سب کو ہے۔ چنانچہ انسان تکوہی پڑیا بریٹا نیکا صفحہ ۲۸۔ جلد اسی میں بھی یہ تصریح موجود ہے۔

"THIS RECENSION OF UTHMAN THUS BECAME THE ONLY STANDARD TEXT FOR THE WHOLE MUSLIM WORLD UP TO THE PRESENT DAY"

ترتیب قرآن

یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں اور سوروں کی آیات کی موجودہ ترتیب وہ نہیں جس ترتیب سے ان کا انزوں ہوا تھا۔ پھر اس موجودہ ترتیب کا مأخذ کیا ہے؟ اور اس نے یہ ترتیب دی ہے؟ اکثر عیسائی مستشرقین نے اس پڑی لے دے کی ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں کہ موجودہ ترتیب زمانہ نبوت میں نہیں دی گئی بلکہ اس کے بعد صحابہ نے اس کو یوں مرتب

کیا ہے۔ آئیے تھائی کی روشنی میں ان کے اس مفروضہ کا جائزہ لیں۔

ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے طلاق قرآن کی سورتوں اور سورتوں کی ایتوں کو مرتب فرمایا۔ اور یہ موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے۔ اس کے لیے متعدد دلائل ہیں جن میں سے چند ایک اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے ہدیہ ناظرین ہیں:-

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَنْ عَلَيْنَا جَمِيعُهُ وَقُرْآنُهُ ﴿۱۸﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ ﴿۱۷﴾ (۱۷، ۱۸) یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور جب ہم پڑھتے تو آپ اس پڑھنے کی اتنا کریں۔ ”اب آپ سوچیں کہ کیا ترتیب کے بغیر جمع قرآن کا سورہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا کسی مخصوص ترتیب کے بغیر اس کی تلاوت ممکن ہے؟ جب صحیح کرنے اور پڑھنے کے لیے اس کا مرتب ہوا ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ جس ذات پاک کے ذمہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہے اسی نے اس کو مرتب فرمایا۔“
ب۔ تاریخی لحاظ سے آپ سوچئے محمد رسالت میں صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کھانا۔ بعض کو کچھ سورتیں اور بعض کو سارا قرآن صحابہ کرام نمازیں اور اس کے بارہ اس کی تلاوت کیا کرتے۔ حضور رحمت عالیہن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز تجدید میں، دوسرا نمازوں میں، عام خطبات میں کثرت سے قرآن کریم کی قرأت فرماتے اور حضور کی قرأت و ترتیب اور صحابہ کی قرأت و ترتیب میں قطعاً سرموفر قہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ امور ہیں جن سے کوئی بھی انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود فصلہ یحییٰ کے لگنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام شور و غوغاء قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ الْجَلِیْلُ الْمَبْغُورُ

قرآن مجید کی تلاوت کے آداب

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا قصد دل بہلان اور وقت گزارنا نہیں بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے اور یہ قصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز نے دلی لکاو اور طبعی ربط پیدا ہو جاتے۔ اس لکاو اور ربط کو سیدا کرنے کے لیے علماء اسلام نے چند آداب اور مشراط تبانتے ہیں جن کی پابندی کرنے سے قرآن کریم سے فینیا۔ ہونے کے دروازے ھٹل جاتے ہیں میں انھیں قاریین کرام کے فائدے کے لیے العارف الکامل جعفر الاسلام الدام محدث بن محمد بن محمد بن احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق لتاب ایضاً معلوم الدین سے استفادہ کرتے ہوئے مختصر قلمبند کرتا ہوں۔

- ۱۔ قاری کے لیے ضروری ہے کہ با وضو ہو قبلہ وکھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے آداب و مکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔
- ۲۔ مقدار قرأت: بعض لوگ دن رات میں ایک مرتبہ بعض دو مرتبہ اور بعض تین مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں اور بعض ایک ماہ میں ایک مرتبہ اور بعض ہفتہ میں ایک بار کیونکہ قرأت قرآن کا اعلیٰ اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے اور

ایک دن میں اس ختم کرنے سے یہ عاپورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے المختوم فی یوم ولیلۃ قد کوہہ جماعتہ راجیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے من قرآن فی اقل من ثلاٹ لعر یفقط ہے یعنی جس نے تین دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد نبوی میں ہفتہ کوہہ ہفتہ میں قرآن ختم کیا کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابن ابی اسعب رضی اللہ عنہم کا نبی نبی محوال تھا۔

۳۔ ترتیل پڑھیر کر اہستہ ہستہ پڑھنا کیونکہ اسی صورت میں ہی انسان آیات پر غور فکر کر سکتا ہے۔

۴۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اتوالقرآن وابکوافان لم تکوا فنتبا کوا؛ قرآن کریم پڑھو اور رواؤ اور اگر رواؤ نہ آئے تو نہ تکلف رونے کی کوشش کرو۔ گیریہ وزاری سے ہی رحمتِ الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سجحان اللہ اور اللہ اکبر کرے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے اگر کسی آیت میں انعاماتِ الیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے دستِ سوال دراز کرے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے اگر آیت سجدہ پڑھے یا سُنْنَتْ تو سجدہ کرے غرضیکہ جس مضمون کی آیت پڑھے اسی قسم کے تاثر کا اظہار کرے۔

۶۔ تلاوت شروع کرتے وقت یہ پڑھے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ وَرَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَّزَاتِ الشَّيْطَنِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَخْضُرُونَ۔ اور جب تلاوت ختم کرنے لگے تو یہ کہ صَدْ قَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَللَّهُمَّ إِنِّي فَاعْتَابُكَ وَبَارِكُ لِنَّا فِيهِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ طَوَّأْتَ عَقِيقَ اللَّهِ الْحَسَنَ الْقَيْوَمَ۔

۷۔ پڑھتے وقت آوازِ اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سُن سکے۔ اس سے زیادہ بلند آواز سے قرأتِ الگرسی دُسرے شخص کے لیے تکلف دہنے تو مجبوب ہے ورنہ مکروہ۔

۸۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ زینو القرآن با صواتکم یعنی خوش آوازی سے قرآن کو منزین آزاد است کرو۔ دوسری حدیث شریف میں ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلّم لیس منا من لم یتعذّر بالقرآن۔ یعنی حضور نے فرمایا جو قرآن کو خوش اعلانی سے نہیں پڑھتا وہ تم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے تکلف و تصنیع کے بغیر عذنا ممکن ہو خوش اعلانی سے پڑھتے تاکہ خود بھی اور سُننے والے بھی اس کی قرأت سے اُطف اندوز ہوں۔

۹۔ اِن کے علاوہ چند باطنی آواب و شرائط ہیں جن کا ارتام باعثِ ہزار بُرکت و سعادت ہے۔

۱۰۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت اور اس کے نازل فرمانے والے کی عظمت سے بہر زیبوب اُسے یہ احساس ہو کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کو کسی انسان نے تصنیف نہیں کیا بلکہ یہ خالق جن و لشیر ماں کے ہمرا بُر، رب السموات والارض احکم الحکمین کا کلام معجزہ نظام ہے جو اس نے ازرا غایت بندہ پوری اپنے بندوں کی ہلیت پذیری

کے لیے اپنے محبوب و بُلزیدہ بندے خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہم محدث العالیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کے قلب بُنیر پناہ فرمایا ہے۔

- ب۔ دل کو تمام و موسوں اور انڈشیوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی اور حضور قلب سے اس کی تلاوت ہیں مشغول ہو۔
- ج۔ فکر و تدبر کی بجلد صلاحیتوں کو اس کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بُوئے کار لائے تاکہ رحمت الہی اس کے شوق و طلب کی بے قراریوں پر حرم فرماتے ہوئے اس کے لیے فوض قرآنی کے دروازے کھوں دے۔
- د۔ نفس اور نفس کی پیدا کردہ خواہشیں اور مصلحتیں، غلطی اور بھماالت سے جگہ پٹھے ہوئے نظریات اور اعفادات، ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی خوشنیں بسا اوقات قرآن فہمی کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے حیات بخش چشمہ تک پہنچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک رُکادوٹ کو سوئندھا خاک کرے اور مردانہ و ارآگے ٹھہتنا چلا جائے۔ قرآن کے صحاب کرم سے عرفان کے جو قطرے اس کی کشت ایمان پہنچنے لگیں۔ ان کی راہ میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دے۔
- ہ۔ قرآن فہمی کے لیے صرف اپنے فہم و ذکار اور علم و دلنش پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کرے اور قدم پر اس کی رہنمائی اور دستکیری کے لیے بعد عجز و نیاز التجاگر تاریخے دمایتن کو الامن یعنی المون (المون یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف رجوع کرنے والا ہی راس صحیفہ رُشد وہدایت سے نصیحت قبول کرتا ہے تبصرۃ و ذکری لکل عبد منیب (ق) اپنے رب کی طرف مائل ہونے والے ہر بندے کے لیے یہ کتاب بصیرت افراد و نصیحت ہے۔

رموز اوقاف فہرست قرآن حکیم

قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ آیات کے آخر میں یا وسط میں مختلف علامات و اشارات بنے ہوتے ہیں کہیں جھوٹا سا گول دائرہ بنتا ہوتا ہے تو کہیں م میا ص یا ز وغیرہ تروف لکھتے ہوتے ہیں۔ یہ علامات و اشارات حقیقت میں رموز اوقاف (PUNCTUATION) ہیں۔ آیت کے مطلب کو صحیح سمجھنے کا انحصار کافی حد تک ان رموز کی حقیقت کو سمجھنے پر ہے۔ ان کی اس اہمیت کے پیش نظر ان کا تفصیلی بیان درج ذیل ہے۔

(○) یہ جھوٹا سا گول دائرہ و قفت نام کی علامت ہے لیکن آیت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو یہاں ٹھیڑنا چاہیے۔ یقینت میں گولہ بھی لیکن آب گول دائرہ کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔

م۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے لیکن یہاں ٹھیڑ ناضر دری ہے۔ ورنہ کلام کے مفہوم کے خلط ملط ہو جانے کا اندازہ ہے۔

ط۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں آپ کو ٹھیڑنا چاہیے لیکن مسلمان کلام ابھی جاری ہے۔ کہنے والے کا مطلب ابھی پورا نہیں ہوا۔

ج۔ وقف جائز کی نشانی ہے۔ یہاں ٹھیڑیں تو بہتر نہ ٹھیڑیں تو سحر ج نہیں۔

ذ۔ وقف مجوز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھیڑیں تو درست ہے لیکن نہ ٹھیڑنا بہتر ہے۔

ص۔ وقت مرخص کی نشانی ہے۔ یہاں ملکر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھیک جاتے تو رخصت ہے۔
صل۔ یہ الوصول اول کا مخفف ہے یعنی ملکر پڑھنا بہتر ہے۔

ق۔ قیل علیہ الوقت کا اختصار ہے۔ یہاں نہیں ٹھیک نہ چاہیے۔

صل۔ قدیوصل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھیک نہ اور نہ ٹھیک نہ دلوں جائز ہیں لیکن ٹھیک نہ بہتر ہے۔

وقت۔ اس کا معنی ہے ٹھیک جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں لکھی جاتی ہے جہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ پڑھنے والا سے ملکر پڑھے گا۔
س۔ یاسکتہ۔ یہاں ٹھیک نہ چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفہ۔ لمبے سکتے کی علامت ہے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹنے چاہئے۔

لا۔ لانے کا معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کبھی آیت کے اختتام پر تکھی جاتی ہے اور کہیں آیت کے اندر۔ آیت کے اندر ہو تو
ہرگز نہیں ٹھیک نہ چاہیے۔ آیت کے اختتام پر (○) ہو تو بعض کے نزدیک ٹھیک نہ چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں دنوں
صورتوں میں آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ک۔ کذلک کا مخفف ہے یعنی یہ علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جاتے۔

آخر میں میں اپنے اُن احباب کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جھوٹوں نے اس اہم اور عظیم کام کی تکمیل میں میری خدمت
کی اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمایا۔ اس سلسلہ میں عزیز مولیٰ محمد فیض صاحب متعلق دارالعلوم محمد یغوثیہ بھیرہ نے میری بڑی
خدمت کی ہے۔ اپنے آزاد و آسائش کو قربان کر کے مجھے آزاد پہنچایا ہے۔ سفر و حضر میں میرے رفیق رہے ہیں مولکریم اس مخصوص
خدمت پر انہیں اجر جزیل عطا فرمادے۔ امین!

متوکلًا علی اللہ العلی العظیم یخیف و ناقواں را ہر وہیں منزل کی طرف یکم رمضان المبارک ۱۴۲۹ھ بروز و شنبہ ۱۹ فروری
۱۹۶۰ء جادہ پہنچا تو تھا۔ آج بفضلہ تعالیٰ اس کھشن اور طویل راہگزار کا ایک حصہ طے ہوا چاہتا ہے۔ رات کا ایک نجح چکا سے بھی ابھی
اعظم ہوا ہے اور ابھی مطلع حیات پر ۱۹۶۵ء کا ظہور ہوا ہے۔ وقت کی برق رفتاری انسان اور اس کی زندگی کی بخشانی
کھٹکتی ہیں اور جو ساعتیں اس کے محبوب مکرم عنیۃ اللہ علیہ وسلم کی شناسگستی کی نذر ہوتی ہیں وہ فنا نہیں ہوتیں
وہ باتی ہیں۔ وہ ابدی اور سرمدی ہیں۔ وہی حاصل حیات ہیں۔ وہی مقدارِ زلست ہیں۔

اوقات ہماں بود کہ با یار پسرشد۔ باقی ہمہ لے حاصلی و بے خردی بود۔

اے میرے کرم! اس بندہ تھیکر کے دل میں بھی یرخیال بھی نہیں آیا تھا کہ تو اسے اپنی اس کتاب مُبَرِّی خدمت کی سعادت
بختی گا۔ یہ ناکارہ خلائق اس قابل کب تھا؟ اس بے علم اور نادان میں یہ الہیت کہاں تھی؟ اے میرے بندہ نواز! اسے محض
تیر کرم نہ کوں تو اور کیا کوں۔

اے میرے رحیم! آج میرا قلب عزیز جذباتِ مسرت سے سرشار ہے۔ یہ اس لیے کہ تیری شان رحمت نے اسے اپنے

الاطاف بے پایاں سے نواز ہے کسی استحقاق کے بغیر یہ نواز شات خسروانہ انھیں محض تیر کرم نہ کھوں تو اور کیا کھوں میرے رحمن! جھبھے بے نوا اور بے کس کے پاس نہ تو دامن تھا اور نہ عوصلہ طلب تیری ہی شان رحمائیت نے مجھے دامن بھی بخشندا اور حوصلہ طلب بھی۔ اس بے نوا اور اس بے کس پر یہ عنایت! اسے محض تیر کرم نہ کھوں تو اور کیا کھوں؟ اے میرے رحمن! میرے رحیم! میرے کریم! اس ناکارہ غلطت کی ایک اور رجھا ہے پلے کی طرح بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے، محض اپنے کرم سے اسے بھی شرف پذیرانی بخش۔ وہ یہ کہ جھلانہ دیا جاؤ!۔

تیری محبت سے میری شمع حیات روشن رہے۔ تیری بندگی کا لشان میری جہیں پر ہمیشہ تابندہ رہے۔

تیرے پیارے جیب کے عشق سے میرا حریم دل منور رہے تیرے رسول مکرم کی غلامی کا طوق زیب کلوڑ رہے۔

ہے ہوا نے خلعت شہی نہ رام بگردان حلقہ طوق غلامی
آخرین تیری عنایات بے پایاں پر، تیری نواز شات بکیاں پر، تیرے لطفِ عیم پر تیرے ہی بتائے ہوئے کلماتِ طیبات سے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں بہرہ تشكرو امتنان پیش کرتا ہوں اسے قبول فرماۓ۔ رب اوزعنی ان اشکر لعنتک التي الغمت علىٰ وعلىٰ والدك وان اعمل صالحات رضاه واصلح لى في ذريتك إلی تبت اليك وانی من المسلمين فاطر السموات والارض انت ولیٰ فی الدنیا والآخرة توفی مسلماً والحقنی بالصالحين رب ارحمهم ما كمار بیانی صغيراً۔ ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم۔ بحرمة جیبک المصطفی وبنیک المجتمعی ورسولک المرتضی سیدی ومولائی وشفیعی وحیدی محمد وآلہ بدوالدینی وصحبہ بنومن الهدی۔ اللھم صلّ وسیلّ وبارک علیہ وعلی الہ وصحابہ ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین یارب العالمین۔

خاک راہ صاحب در لال

ابوالحسنات محمد کرم شاہ

مِنْ عُلَمَاءِ الْأَذْهَرِ الشَّافِعِيِّ

خادم آستانہ عالیہ امیر السالکین حضرت قبلہ پیر امیر شاہ صاحب

ہاشمی، اسدی، پشتی نظری، سیالوی نور الدین مرقدہ

بھیرہ۔ ضلع سرگودھا (مغربی پاکستان)

شعب جمعہ ۷ شعبان معظّم ۸۲۳ھ
یکم جنوری ۱۹۴۵ھ

سُرِّ فَكِيرٍ ط

میں نے اس قرآن مجید کو حرف اُنہاً نہایت خوراً اور امعان نظر سے پڑھا ہے اور
میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے متن میں کوئی کمی بیشی اور کتابت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔

ابوالفضل محمد عبد الکریم

خطیب جامع مسجد خانقاہ دوگران

صلح شیخوپورہ

ابوالفضل محمد عبد الکریم رواجہ کارکن عزیز
ابوالفضل محمد عبد الکریم رواجہ کارکن عزیز
دامت امدادہ

تحقیقات لغویہ

| حاشیہ نمبر | سُورت نمبر | | | حاشیہ نمبر | سُورت نمبر | |
|------------|------------|-----------|--|------------|------------|--------------------------|
| | | بصائر | | | | |
| ٤ | ١٣٢ | ت | | ١ | ١٣ | آمین |
| ٢ | ٥٦ | تاب | | ٢ | ٥٥ | اسرائیل |
| ٢ | ١١٢ | تتلوا | | ٢ | ٣١٦ | الوف |
| ٢ | ٣١ | تباعونی | | ٢ | ٩٥ | الامانی |
| | | ث | | ٣ | ٨٤ | اسمر |
| ٢ | ١١١ | ثبات | | ٣ | ١٢٨ | یاؤ |
| | | ج | | ٥ | ٢٠١ | اللهُر |
| ٢ | ٨٨ | چبت | | ٤ | ١٥٨ | کاٰئی |
| ٥ | ٦ | لایحرمتکم | | ٢ | ٢٥٧ | اقنوم |
| | | ح | | ٤ | ٣٩ | اساطیر |
| ١ | ٢ | الحمد | | | | ب |
| ٢ | ٣٧ | یستحبی | | ٢ | ١٣٢ | بدیع |
| ٢ | ١٥٣ | الحكمة | | ٤ | ١٣٢ | |
| ٢ | ٣١٠ | حافظوا | | ٣ | ١٢٨ | بطانة |
| ٣ | ٣ | الحق | | ٣ | ٩٩ | بکّة |
| ٣ | ٧ | المحکمات | | ٤ | ٢٠٨ | یخلون |
| ٣ | ٣٧ | محراب | | ٢ | ٧٨ | بروج |
| ٣ | ٤٣ | حینفیا | | ٥ | ٢ | بھیمة |
| ٢ | ٥٣ | محضنات | | ٥ | ٥٣ | ابن اور ولد کافق (ابناء) |
| ٢ | ٥١ | یمسدون | | ٥ | ١٨٠ | بخارہ |
| ٢ | ١١١ | حدز | | ٤ | ٨٩ | ابسلوا |

| سُورت نمبر | حاشیه نمبر | سُورت نمبر | حاشیه نمبر | سُورت نمبر | حاشیه نمبر |
|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ر | | | | | |
| ١ | ٣ | الرحمن الرحيم | ٥ | ١٨٠ | جُيّيتم |
| ١ | ٥ | رب | ٥ | ١٩٤ | حَامِ |
| ٢ | ٧ | رزقنا | ٤ | ١٢٢ | حُواريُون |
| ٢ | ١٢٠ | راعنا | ٦ | ١٥٩ | حَكْمًا |
| ٢ | ٢٨٠ | رفث | ٦ | ١٢٥ | حَرجًا |
| ٣ | ٨٢ | ربانيُون | ٦ | ١٨٠ | حسِبَان |
| ٢ | ٣٥٩ | ربوة | | | حَمْوَلَة |
| ٣ | ١٥٨ | ربيون | ٣ | ١٢٨ | خِبَالا |
| ٣ | ٢٢٨ | رابطوا | ٢ | ٥٢ | اخْدَان |
| ٢ | ١٣٢ | اركس | ٢ | ٤٩ | مَخْتَال |
| ٢ | ١٥٠ | مراغبا | ٢ | ١٢٠ | خَطَّ |
| ٢ | ٢٥٤ | روع | ٢ | ١٨٩ | خَيلًا |
| ٥ | ١٥٢ | رهبان | ٥ | ٨ | مُنْخَنَقَه |
| ٥ | ٨ | متريديه | ٥ | ٣١ | خَائِنَه |
| ز | | | | | |
| ٢ | ٨٩ | ازلهما | ٦ | ١٢٨ | خَضْرَا |
| ٣ | ٢١٣ | الزبر | ١ | ٨ | د |
| ٥ | ٩ | ازلامر | ٢ | ٢٢٨ | الدِّين |
| ٤ | ١٣٢ | زخرف القول | ٢ | ٢١٢ | تُدْلِوا |
| س | | | | | |
| ٢ | ٨٤ | استوئي | ٥ | ١١١ | الدُّرُك |
| ٢ | ٨٨ | اسجدوا | ٦ | ١٣٣ | تَدْعُونَ |
| ٢ | ٧٢ | سلوثي | | | دَاشَرَه |
| ٣ | ١٢٣ | المسكنة | ٣ | ١٢٣ | تَدْرِك |
| ذ | | | | | |
| الذلة | | | | | |

| حاشية نبر سورة نبر | حاشية نبر سورة نبر | ص | سنن |
|--------------------|--------------------|---|----------------|
| ٣٨ | يُضْلِلُ | ٣ | اسلام |
| ١٨١ | الضَّأْنُ | ٣ | سَوَّاً |
| ٢١٢ | ط | ٥ | سَمَاعُونَ |
| ٣٢٢ | يُظِيقُونَ | ٩ | سُحْتَ |
| ٨٨ | طَاغُوتٌ | ٥ | سَابِهَ |
| ٣١ | اٰطِيعُوا | ٢ | ش |
| ٨٥ | نَطَسٌ | ٢ | اَشْتَدَا |
| ٤٥ | طَوْعَةٌ | ٣ | شَعَائِرٌ |
| ٤٣ | ظ | ٢ | مَتَشَابِهٌ |
| ٦ | يَظْنُونَ | ٥ | مَشِيدَةٌ |
| ٩ | ع | ٥ | شَنَآنٌ |
| ١٤٢ | عَالَمِينَ | ٤ | شَرِيعَةٌ |
| ٢٤ | نَعْبُدُ | ٤ | شَيَاطِينَ |
| ١٢٤ | لَنْعَلُو | ٤ | شِيعَا |
| ١٥٢ | عِيسَىٰ | ٢ | ص |
| ١٨٣ | الْعَافِينَ | ٢ | الصَّابِر |
| ١٢٤ | وَلِيَعْلَمَ | ٢ | الصَّابِرَيْنَ |
| ٩ | عَزْمَتْ | ٢ | الصِّيَامُ |
| ٥ | عَدْوًا | ٣ | فَصُرْهُنَ |
| ٥ | تَعْوِلُوا | ٣ | تُصْعِدُونَ |
| ١ | عَقْدٌ | ٣ | اصْبَرُوا |
| ٣٧ | عَزْرَتْمَوْهَةٌ | ٤ | اصْبَرُوا |

| حاشية نبر سورة نبر | فسيس | حاشية نبر سورة نبر | غ |
|--------------------|----------|--------------------|---------|
| ٥ ١٥٢ | قدرها | ٢ ٥ | غيب |
| ٦ ١١٣ | مستقر | ٢ ٢٥٢ | اللغوا |
| ٦ ١٢٢ | قناون | ٥ ٢٥ | اغرينا |
| ٦ ١٢٨ | ك | ٤ ١١٩ | غمرات |
| ٢ ٣٨٢ | كرسييه | | ف |
| ٣ ١٢٥ | كاضمين | ٢ ١٠ | مفلحون |
| ٦ ١٢٥ | كلمة | ٢ ٢٣٩ | فريقاً |
| ٢ ٢٥٥ | " | ٥ ١٣٨ | الفتنة |
| ٢ ٢٥٩ | كلالة | ٢ ٢٣٢ | " |
| ٦ ٣٩ | الكتة | ٣ ٢ | الفرقان |
| | ل | ٣ ١٢٨ | فاحشة |
| ٢ ٥٩ | تبليسون | ٢ ٤٩ | فحور |
| ٣ ٨٣ | يلوؤون | ٥ ٥٥ | فتره |
| | مر | ٤ ٢٤ | فرطنا |
| ١ ٨ | مالك | ٤ ١٢٢ | فالق |
| ٢ ٢٢ | مثل | ٤ ١٨٠ | فرشا |
| ٢ ٢٥ | ملائكة | ٤ ١٩٢ | فواحش |
| ٢ ٢٨ | من وسلوي | ٤ ١٢١ | فرادى |
| ٣ ٧٢ | مسيح | | ق |
| ٣ ٥٨ | مكرروا | ٢ ٤ | يقيمون |
| ٦ ١٨١ | معز | ٢ ٣١٩ | قرضاً |
| ٣ ٢٠٥ | شملي | ٢ ٣٣٨ | قيوم |
| ٢ ١٧٨ | مربيض | ٥ ٥ | قلائد |
| | | ٢ ٣٠٣ | قوامون |

| سُورت نُمر | حاشیه نُمر | سُورت نُمر | حاشیه نُمر | |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| ٥ ٨ | | موقوذة | | ن |
| ٥ ٧٦ | | وسيلة | ٣١ | انداد |
| ٥ ٤٤ | | ياويلي | ٢ | خله |
| ٥ ١٨٠ | | وصية | ٢ | شوز |
| ٤ ٣٩ | | وقدرا | ٢ | تكير |
| ٤ ١٤٧ | | مستودع | ٢ | جنوئي |
| ٤ ١٤٨ | | نُوئي | ٥ | نقبا |
| ٥ ٢٠٩ | | توفيتني | ٢ | استنکفت |
| ٤ ٨١ | | يتوّفقوا | ٥ | منهاج |
| | | | ٤ | پيئون |
| | | | ٥ | سب |
| ١ ١١ | | اهدنا | ٥ | تقیون |
| ٢ ٢٠ | | یستھری | ٥ | ابووا |
| ٥ ٥ | | هدی | ٦ | متقون |
| ٥ ٨ | | ماهُل | ٢ | |
| ٤ ١٩١ | | ھُم | | يوقنون |
| ٥ ١٠٣ | | مهیمن | ٢ | وسطاً |
| ٤ ١٢٢ | | استھوت | ٢ | أولياء |
| | | | ٣ | دلی |
| ١ ٩ | | يوم الدین | ٢ | وحينا |
| ٤ ١٢٩ | | ینعه | ٥ | اوْفوا |

التحقیقاتُ التحويَّة

| سُورَةُ نُبْرَهُ | حَاشِيَّةُ نُبْرَهُ | سُورَةُ نُبْرَهُ | حَاشِيَّةُ نُبْرَهُ |
|------------------|---|------------------|--|
| ٣ ١٨٤ | أولمَا أصَابَكُم مصيبة فَلَا يُرِيكُمْ لِيَوْمَنُونَ | ٧ ١١٢ | وَمَا نَزَّلْنَا عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلِ |
| ٢ ١٦٩ | حَسْنٌ أَوْلَئِكَ رِيفِقاً | ٢ ٢٠٤ | هَارُوتُ وَمَارُوتُ |
| ٢ ٤٥٥ | وَالْمُقْيَمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتَوْنَ الزَّكَاةَ | ٢ ٢٠٣ | الْمَوْفُونَ بِعِهْدِهِمْ إِذَا أَعْاهَدُوا |
| ٥ ١٢١ | عَمَّا وَاصْمَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ | ٣ ١٢ | وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ |
| ٤ ٧ | وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ | ٣ ٢٠ | يَرَوْنَهُمْ مُّثْلِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ |
| ٤ ٥٨ | إِذَا يُتَكَمَّلُ | ٣ ١٠٥ | قَائِمًا بِالْقَسْطِ |
| ٤ ١٢٢ | عَدُوٌّ وَأَشِيَاطِينَ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ | ٣ ١٢٢ | تَبْغُونَهَا عَوْجًا |
| ٤ ١٥٥ | أَكْبَرُ بِحُرْمَيْهَا | ٣ ١٢٩ | الْأَبْجَلُ مِنَ اللَّهِ |
| ٤ ١٨١ | ثَمَانِيَّةُ ازْوَاجٍ | ٣ ١٥٨ | هَانَتْ رُوَاوَلَاءُ |
| ٤ ١٩١ | قُلْ هَلْوُ شَهْدًا عَكْرٌ | ٣ ١٨٠ | كَأَيْنَ مِنْ نَبِيٍّ |
| | | | فِي مَارِحَةٍ مِّنَ اللَّهِ |

فهرست مطالب

| سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر |
|------------|----------|-----------|----------|
| ۲۸۳، ۴۸۲ | ۷ | ۳ | ۱۰۴ |
| ۳۲ | ۲ | ۳ | ۶۱ |
| ۲۸۲ | ۷ | ۳ | ۱۹۰ |
| ۵ | ۳ | ۳ | ۱۹۱ |
| ۲۹ | ۳ | ۳ | ۱۹۱ |
| ۳۲ | ۳ | ۴ | ۱۳۴ |
| ۱۲۸ | ۲ | ۴ | ۴۰ |
| ۳۵ | ۲ | ۴ | ۲۷۷ |
| ۱ | ۲ | ۴ | ۹۹ تا ۹۵ |
| ۴۴، ۱۷، ۱۱ | ۲ | ۴ | ۱۷۲، ۱۳۱ |
| ۱۱۱، ۱۰۲ | " | " | " |
| ۱۲ | ۲ | ۲ | ۴۹ |
| ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۳ |
| ۹۸ | ۲ | ۲ | ۷۷، ۴۳۳ |
| ۷ | ۵ | ۲ | ۱۱۰ |
| ۸ | ۵ | ۲ | ۲۲۲، ۱۶۷ |
| ۱۱۴ | ۵ | ۲ | ۱۵۸ |
| ۳ | ۴ | ۲ | ۲۳۱ |
| ۵۹ | ۴ | ۲ | ۲۳۲، ۲۳۳ |
| ۷۳ | ۴ | ۲ | ۲۳۵ |
| ۱۱۵ | ۴ | ۲ | ۲۴۱، ۲۴۲ |
| ۱۲۷ | ۴ | ۲ | ۲۴۸ |
| ۳ | ۱ | ۲ | |

ج۔ صفاتِ الٰہی

(ا) عالم الٰہی

ہر چیز کو جانتے والا
اسماں و زین کی سب بھپی چیزوں کو

جاناتا ہے
ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے

اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے
وہ سمع و علیم ہے

وہ شاکر علیم ہے
وہ ہر چیز جانتے والا ہے

وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے
وہ ہر چیز سے خردوار ہے

واسع علیم ہے

ہو بکل شئی علیم

" " "

وہ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے

اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں

تمہارے دلوں کے بھپے حالات کو

جاناتا ہے

سمیع علیم

" " "

السمیع العلیم

وہ تمہارا انگریز ہے

علیم حکیم ہے

" " "

علیم حکیم

کفی باللہ علیما

علیم حکیم

علیوبذات الصدور

حکیم بمعاملوں

علام الغیوب

وہ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے

اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں

غیب و شہادت کا جانتے والا

سمیع علیم

وہ بتاتے ہیں جو رسالت کا ہاں ہے

(۲) ہر چیز کا خالق و مالک

مالک نوم الدین ہے

| سونہر ایت نمبر | سونہر ایت نمبر | سونہر ایت نمبر | سونہر ایت نمبر |
|---|---|----------------|----------------|
| ۱۰۵ | ۲ | ۱۶۵ | ۳ |
| جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخفی کرتا ہے۔ وہ فضل عظیم کامالک ہے | وہ اشوب الرحیم ہے | ۸۷ | ۷ |
| ۱۲۸ | ۲ | ۱۳۴ | ۲ |
| وہ اشوب الرحیم ہے | روف رحیم ہے | ۱۸۱ | ۴ |
| ۱۷۳ | ۲ | ۱۸۱ | ۴ |
| غفور رحیم ہے | غفور رحیم ہے | ۶۵۱ | ۴ |
| ۱۷۴ | ۲ | ۹۹ | ۴ |
| " | " | ۹۴ | ۴ |
| ۲۱۸ | ۲ | ۹۵ | ۴ |
| " | " | ۱۲۷ | ۴ |
| ۳۱ | ۳ | " | " |
| " | " | " | " |
| ۱۵۲، ۱۴۹ | ۲ | " | " |
| وہ لوگوں کے ساتھ روف رحیم ہے | وہ لوگوں کے ساتھ روف رحیم ہے | ۱۳۳ | ۴ |
| ۱۷۳ | ۲ | ۲۴۰ | ۲ |
| اُس سے مغفرت طلب کرو بیشک وہ غفور رحیم ہے | اُس سے مغفرت طلب کرو بیشک وہ غفور رحیم ہے | ۲۴۰ | ۲ |
| ۲۰۷ | ۲ | ۲۴۹ | ۲ |
| رُوف بالعبداد | غفور علیم ہے | ۲۸۲ | ۲ |
| ۲۳۵ | ۲ | ۲۸۲ | ۲ |
| اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے | وہ سارے جہان والوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے | ۲۸۲ | ۲ |
| ۲۲۳ | ۲ | ۲۸۲ | ۲ |
| ذو فضل علی العالمین | وہ تھارے گناہوں دے گاؤہ غفور رحیم ہے۔ | ۲۵۱ | ۳ |
| ۳۱، ۳۰. | ۳ | ۱ | ۵ |
| وہ تھارے گناہوں دے گاؤہ غفور رحیم ہے۔ | وہ غفور رحیم ہے | ۱۷ | ۵ |
| ۸۹ | ۳ | ۱ | ۱ |
| اللہ کی مغفرت اور رحمت ہمارے مال سے بہتر ہے | وہ فضل عظیم کامالک ہے | ۱۷۲ | ۱ |
| ۱۵۷ | ۳ | ۱۴۳ | ۲ |
| جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے ذماب دیتا ہے وہ غفور رحیم ہے | وہ اشوب الرحیم ہے | ۱۷۹ | ۲ |

رجمتِ الہی

وہ حمّن و رحیم ہے

111111

" " " "

دُهْلِوَّا بِالْمُسْكِيَّةِ

| سوتیر آیت نمبر | سوتیر آیت نمبر | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
|----------------|----------------|---|
| ۱۵۹ | ۴ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۹۵ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۳۲، ۱۷۸ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۹۲ | ۵ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۲۶ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۲۶ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۲۹ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۲۴ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۵۹ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۷۶ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۰۱ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۲ | ۵ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۴ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۷ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۸۷، ۱۹۰ | ۵، ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۰۵ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۸۶ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۵۸ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۶۲ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۲۷۶ | ۲ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۳۲ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |
| ۱۷۰، ۵۷ | ۳ | غفور رحیم ہے ولو انہم اذ ظلموا انہ غفور رحیم ہے |

تنزہ یہ باری

کسی کو اس کا نہ بناؤ
چھکر کی مثل فینے سے وہ حیا نہیں کرتا
اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے غافل نہیں
اللہ تعالیٰ خاطم نہیں

کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دیا
اگر قم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا
اسکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں (دیداری)

اللہ تعالیٰ کسے مجت کرتا ہے اور ہدایت دلتا ہے

جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

| سو نمبر | آیت نمبر | سو نمبر | آیت نمبر |
|----------|---|-----------|---|
| ۱۰۱ | جو اُس کا دامن پکڑے وہی ہدایت پاتا ہے | ۳۶ | وہ غرور اور فخر نواز سے محبت نہیں کرتا وہ بدد کار بد دیانت سے محبت نہیں کرتا |
| ۱۲۵ | شکر گزار بندوں کو جزا دیتا ہے دعا مانگنے کی ترغیب | ۱۰۷ | بُری بات بر بلائیں کو پسند نہیں کرتا وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا |
| ۳۳ حاشیہ | اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے اس کے پاس دُنیا و آخرت کا ثواب ہے | ۱۲۸ | خالق قوم کو ہدایت نہیں دیتا |
| ۱۲۲ | وہی ہر قسم کی عزّت کا سقدار ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے اُسے | ۱۲۰ | اللہ تعالیٰ کا زانگ سب سے زیادہ حسین ہے |
| ۳۲ حاشیہ | ہی سبل السلام اور نور ہدایت سے نوازا جاتا ہے | ۱۲۲ | وہ اپنے احکام سے اپنے بندوں کو ازماتا ہے |
| ۱۲۹ | اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی سے ہدایت ملتی ہے | ۱۳۸ | وہ اپنے بندوں کا ایمان صالح نہیں کرتا تم محظی یاد کرو میں تھیں یاد کروں گا |
| ۱۶ | وہی بدیع ہے وہ جس کو ہدایت دیتا ہے اُس کا سینہ | ۱۲۳ | ذکر کی بُرک اور ترغیب |
| ۱۹ | اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ جس کو گمراہ کرنا چاہئے اُس کا سینہ اسلام | ۱۵۶ | اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ معرفت و فضل کا وعدہ کرتا ہے |
| ۷۱ | کے لیے تنگ کرتا ہے | ۱۵۶ حاشیہ | وہ سریع الحساب ہے رزق کی کمی بیشی اسی کے اختیار میں ہے |
| ۱۰۱ | اللہ کی دلیل ہی سب سے قوی ہے | ۱۵۳ | جس کی چاہتا ہے مدوف راتا ہے |
| ۱۲۵ | | ۲۴۸ | |
| ۱۲۵ | | ۱۹ | |
| ۱۲۹ | | ۳۷ | |
| | | ۱۴۱، ۱۵۱ | ۱۲۶، ۱۳۷ |

متقدّم

اللہ تعالیٰ کا زانگ سب سے زیادہ حسین ہے
وہ اپنے احکام سے اپنے بندوں کو
ازماتا ہے
وہ اپنے بندوں کا ایمان صالح نہیں کرتا
تم محظی یاد کرو میں تھیں یاد کروں گا
ذکر کی بُرک اور ترغیب
اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے
اللہ تعالیٰ معرفت و فضل کا وعدہ کرتا ہے
وہ سریع الحساب ہے
رزق کی کمی بیشی اسی کے اختیار میں ہے
جس کی چاہتا ہے مدوف راتا ہے

سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم

| سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر | ر-نبوٰت و رسالت |
|-----------------|----------|-----------|----------|--|
| ٩٩ | ۳ | ٤٣ | ۲۸۵ | عصمت انبیاء سب رسولوں پر ایمان الاناصری ہے |
| ۱۰۷ | ۳ | ۱۱۹ | ۲۵۴ | ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر |
| ۱۰۴، ۱۰۳ | ۳ | ۲۵۳ | ۲ | بنا کر بھجا ہے |
| ۱۰۸ | ۳ | ۲ | ۲ | بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں |
| ۱۰۶ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | رسولوں میں سے بعض کو بعض فضیلت |
| ۱۰۷ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | بعنی - وجہ فضیلت |
| ۱۰۸ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | دلیل رسالت |
| ۱۰۹ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | ختم کو حضور کی دلیل (تعارف آل عمران) |
| ۱۱۰ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | مباہلہ حضور کی رسالت کی کھلی دلیل |
| ۱۱۱ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | (حضرت کی صاحبزادیاں اور خلافت بالفضل) |
| ۱۱۲ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | حضرت کی رسالت احسان عظیم ہے |
| ۱۱۳ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | حضرت تمام انسانیت کے رسول ہیں |
| ۱۱۴ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | اے لوگو یہ رسول حق کے ساتھ تھاری طرف یا |
| ۱۱۵ احاشیہ | ۳ | ۲ | ۲ | حضرت کی بشارت انجلیل میں |
| ۱۱۶، ۱۱۷ احاشیہ | ۲ | ۲ | ۲ | حضرت کو تبلیغ قرآن کا حکم اور عصمت کا وعدہ |
| ۱۱۸ احاشیہ | ۵ | ۲ | ۲ | رسول کا فرض تبلیغ احکام ہے |
| ۱۱۹ احاشیہ | ۵ | ۲ | ۲ | اہل کتاب کو حضور کی صداقت کا یقین تھا |
| ۱۲۰ احاشیہ | ۵ | ۲ | ۲ | حضرت کی بعثت کے لیے دعا خلیل |
| ۱۲۱ احاشیہ | ۵ | ۲ | ۲ | بعثت بنی کے اغراض |

| سوتیں نمبر | آیت نمبر | سوتیں نمبر | آیت نمبر |
|----------------|--|------------|---|
| ۱۳۴ حاشیہ | حضرت کا اللہو امّتی کہ کرونا اور جبریل | ۵ | حضرت کا اللہو امّتی کہ کرونا اور جبریل |
| ۱۳۴ حاشیہ | کا مرضہ رحمت لانا | | کا مرضہ رحمت لانا |
| ۶۸ | حضرت کا مرتبہ مقامِ صطفیٰ سے بلند تر ہے | ۶ | کفار کے ایمان نہ لانے سے حضور کا عذیزین |
| ۸۱ حاشیہ | حضرت اور حضور کے پیر کا حضرت خلیلؑ کے جائز وارث ہیں | ۷ | کفار کی بدایت یابی کے لیے حضور کی |
| | تمام انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور | ۷ | شدت حرث کا بیان |
| | نصرت کرنے کا وعدہ لیا گیا | ۷ | ذکر کرنے والوں کو ذور نہ ہشانے کی تلقین |
| ۸۲ | حضرت اور حضور کی امت کا تمام کتب | ۹۰ | کسی اجر کی طلب نہیں |
| | اور انبیاء پر ایمان | ۹۰ | اپ تفرقة اندازوں سے نہیں |
| ۱۵۲ حاشیہ | شجاعت و استقامتِ نبویؐ | ۱۵۹ | شانِ مُصطفیٰؐ |
| ۱۵۹ حاشیہ | اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطکاروں کی سفارش فرماتا ہے | ۷ | اذقالِ ربک میں اس امر کی طرف اشارہ |
| ۶۰ | نادانوں کے ساتھ آپ کا رویہ | ۷ | ہے کہ حضور خلیفۃ العظمیٰ ہیں |
| ۱۶۷ | حضرت کی بعثت اللہ تعالیٰ کا احسان | ۷ | اگر آپ نہ ہوتے تو ادم کو بھی سیدا نہ کیا جاتا |
| ۶۷ حاشیہ | جو گلنہ کا راست کے پاس آئے گا بس شاہزادگا | ۷ | حضرت کی شان کو مت چھپاؤ |
| | (ولو انہو اذظہموا) الیة | ۷ | یہ و حضور کے وسیلہ سے فتح طلب کیا کرتے |
| ۱۶۷ حاشیہ | سبب انبیاء حضور سے فیضیاب ہیں | ۷ | حضرت امت پر گواہ ہیں گوئی کی تشریح |
| ۵۶ حاشیہ | جیب کا مقامِ خلیل سے بلند | ۷ | اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ بنایا جو آپ لوپسند ہے |
| ۱۷۵ | حضرت اللہ تعالیٰ کی بربادی ہیں | ۷ | اہل کتاب حضور کو خوب پہچانتے ہیں |
| ۱۲۱ حاشیہ | حضرت کی بشارتِ انجیلوں میں | ۷ | قد نبی تقلب و جہد کی میں حضور کی شان |
| ۱۵۵ حاشیہ | اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بو ریا | ۷ | حضرت کی بعثت کے مقاصد |
| ۲۸ حاشیہ | قرآن سابقہ کتب کا ہمین اور صدق ہے | ۷ | یعلمکو تحریر فعل کی محبت |
| ۱۰۱ حاشیہ | حضرت سے بے فائدہ سوالات کرنے کی مانعست | ۷ | حضرت کے بال کی برکت سے حضرت خالدؓ |
| ۱۶۳، ۱۲۷ حاشیہ | اطاعت اور محبت کے میدان میں فرست | ۷ | کو فتح نصیب ہوتی |
| ۱۲۷ حاشیہ | سب سے پہلے قدم رکھنے والے حضور تھے | ۲۵۳ | حضرت کے درجات کو بلند فرمایا |

| سورہ/آیت نمبر | سورہ/آیت نمبر |
|---------------|--|
| ۱۴۸ حاشیہ | ۱۶۳ دیدارِ الہی اللہ تعالیٰ سے ہر کلامی کا شرف حضور کو بھی حاصل ہوا۔ |
| ۲۹ حاشیہ | ۱۰۲ آپ خلیقاً پہلے میں لنت بنیاً و آدم انج حضور کو ان کا بھی علم تھا معلم یہود کا اس خیال سے حضور کو غلطان کہ آپ بشریٰ تو ہیں اور ناکام ہونا |
| | حضرت کی اطاعت |
| ۱۲۹ | ۱ حکمت سے مُراد سُنّتِ نبویٰ ہے تحویل قبلہ اور صحابہ کی شانِ اطاعت |
| ۱۲۷ | ۲ اسما حاشیہ رسولؐ کا اتباعِ مجستِ الہی کی نشانی اور مغفرت کا باعث ہے |
| ۱۳۰ | ۳ اطاعتِ رسولؐ کا حکم اطاعتِ رسولؐ اور اطاعتِ رسولؐ |
| ۱۳۲ | ۳ فتنہ انکار سُنّت کارہ بوجال اللہ اور اُس کے رسولؐ کی اطاعت |
| ۱۳۴ | ۲ کرے گاؤہ جنت میں داخل ہو گا جنافماں کرے گاؤہ جنم میں جائے گا |
| ۱۷ | ۲ قیامت کے دن رسولؐ کے نافماں کی حالت |
| ۲۶ | ۲ رسولؐ اس لیے بھجے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جاتے |
| ۶۵ | ۲ تیرے رب کی قسم اُوہ مومن نہیں جب تک تیر افصلہ نہ مانیں (اطاعتِ رسولؐ) |
| ۶۸ | ۲ اطاعتِ رسولؐ کی برکت سے بہتر نصیب ہوگی اللہ اور رسولؐ کے مطیع ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام ہوا |
| ۵۹ | |
| | حضرت کی اطاعت |
| | ۱۵۱ اسما حاشیہ حضرت کی اطاعت کا علم علم ادہ للسماء کلہا سے حضور کے علم کا اندازہ کرو یعلم کمیں فعل کی تحریک کی حکمت حضرت کا امّت پر گواہ ہونا |
| | "پانڈ کے گھٹنے بڑھنے" کے متعلق سوال اور اس کا جواب |
| | ۱۵۲ متشابہات کا علم حضور کو بذریعہ وحی دیا گیا غیب بذریعہ وحی بتایا جاتا ہے حضرت کو شورہ کرنے کا حکم اور اس کی حکمت حضرت کو علم غیب سکھایا گیا علم خدا واد اس قوم کا کیا حال ہو گا جو میرے علم پر |
| | ۱۵۳ طعنہ زنی کرتی ہے حضرت کو حکام شرعیہ کا لقین علم عطا فرمایا گیا طعمہ کی چوری کا واقعہ جس چیز کا علم حضور کو پہلے نہیں تھا اس کا علم |
| | ۱۵۴ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا |

| سورنبر آیت نمبر | سورنبر آیت نمبر | سورنبر آیت نمبر | سورنبر آیت نمبر |
|-----------------|--|---|---|
| ۱۴۲۷ حاشیہ | ۳ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کیا ان کے انتقال کے بعد تم دین چھوڑ دو گے استغفار کا حکم | ۷۹ اطاعت رسول بور رسول کا مطبع ہے وہی اللہ تعالیٰ کا طبع ہے | ۷۹ اطاعت رسول بور رسول کا مطبع ہے وہی اللہ تعالیٰ کا |
| ۱۰۵ | ۳ میں سب سے کپڑے سر جھکانے والا ہوں مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے سخت در لگاتا ہے | ۸۰ حضور کی نافرمانی کا نتیجہ توفیق الہی سے محرومی ہے | ۸۰ حضور کی نافرمانی کا نتیجہ توفیق الہی سے محرومی ہے |
| ۱۴۳، ۱۲ | ۴ میں جھوٹے خداوں کی خدائی کی گواہی ہرگز نہیں دیتا | ۱۱۵ اجماع حاشیہ | ۱۱۵ اجماع امت کی خلاف ورزی کا انجام اطاعت رسول کا حکم اور نافرمانی کی مخالفت |
| ۱۵ | ۴ لفڑار کی ہدایت پذیری پر حضور کی شدتِ حرص | ۹۲ میری اطاعت کرو ورنہ راہ حق سے بھک جاؤ گے | ۹۲ میری اطاعت کرو ورنہ راہ حق سے بھک جاؤ گے |
| ۱۴۲۸ حاشیہ | ۴ میں اس بات کا دعوے نہیں کرتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں مجھے منغ تلا گیا ہے کہ میں تھارے تبعدوں کی پرستش کروں | ۱۵۹ بودیں میں تفریڈ التے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں (کانو اشیدعاً) | ۱۵۹ حضور کی تعظیم و تحریم حضور کو راعناً ملت کو بلکہ اُنْظُرَنَا |
| ۵۶ | ۴ آپ کہتے اللہ اور کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے | ۱۰۲ عرض کرو یہود کی طرح میرے حدیث سے الیعنی سوالاً | ۱۰۲ عرض کرو یہود کی طرح میرے حدیث سے الیعنی سوالاً |
| ۹۱ | ۴ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں | ۱۰۸ مت پوچھو رونہ مگر اہ ہو جاؤ گے | ۱۰۸ مت پوچھو رونہ مگر اہ ہو جاؤ گے |
| ۱۴۱ | ۴ | ۲۶ بارگاہ رسالت میں یہود کی بے ادبیاں | ۲۶ بارگاہ رسالت میں یہود کی بے ادبیاں |
| ۱۴۲ | ۴ | ۲۶ اس گستاخی کے باعث وہ امیان سے محروم کر دیتے گئے | ۲۶ اس گستاخی کے باعث وہ امیان سے محروم کر دیتے گئے |
| ۱۴۲ | ۴ اللہ تعالیٰ کے سو ایں کسی کو اپنارب نہیں مانتا | ۳۱ یہود کی دلازمی اور اللہ تعالیٰ کی دلجمی حضرت سے بے فائدہ سوالات کی مخالفت | ۳۱ یہود کی دلازمی اور اللہ تعالیٰ کی دلجمی حضرت سے بے فائدہ سوالات کی مخالفت |
| | | ۱۲۵ اک آپ ان کی اہواع کی پروفی کریں گے تو... | ۱۲۵ اک آپ ان کی اہواع کی پروفی کریں گے تو... |

اظہار عبودیت

اسلام

| ستونبر نمبر | آیت نمبر | ستونبر نمبر | آیت نمبر |
|-------------|----------|-------------|---|
| ۱۹ | ۳ | ۸۲، ۸۱ | ۲ |
| ۴۰ | ۳ | | اسلام نے انسان کی تقسیم قویت و طاقت کی بنیاد پر نہیں کی بلکہ نیکی و بدی کو اس اس بنایا ہے |
| ۸۳ | ۳ | | جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اُسے نہ خوف نہ حزن |
| ۸۵ | ۳ | ۱۱۲ | شیدوں کو مردہ مت کرو وہ زندہ جاوید ۷ |
| ۸۵ حاشیہ | ۳ | | اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں |
| | ۳ | | انسانیت کو مختد کرنے والا دین |
| ۱۰۲ | ۳ | ۱۵۲ | اسلام کی اشاعت کے لیے مبلغین کی تیاری ہیں |
| ۱۱۹ | ۳ | | اسلام دین مجتبی ہے |
| ۱۲۲ | ۳ | ۱۵۵ | طرح طرح کی تکلیفیوں سے بندے کو |
| ۷۷ | ۳ | | از میا جاتا ہے صابریت جاتے ہیں |
| ۸ | ۵ | ۱۷۷ | اسلام کے نزدیک نیئی اور صائبیت کا معیار ہر حال میں سچی گواہی دو اور اضاف کرو |
| ۲ | ۵ | ۴۰۸ | اسلام کو مکمل طور پر قبول کرو دین میں اکراہ نہیں |
| ۱ | ۵ | ۲۵۶ | اطمینان قلب کے لیے سوال کرنے کی لجازت |
| ۲ | ۵ | ۴۶۰ | اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے |
| ۳ | ۵ | ۱۹ | مبلغین اسلام کی ایک جماعت |
| ۱۴۱ | ۴ | ۱۰۳ | ہر حال میں سچی گواہی دینے اور اضاف |
| ۱۴۲ | ۴ | ۵، ۱۲۵ | کرنے کا حکم دین میں اختلاف کا آغاز |
| ۱۴۴ | ۵ | ۸ | " " " " |
| | | ۲۱۳ | اسلام خداوی دین ہے |
| | | ۱۹ | " " " " |
| | | ۱۹ | " " " " |

ابنِ ئیام علیہم السلام

| سوتھر آیت نمبر | سوتھر آیت نمبر | سوتھر آیت نمبر | سوتھر آیت نمبر |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ۳۵ | ۲ | ۲۵۳ | ۷ |
| ۳۵ | ۲ | ۳۴ | ۳ |
| ۳۷، ۳۶ ۷۸ حاشیہ ۷۸ تا ۷۴ حاشیہ | ۲ | ۸۰، ۷۹ | ۲ |
| ۱۲۷ | ۲ | ۱۴۵ | ۷ |
| ۱۲۸ | ۲ | ۱۵۱، ۱۵۰ | ۷ |
| ۱۲۸ | ۲ | ۱۵۳ | ۷ |
| ۱۲۹ | ۲ | ۷۸ | ۶ |
| ۱۲۹ | ۲ | ۱۰۹ | ۵ |
| ۱۲۹ | ۲ | ۱۱۲ | ۴ |
| ۱۲۵ | ۲ | ۱۲۲ | ۴ |
| ۱۲۵ | ۲ | ۱۳۰ | ۴ |
| ۱۲۶ | ۲ | ۱۳۰ | ۴ |
| ۱۳۱ تا ۱۲۷ | ۲ | ۱۳۰ | ۷ |
| ۱۳۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۷ |
| ۱۳۰ | ۲ | ۱۳۱ | ۷ |
| ۱۳۱ | ۲ | ۱۳۲، ۱۳۱ | ۷ |
| ۱۳۱ | ۲ | ۱۳۲ | ۷ |

آدم علیہ السلام

تخلیق آدم کا واقعہ
فرشتوں کی گزارش
حضرت آدم کے علوم
فرشتے بھی دم کنود
فرشتون کو حکم کہ آدم کو سجدہ کرو

بعثت انبیاء کا مقصد
تمام انبیاء پر ایمان الاناصروری ہے
وحی کی حقیقت

بعثت انبیاء کا مقصد
قیامت کے دن انبیاء کا "اعلومنا" کہنا
ہر شی کے ذمہن جھوٹ اور انسانوں میں سے
بناتے گئے ہیں
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت
دی جاتے۔
جن و انس کی طرف انبیاء بہوث فراتے گئے

| سوتھر | آیت نمبر | | سوتھر | آیت نمبر | |
|-------|----------|---|----------|----------|--|
| ۳۶ | ۳ | حضرت مریمؑ کی والدہ کی نذر | ۱۳۲ | ۲ | اپنی اولاد کو وصیت |
| ۲۷ | ۴ | مریمؑ کی شان | ۲۵۸ | ۲ | اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا نزدیک مکالمہ |
| ۷۵ | ۵ | آپ صدقیۃ تھیں | ۲۶۰ | ۲ | آپ کا سوال، تو کس طرح مردوں کو زندہ |
| ۲۵ | ۶ | آپ کو حضرت علیؑ کی بشارت | | | کرتا ہے اور اس کا جواب |
| ۲۵ | ۷ | اخیں "کلمہ منہ" کہنے کی وجہ | ۶۷ | ۳ | آپ نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ پیغمبر مسلم |
| ۲۵ | ۸ | عیسیؑ بن مریمؑ کہنے کی وجہ | ۶۸ | ۳ | آپ کے صحیح حاشیہں |
| ۲۵ | ۹ | اس بات پر مریمؑ کا تعب و اراس کا ذالم | ۵۲ | ۲ | آل ابراہیمؑ کو کتاب، حکمت اور نیک عظیم |
| ۲۷ | ۱۰ | میسخ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے | | | عطافہ فرمایا گیا |
| ۲۹ | ۱۱ | اس کی تائید انجلیل سے حاشیہت مذکورہ | ۱۲۵ | ۲ | آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں |
| ۲۹ | ۱۲ | آپ کے محجزات | ۷۸ | ۴ | آپ کی اذکر کو بصیرت |
| ۲۹ | ۱۳ | محجزات کے انکار کی وجہ اور اس کا رد | ۷۷ | ۴ | کیا آذراً آپ کے والد کا نام ہے |
| ۵۱ | ۱۴ | اطہار محجزات کے بعد اپنی بہن دگی اور | ۷۵ | ۴ | ملکوت السموات والارض کا مشاہدہ |
| | | اللہ تعالیٰ کی روہیت کا اعلان | ۷۸ | ۴ | ستارے، چاند اور سورج کی الہیت کا بطلان |
| ۶۱ | ۱۵ | عیسیٰ یوں کو دعوتِ مباهلہ | مع حاشیہ | | آپ کے شہزاد کے سیاسی، تمدنی اور منہبی |
| ۶۲ | ۱۶ | مسلمہ اصولوں پر عیسیٰ یوں کو ایمان لانے | ۷۷ | ۴ | حالات |
| | | کی دعوت | | | آپ کا اعلان توحید |
| ۶۲ | ۱۷ | کسی کو رب بنائے کا مقصد | ۷۹ | ۶ | قوم کے ساتھ آپ کا مناظرہ |
| ۵۵ | ۱۸ | انی "مُتوفیات" کی وضاحت | ۸۱، ۸۰ | ۶ | ابراہیمی تجھت |
| ۱۶۲ | ۱۹ | حضرت میسخؑ کی وفات پر استدلال اور | ۸۳ | ۶ | آپ کو نیک اولاد کا عطیہ |
| ۱۱۷ | ۲۰ | اس کا رد | ۸۲ | | |
| ۱۵۸ | ۲۱ | قتل و صلب کی نفی اور رفع سماں کا ثبوت | | | عیسیٰ علیہ السلام |
| ۱۵۹ | ۲۲ | حضرت میسخؑ کی وفات سے پہلے تمام اہل | ۲۵۳ | ۲ | حضرت عیسیٰ کو بینات عطا فرماتے اور |
| ۱۷۱ | ۲۳ | کتاب آپ پر ایمان لائیں گے | | | روح القدس سے موئی فرمایا |
| | | اہل کتاب کو حد سے تجاوز کرنے کی مخالفت | | | آپ کی الہیت کی نفی |
| ۱۷۱ | ۲۴ | آپ رسول اللہ، کلمۃ اور روح منہ ہیں | ۵۹، ۶ | ۳ | |

| سوئنبر آیت نمبر | سوئنبر آیت نمبر | عقیدہ تسلیث سے بازاں کے حکم اور توحید کا واضح بیان |
|------------------|-----------------|--|
| ۵۲ | ۱۷۱ | آپ کی غیر موجو دگی میں بنی اسرائیل کا بچھڑا بنانا اور اس کی پوجا کرنا |
| ۴۰ | ۱۷۲ | رتبیہ کے صحراء میں بارہ حصوں کا جاری ہونا بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم، ان کا انجام اور اس کی سزا |
| ۷۶ تا ۷۸ | ۱۷۳ | آپ کا بنی اسرائیل کو گاتے ذبح کرنے کا حکم |
| ۲۰ | ۱۷۴ | بنی اسرائیل پر احسانات |
| ۱۵۲، ۹۱ | ۱۷۵ | جو کتاب آپ پر نازل ہوتی وہ نور وہ بیت |
| | ۱۷۶ | داؤ و سلمان علیہ السلام |
| ۲۵۱ | ۱۷۷ | آپ نے جاوت کو قتل کر دیا |
| ۲۵۱ | ۱۷۸ | اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک حکمت اور علم بخشنا |
| ۱۰۲ | ۱۷۹ | سلمان علیہ السلام نے کفر نیں کیا بلکہ شیطان لوگوں کو سحر سکھایا کرتے |
| حاشیہ کیتے ہنگرو | ۱۸۰ | سحر کی حقیقت |
| ۱۰۲ حاشیہ | ۱۸۱ | ہاروت ماروت کا واقعہ |
| ۱۰۲ حاشیہ | ۱۸۲ | آپ پر بائیل کا لزام اور اس کا رد |
| ۳۱ تا ۳۸ | ۱۸۳ | زکر یا علیہ السلام |
| | ۱۸۴ | حضرت زکریا کی دعا اس کی قبولیت |
| | ۱۸۵ | اور بشارت |
| | ۱۸۶ | حضرت یعقوب علیہ السلام |
| ۱۳۳ | ۱۸۷ | آپ کی اپنے بیٹوں کو وصیت |
| | ۱۸۸ | مختلف انسام |
| ۹۰ تا ۸۲ | ۱۸۹ | متعدد انبیاء کے اسماء گرامی اور اُن کی عزت افزاییں |

موسیٰ علیہ السلام

فرعون کی غرقابی، آپ کی بخت
حضرت ہوامی کا طور پر جانا اور چالینہ رات ٹھہرنا
آل فرعون کا بنی اسرائیل کو گناہوں سزا دینا

انسان اور اُس کی عظمت کا قرآنی تصور

| سورنمبر | آیت نمبر | سورنمبر | آیت نمبر |
|----------|----------|----------|----------|
| ۲۱۶ | ۲ | ۲۹ | ۴ |
| ۱۷ | ۳ | ۱۴۵، ۱۴۶ | ۴، ۷ |
| ۱۵ | ۳ | ۳۷ | ۷ |
| ۱۸ | ۳ | ۳۴ | ۷ |
| ۱۳۰، ۱۳۲ | ۲ | ۸۱، ۶۲ | ۷ |
| ۱۴۲ | ۶ | | |
| ۱ | ۲ | ۱۷۷ | ۷ |
| ۲۸ | ۷ | ۲۱۳ | ۷ |

اوامر

| سو نمبر آیت نمبر |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ۱۰۲ | ۳ | ۲۱ | ۷ |
| ۱۳۳ | ۳ | ۲۰ | ۲ |
| ۱۸۴ | ۳ | ۱۵۳، ۲۵ | ۲ |
| ۲۰۸ | ۲ | ۱۰۹ | ۲ |
| ۲ | ۲ | ۱۳۲۷، ۱۲۸ | ۳، ۲ |
| ۳۴ مع حاشیہ | ۲ | ۳۸ | ۵ |
| ۴۳ مع حاشیہ | ۲ | ۱۵۰ | ۲ |
| ۱۳۵، ۵۸ | ۲ | ۱۵۲ | ۲ |
| ۸۵ مع حاشیہ | ۲ | ۱۷۲ | ۲ |
| ۸۶ | ۲ | ۱۹۵ | ۲ |
| ۱۱۷ | ۲ | ۲۳۱ | ۲ |
| ۳۵ | ۵ | ۶۳۳، ۶۳۱ | ۲ |
| ۵۳ مع حاشیہ | ۵ | ۲۳۸ | ۲ |
| ۱۱۱ مع حاشیہ | ۵ | ۲۳۸ | ۲ |
| ۶۸ | ۴ | ۱۲۵، ۱۴۰ | ۳ |
| ۷۰ | ۴ | مع حواشی | ۲، ۳ |
| ۱۲۰ | ۴ | ۱۳۱، ۱۰۷ | ۵ |
| | | ۳۵، ۷ | ۳ |
| | | ۱۰۳ | ۵ |

بنی اسرائیل

| سوتیرنبر آیت نمبر | سوتیرنبر آیت نمبر | لینک ان کی سرتابی | ان کے ہاں انبیاء کی آمد کا مسلسلہ جاری ہا ہمیں مولیٰ پھر علیٰ تشریف لاتے وہ کتنے ہمارے دلوں پر غلاف پڑھا ہے | ان پر اعلاماتِ خداوندی | بنی اسرائیل کو اعلاماتِ خداوندی یاد کرنے کا حکم | بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت | فرعون کا عذاب اور اس سے نجات وہ کیوں ان کے بچپن کو قتل کرتا تھا | سمدر کا پایاب ہونا میدانِ تیہ میں بادل کا ساسابان | من وسلوی کا نزول پتھر سے بارہ چٹپوں کا جاری ہوتا | ان کا بچھڑے کو خدا بنا ناپھر ان کی توبہ کا قبول ہوتا | اس معاهدہ کی تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے اُن سے لیا | بنی اسرائیل کا اپنے بنی سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، طالوت کا قصہ بالتفصیل طالوت کے تقریبی اسرائیل کا اعتراض | مجھ سے ہی ڈرو اسلام کا انکار مت کرو آیاتِ الٰہی کو مت یچو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاو جان بوجھ کر حق کو مت یچھاؤ نمaz زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو نیک کا حکم دیتے ہو اور خودی کی نہیں کرتے ہو | قیامت سے ڈرنے کا حکم من وسلوی کے بجائے ترکاری گندم کا مطابہ ان پر ڈالت و مسکنت مسلط کر دی گئی انبیاء کو ناحق قتل کرتے | ان سے اتباع تورات کا پختہ و عدو طور کا ان پر آؤیزاں کرنا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم پھر وحدہ شکنی | اُن کے دل پتھر سے زیادہ سخت اُن کا زعم باطل کہ انہیں آنے نہیں چھوٹے گی مگر چند دن | اُن کے آن پڑھوں کی خوش فہیماں اللہ تعالیٰ کی عبادت، والدین، رشته داروں، تیموریں مسکینوں سے احسان کا حکم اچھی بالوں کا حکم، نماز، زکوٰۃ کا حکم اور دیگر احکام |
|-------------------|-------------------|--|---|------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| ۸۵ | ۲ | لیکن ان کی سرتابی | ۸۷ | ۲۰ | ۲ | بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت | ۱۲۲، ۲۰ | ۲۸ | ۲ | من وسلوی کے بجائے ترکاری گندم کا مطابہ | ۱۲۲، ۲۷ | ۲ | | | | | |
| ۸۶ | ۲ | ان کے ہاں انبیاء کی آمد کا مسلسلہ جاری ہا | ۸۷ | ۲۱ | ۲ | فرعون کا عذاب اور اس سے نجات وہ کیوں ان کے بچپن کو قتل کرتا تھا | ۲۹ | ۴۱ | ۲ | ان پر ڈالت و مسکنت مسلط کر دی گئی | ۲۹ | ۲ | | | | | |
| ۸۸ | ۲ | ہمیں مولیٰ پھر علیٰ تشریف لاتے وہ کتنے ہمارے دلوں پر غلاف پڑھا ہے | ۸۸ | ۲۲ | ۲ | وہ کیوں ان کے بچپن کو قتل کرتا تھا | ۱۲۲، ۲۷ | ۴۱ | ۲ | انبیاء کو ناحق قتل کرتے | ۱۲۲، ۲۷ | ۲ | | | | | |
| ۱۲۲، ۲۰ | ۲ | بنی اسرائیل کو اعلاماتِ خداوندی یاد کرنے کا حکم | ۱۲۲، ۲۷ | ۲۳ | ۲ | سمدر کا پایاب ہونا میدانِ تیہ میں بادل کا ساسابان | ۵۰ | ۴۱ | ۲ | ان سے اتباع تورات کا پختہ و عدو | ۵۰ | ۲ | | | | | |
| ۵۷ | ۲ | من وسلوی کا نزول | ۵۷ | ۴۷، ۴۸ | ۲ | پتھر سے بارہ چٹپوں کا جاری ہوتا | ۴۰ | ۷۲ | ۲ | طور کا ان پر آؤیزاں کرنا، کتاب کو مضبوطی | ۴۰ | ۲ | | | | | |
| ۵۷ | ۲ | پتھر سے بارہ چٹپوں کا جاری ہوتا | ۵۲، ۵۱ | ۷۲ | ۲ | ان کا بچھڑے کو خدا بنا ناپھر ان کی توبہ کا قبول ہوتا | ۵۲، ۵۱ | ۸۰ | ۲ | سے پکڑنے کا حکم پھر وحدہ شکنی | ۵۲، ۵۱ | ۲ | | | | | |
| ۸۳ | ۲ | اس معاهدہ کی تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے اُن سے لیا | ۸۳ | ۷۸ | ۲ | اُن کے دل پتھر سے زیادہ سخت اُن کا زغم باطل کہ انہیں آنے نہیں چھوٹے گی | ۲۳۶ | ۸۷ | ۲ | اُن کے آن پڑھوں کی خوش فہیماں | ۲۳۶ | ۲ | | | | | |
| ۲۳۶ | ۲ | بنی اسرائیل کا اپنے بنی سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، طالوت کا قصہ بالتفصیل طالوت کے تقریبی اسرائیل کا اعتراض | | ۸۷، ۸۳ | ۲ | اُن کے دل پتھر سے زیادہ سخت اُن کا زغم باطل کہ انہیں آنے نہیں چھوٹے گی | | ۸۵ | ۲ | اللہ تعالیٰ کی عبادت، والدین، رشته داروں، تیموریں مسکینوں سے احسان کا حکم اچھی بالوں کا حکم، نماز، زکوٰۃ کا حکم اور دیگر احکام | | ۲ | | | | | |

| سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر | | |
|------------|----------|--|---------------------|---|---|
| ۸۷ | ۷ | بعض کو بھٹلایا بعض کو قتل کیا وہ کہتے ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان | ۲۲۷ | ۷ | بنی اسرائیل کا اعتراض تابوت سکینہ کا عطیہ |
| ۹۱ | ۷ | لایں گے دوسرا آسمانی کرتا بول پڑے امیان نہیں لایں گے | ۲۳۸ | ۷ | اس میں کیا کیا تھا تورات کی خلافت کے ذمہ دار ان کے انبیاء |
| ۴۴، ۵۵ | ۶ | دیدارِ الہی کا مطالبہ اور اس کا انجام | ۲۲۸ | ۷ | و علم بناتے گئے |
| ۹۴، ۹۵، ۹۷ | ۷ | ان کا یہ زعم کہ آخرت صرف ان کی ہے اور اس کا رد | ۴۴ | ۵ | اگر یہ تورات و انجلیں پر عمل کرتے تو خداونوں کے منہ ان کے لیے کھول دستے جاتے |
| ۱۰۱ | ۷ | بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے | حاشیہ آیتِ بالا | ۵ | اطاعتِ الہی سے تنگ دستی نہیں بلکہ فرaxی آتی ہے |
| ۱۰۲ | ۷ | وہ سحر کی پیروی کرتے ہیں | | | ان کا دفتر عمل |
| ۱۰۳ | ۷ | اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے | | | لوگوں کو یعنی کا حکم دیتے اور خود یعنی سے دور بچاتے |
| ۱۰۹ | ۷ | تو بہتر ثواب پاتے اہل کتاب از راہِ حسد تھیں مرتد کرنے | ۲۲۸ | ۷ | ابنیاء کو ناحق قتل کرتے |
| ۱۱۱ | ۷ | کے خواہاں ہیں ان کا زعム کہ یہود و فصاریٰ کے بغیر جنت | ۶۱ حاشیہ ۲۹۶، ۹۱ | ۷ | من و سلویٰ کے بجاتے ترکاری، گندم، پیاز کا مطالبہ |
| ۱۱۳ | ۷ | میں کوئی داخل نہ ہو گا اس کی تردید فصاریٰ اور یہود ایک دُسرے کو گراہ کتے | ۶۱ | ۷ | ان پر ڈلت مسکن مسلط گردی گئی ان کی وعدہ شکنی (یومِ سبت کی خلاف فرضی) |
| ۱۱۴ | ۷ | وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں یہود و فصاریٰ تم سے کبھی خوش نہ ہونجے | ۶۱ | ۷ | ان کے دل تھرے سے زیادہ سخت |
| ۱۲۰ | ۷ | جو ان کی خواہشات کا انتباخ کرے گا | ۴۷، ۴۷ | ۷ | وہ بعض کتاب توانتے اور بعض کو نہیں مانتے انہوں نے آخرت کو دنیا کے عوض فروخت |
| ۱۲۰ | ۷ | اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ کہتے اب ہیم، اسماعیل اور احسان علیہم السلام | ۴۴، ۴۵ | ۷ | کر دیا |
| ۱۲۵ | ۷ | سب یہودی تھے یا فصاریٰ آپ دلیلوں کے انبار لگا دیں یہ نہیں مانیں گے | ۸۷ | ۷ | رسویں کی جوبات پسند نہ آتی رکودی |

| سوتھر | آیت نمبر | سوتھر | آیت نمبر |
|----------------|----------|--------------|----------|
| ۱۸۹ | ۳ | ۱۵۹ | ۲ |
| ۱۸۸ | ۳ | ۲۲۲ | ۷ |
| ۱۷۸، ۱۷۱، ۱۴۰ | ۵، ۳ | ۴۱ | ۷ |
| ۸۹ | ۲ | ۲۷۷ | ۲ |
| ۱۵۵ | ۲ | ۲۸۹ | ۲ |
| ۱۳۷، ۷۹، ۷۸ | ۵ | ۲۵۰ | ۲ |
| ۴۷۳، ۱۲ | ۵ | ۲۵۶۰ | ۳ |
| ۱۸ | ۵ | ۴۱، ۴۰ | ۷ |
| ۱۰۔ تا ۶۷ حوشی | ۵ | ۲۷۸۷، ۱۵۵ | ۵ |
| ۶۲، ۲۱ | ۵ | ۷۷ | ۵ |
| ۷۰ | ۵ | ۹۶ | ۲ |
| ۷۰ | ۵ | ۷۱ | ۳ |
| ۷۰ | ۵ | ۱۱۳، ۱۱۲، ۷۵ | ۳ |
| ۷۰ | ۵ | ۱۹۹، ۱۱۲ | ۳ |
| ۷۴ تا ۷۷ | ۷ | ۷۵ | ۳ |
| ۸۹ | ۷ | | |
| ۱۱ احشیہ | ۳ | | |
| ۱۵ | ۲ | ۱۸۱ | ۳ |
| ۷۸ | ۳ | ۴۲ | ۵ |

| سورنمبر | آیت نمبر | سورنمبر | آیت نمبر |
|-------------|--|----------|---|
| ۷۹ مع حاشیہ | کیونکہ قرآن بہریلی لے کرتا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے | ۷۹ | تحریف کرنے والوں کے لیے بربادی ہے یہ حق کو چھپاتے ہیں |
| ۱۲۰ | جب تک مسلمان اپنے دین کو نہ چھوٹویں یہود و نصاریٰ ان پر خوش نہیں ہوئے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں | ۱۲۶ | یہ دوستہ حق کو باطل سے ملاتے ہیں ان کا مشترکین نہ کہ مسلمانوں سے زیادہ پڑایت یا فتنہ کہنا |
| ۴۹ | یہ دوستہ اسلام کا انکار کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی خطرناک سازش | ۵۲، ۵۱ | حضور اور حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کا مطلبہ |
| ۷۰ | مسلمانوں میں بڑائی کرانے کی کوشش اور ناکافی | ۱۵۳ | ان کے علماء و مشائخ انھیں بُرا تیوں اور حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے |
| ۷۳، ۷۴ | ان کی بھلائی اسلام قبول کرنے میں ہی تھی ان کا مسلمانوں سے حسد اور عناد | ۶۳ | بُرا تی سے نہیں روکتے تھے بعض نصاریٰ قرآن مُسن کتابدیہ ہو جاتے |
| ۱۰۰ | ان کے ایمان نہ لانے کا ایک اور عذر اور | ۵ | اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اور اسلام کو قبول کرنے کی وجہت |
| ۱۱۰ | اس کارو | ۷۹ حاشیہ | یہود حسد کے مارے اسلام کو قبول نہیں کرتے |
| ۱۱۰، ۱۱۹ | ان کا ایک مطلبہ اور اس کارو مسلمانوں سے یہود کی ناراضی کی کیا جب ہے | ۸۷، ۸۴ | یہود کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ صرف اپنی کتاب اور رسول پر ایمان لاتے ہیں |
| ۱۸۳ | خدا کے نزدیک بُرا کون ہے مسلمانوں کے سب سے کثرہ شمن یہودی | ۱۰۵، ۹۰ | |
| ۱۵۳ | او رُشْک بہیں | ۱۰۹ | |
| ۵۹ حاشیہ | عیسائی مسلمانوں سے نسبتاً محبت کرتے ہیں | ۹۱، ۹۰ | |
| ۶۰ حاشیہ | | ۷ | |
| ۸۲ | | | |

جبر و فتاد

| سورنمبر / آیت نمبر |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| ۱۱۱ / حاشیہ | ۶۴ / حاشیہ | ۶ / حاشیہ | جبر و قدر کی بحث |
| ۱۱۱ / حاشیہ | ۷، ۴ / حاشیہ | ۶ / حاشیہ | کفار کے دلوں پر تہر، کافلین پر پردہ |
| ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۲ | " اسرائیل کیوں مغضوب بنے " |
| ۲۸۶ | ۴۱ | ۲ | " " " |
| ۷۸ | ۱۸۴ | ۳ | " " " |
| ۷۸ / حاشیہ | ۱۵۵ / حاشیہ | ۵ | " " " |
| ۷۸ / حاشیہ | ۳۰۴ / حاشیہ | ۶ | قرآن سے کون گمراہ ہوتے ہیں |
| ۱۱۱، ۱۰۷ | ۲۷ | ۲ | ہم خلک نہیں کرتے وہ اپنے اور خود ظلم کرتے ہیں |
| ۱۲۸ | ۵۷ | ۲ | اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے |
| ۱۳۷ | ۲۵۲ / حاشیہ | ۲ | اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے |
| ۱۲۹ | ۲۵۴ / حاشیہ | ۳ | دین میں اکراہ نہیں فرعونیوں کو ان کے لئے ہم کے باعث نہ رہیں |

ج

| سونہر آیت نمبر | سونہر آیت نمبر | احد | سونہر آیت نمبر | سونہر آیت نمبر |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| ۱۲۱ حاشیہ آیت بالا | ۳ | بُنَّجَبْ أَحَدْ | ۷۵ ۹۱، ۹۰ | ۲ |
| ۱۵۱ احاشیہ | ۳ | بُزْمِیْت کی وجہ أُحَدِیْم کفَّار کی مَعْوِیْت | ۱۰۰ | ۲ |
| ۱۵۲ احاشیہ | ۳ | پھلے فتح اور بچشمکست بُنَّجَبْ أَحَدْ كَبِيْر شَمْ دید حال | ۹۶ ۲۶۷ | ۳ |
| ۱۵۳ احاشیہ | ۳ | أَحَدْ كَأَيْك اُور منظر | ۱۴۹ | ۳ |
| ۱۵۴ احاشیہ | ۳ | أُحَدِیْم مُنَافِقُون کا حال | ۱۷۴ | ۳ |
| ۱۵۵، ۱۵۶ ۱۴۷، ۱۴۸ | ۳ | بیزِہمیت آزمائش تھی تاکہ مومن اور کافر کی تیزی ہو سکے | ۱۵۷ ۲۸ حاشیہ | ۴ |
| ۱۵۵، ۱۵۲ ۱۵۲ | ۳ | مومنوں سے درگزر عنسم و اندوہ کے بعد اطمینان و تسکین | ۱۲۳، ۱۳ | ۳ |
| ۱۵۷ ۱۷۴، ۱۷۵ | ۳ | بُنَّجَبْ بدر دو گروہوں کے احوال اور مسلمانوں کی فتح تمحاری فزیاد، ہماری امداد، فرشتوں کا نزول | ۷۲ ۱۲۵، ۱۲۲ | ۲ |
| ۱۵۹ | ۳ | إِسْفَتَال خطاکاروں سے حضور کامشفعانہ بر تاؤ اور عفو و درگزر | ۱۲۷ ۱۲۷، ۱۲۶ | ۳ |

دُعائیں

| سورہ / آیت نمبر | سورہ / آیت نمبر | سورہ / آیت نمبر | سورہ / آیت نمبر |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| ۹۰، ۸ | ۳ | ۷۷، ۴۰، ۵ | ۱ |
| ۱۴ | ۳ | ۲۵ | ۲ |
| ۷۶ حاشیہ | ادا تے قرض کی دُعا | بسم اللہ | ۱ |
| ۳۸ | حضرت زکریا کی دُعا فرنڈ صالح کے لیے | امْرَحْشِیہ | ۲ |
| ۱۷۴ | سابقہ انبیا اور ان کے صحابہ کی دُعا | | |
| ۱۹۷، ۱۹۱ | مفکرین اسلام کی دُعائیں ربنا ما خلقت هذا باطلًا | حاشیہ | ۲ |
| ۷۵ | ملک کے مظلوم مسلمانوں کی دُعا | ۲۰۰ | ۲ |
| ۸۳ | کو اہوں میں شُمُویت کی دُعا مانگنا | ۲۰۱ | ۲ |
| ۱۱۲ | حضرت قیسی علیہ السلام کی دُعا نزول ماندہ کے لیے | ۲۵۰ | ۲ |
| ۱۱۳ | نزول نعمت کا دن عید کا دن میلاد شریف کا بھوت | ۲۸۶ | ۲ |
| حاشیہ | حضرت ابراہیم و اسماعیلؑ کی تعمیر کعبہ کے وقت دُعا | ۱۴۸، ۱۴۷ | ۲ |
| حاشیہ | مکہ مکرانی | ۱۷۹ | |

سیاست

| ستونبر آیت نمبر | ستونبر آیت نمبر | ستونبر آیت نمبر | ستونبر آیت نمبر |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| ۱۵۹ حاشیہ | ۳ حاشیہ | ۲۳ حاشیہ | ۲ خلیفہ کے کہتے ہیں |
| ۳۶ | ۳ | ۲۷ حاشیہ | زوال پذیر قویں جھوٹی اس س لگاتے |
| ۱۱۸ حاشیہ | ۳ | ۲۰ احاشریہ | رکھتی ہیں |
| | | | زوال پذیر قویں سخن و منتر پڑھ سے |
| ۸ | ۲ | ۲۲ اکا حاشیہ | کرتی ہیں |
| ۸۳ | ۲ | ۲۷ اکا حاشیہ | سرپرہا ملکت میں کیا صفات ہوں چاہتیں |
| | | ۱۲۲ | " " " " " |
| ۸۳ | ۲ | ۲۰۵ | فاسق و فاجر اس منصب کا اہل نہیں |
| | | | لے دین لوگ جب پر سراقدار آتے ہیں تو |
| ۵۸ حاشیہ | ۲ | ۲۲۶ | فتنہ و فساد پر پاکرتے ہیں |
| | | ۲۵۱ | کیا اسلام ملکیت کا حامی ہے |
| ۵۸ | ۲ | ۲۸ | طاقت کا توازن ضروری ہے |
| ۸۵ حاشیہ | ۲ | | غیر مسلم اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے |
| ۱۲۲ | ۲ | | تعلقات کی نوعیت |
| ۵۱ | ۵ | | جب کوئی مسلمان کفار کے زخمیں آجائے |
| ۴۰ | ۲ | ۱۷۸ | تو کیا کرے |
| ۲۶ حاشیہ | ۵ | ۳۰ احاشریہ | حدود و قصاص کی تنقید حکومت کی ذمہ داری |
| | | | ہے نہ افراد کی |
| | | | دُنیا میں باعثت زندگی بس کرنے کا طریقہ |
| | | | اتفاق و اتحاد ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کی |
| | | | اساس جبل اللہ ہیں |

شک کا بطلان

| سورنمبر آیت نمبر | سورنمبر آیت نمبر | دوہی ہر تعریف کا مستحق ہے |
|----------------------------|--|---|
| ۱۹ حاشیہ ۴۳، ۴۷، ۵۷، ۶۳ | ۶ شرک سے برامت بکرو بکے انہیوں میں نجات دینے والا | ۱ " " " |
| ۷۸ تا ۸۲ | ۶ اس کے سوا کوئی ہے شرک کے بُطْلَان کا ابراہیمی انداز | ۴ اسی کی عبادت اسی سے استعانت اس کا "نڈ" نہ بناؤ |
| ۸۱، ۸۰ | " " " | ۱ اس کے سوا کوئی خدا نہیں |
| ۱۰۱، ۱۰۰ ۷ حاشیہ | ۴ اس کا کوئی بُلٹا نہیں مریمؑ کی الْوَسِیْت کا بُطْلَان | ۲ بعض لوگ "نڈ" بناتے ہیں اس کا کوئی بُلٹا نہیں |
| ۷۷ حاشیہ | ۵ میسح کا اعلان، جو شرک کرے گا اس پر | ۱ " " " |
| ۷۴ | ۵ جنت حرام ہے تثییت کے قابل کافر ہیں | ۴ شرک کی مغفرت نہیں |
| ۷۵ | ۵ میسح اللہ تعالیٰ کا رسول ہے | ۲ شرک کی حقیقت |
| ۷۶ | ۵ کیا تم ان کی پوچا کرتے ہو جونفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتے | ۲ شرک افترا عظیم ہے |
| ۷۷ تا ۷۹ | ۴ قیامت کے دن مشرکین کا اپنے شرک سے انکار | ۱ شرک مگر ایسی ہے اسی کی عبادت |
| ۹۲ | " | ۱ آسمان فی زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے |
| ۵۶ | ۴ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں | ۲ دن رات میں پڑھنے والی ہر چیز |
| ۱۲۸ | ۴ مشرکین کا فریب نفس، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے | ۱ اسی کی ہے مشرک بننے کی مخالفت |
| | | ۱ اگر وہ تکلیف دے تو اس کے بغیر کوئی دُور نہیں کر سکتا |

شہر لعیت

| شمارہ آیت نمبر | ستمبر آیت نمبر | شمارہ آیت نمبر | شمارہ آیت نمبر |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ۲۱ | ۷ | ۲۸ | ۵ |
| ۳۲ | ۶ | ۲۲ | ۵ |
| ۲۵ | ۶ | ۲۵ | ۵ |
| ۱۱۰ | ۲ | ۲۷ | ۵ |
| ۲۴۸ | ۲ | ۱۸۵ | ۲ |
| ۲۴۹ | ۲ | ۲۴۷ | ۲ |
| ۱۲۷ | ۲ | ۲۸ | ۲ |
| ۱۰۴۳ | ۲ | ۴ | ۵ |
| ۱۰۴۳ | ۲ | ۴ | ۵ |
| ۱۰۱۰ | ۲ | ۵ | ۵ |
| ۲۴۳ | ۲ | ۵ | ۵ |
| ۲۴۳ | ۵ | ۱۵۲، ۱۵۰ | ۶ |
| ۲۴۳ | ۵ | ۲۴۲ | ۵ |
| ۲۴۴ | ۵ | ۱۵۰ | ۶ |
| ۲۴۴ | ۲ | ۱۵۰ | ۶ |

جرائم و عقوبات

چوری

چور کی سزا

قطع ید کی شرط لطف

اگر چور افراد ہوئے سے پہلے تائب ہو جائے

تو کیا اس پر حد جاری کی جاتے کی

لاہر نی

لاہر نوں اور قراؤں کی عبرت ناک سزا ہیں

ان سزاوں کی شدت کی وجہ

اگر راہر ن گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائے

تو اسے معافی دی جاتے کی

قتل

قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا

ساحر کی سزا قتل ہے

جرمیہ قتل کی سزا (قصاص اور دیت)

اسلام سے پہلے قصاص میں دھاندیاں

قصاص میں زندگی ہے

مون کو مون کا قتل جائز نہیں

قتل خطا کی مختلف صورتیں اور سزا ہیں

اور دیت کا حکم

قتل عمد کی سزا

قتل ناجع کی ابتداء اور قصاص کا آغاز

قصاص کا حکم

| ستونبر | آیت نمبر | ستونبر | آیت نمبر |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|
| ٢٥ | ٥ | ٥ | آیاتِ تواتر سے اس کی تصدیق |
| ٣٠ | ٥ | ٥ | شراب |
| ٢١٩ | ٢ | ٣٨ | شراب کی ہرمت کی ابتداء |
| ٢٨٣ | ٢ | ٥ | نماز کے اوقات میں شراب کی مانعت |
| ٩٠ | ٥ | ٣٩ | شراب اور جوئے کی قطعی ہرمت کا حکم |
| ٩٠ | ٥ | ٣٩ | صحابہ کا جذبہ اطاعت اور قرآن کی تاثیر |
| ٩٠ | ٥ | ٥ | شراب فوشی بند کرنے میں حکومت |
| ٩١-٩٠ | ٥ | ٣ | امریکی کی ناکامی |
| ٢١٩ | ٢ | ٣ | شراب کی ہرمت کی وجہ |
| ٣ | ٥ | ٣ | جوہا |
| ٢١٩ | ٢ | ٤٧ | اس کی ہرمت کی ابتداء |
| ٣ | ٥ | ٤٨ | تیروں کے ساتھ جوئے کی مانعت |
| ٣ | ٥ | ٤٩ | اس کی حکمت |
| ٣ | ٥ | ٤٠ | جوئے کی مانعت خواہ اس کی آمدنی |
| ٣ | ٥ | ٤١ | کارخیریں خرچ کی جاتے |
| ٩٠ | ٥ | ٤٢ | جوئے کی قطعی مانعت کا حکم |
| ٩١ | ٥ | ٤٢ | جوئے کی ہرمت کی حکمت |
| ٩١ | ٥ | ٩٤ | تاش و شترخ کا حکم |
| ٩١ | ٥ | ٩٣ | زنما |
| ١٤، ١٥ | ٢ | ٣٢ | ذانیہ اور زانی کی سزا کے بارے میں |
| | | ٣٢ | پہلا حکم |
| | | ٢٥ | لوںڈیوں کی سزا |

معاملات

| سورنمبر | آیت نمبر | سورنمبر | آیت نمبر |
|---------|----------|--|---|
| ۱۰۸۱ | ۵ | اگر حالت سفر میں کسی کی موت آجائے تو وہ کسے گواہ بناتے اور ان گواہوں کی سچائی کسے معلوم ہو غیر مرض کم کی گواہی قسمیں | نکاح، طلاق، غلط، ایلار، عدالت، چیز وغیرہ زیر عنوان "عورت" ملاحظہ ہوں۔ میراث اور وصیت کی تفصیلات "معاشیات" کے تحت ملاحظہ ہوں۔ |
| ۱۰۸۲ | ۵ | اپنی قسموں کو نیکی سے رکاوٹ نہ بناؤ لغو قسم کا اعتبار نہیں | رضاعت |
| ۲۲۷ | ۷ | | رضاعت کسی ذمہ داری ہے |
| ۲۲۵ | ۷ | | |
| ۸۹ | ۵ | | مدت رضاعت |
| ۸۹ | ۵ | لیکن صحیح قسم کا اعتبار ہوگا اچھے کام سے باز رہنے کے لیے اللہ کے نام کو اڑانہ بناؤ | مرضعہ کے اخراجات |
| ۲۴۲ | ۷ | مع خواشی | بچہ کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کیا جائے |
| ۲۷۰ | ۷ | ۲۳۳ | نہ باب کو |
| ۸۹ | ۵ | ۲۳۲ | کسی دایہ کو مرضعہ مقرر کرنے کا حکم |
| ۸۹ | ۵ | ۲۸۳ | گواہی |
| ۸۹ | ۵ | ۲۸۴، ۲۸۵ | گواہی کا ضابط اور اس کے دیگر احکام |
| ۲۸۳ | ۷ | ۲۸۳ | گواہی پہچانا منع ہے |
| ۱۷۲ | ۷ | ۴ | یتیموں کو ان کے اموال واپس کرتے وقت گواہ بنالیا کرو |
| ۱۷۳ | ۷ | ۱۳۵ | گواہی عدل کے ساتھ دیا کرو وغیرہ اپنے اور اپنوں کے خلاف ہی ہو |

| سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر |
|-----------|----------|--|-----------|-----------|---|
| ١٤٨ | ٧ | شیطان تھارا دشمن ہے وہ تھیں بُرَانی، فسق و فجور اور خدا پر | ٣٧ احاشیہ | ٧ | مَا أَهْلَبَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ |
| ١٤٩ | ٢ | بُہتان لگانے کا حکم دیتا سے اس کی پیروی نہ کرو وہ تھارا دشمن ہے، | ٣ | ٥ | " " " |
| ٤٠٨ | ٢ | شیطان فقر و افلاس کا وعدہ کرتا ہے اور بُرَانی کا حکم دیتا ہے | ١٢٥ | ٦ | حالتِ اضطرار کا حکم |
| ٤٩٨ | ٢ | شیطان تم کو اتفاق سے ڈراتا ہے تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو | ١٤٢ | ٢ | " " " |
| ١٤٥ | ٣ | شیطان تمگھٹے وعدے کرتا ہے امیدوں کے ہوائی قلعے تعیر کرتا ہے | ٣ | ٥ | صرف طیب اشیاء ہی حلال کی گئی ہیں |
| ٤٠ | ٢ | شیطان تھیں مگرہ کرنا چاہتا ہے شیطان بدترین ساختی ہے | ٢٥ احاشیہ | ٤ | ان کی لغوی اور شرعی تشریع |
| ٣٨ | ٢ | شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور تغیری غلق کا معنی | ٣ احاشیہ | ٥ | اہل کتاب کے ذبحیہ کا حکم |
| ١٢٠ | ٢ | شیطان جوستے اور شراب سے باہمی عدالت پیدا کرتا ہے اور ذکرِ الہی سے | ٥ حاشیہ | ٥ | طیبات کو حرام کرنے کی مخالفت |
| ١٢٠، ١١٩ | ٢ | روکتا ہے۔ | ٨٧ حاشیہ | ٥ | تھارا نقش کا بھی تم پر ہے |
| ٩١ | ٥ | شیطان اپنے دستوں کو تم سے جھگڑنے پر مکامتے ہیں۔ | ٨٧ حاشیہ | ٥ | بیکرہ، سائبہ اور وصیلہ اور حرام کا حکم |
| ١٢١ | ٤ | شیطان اپنے دستوں کو تم سے جھگڑنے پر مکامتے ہیں۔ | ١٠٣ حاشیہ | ٥ | جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان کو کھاؤ |
| | | | ١١٩، ١١٨ | ٤ | شیطان (ابملیس) |
| | | | | ٣٧ | شیطان کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار |

صحابہ کرام اور امت مصطفیٰ علیہ التَّحْمِیةُ وَالشَّفَا

| سوتونبر آیت نمبر | سوتونبر آیت نمبر | احادیث |
|------------------|------------------|---|
| ۱۳۹ | ۱۷۴ | احادیث انتوالاعلوں کا مرشدہ مسالوں کی آنکش |
| ۱۲۰ | ۱۵۱ | غُلامان مصطفیٰ کو سرزنش اس کے بعد مرشدہ عفو |
| ۱۵۵، ۱۵۲ | ۱۵۲ | اپنے جیب سے صحابہ کی سفارش صحابہ کے لیے اجر کی بشارت، ان کی |
| ۱۷۱ | ۱۵۲ | تصییف اور ان کا کمال ایمان |
| ۱۷۲ | ۱۵۷ | نیکوکاروں کے لیے جنت اور اللہ کے ہاں میری بانی |
| ۱۹۸ | ۴۰۷ | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاحبو زادوں کے بارے میں ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ |
| ۶۱ | ۲۱۸ | اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بوجردیا اور دوسرے میں گرنے سے بچالیا کے اولین صداق صحابہ ہیں |
| ۱۰۳ | ۲۴۲ | حضرت عثمانؓ کے لیے حضور کی دُعا صحابہ کا کمال ایمان |
| ۱۵۵ | ۱۱۰ | حضرت عثمانؓ پر عبد الرحمن بن عوف کا اعتراض اور جواب |
| ۱۷۲ | ۱۹۵، ۱۱۰ | زنگوں سے پور صحابہ کا ابوسفیان کے تعاقب کے لیے نکلنے |
| ۱۷۳، ۱۷۴ | ۱۱۱ | صحابہ کی قوت ایمانی اور انعام خداوندی |
| ۱۷۵ | ۱۱۵ | صحابہ کے فضائل |
| ۱۹۵ | ۱۳۶ تا ۱۳۷ | صحابہ کی پاک دلی مومن کی صفات طیبیہ |

| سوں نمبر آیت نمبر | عمل صالح | سوں نمبر آیت نمبر | الفالو ق کا لقب ک ملا حضرت قلبان کا عشق اور اس کی پذیرائی (حسن اولئا ک رفقاً) فتنه ارتداء میں صحابہ کی پامردی کی پیشین گوئی |
|-------------------|---|-------------------|---|
| ۱۷۲ | ۴ وہ اعمال صالحہ جو اسلام کے نزدیک بہت اہم ہیں | ۶۰ حاشیہ ۷۰ | ۳ حضرت قلبان کا عشق اور اس کی پذیرائی (حسن اولئا ک رفقاً) |
| ۱۸۹ | ۲ پچھوڑتے سے گھوون میں اخْلَوْنَا کوئی نیکی نہیں لکن البر من اتقى | ۵۲ حاشیہ ۵ | ۵ فتنہ ارتداء میں صحابہ کی پامردی کی پیشین گوئی |
| ۱۶۲ | ۲ عمل صالح کے ساتھ یہاں کی شرط بھی ہے عمل صالح والوں کو تین خوشخبریاں | ۵۵ ۵۵ | ۵ وہ موالعوں سے حضرت شیر خدا کی فضلیت |
| ۱۱۷ | ۵ جسے اللہ تعالیٰ رُوحِ پرایت سے زندہ کر دے کیا گراہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں | ۵۵ ۴۱ ۵۲ | ۵ شیر خدا کی خلافت بلافضل پر استدلال اور اس کا بجاوب مبایلہ کا واقعہ صحابہ کرام مسلم دینی میں پہل کرنے کا حکم |

عوْنَات

| سورت نمبر | آیت نمبر | سورت نمبر | آیت نمبر | سورت نمبر | آیت نمبر |
|-----------|----------|---|----------------|-----------|--|
| ۲۳۱ | ۷ | طلاق رجیحی اور اس میں عورت کے ساتھ حُسْنِ سلوک کی پہاڑیت | ۳۶ | ۷ | نکاح و طلاق وغیرہ نکاح |
| ۲۳۴، ۲۳۷ | ۷ | غیر مذکولہ کی طلاق کا حکم صورت حال کی اصلاح مرد کی ذمہ اری ہے | ۳۸ | ۷ | نکاح و طلاق وغیرہ نکاح |
| ۲۴۱، ۲۴۲ | ۷ | " " " " " | " " " " " | ۲۴۱ | ۷ |
| ۲۴۸ حاشیہ | ۷ | طلاق کتنی بار دی جاسکتی ہے عرب میں طلاق کا رواج اور اس کی | ۲۴۲، ۲۴۳ حاشیہ | ۷ | مشرک مردوں عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے نکاح حرام ہے |
| ۲۴۹ حاشیہ | ۷ | " " " " " | ۲۴۳ | ۷ | تعدد و ازواج |
| ۲۵۰ | ۷ | طلاق دینے کا حق مرد کو کیون فوایض کیا گیا تیسرا بار طلاق دینے پر مرتب ہونے | ۲۵ | ۷ | لونڈیوں کے ساتھ نکاح کس وقت جائز ہے سب بیویوں سے حُسْنِ سلوک کا حکم |
| ۲۵۱ | ۷ | وائے احکام | ۱۴۹ | ۷ | پالہ منہوں نہ نکاح کا حکم |
| ۲۵۲ | ۷ | غلظ | ۵ | ۵ | کتابیات سے نکاح کا حکم |
| ۲۵۳ | ۷ | اگر زوجین جدود اللہ قائم کرنے سے قاصر ہوں تو پھر عورت غلظ کر سکتی ہے | ۲۳۷، ۲۳۴ | ۷ | مهر |
| ۲۵۴ | ۷ | ایلام | ۲۱-۲۰ | ۷ | غیر مذکولہ کے مرکا حکم |
| ۲۵۷، ۲۵۶ | ۷ | عدالت | ۲۲ | ۷ | مهر کا وجوب |
| ۲۵۸ | ۷ | عدالت کی محکمت اور اس کے احکام | ۲۴۲ | ۷ | طلاق دستے وقت مروالپس نہ لو |
| ۲۵۹ | ۷ | مطقبہ عدالت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو اسے منع نہ کرو | حاشیہ آیت بالا | " " | مهر کی ادائیگی |
| ۲۶۰ | ۷ | بیویہ کی عدالت | ۲۲۹ | ۷ | جیض |
| ۲۶۱ | ۷ | اشانتے عدالت نکاح کا پیغام درست نہیں | ۲۴۰ | ۷ | اس حالت میں مقابلاً ناجائز ہے |
| ۲۶۵ | ۷ | اس کی جائز صورت | ۲۳۰ | ۷ | یہود و نصاریٰ کی افراد و تقریط |
| ۲۶۵ | ۷ | عدالت کا نفقہ | ۲۳۰ حاشیہ | ۷ | طلاق |
| ۲۶۱ حاشیہ | ۷ | بیویہ کی عدالت اور دیگر احکام عدالت | ۲۳۰ حاشیہ | ۷ | طلاق کا اسلامی طریقہ |

| سونہر آیت نمبر | سونہر آیت نمبر | سونہر آیت نمبر | سونہر آیت نمبر |
|----------------------------------|---|----------------|--|
| ۹۶ ۴ | یہ بارکت اور ہدایت کا سر شپہ ہے | ۲۲۰ ۷ | پھلے سبب کی عقدت ایک سال تھی |
| ۹۷ ۳ | اس میں روشن نشانیاں ہیں (مقام ابریم) | ۲۲۱ ۲ | عقدت کے زمانہ کا خرچ پڑھ |
| ۹۷ ۳ | جو یہاں داخل ہو گا من پا لے گا | ۲۳۱ ۷ | عورت کو عقدت گزارنے کے بعد ایسا رسانی کے لیے روکنا غلام ہے |
| ۹۷ ۳ | اس گھر کا جو فرض ہے | | |
| ۹۷ ۵ | کعبہ قیامِ manus ہے | | |
| ۹۷ ۵ | اس کی وجہ | | |
| قرآن مجید | | | |
| ۲ ۲ | اس کتاب میں ذرا شک نہیں | ۸۱ ۲ | فاسقین کون ہیں |
| ۲ ۲ | میتین کے لیے ہدایت ہے | ۹۹ ۲ | جس کو اس کی بُرائی گھیرے میں لے لیتی |
| ۱۸۵ ۲ | اس میں سب لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان ہے | ۱۰۰ ۲ | ہے وہ ہمیشہ ہم میں رہیں گے |
| ۲۳ ۲ | قرآن کی مثل لانے کا جعلیخ | | فاسق ہی قرآن کے منکر ہیں |
| ۴۷ ۲ | یہ اعلان کہ تم ہرگز اس کی مثل نہیں لاسکو گے | | عند ہر کنی ان کا شیوه ہے |
| ۲۴، ۲۷ ۷ | قرآن سے کون لوگ مراہ ہوتے ہیں اور کیوں | | |
| ۳۰ ۲ | فرشتون کی حقیقت | ۱۱۵ ۲ | |
| ۹۷ ۲ | قرآن جبریل کے کرنازل ہوتے | ۱۲۵ ۲ | |
| ۹۷ ۲ | یہ ہدایت و بشارة ہے | ۱۴۵ ۲ | |
| ۱۸۵ ۲ | قرآن کا نزول رمضان میں ہوا | ۱۷۲ ۲ | جد ہر رُخ کروادھر اللہ تعالیٰ موجود ہے |
| ۱۰۴ ۲ | خش آیات کی تفصیل (خش کی بحث) | ۱۷۳ ۲ | کعبہ لوگوں کے لیے مرزا اور امن کی جگہ ہے |
| ۳ ۳ | قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا حق کی تشریخ | ۱۷۸ ۲ | مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ |
| ۷ ۳ | قرآن کی کچھ آیات حکم اور کچھ متشابہ ہیں | ۱۵۰، ۱۷۹ ۲ | تحویل قبلہ پر بے جا اعتراض |
| ۱۰ ۰ | متشابهات کا علم | ۹۴ ۳ | کعبہ کو پہر قبلہ بنائے کی حکمت |
| قبلہ | | | |
| مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم | | | |
| خانہ کعبہ سب سے پہلے تعمیر ہوا | | | |

فاسقین

فاسقین کون ہیں
جس کو اس کی بُرائی گھیرے میں لے لیتی
ہے وہ ہمیشہ ہم میں رہیں گے
فاسق ہی قرآن کے منکر ہیں
عند ہر کنی ان کا شیوه ہے

قبلہ

جد ہر رُخ کروادھر اللہ تعالیٰ موجود ہے
کعبہ لوگوں کے لیے مرزا اور امن کی جگہ ہے
مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ

تحویل قبلہ پر بے جا اعتراض
کعبہ کو پہر قبلہ بنائے کی حکمت
کعبہ کو قبلہ بنائے کافرمانِ الہی
ہر قم کے لیے ایک سمت کو قبلہ معترد
کیا گیا

مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم
خانہ کعبہ سب سے پہلے تعمیر ہوا

| سوتہ نمبر آیت نمبر | سوتہ نمبر آیت نمبر | توات | میقتنیں کے لیے بیان، بدایت اور موعظتیں قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل وہی کی حقیقت قرآن نور ہے اللہ تعالیٰ کوہا ہے کہ یہ کتاب اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ تینہ ہے یہ بدایت و رحمت ہے |
|--------------------|--------------------|---|--|
| ۲۸ مع حاشیہ | ۵ | اس میں بدایت و نور ہے ان کتب کے نزول کی غرض و غایت اس میں ہر چیز کی تفصیل اور بدایت و رحمت ہے | ۱۳۸ ۸۲ ۱۴۳ احادیث ۱۷۵ ۱۴۴ |
| ۱۵۲ | ۶ | انجیل | ۱۵۵، ۹۲ ۱۵۷ ۱۵۷، ۱۵۴ ۸۸ |
| ۲۶ مع حاشیہ | ۴ | اس میں بھی بدایت و نور ہے ان کتب کے نزول کی غرض و غایت | ۱۱۶۴ ۲۵۲ تا ۲۴۲ مع حواشی ۱۶۲ ۲۸۴ مع حواشی ۹۹ |
| ۲۸ | ۷ | قیامت سے ڈر جب کوئی فدیہ اور سفارش قبول نہ ہوگی | ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ |
| ۱۱۳ | ۲ | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہود و فصاریٰ کے درمیان فیصلہ کرے گا | ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ |
| ۲۵۹ | ۲ | وقوع قیامت کی دلیل | ۶ |
| ۲۸۱ | ۲ | قیامت سے ڈر جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹاتے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے نیک بداعمال کی جزا سنبھالے گی۔ | ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ |
| ۱۰۷، ۱۰۶ | ۳ | قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید اور بعض کے سیاہ ہوں گے۔ | ۹۰ ۱۴۳ احادیث |
| ۱۸۵ | ۳ | قیامت کے دن سب کو اجر پوچھے دیتے جائیں گے | ۶ |

| سوئنبر آیت نمبر | سوئنبر آیت نمبر | لیے گئے ہیں اپنے باپ داد کی پیری کھار کی مثال انہی بہرے ڈنگر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نیچے ہیں ان کی سزا | وہ کہتے ہیں اپنے باپ داد کی پیری کھار کی مثال انہی بہرے ڈنگر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نیچے ہیں ان کی سزا |
|-----------------|-----------------|---|---|
| ۱۷۰ | ۱۹۲ | ۱۷۱ | ۸۷ |
| ۱۷۱ | ۱۶ | ۱۷۵، ۱۷۲ | ۴ |
| ۲۱۲ | ۴۰ | ۲۱۷ | ۴ |
| ۲۵۷ | ۴ | ۱۴۴ | ۴ |
| ۴۸ | ۶ | ۲ | ۶ |
| ۳ | ۷ | ۱۱۰ | ۷ |
| ۱۱۰ | ۹۸ | ۷۲-۷۱ | ۱۰۵ |
| ۱۱۸ | ۱۰۷ | ۱۱۸ | ۱۱۲ |
| ۱۵۱ | ۱۵۹ | ۱۷۷ | ۱۶۵ |

کفار و مشرکین

۱۔ انہیں ڈرانا بے سود ہے
جہر و قرر کی بحث
کفار کے دلوں پر مہر اور انکھوں پر پردے
کفار اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن
اور اللہ تعالیٰ ان کا دشمن
کفار پسند نہیں کرتے کہ تم پر بھلانی نازل ہو
کفار کے لیے عذاب الیم
جو مسجدوں میں ذکرِ الہی سے روکتے ہیں
وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی
جہنم رسید

| سوئنبر آیت نمبر | سوئنبر آیت نمبر |
|--------------------|--|
| ۱۰۰ ۷۱-۷۲ حاشیہ | ۱۰ کے ساتھ استہانہ کیا کرتے تھے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسولوں کے بہاکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ استہانہ کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کا شرک سے انکار ان کے دلوں پر پڑے اور کافنوں میں بہاریں اپنے اعمال کی وجہ سے انھیں پلاک کیا جانے کا اور کھولتا ہوا پانی دیا جاتے گا کفار کے اعمال شیطان بڑے آزادتہ کر کے انھیں دھکاتا ہے قیامت کے روز کفار کا کفت افسوس ملنا کہ کاشش انھیں دُنیا میں لوٹا دیا جائے |
| ۶۹ ۱۴۲، ۱۴۱ | ۶۰ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کفار کے لیے بخشش نہیں " " " کفار کے لیے شفاعت نہیں |
| ۱۱۶، ۸۸ | ۱۲۲ کفار کے لیے بخشش نہیں " " " کفار کے لیے شفاعت نہیں |
| ۲۵۲ | ۱۲۳ هم ان کو جو حملت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے غذاب الیم کا سبب بنے گی |
| ۵۱ | ۱۲۴ کفار کو مال اور اولاد فاتحہ نہیں دے گی |
| ۱۷۸ | ۱۲۵ شرک کی تحقیق جوہر وقت دین بدلتے رہتے ہیں ان |
| ۱۰ ۳۸ حاشیہ | ۱۲۶ کے لیے نجات نہیں جنہوں نے کفر اور ظلم کیا انھیں ہر لیت |
| ۱۴۷ | ۱۲۷ نہیں ملے گی |
| ۱۴۹، ۱۴۸ | ۱۲۸ ان کے لیے نہ نجات ہے نہ فریبی ۱۲۹ مرتد کا عمل بر باد |
| ۹۱، ۹۰ ۳۷، ۳۶ | ۱۳۰ ان کے اطوار مساجد سے روکنا بڑا ظلم ہے |

| سوئنبر آیت نمبر | سوئنبر آیت نمبر | کفار اپنے جاہل باب داد کی پڑی کرتے تھے ان کی مثال مونوں کامذاق اڑانا اُن کا شیوه ہے کفار و منافقِ اسلامی عبادات کامذاق اڑاتے ہیں | | |
|-----------------|-----------------|--|---|---|
| ۱۳۸، ۱۳۴ | ۴ | ۱۷۰ | ۲ | کفار اپنے جاہل باب داد کی پڑی کرتے تھے |
| ۱۳۷ | ۴ | ۱۰۷ | ۵ | ان کی مثال مونوں کامذاق اڑانا اُن کا شیوه ہے |
| ۱۲۰ | ۴ | ۱۲۱ | ۳ | کفار و منافقِ اسلامی عبادات کامذاق اڑاتے ہیں |
| ۱۳۹، ۱۴۳ | ۴ | ۲۱۲ | ۲ | آیات سے اعراض حق کی تکذیب اور استزرا |
| ۱۱۷، ۱۱۶ | ۴ | ۵۸ | ۵ | ان کے کہنے کے مطابق اگر لکھنی لکھائی گئی کتاب نازل ہوتی تب بھی یہ اسے سحر بین کہ کرنے کا باعث گراہ ہوتے |
| ۱۹۷، ۱۹۴ | ۳ | ۲ | ۴ | فرشتہ کے نزول کا مطالبہ یہ مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ |
| ۹۷ | ۲ | ۷ | ۴ | رسولوں کے ساتھ استزرا اور یہی ان کی ہلاکت کا باعث |
| ۵۶ | ۲ | ۸ | ۴ | اللہ تعالیٰ پر اغوا بازی بر اظلم ہے |
| ۱۵۸ | ۴ | ۹ | ۴ | غیری مسلمانوں کامذاق |
| ۲۸، ۲۲ | ۴ | ۱۰ | ۴ | وہ حضور حجت بازی کے لیے مجرمات طلب کرتے تھے |
| ۳۱، ۳۰ | ۴ | ۱۲۳ | ۴ | بے شمار مجرمات دیکھنے کے باوجود وہ |
| ۷۰ | ۴ | ۱۵۴، ۹۳ | ۴ | ایمان نہ لاتے۔ |
| ۴۵ | ۴ | ۱۵۳ | ۶ | اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے عذر شکنی |
| | | ۱۵۹ | ۶ | کافکی وجہ سے عذاب اور یہی انتشار کی سزا |
| | | ۱۱۱ | ۶ | اللہ تعالیٰ اور حجت بازی کے ان پر |
| | | ۱۲۲ | ۶ | بھی وحی اترے |
| | | | ۶ | ان کی مشترکانہ رسموم :- |
| | | | | کنناہ بکیرہ |
| | | | | اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے عذر شکنی |
| | | | | کنناہ بکیرہ |

گل نہ

اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے عدشکنی ۳

| سورنمبر آیت نمبر | سورنمبر آیت نمبر | سورنمبر آیت نمبر | سورنمبر آیت نمبر |
|------------------|--|------------------|--|
| ۱۵۲، ۱۵۳ | ۱۸۰۱۷ | ۲ | کرن لوگوں کی تو بقول ہوتی ہے اور کن کہنیں اگر کبیرہ گناہوں سے احتساب کیا جائے |
| ۱۵۷، ۱۵۴، ۱۵۵ | ۳۱ | ۲ | قدو و سری غلطیاں محاف کردی جاتی ہیں گناہ دراصل اپنے نفس سے خیانت ہے |
| ۱۵۷ | ۱۳۳۱۳۱۳۱ | ۲ | کبیرہ گناہ کیا ہے تکفیر سینات کا مطلب |
| ۱۵۲ احاشیہ | ۷۰ احاشیہ | ۲ | گناہ دراصل اپنے نفس سے خیانت ہے |
| ۱۵۴، ۱۵۵ | دوستوں کی مدد کرنا | ۲ | متفقین و مونین |
| حوالشی | موہن مصائب میں صبر کرتا ہے اور راضی | ۲ | متفقین کی صفات :- |
| ۲۰۷ | رضاء الہی کے لیے جان تک بھی نیچ دیتے ہیں | ۲۱ | وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں |
| ۲۰۸ | مسلمانوں کو اسلام میں ممکن طور پر داخل ہونے کا حکم | ۲۲ | مناز فائم کرتے ہیں |
| ۱۷ | مونینین کی صفات، کراماتِ اولیاء | ۲ | مال خرچ کرتے ہیں |
| ۷۳ احاشیہ | ۳ | ۲ | آسمانی کتب پر ایمان، آخرت پر قیینِ محکم |
| ۱۰۱ - ۱۰۰ | اہل کتب کی اطاعت کرو تو کہا جاؤ گے | ۲ | اخیں ہدایت و فلاح کی بشارت |
| ۱۰۲ | پوری طرح تقویٰ اختیار کرو اور مرزا ہے | ۲ | اہل ایمان کو جنت اور دیگر انعامات کی |
| ۱۰۳ احاشیہ | تو اسلام پرمرو۔ | ۲ | بشارت |
| ۱۴۲ | تقویٰ کی تعریف | ۲ | نہ انھیں خوف نہ حزن |
| ۱۳۹ | اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور زان | ۲ | اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ |
| ۱۴۲ | کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا | ۲ | محبت کرتے ہیں۔ رسول سے محبت اللہ |
| ۱۴۷ | شفاعت اولیاء | ۲ | سے محبت ہے |
| ۱۵۰ | اللہ اہل ایمان کا بہترن مددگار ہے | ۲ | اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے۔ وہ |
| ۱۴۷ | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت | ۲ | انھیں انہیروں سے نور کی طرف لاتا ہے |
| | مونینین پر احسان ہے | ۲ | جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے رہے |
| | | ۲ | انھیں نہ خوف نہ حزن |
| | | ۲ | اہل ایمان سب رسولوں کو مانتے ہیں اور |

| سورہ نمبر | آیت نمبر | سورہ نمبر | آیت نمبر | | |
|------------|----------|--|----------|---|--|
| ۱۸۸ | ۲ | باطل ذرائع سے لوگوں کے مال نکھاؤ | ۱۸۶ | ۳ | مومینوں کی آزمائش اور اس پر پورا اُترنا |
| ۲۹ | ۲ | " " " " " | ۵۷ | ۲ | مومین کے لیے جنت اور پاک بیباں |
| ۸۸۸ | ۲ | باطل ذرائع کوں کوں سے بیں | ۷۷ | ۲ | مُتّقیٰ کے لیے آخرت بہت بہتر ہے |
| ۲۱۵ | ۲ | پاک مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرو | ۱۲۵ | ۷ | بہترین دین اللہ کے سامنے مرستِ حکیم حُکم کر دینا ہے |
| ۲۱۹ | ۲ | پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں فِمَا وَالعفو | ۱۳۱ | ۲ | سابقۃ اُمم کو بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا اور تمہین بھی۔ |
| ۲۴۶ تا ۲۴۱ | ۲ | النفاق فی سَبِيلِ اللہِ کی ترغیب ریا کاری سے اجتناب | ۱۲۴ | ۲ | جن اہل ایمان نے اللہ کی رسی کو کپڑے لیا انھیں رحمت و فضل اور صراطِ استقیم کی پدایت |
| ۲۴۷ | ۲ | پاکیزہ مال خرچ کرو | ۹ | ۵ | اہل ایمان اور عمل صالح پر اجر عظیم کی بشارت |
| ۲۴۸ | ۲ | بُخْلُ کو فُشیہ کہا گیا ہے | ۱۶ | ۵ | رضاء اللہ کے طالبوں کو فتنہ آن سے سبلِ السلام کی طرف راہنمائی ملتی ہے |
| ۱۸۰ | ۳ | بُخْل کی مذمت | ۵۲ | ۵ | مومین کے اوصاف |
| ۲۵۹ | ۲ | انفاق فی سَبِيلِ اللہِ کی ترغیب و آداب | ۱۰۵ | ۵ | اہل ایمان کو اپنی اصلاح کا حکم |
| ۲۷۲ | | اور اس کی برکات | ۱۹۹ | ۵ | صادقین کی قیامت کے وزیرفتافزانی |
| ۲۷۵ | ۲ | سُود کی حرمت | ۱۲۷ | ۴ | وہ حد رسمی اور خداون سے راضی |
| ۱۳۰ | ۳ | سُود خور کی مثال آسید زہ شخس کی سی ہے | ۵ | | |
| ۷۲۶ | ۲ | یعنی حلال ہے سُود حرام ہے | ۱۷۲ | | |
| | | سُود کی حرمت کی وجہ | | | |
| | | اللہ تعالیٰ سُود کو مٹاتا ہے اور صدقات | | | |
| | | کو بڑھاتا ہے | | | |
| ۲۷۸ | ۲ | اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بقیہ سُود چھوڑ دو | ۱۴۲ | ۲ | پاکیزہ رِزق کھاؤ |
| ۲۷۹ | ۲ | اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور رسول کا | ۱۴۸ | ۲ | کسبِ معاش میں حلال و حرام میں انتیاز |
| ۲۷۳ | ۲ | تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے | ۱۸۰ | ۲ | و صیست |
| ۲۷۴ | ۲ | صدقات کا مستحق | ۱۸۱ | ۲ | و صیست کو بد لئے والا گنہ گار ہو گا |
| ۲۷۴ | ۲ | زراعت کی فضیلت | ۱۸۲ | ۲ | و صیست میں ظلم کی صورت میں مصالحت |

معاشریات

پاکیزہ رِزق کھاؤ
کسبِ معاش میں حلال و حرام میں انتیاز
و صیست
و صیست کو بد لئے والا گنہ گار ہو گا
و صیست میں ظلم کی صورت میں مصالحت

| سونت نمبر | آیت نمبر | سونت نمبر | آیت نمبر |
|--|--|--------------|----------|
| ۷۸ | ۲ | ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۷ | ۶ |
| | ہر سپاٹی اور تینی کو حضور کی طرف مشوب کرتے ہیں اس کارڈ | ۱۸، ۱۷ | ۶ |
| ۸۱ | ۲ | ۴۰، ۱۹ | ۶ |
| | بظاہر دخوی اطاعت بباطن سازش اور منصوبہ سازی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مون بن کر، اپنوں سے | ۷۴ | ۶ |
| ۸۹ | ۲ | ۲۰۲ | ۶ |
| ۱۳۹ | ۲ | ۲۰۵ | ۶ |
| | یہ عزت حاصل کرنے کے لیے کفار سے مُنافقین بڑے شیریں لفڑا ہوتے ہیں لیکن اللہ المختار اخیں اقتدار مل جاتے تو فتنہ و فساد پر پا کرتے ہیں | ۷ | ۶ |
| ۱۴۰ | ۲ | ۴۰۴ | ۶ |
| | آیاتِ الہی کے ساتھ تمثیل کرنے والوں کے ساتھ مت بلیحہ فتح و شکست کے وقت مُناافقوں کا کردار مُنافقین کا طلاقیہ کار اللہ سے دھوکہ | ۲۶۲ | ۶ |
| ۱۴۱، ۱۴۲ | ۲ | ۱۵۴ | ۶ |
| مع حاشیہ | نمازیں شستی، ذکرِ الہی سے برے رغبی نہ دھر کے نہ دھر کے مُنافقین درک اسفل میں ہیں مگر تاب ہوئے والے نہیں | ۱۴۷ | ۶ |
| ۱۴۳، ۱۴۵ | ۲ | ۱۴۸ | ۶ |
| مُنافقین کو نوت سے بچانے کے بجائے اپنے آپ کو بچا دیکھو مُون بن اور مُنافق کو الگ الگ کر دینا | مُنافقین حادث زمانہ سے پچنے کے لیے یہود سے دوستائی تعلقات بناتے ہیں نفاق کی وجہ سے اعمال ضائع مُنافقین جیسے خالی آتے ویسے خالی لوٹتے ہیں | ۱۷۹ | ۶ |
| ۱۴۴ | ۵ | ۱۸۸ | ۶ |
| ۱۴۵ | ۵ | ۷۲، ۷۳، ۷۴ | ۶ |
| ۱۴۶ | ۵ | ۷۷ | ۶ |
| | نوہی کسی کو اس کام می مقابل نہ بناؤ آیاتِ الہی کو نہ بچو حق کو باطل سے نہ ملاو | ۷۷، ۷۸ | ۶ |
| ۲۲ | ۲ | | |
| ۲۱ | ۲ | | |
| ۲۲ | ۲ | | |

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

یہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے بہریز، دلنشیں و دل آدیز جلیل الفت در سورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے جس نے تاریخ انسانی کا رُخ موڑ دیا۔ جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا۔ جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سورت کی گونان گوں برکات کو کیوں کرتلبند کیا جاسکتا ہے۔ دُوہ متعدد نام جن سے بنی اسرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو یاد فرمایا حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوض و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیتے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند یہ میں ہیں:-

الفاتحة: رحمت و حکمت کے نزاٹ کھولنے والی۔

فاتحة الكتاب: قرآن مجید کے مرتبہ رازوں کی کلید۔

أُمّ الرُّقُّعَان: حقائق قرآن کا مأخذ و منبع۔

السبع المثاني: بار بار دُھرانی جانے والی سات آیتیں۔

الشفاء: جسمانی اور رُوحانی بیماریوں کا تریاق۔

یہ سورۃ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے۔ سات آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد چھپیس ہے اور حروف کی تعداد ۱۲۳ ہے۔

سُورَةٌ تَحْتَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَبِّعَ إِيَّا

اللَّهُكَ نَامَ سَلَّمَ لَهُ شَرْفُ كُرْتَاهُوْنَ لَهُ بُوبَتْ هَيْ مَهْرَانَ بَهْشِيشَهُ حَمْرَفَانَ وَالْهَيْتَهُ لَهُ ایکَ کُوعَ سَاتَ آتَیَتَنَ

لَهُ إِسْلَامِي آدَبِ مَعَاشرِتِیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَقْامِ حَصَلَ بِهِنْ هَمَارَے ہادِی وَمُرْشِدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَسِیْلَتْ دِیاَبِے کَہْرَکَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ سَلَّمَ شَرْفُ کُرو بَلَکَدِ یَهَیَانَ تَنَکَ فَرَمَیَا اَغْلَقَ بَابَکَ وَاذْکَرِ اَسْمَوَالِلَّهِ وَاطْفَعَ مَصْبَاحَکَ وَاذْکَرِ اَسْمَوَالِلَّهِ وَخَرَاعَکَ وَاذْکَرِ اَسْمَوَالِلَّهِ وَاوَکَ سَقَاعَکَ وَاذْکَرِ اَسْمَوَالِلَّهِ (تَفْسِيرُ الْقَرْطَبِی) دَرَوازَهُ بَنَدَکَو توَالِلَّهُ کَانَامَ لَیَاکَو. دِیاَجَھَا توَالِلَّهُ کَانَامَ لَیَاکَو. اپَنَے بَرَقَنَ طَھَانِیْلَهُ کَانَامَ لَیَاکَو اپَنَیِ مشَکَ کَامُنَدَهُ بَانَدَھُو توَالِلَّهُ کَانَامَ لَیَاکَو، مَقْصِدِیْرِ بِے کَہْرَکَامِ چَھُوْٹَهُ بَوْیاَبَرَتَے وقتِ اَنْسَانِ اپَنَے کَارِسَائِیْلَهُ قَعْدَتِیْلَهُ کَانَامَ لَینَے کَانَخَرَگَرِ ہُوْجَاتَے تَنَکَ اَسَ کَیِ بَرَکَتَ شَکَلَیَنَ اَسَانَ ہُوْنَ۔ اَسَ کَیِ تَائِیدَ وَاصْرَتْ پِرَاسَ کَاتُوكَلَ گُنْتَهُ ہُوْجَاتَے نَیْزَ جَبَ اَسَے ہَرَکَامِ شَرْفَ عَرَتَے وقتِ اَلَّهُ کَانَامَ لَینَے کَیِ عَادَتْ ہُوْجَاتَے گَیِ تَوْهُہِ ہَرَسِیَا کَامَ کَرَنَے سَے رُکَ جَاتَے کَاجَسَ مِنْ اَسَ کَے ربِ تَعَالَیِ کَیِ نَارَاضِکَیِ ہُوْ۔ اَمَّا قَرْطَبِیِ نَسِیْلَتْ صَحَیْحَ سَنَدَ سَے یَهِ حَدِیْثَ نَفْلَقَ کَیِ ہُنَعَمَانَ بَنَ اَبِی اَعْمَاسَ نَشَکَیَتَ کَیِ کَہْرَسُولِ اَلَّهُ صَلَّی اَلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ جَبَ مَسِّ شَرْفِ بِاسَالَمِ ہَوَا ہُوْنَ حَسَمَ مِنْ درَوَتَهَا ہُنَے لَوْحَنُورَا کَرَمَ صَلَّی اَلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَسِیْلَتْ فَرَمَیَا کَہْ جَهَانَ درَوَهُو وَهَانَ ہَانَهَرَکَتَنَ بَارَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کَوْ اَعُوذُ بِعِزْتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اِجْدَ وَأَحَادِرُ۔

لَهُ اَلَّهُمَّ بِعِظَمِیْلَهُ کَاعْلَمَ ذَانِتَ ہے۔ ذَانِتَ بَارِیَ کَعْلَوَهُ کَسَیِ کَے لَیِّسَ اِسْتَعْمَالَ نَبِیِں ہُوتَا۔ لَهُ یَهِ دَوْلَوْنَ مَبَالِغَے کَصِیْغَے ہِیْں۔ انَ کَامَاخْذَرَجَتَ ہے اُورَ رَحْمَتُ الَّهِ مِنْ مَرَادِ اَسَ کَاوِهِ اَنْعَامِ وَاَکَارَامِ ہے جَسَ سَے وُہ اپَنَیِ خَلُوقَ کُو فَرَازِ فَرَماَتَہَا ہُتَے۔ بُجُودُهُ زَندَگَیِ، عِلْمِ ہَجَجَتِ، قَوْتِ، هَعَزَّتِ اُورَعَلِمِ صَالِحَ کَیِ تَوْبَیْقَ سَبَ اَسَ کَیِ رَحْمَتَ کَے ظَاهِرَہُنَیْں یَہِ اَسَ کَیِ بَیِّنَیَں رَحْمَتَ ہِیْ توَہِیَ جَسَ نَسِیْلَتِ اِسْتَحْقَاقِ کَلَبِیْلَهُ اَسَنَانِیْلَهُ اُورَلَوْحَانِیْلَهُ بَالِیدِیْلَهُ کَے سَبَ سَاماَنَ فَرَآہِمَ فَرَمَادِیْسَے۔ یَہِ اَسَ کَیِ بَیِّنَیَں رَحْمَتَ ہِیْ توَہِیَ کَہْ جَارِیِ لَگَاتَانَ اَشْکَرَیَوْلَوْنَ اُورَنَافَرَانَیَوْلَوْنَ کَبَلَجَوْدُوْهُ اِلَيْنَ لَطَفَ وَکَرْمَ کَادَرَوازَهُ بَنَیَمَیَسَنَ کَرَتا کَبُھِیَ آپَ نَے غَورَ فَرَمَیَا کَہْ قَرَآنَ اَلَّهُ تَعَالَیِ کَیِ حَسَ صَفَتَ کَاسَبَ سَے پَلَے ذَکَرَتَنَابَے دُهَ صَفَتَ قَهَارَیَتَ وَجَارَیَتَ نَبِیِں بلَکَہَ صَفَتَ رَحَمَانَیَتَ وَرَحِمَتَیَتَ ہے یَہِ اَسَ لَیِّسَ کَہْ بَنَدَہ کَا بَوْلَعَلِقَ اللَّهُ تَعَالَیِ سَے ہے اُسَ کَادَارَوَدَارَخَوْتَ وَهَرَاسَ اُورَرَعِیْبَ دَبَدَبَہِ پَرَنَہَوْ بَلَکَہَ رَحْمَتَ پَرَنَہَوْ کَیِونَکَہَ ہِیْ وُہ اَکَسِیرَہِیَ جَسَ سَے اَسَانِ کَخَنَتَهُ صَلَّیتِیْلَهُ بَیَارَہُوْتِیْلَهُ ہِیْ اُورَنَیَہَانَ تَوَانَیَیَانَ اَشْکَارَ۔ اُورَیَہِ عَرَجَ اَسَانِیَتَ ہے کَرَانَ اپَنَیَ آپَ کَوِیَالَیَ دَیَکَھَلَ لَعَضَ حَقَ نَاشَاسَ کَتَتَہُنَیْں کَرَاسَلَمَ کَاخَدَخَنَیَ ہے اُورَاپَنَے مَانَنَے وَالَّوَنَ گُو خَنَخَوارِی سَکَھَاتَا ہے۔ کَاشَ وُہِ اِسَالَمَ کَمِقْدَسِ کَتَابَ کَے پَلَے صَفَحَہِ کَہِی آیَتَ ہِیْ پَرَھَلِیَتَے توَلَخِیں تَپَہِ چِلَ جَاتَکَہِ اِسَالَمَ کَاحْسَدَ سَقَکَ نَبِیِں بلَکَہَ الرَّحِیْمَ ہے اَسَ کَیِ رَحْمَتَ کَابَادِلَ ہَرَوْقَتَ بَرَسَتَہِیَ رَهَتَہَا ہے۔

بَیِّنَیَں پَلَے عَزَنَ کَیِادِ دَوْلَوْنَ مَبَالِغَے کَصِیْغَے ہِیْں۔ انَ کَامَعَنِیِ صَرْفَ رَحْمَتَ کَرَنَے وَالاَنْہِیں بلَکَہَ بَہَتَ اُورَہَرَوْقَتَ رَحْمَتَ کَرَنَے وَالاَسَہِیَہِ لَکِیِنَ الرَّحْمَنِیِں الرَّحِیْمِیِں بَعْدِ زَیَادَہِ مَبَالِغَہِ ہے لَیِّنَیِ بَہَتَ ہِیِ رَحْمَ فَرَمَانَهُ وَالاِتِّنِیِ رَحْمَتَ فَرَمَانَهُ وَالاَجَسَ سَنِیَادَہِ کَاَصْوَرَ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنُ

سب تعریفیں گے اللہ کے یہے جو مرتبہ مکال نہ کہ پہنچانے والا ہے سارے جہاںوں کا ہے بہت ہی مہربان

ہی نہیں کیا جاسکتا معناہ المعنو الحقیقی البالغ فی الرحمة غایتها وذلک لا یصدق علی غیرہ (بیضاوی) اسی لیے اگر من کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ حسٹلہ بسم اللہ انکھ کلام الہی ہے دو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا یہ نہ سورة فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی ہاں سورۃ المعل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس لیے اخوات والکیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی طرح نمازیں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔

۵۔ ہر غُنْمٰ و مکال جس کا نہ ہو اختیار اور ارادہ سے ہو اس کی تشاش و شناکو عربی میں ہمدر کہتے ہیں۔ تو اس لفظ محمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات مکال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ منانی ہے مکال کمیں بھی ہو جائیں ہو اسی کی کشمکش سازی ہے۔ اسی کی با اختیار تدریس کا عجائز ہے تو تشاش و تعریف کسی کی بھی کی جاتے حقیقت میں اسی ذات بے ہتائی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم زنگ و بو کی ساری گلینیاں اور رعنائیاں روپیزدی ہیں۔ اسی لیے فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا۔ اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ سے کہ ساکن جب را و طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس را پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی کیونکہ میری طلب بھی اخیں کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھاتے جاتے ہیں

نیز اس سورۃ میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ نولا تے کیم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنايت بھاں پرور کا اعتراف کرے۔

۶۔ رب مصلحت ہے اس کا معنی ہے تربیت اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشعی ای کمالہ بحسب استعدادہ الاذلی شيئاً فشيئاً روح المعانی کسی چیز کو اس کی اذلی استعداد و فطری صلاحیت کے طبق اسے آہستہ مرتبہ مکال تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی لیشان لغمتوں سے عم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اس لیے ہمدر کے فرائعداں کا ذکر فرزاں حادم کو یاد دلایا کہ جس کی توحید کر رہا ہے وہی ہر ہمدر کے لائق ہے کیونکہ اسی نے تجھے صفت و ناقلوںی، بہماں دلیلی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔

۷۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ما خوف ہے علم بمعنی علامت و نشانی سے کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے نیز اس میں اس طفیلت نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا اکسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں تاکہ اس کی نوازناش کسی خاص قوم و نسل کے ساتھی مخصوص ہوں بلکہ اس کی روشنیت کا رشتہ کائنات کی ہرشے کے ساتھ کیساں ہے۔ اور اسی لیے اس کے نطف و إحسان کے سب مساوی طور پر حق دار ہیں بشرطیکوہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔

الرَّحِيمُ لِمَلَكِ يَوْمِ الدِّينِ ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ

بِعِيشَةِ رَحْمَفَانَةِ وَالا مَالِكَ هَبَّهُ رَوْزَ بَرَا كَا لَهُ تَيْرِي هِيَ حِمَ عِبَادَتَ كَرَتَهُ مِنْ ۖ ۙ اُور

کے مالک کہتے ہیں المتصوف فی الاعیان المملوکہ کیف شاعر (بینواہی) وہ سبی جو اپنے مالک میں بھاپے ہے کو سکے اس لفظ سے ان عقائد بالعلم کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشک اور اتنی دوسرا قویں مبتلا تھیں یعنی خدا ہر جرم کو سزادینے پر محبوہ ہے اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز ہر جن و انس سب اس کی ملکیت ہیں جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے اگر جرم کو سزاد دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔

۵ دن کا معنی ہے حساب اور جزا۔ بلیکہ کتنا ہے حصاد کی یوم ما زرعیت و انباء۔ یہاں الفتن یوماً کما ہو داشن ٹواب و عذاب کی تعبیر لفظ "دین" سے کی تاکہ پڑھلے کہ یہ ٹواب و عذاب بلا و جہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مفر نہیں مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذتیں کھو کر ان بُرے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر ہیں گے اپنی عمر ناپایدار اور اس کی فنا پر راجحتوں اور عذتوں پر غرور ہو کر اس دن کو نہ بھوول بلیکھے جب کہ انصاف کے ترازوں میں اس کا ہر جھپٹا بڑائیک و بدل تو لا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایا ہے لیکن اس کی صفت کمال بھی ہر وقت پس نظر ہے کہ وہ عادل ہے حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات رُبُوتیت و رحمت کا مل خلُوٰہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سُن لوہہ دن آئے والا ہے جب سطوت و جبروت کے سب موہوم پکیہ میٹ جائیں گے۔ اکثری ہوتی سب کردنیں جھک جائیں گی۔ ظاہر و باطن میں اسی کی فرمائی فرمان روا ہے۔

لکھنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ اُمّت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا اور ایمان لانا ہے میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روحانیت اور حکما فاتحہ عمل کے قانون سے یہاں غافل میں گیا سی کی خیر بات بتائی ہے۔ ۹ عبادت کیا ہے؟ آپ کو لعنت و تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کا یعنی ملے گا لاقصی غاییۃ الخضوع واللتذلل یعنی حذر جہ کی عائزی اور انگکسار مفسرین اس کی مثال بجوار سے دیتے ہیں حالانکہ صرف احمدی عبادت نہیں بلکہ جاالت نمازیں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التحیات میں دوزاؤ بیٹھنا، سلام کیلئے اپنی بائیں منہج ہے۔ یہ سب عبادت ہیں اگر عبادت صرف تنزل و انگکسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہے تو کیا یہ باتی تحریزیں عبادت نہیں۔ اس کا تو تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا اور اگر یہ ساری تحریزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے اُستاد کے سامنے اور بیٹھا پسے باپ کے سامنے دوزاؤ ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا بوجاتا ہے تو کیا کہنا درست ہو گا کہ اس نے اپنے اُستاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا بیوہ بنالیا جا شاواکل۔ پھر وہ کوئی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر نیمازیں ہوں تو عبادت بنادیتی ہے اور یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے ہوئے اور اس طرح سلسلہ کو اور دایمیں بائیں منہج ہیز نے کو تنزل و انگکسار کے آخری مرتبہ پہنچا دیتی ہے اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو ان میں غاییۃ الخضوع ہے اور نہ یہ عبادت مقصود ہے تو تھیں

اَيَّاٰكَ نُسْتَعِينُ ۝ اَهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْدِقِيْمَ ۝

تجھی سے مدد چاہتے ہیں نہ چلا ہم کو نہ سیدھے راستہ پر

تو اس کا میریاں ہی ہے اور وہ یہ کہ جس ذات کے سامنے آپ یہ اعمال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ اس کو اللہ اور رب عبادت ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب ہیں غایتہ نفل خصوص پایا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو عذر اور منہ سمجھتے ہیں نہ فُردا، نہ فُردا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار تو یہ اعمال عبادت نہیں کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو احمد اور منہ سمجھتے ہیں نہ فُردا، نہ فُردا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار تو یہ اعمال عبادت نہیں کہا جاتا ہے لیکن آپ ان کو حستہ ام، اجلاں اور عظیم سکتے ہیں البتہ شریعت مختاری علی صاحبہا الجمل الصلاۃ والطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی منوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر تو یہ دوسری ہیزرا ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلدار رہت ہے۔ سب سے بالاتر اور قوی تر وہ، سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ لطف و کرم کا یہم میں برسانے والا وہ، بنہ ہزار خطایں کرے لاکھوں ہجم کرے اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر یہی بدر کی قسم کافی صلی فرمانے والا وہ، تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کوں جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی سترپش کی جاتے؟ اسی لیے قرآن نے ہمیں صرف یعنی تعلیم نہیں دی کہ بعد دک کہ تم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ تم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اور وہ کی بھی بلکہ یہ سکھایا کہ ایا ک ن بعد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے مفقرتین کرام نے ایا ک کو مقام کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ دیگر طائف کا بھی ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں یہاں تین چیزوں میں عبادت اور معبود عارف کو چاہتے ہیں کہ اس قام پاپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہے عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود و حقیقتی پر تاکہ اس کے اوایصال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نہم تے سرفراز کی جاتے اس لیے فرمایا ایا ک ن بعد عبادت واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو تقریبیں بازگاہ و صحتیت کی اخلاص و نیاز میں ٹوپی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے تاکہ ان کی بکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیری لیں۔

۱۔ لیعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں تو یہ کار سارہ حقیقتی سے تو یہ مالک حقیقتی ہے ہر کام میں ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کرتے ہیں لیکن اس کا یہ طلب نہیں کہ اس عالم اسی میں اس باہمی طبق نظر کریں جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کداہش تلاش رزق کی وقت وسائل معاش سے دست برداز حصوں علم کے لیے صحبت اُستاد سے بیزار اس طرقی کا اس اسلام اور تو حید کو کوئی سروکار نہیں کیونکہ وہ جو شفافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسی نے ان اس اسباب میں تاثیر کی ہے اب ان اس اسباب کی طرف رجوع استھانت بالغہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سبے قوی تراواہ ترا فرن سبب ہے جسے حضور علیہ الصلوات والتسییم نے فرمایا اللہ عاصیہ و الفضائع کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدال دیتی ہے اور اس میں بھی کلام نہیں کہ مجھ میں شفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعہ ہے کہ وہ ان کی عاجزا نہ اور تیاز منداز التجاویں کو ضرور شرف قبول نہشے کا چنانچہ حدیث قدسی جسے امام خوارجی اور دیگر ہیزرا نے روایت کیا ہے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ لain سائلنی لاعطیتہ

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَا غَيْرُ الْمَغْضُوبِ

لارستہ اُن کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لے کہ اُن کا جن پر غضب

وَلَدَنِ اسْتَعَاذَ فِي لَكِعِينَتِهِ۔ اگر میر امقویں بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبین اللہی کی جا بیٹی خصوصاً جدیب کہرا رہا ہے اُنہیں کسی لفہت کے حصول یا کسی مشکل کی شودکے لیے التماس دعا کرتا ہے تو وہی بھی استعانت علیہ التجیہ والتناء کے حصوں میں کسی لفہت کے حصول یا کسی مشکل کی شودکے لیے التماس دعا کرتا ہے تو وہی بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عنینِ اسلام اور عین توہید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شیخید یا بانی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میستغل بالذلت ہے۔ اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا شرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے ہمایہ بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے۔ اور اس کا حاصل مولانا محمود احسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان جامع الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”اس آئیت شریفے میں علوم ہڑا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد نہیں بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے“

اور اس طرح کی استعانت تو پاکانِ امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے حضرت شاہ ولی اللہ جناب رسالت ناصیل عرض کرتے ہیں ہے وانت بھیری من هجوم ملمة اذا الشبت في القلب شر الخالب

ترجمہ: یا رسول اللہ اخضور مجھے میاہ دینے والے ہیں جس بیتیں لوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنچے گاڑ دیں۔
بائی دارالعلوم دیوبند عرض کرتے ہیں ہے مدد کرتے نہم احمدی کم تیرے سوا بنیں ہے قاسم بکش کا کوئی تامی بکار
اللہ لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو نماز مقصود تک پہنچا دینا۔ المہادیۃ دلالۃ بخطف اللہ تعالیٰ
کی عظمت و کبیر بائی کے بیان کے بعد، اس کے سلسلہ انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے
کے بعد انسان اب اپنے حمل و حیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے۔ میں مژور ہوں فنس کی
فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں خود تو میری دشمنی فرم اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے استہ
پر ثابت قدیم سے چلتے رہنے کی توفیق بخش آور اپنی رضامی نماز تک پہنچا۔ قرب و وصالِ الہی کے اس مقام پر ہمچڑیوں نہما
اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امتیت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلب گارہے۔ کہتا ہے اہد ناہم سب
کو ہدایت دے کیونکہ الگ ہدایت اسلام چنان ذرا تک محدود نہ ہے کی تو اس کی عالمگیری ریکات و فیوض کا احصار کیونکہ ہو گا۔ شرق و
غرب میں انسان جن مگر ہیوں میں مھوکریں کھا رہا ہے اُن سے کیونکہ چند کاراپاسکے گا اور کن تو خیادامہ اخراجت للناس
کی تعمیر کیسے ہوگی۔ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں ایک سے ایک بند ایک سے ایک اعلیٰ میون جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا

عَلَيْهِمُوا لَا الظَّالِمُونَ

ہبوا اور نہ مگرا ہوں کا ۱۳

مقداری تو تھے کہ اُس کے موبوودہ مقام قرُب وہ بانیت سے ارفع اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جاوے۔ یا شیطان کی فسوں نہ لازمی اور اُس کی کمزوری کے باعث قدم کے بھیس جائے کا جو بہر نظر خطا ہے اُس سے اُسے محفوظ رکھا جاتے۔ اور اُسے اس را پر ثابت نصیب ہو۔ اور وہ دم والیں تک شیطان کے ہر دام فریب کوتار نہ کرتا ہبوا را ہدایت پر بڑھا چلا جاتے۔ وہذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم على الهدى لطلب التثبت او طلب مزيد الهدى فان الانطاف والهدىيات من الله تعالى لاتتناهى۔ (مظہری)

۱۳۔ ان الفاظ سے راه حق کی ایسی نشاندہی فرمادی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا مرتلاشی ہو وہ اسے پچان سکے فرمایا ہجت لوگوں پر یہی نے انعام و اکرام فرمایا ہے جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرمادی من التبیین والصدیقین والشهداء والصالحین کمیر انعام بیویں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لو کہ اس راہ پر ان نعمتوں قدسیہ کے نقوش پاہیں حضرت صدیق و فاروق و عثمان و میرزا صاحب کرام، اہل بیت عظام کس جماعت کے پیشوایں۔ اور اولیاء کرام کا سلسلہ اُس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔

۱۴۔ جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مُراد یہودی ہیں اور ضالین سے مُراد عیسائی اور شاذ بیوی سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلہ: یجب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتے تو نہت یہ ہے کہ آئین کے۔ اس کا معنی ہے استحب یعنی آخر میں پھر تمام کر کے کہاے مولاتے کریم! بخود عالمیں نے کی ہے اسے قبول فرم۔

تعریف سُورۃ الْبَقَرَۃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ متورہ میں تشریف فرمائی ہوتے تو یہ سورۃ نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو محتاط بنتے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف بنتے۔ خود دعوت اسلامی جس مصلیہ میں داخل ہوئی تھی اُس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نہ تھے۔ اس لیے یہیں اس سورت میں جو چالیس رکوع اور دو سو چھٹا سی آئیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ چھڑا رکنیس اور گردوف کی تعداد بیس ہزار ہے۔ کیسے سورتوں کے اعتبار سے بیس اور صفات فرقہ علوم ہوتا ہے۔

اہل مسیح کو بُت پرست تھے، وحی نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا قفل وغارت اور لوٹ مار میں وہ فخر آور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے کہ میں جو سوتیں نازل ہوتیں ان میں انھیں عقائد بالطلہ اور اعمال فاسدہ کی صلاح پیش نظر تھی۔ یشرب کے اصلی باشندے گواصار تھے لیکن وقت و اقتدار یہود کے ہاتھیں تھا۔ اور انصار مسیحی اور دینی طور پر یہود سے بہت ممتاز تھے یہود کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے وحی، رسالت، قیامت ہجت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا لیکن بدترمی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشیمن اس حد تک ملت تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کوئی عطا کی جاسکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پیشی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیادی فائدہ کے لیے تواریت کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا بھی محسوس نہ کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ یشرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آچکے تھے، علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ آئینی طور پر نہ سمجھ لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔

یہ حالات تھے جب رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجھ فرمایا اور یہود والنصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تملک نہ کر سکتے۔ انہیں اپنی عظمت و جلال کے مخلص مسمات ہوتے دکھانی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے۔ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کمپ پہاڑ تھے۔ ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کھن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دو رکاوٹے اور ان فلک وس چیزوں کو یونی خاک۔ اسی لیے مدینہ طلبہ میں جو یہلمی سورت نازل ہوئی اس کے لئے رکون یہود کی

اصلاح کے لیے وقف ہیں۔

دُوسری نئی صورت حال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ الفصار کی اکثریت کے اسلام قبل کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی بحث کے بعد اسلام متفق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جاتے۔ اور کوئی کوشش ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت بھی ایسے قانون کی جو ان کے دلوں اور فوجداری مقدّمات کا فصلہ کرے۔ ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل والفات ریاضتی ہوتے ہوئے معاشری خوشحالی کا ضامن ہو۔ سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھانے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت بھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالم گیر سیاست کی بنیاد رکھی جاتے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس سورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے پیشتر قواعد و صوابط بیان فرمادیتے گئے ہیں۔

ایک اور چیز بھی غور طلب ہے میکی زندگی میں تسلیمان فارس فلم و ستم سستہ اور چپ ہو جاتے۔ مدینہ طیبہ میں جب تسلیمان اکٹھے ہو گئے تو لفڑیاں اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ اودھر اللہ تعالیٰ نے تھی اپنے بندوں تو گفر سے ٹکر لیئے کی اجازت دے دی اور انھیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے لبی اور مخالفت کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ فتحیاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور رضورت ہوتی ہے۔ اور وہ تھا رے ساتھ ہے یقیناً تمھیں غالب و مذکور ہو۔

ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرمادیا تاکہ ان کی توبہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہی ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنا جامعی حسن نہ کھو دیں۔

اگر ان انور کو مخطوط فاطر رکھتے ہوئے آپ سورۃ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو شاید زیادہ مفید ثابت ہو۔

رَبُّ الْبَقَرَاتِ تَسْتَعْنُ إِلَيْهِ وَتَسْأَلُ وَثَمَانَاتٌ أَوْ سِتٌّ وَكُلُّ عَمَّا
يُسْأَلُ الْبَقَرَاتِ لِئَلَّا هُنَّ مِنْ إِنْسَانٍ سِتْحٌ وَأَيْمَانٌ إِلَيْهِ الْعَوْنَانِ

سورة بقرہ مدینی ۲۸۶ آیتیں ۳۰ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہماں ہمیشہ حم فناز والی ہے

الْعَزَّلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ يَصْلَحُهُ وَلَا هُدَىٰ

الف الامیم لے یہ ذی شان کتاب ۲ ذرا شک نہیں اس میں ۳ یہ ہدایت ہے

۱۔ الف۔ لام میم مفسرین کرام نے ان ہرwoff کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں میرے نزدیک احس قول یہ ہے کہ الح اور دیگر حروف مقطعات سو بین اللہ و رسولہ۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ صاحب روح المعانی کی عبارت ملاحظہ ہو۔ فلا یعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا الولیاء الورثۃ فهم یعرفونہ من تلک الحضرة وقد تنطق لهما الحروف کما کانت تنطق لمن سبح فی کفہ الحصی یعنی ان ہرwoff کا صحیح معنوم بنی کریم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین۔ ان کو یہ علم بارگاہ و سالت سے عطا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہرwoff خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں جیسے یہ ہرwoff اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی تھیں میں کفاریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔

۲۔ اس سے مار قرآن کریم ہے۔ ذلک اگرچہ عام طور پر اس مشاہدی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسرے لیکن ایسے مشاہدی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جو حسناؤ نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور زبردستی کے اعتبار سے بہت بلند اور درسترس سے دور ہو۔ اس لیے ترجمہ میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے ”یہ ذی شان کتاب“۔

۳۔ یہ نہیں فرمایا کہ لایداب فیہ کہ اس میں شک نہیں کیا جانا کیونکہ اس پر شک و شبہ کی رو اٹلانے والوں کی مرتبہ کی تھی اسی سبک کے فرمایا لایداب فیہ یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی و اقدامات اور اس کی پیشگوئی کو تیار حق و صداقت کے وہ بلند میدار ہیں جہاں شک و شبہ کا عہد نہیں پہنچ سکتا اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو اس کی اپنی کج فرمی اور کوڑو قتی ہے۔ اگر قرآن کے بیمار کو ہر چیز زرد کھانی دے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ ہر چیز تو زرو نہیں۔

لِمَنْ تَعْقِلُنَّ لَا دُرُّ وَ لِمَنْ لَا يُعْلَمُنَّ لِغَيْرِ وَ

پورہ زینگاروں کے لیے ۲ وہ بھو ایمان لائے ہیں غیب پر ۵ اور

۴ اگرچہ قرآن کریم ہدای للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ پیونکہ پورہ زینگار ہی اٹھاتے ہیں اس لیے یہاں اس لحاظ سے شخصیں کر دیں۔ اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے تقویٰ کا لغت میں تو یہ یعنی ہے جعل النفس فی دقایۃ ممایخاف یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ عرف شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہرگناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں۔ ہر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے میرے نزدیک سب سے موثر اور آسان تعبیر یہ ہے۔ التقویٰ ان لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد ک حیدث امرک یعنی تیار ب تجھے دہاں نہ دیکھے بہماں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے بہماں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔

۵ یہاں سے المفلحوں تک ان تلقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا یعنی ہے حکم تلقین۔ اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری جو اس کی رسانی سے بلند اور عقل کی سمجھتے بالا تر ہو۔ مثلاً حج، فرشتہ، قیامت، بحث، دونخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزوں میں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جاسکتی ہیں۔ ان کے جانے کا فقط ایک ذریعہ ہے۔ اور وہ بنی کی ذات گرامی ہے۔ اس کی زبان حق ترجیحان سے جو کچھ لوٹکے اس پر انسان حکم تلقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقویٰ کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلام میرے کے وہ احکام جن کی ہمکتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل (انتہا میں) قادر تر ہتے ہیں اور ارشادات جو اس کے فائی مفادیا اس کے گردہ اور محروم وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں تو ایسے ہمکتوں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے یعنی بنی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جاتے اور بنی کے ارشادات کے فائدہ اور لفظ مندرجہ ہوئے راستے اس درجہ تلقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھ سکتا۔ بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یقینیت اس کے تمام اعمال کو بے تیجہ کر دیتی ہے۔

سُنَّ أَتَے تَهْذِيبٌ حَاضِرٌ كَمُفَارِ

غلامی سے بترے ہے لے یتی

تَمَلُّومٌ هُوَ كَمَتَّقِيٰ كَمُهْلِي عَلَامَتٌ يَہٗ ہے كَوْهَ حضُورِ بنِي كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمِيْتَ بَتَّانِيْ ہوَيَّ تَمَامٌ چِيزِ دُولِ پُجُوْ كَلَقِيْنِ رَكْھتا ہے۔

يَعِمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ كَارِثُونَ هُمْ يُنْعِقُونَ

صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز ۶۷ اور اس سے جو تم نے انھیں روزی دی خرچ کرتے ہیں ۳

وَالَّذِينَ يَعِمُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا

اوڑ وہ جو ایمان لاتے ہیں ۸۷ اس پر (اے جبید) ہجوم آگیا ہے آپ پر اور جو

۴ یہ متین کی دوسرا علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز فائم کرو۔ اور اقامۃ الشیعی توفیۃ حقہ (راغب) نماز فائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سُنّتِ نبویؐ کے مطابق تمام اركان بجالائے جائیں۔ اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خصوص و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی گیفتی طاری ہو یعنی تو محضوس کر رہا ہو کہ کانک تراہ گویا تو اپنے معبدوں کو دیکھ رہا ہے۔ ورنہ کہ انکم اتنا تو ضرور ہو کہ فانہ یہاں کیتیر ارب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ ورنہ ۴

بیراقیام بھی حجاب میں اس بھود بھی حجاب

۵ کے الرزق فِي الْغَةِ النَّصِيبِ وَالْعَطَاءِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَحْسُى وَالْمَعْنُوِيِّ (المنار) لعنت میں رِزْقٌ کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو غواہ جھٹی ہو یا معنوی۔ مال، اولاد، علم و معرفت اس لحاظ سے سب رِزْق ہیں۔ اور یہاں بھی رِزْق کا یعنی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو کسی کا پانہ نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بُخل نہ کرے۔ بلکہ جو ان نعمتوں سے مُحِظٌ ہیں ان میں قسم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے اور عارف اپنے روحانی فیوضات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیضِ عام متین کی تبیری علامت ہے۔

۶ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رُشد و مہارت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عشق کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں یا وحی کے قائل تو یہیں لئیں بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چھتی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ختم نبوت کی بنی دلیل ہے۔ کیونکہ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور کیم پر نازل ہوئی یا حضور سے پہنچے۔ اگر نبوت کا مسلسلہ جاری ہوتا تو حضور کیم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت یوں ہوتی و ماذل

أُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَّا هُمْ يُوْقَنُونَ^٦

آنارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں ۹
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^٥ إِنَّ الَّذِينَ
 وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں ہمان ہیں کامیاب ہیں نہ بے شک جنہوں نے
كُفْرًا وَاسْوَاءَ عَلَيْهِمْ عَانِدَ رَبَّهِمْ أَرْلَمَتْنِدَ رَبَّهِمْ لَا يُوْقَنُونَ^٤ خَاتَمَ
 کفر اخیار کر لیا ہے کیساں، ان کے لیے چاہے آپ انھیں درایمیں یا نہ ڈرایمیں ۔۔۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے مہرگادی

من قبلک و ما ینزل من بعدك -

۹۔ اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لیتا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتفاق العلوم باتفاق الشاک والشبهۃ عنده یعنی علم کی وہ پیشگی جس میں شک و شبہ کا لوز نہ ہو۔ اور جب کسی یقیناً یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو سخّر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پیچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھاتا ہے سے پہلے وہ ان تباہ کا لذہ لکایا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں ہیں اپنے قول و عمل میں جواہروں کا تضاد و کھاتمی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے رہا ہے ایمان روز جزا پر یقین سمجھنے تاکہ قول و عمل کی یکشماش ختم ہو جس نے ہیں ذلت کی سپتیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماسہ دیکھنے والوں کو ورطہ تحریرت میں ڈال رکھا ہے۔

۱۰۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دُنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمیٹ آئی ہوں۔ لیس فی کلام العرب کله اجمع من لفظة الفلاح لخیری الد نیا و الآخرة کما قاله ائمۃ اللغة (تاج العروس) ائمۃ لغت نے صریح کی ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ اور کوئی جامع لفظ نہیں وجود دینا و آخرت دونوں کی خیرات و بکات پر دلالت کرتا ہو۔ اب آپ اولئکہ المفلحوں کے مژده پر پیچھو رکھو کریں۔

۱۱۔ دعوت حق قبول کرنے والے غوش نصیبوں کے ذمہ کے بعد اس اب تدبیوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس موقع پر بعض لوگ بلا وجدہ جبر و قدر کی بحث چھیر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان بے چاروں کا کیا قسموں۔

اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاةً وَلَهُمْ

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کالوں پر لام اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے بیٹے

جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیونکر لا سکتے ہیں۔ اور جب خود خدا نے اُن کو ایمان لالانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جاتے اور ملامت کیوں کی جاتے۔ کاش اتنی بڑی ہماری تشریف سے ہم لوگوں کی حقیقت پر بھی خور کر لیتے۔ جب کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ سی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اُسے چھوڑ کر کوئی دوسرا چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر ہمنور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ واضح دلائل اور دشن محبرات سے حق کو تھا کرنے رکھ دیتے اور قرآن کی دل پلا دینے والی آئیں سُنّۃ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور گمراہی کی راہ پر کوئی الگ نہ فرمادیتے اور کوئی انسان و رہنمی میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگردان رہتا تو جبکی کوئی بات بھی یقینی لیکن اب جب کہ کتابِ الحی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور بنی اسرار کو ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اپنے تعبیرات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شایہ تک باقی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کر قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چھٹے رہنے پر مجبور نہ تھا بلکہ سب کوچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے مُمْنَنہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مرمی سمجھانا واقعی بے سود ہے۔ کیونکہ سمجھا یا تو اُسے جاتے جو سمجھنا نہ ہو۔ اور جو سمجھو چکا ہو اور پھر کفر پر ب Lund ہو وہ اعلانِ حضرتی ہے۔ وہ شفایاں ہیں ہو سکتا۔ اس آئیت کو یہیں اللہ تعالیٰ نے کافر دل کے اس مخصوص گوہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تھسب اور بہت دھرمی کے باعث داہشہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے تھے یہاں بحر و فہم کا احتمال ہے، یعنی نہ تاکہ اس سمجھتے ہیں، بلکہ اسے حالت میں ملے چکا ہے۔

نہیں ہیں یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے سن لگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں اور کافل پوچھ لگادی اور انکھوں پر پڑے ڈال دیتے تو بغیر کیونکر امیان لا تے۔ اُن کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال برکوئی نتیجہ اور اندر مرتب ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر انسان جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہے تو اس کا بلا نوش بعدہ جو ہر چیز پھرم کر لیا کرتا تھا کیا غلط ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا ہے کیا اس کا جگہ کوئی سیدا کرنا پھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو رُوحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے رُوحانی قوتی نشوونما پاتی ہیں۔ اور جن کی یہیم خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کرہ جاتی ہیں۔ دل سے حق و باطل میں تیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ آنھیں دیکھتی توہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتیں۔ کان سُستے توہیں لیکن تفسیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ان لکھار کی یہیم نافرمانیوں سے، حق بمحض لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ و گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کرہ گئی ہیں۔ تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہیں ان مسائل نافرمانیوں کا۔ اور طبعی اثر ہے اُن کی ہبٹ دھرمی اور تعصب کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انھیں ہوش فرم

عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ أَمْ تَأْلِمُ اللَّهُ وَبِالْيَوْمِ

بڑا عذاب ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ۳۰۰ ہم ایمان لاتے اللہ پر اور روزِ

الآخر وَاهُم بِمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ يَخْرُجُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَمَا

قیامت پر حالانکہ وہ مومن نہیں ۲۷ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو ۵۰ اور

يَخْلُعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يُشَعِّرُونَ ۖ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

(حقیقت میں) نہیں فریب دے لیجئے مگر اپنے آپ کو اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کے دلوں میں بیماری ہے

سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ سی نہ سکیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقوں پر اس قدر واضح فرمایا ہے۔

لہ مخط میں بھروس نک بانی ہیں چوری۔ مثلاً ایس جملہ ارساد ہے بل طبع اللہ علیہا بـ کفر ہو۔ یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پر یہ کاری۔ یعنی پہلے سے ان کے دل تحریشہ نہ تھے بلکہ ان کے کفرو

نکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انھیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بل ران اپنے اقدام کا اکاذب کر دے، لعنة ہو کاتے۔ سو ممکن تر تھے اس کامیابی کے ملائی وجہ اور اس کے ملائی کوششیں۔

عکی فویہہ ما ہاؤ یسپوں یے بورلوٹ وہ لیا رہے ہے ان کا میں ان سے دلوں پر جمیا ہے بوران سے دلوں کارون نیہہ اس قدر کوکد رہو گیا ہے کہ آفاب ہلایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیں۔

۱۳۰ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے مُنافق اُس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل مُسْنَ کر ہو۔ سلام کر کر، از افواہِ تر، ذکر کر کے مُذْعِن اور اصحاباً کو رُنگلہ کہتے ہیں تھے شناس ایش آئک مُسْلِم۔ تانگ لگھ تھے نہ فرم

اسلام کی روادری دیکھ رہی تھی اور اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگلیوں کا جگہ بخواہید باطن حاصل جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے اپ لوسمنان بنا کے لئے تھے۔ یہ رہا۔

مر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہجت سے پہلے منافقین کا لشان نہیں ملتا کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا فہرست کے ظلم و ستم کا

جتنہ سو بنا ھا۔ اس سے لیا پر ہی دن کے بیس سو و دو سو دو سو سو پاس ایمان ہی ہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے لیے جان، مال، اولاد غرضیکہ سب کچھ قربان کرنا

پنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔

۱۵۔ وَيَرِبِّ الْمُتَعَالِيَّاتِ مَنْ يَقْرَئُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَرَى بَعْدَهُ شَيْءًا

فَرَأَدْهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِمَا كَانُوا يَكْنُونَ

پھر بڑھادی ۱۴ سے اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے بیلے در دنک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُغْسِلُ وَأَنْتَ الْأَرْضُ قَالُوا إِنَّا فَحَنُّ مُصْلِحُونَ

اور جب کہا جاتے اُنھیں کہ مت فساد پھیلاو زمین میں یا تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوانے والے ہیں

الَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُغْسِلُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

ہوشیار! وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور جب کہا جاتے اُنھیں

أَمْوَالَكُمَا أَمْنَ النَّاسُ قَالُوا آنُوْهُمْ مِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَمَا الظَّاهِرُ

ایمان لا و جیسے ایمان لاتے (اور) لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لاتے یوقوت خدا را بے شک

پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ بکار نہیں سکیں گے کیونکہ یہ وہ لور ہے جس کو ہمیشہ تباہ و دشمنان کھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۴ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پر کوشش پا رہے تھے اور حمد اور غصہ کی وجہ کاریاں چڑھیتیں ان کو قرآن نہیں سے تعمیر فرمایا ہے جب وہ حضور کریم اور اسلام کی روزگاروں بعزمت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و عناد کے شعلہ بھر کی اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ اُنھیں تنبیہ فرماتا ہے کہ اگر انھوں نے اس مرض کو یونی یڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلاب گھونٹ کر رکھ دے گا۔

کامہ اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بچانے میں مصروف ہیں اور اگر ان کی فتنہ پر دازیوں کی طرف تو جلد لا کر انھیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو اُن گھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں ہم ہی تو امن و اصلاح کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں اُب جو شخص فساد پھیلاتے اور حق کا چراغ گل کرنے کا اصلاح کہتے پر مصروف ہو اس کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جاتے تو کیا کہا جاتے۔ اب آپ اپنے گرد پیش پر نگاہ ڈالیے۔ جتنے نئے فرقے نئے مذہب جنم لے رہے ہیں ان کے بانی بھی دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں لیکن ان کی قتنی پر دازیاں آتے دن جو گل کھلا رہی ہیں ان کے باعث تو قوم کا ذہنی اتحاد بھی پاش پاش ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں یادانہ دشمنوں کے مکروہ فریب سے اُمّت کو بچاتے اور ہمیں توفیق بخشے

هُمُ الْسُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ^{۱۴} وَإِذَا قَوَى الَّذِينَ أَنْوَاقَ الْوَآمِنَاتِ

وُهُيَ أَهْمَنْ بَيْنَهُمْ مَرْجِعُهُمْ إِلَيْنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا فَحَنَّ وَمُسْتَهْزِئُونَ^{۱۵}

او جب ایکے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف (اُن کا) مذاق اُڑا لیسے تھے ۱۹

اللَّهُ يَسْتَهِزُ بِهِمْ وَيَمْلُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ

اللہ سزا رہا ہے انھیں اس مذاق کی نکتے اور دھیل دیتا ہے انھیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھکتے رہیں (یہ) وہ

کہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ آمین۔

۱۸۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیاب جانچنے کی کسوٹی صرف دُنیا کا عیش و آرام اور عزّت وجاه ہے اُن کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑکی باذی لگادیتی ہیں لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ وانا اور کون ہے جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضاخال کر لی۔ ”رضوان من اللہ الکبر“ اور ان سے بڑھ کر اہمّن کون ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدي راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے مروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الا انہو هم السفهاء۔

۱۹۔ مُنَافِقِينَ كَارُوْيَّةٍ يَهُنَّا كَمْ مُشَكِّلَوْنَ سَمِّلَتْ تُوْأْخِينَ كَمْتَنَهُمْ لَاحِقَّهُمْ بَيْنَ مَيْنَانِ مِنْ جَاجِكَارُ أَخْفِيَنَ لِيَقِنِ دَلَالَتَهُ كَمْهُمْ اپنے مَذَبِّبَ پِرْقَامَ ہُنَّ أُوْسُلَمَانَوْنَ كَمْ سَاقَهُ بَهَارِيَ بَاتَ چِيتَ أَوْرُ أَثْنَانَ بِيَظِنَا إِسْ وَجَرَسَهُ بَهْرَزَ نَهِيَنَ كَمْهُمْ أَنَّ كَادِيَنَ قَبُولَ كَرَجَلَے مِنْ بَكِيرَمَ تَوَاسَ طَرَحَ أَنَّ كَوَبَے وَقَوْتَ بَنَاتَهُنَّ ہُنَّ أَوْرُ أَنَّ كَامْتَسْخَرَأَتَهُنَّ ہُنَّ۔

۲۰۔ عَلَمَرْ قَرْبَنِيَ لَنْفَطِ إِسْتَهْرَارِكَ لَغُوَيِّ تَحْقِيقَ كَرَتَهُنَّ لَكَھَاءَ كَمَ اصْلِ الْاسْتَهْزَاءُ الْأَنْتَقامَ۔ إِسْتَهْرَارَ كَمَعْنَى تَقَامَ لینا ہے۔ سند کے طور پر یہ شعر بھی لکھا ہے سے

قد استھراً وَامْنَهُو بِالْفَيْ مَدْحَج سَرَانَهُو وَسَطَ الصَّحَاضِحِ جُنُّو

اس تحقیق کے مطابق اللہ یستھری بھی کا معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اُن کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے اس معنی میں ای اللہ تعالیٰ کی طرف استھرا کی تسبیت میں کوئی قباحت نہیں بیزار ایل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جاتے تو اس کی تعییر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعییر کی گئی ہو جس پر سزا یا عذاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً جزاع سیدعۃ سیدعۃ مثلاً ہے۔ یعنی بُرے فعل کی جزا ایل بھی اسی طرح بُری ہو اکرتی ہے حالانکہ سزا جعل الفضات کا عین تقاضا ہوتا ہے بُری نہیں ہوتی۔ یا انسوا اللہ فاشہم۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے اُن کو بھلا دیا۔

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحُوا وَمَا كَانُوا

لوگ ہیں جنہوں نے خریدی لئے مگر اسی ہدایت کے بد لے مگر لفظ بخش نہ ہوتی اُن کی زبان تجارت ۲۳ءے اور وہ

وَمُهْتَدِينَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ

صیح راہ نہ جانتے تھے ۲۴ءے ان کی شال اس شخص ۲۴ءے کی سی ہے جس نے آگ وشن کی ۲۵ءے پھر جب جگہ کا ۲۶ءا

مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ يُنُورُهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ۝

اُس کا آس پاس تو لے گیا اللہ اُن کا نور اور چھپوڑ دیا اُنھیں گھپ اندھیروں میں کہ پچھر نہیں دیکھتے۔

حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے لیکن ان کے بھلانے پر جو سزادی کی اُس کو بھلانے سے تعییر کیا گیا۔ اسی طرح استہزا پر مُنافقین کو جو سزادی کی اُس کو بھی استہزا سے بیان کر دیا کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا۔ اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرتے کے لیے کسی ادنی سے بہانے کے مدلashi رہتے تھے اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔

۲۱ءے اشتہراہ کا معنی ہے خریدنا رقیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشتہراہ کا معنی تب درست ہو سکتا تھا جب کہ مُنافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اُسے دے کر وہ کفر خریدتے۔ وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا۔ اس لیے علامہ قطبی نے لکھا ہے کہ یہاں اشتہراہ معنی استحبوا ہے یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو بقول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شرام کا لفظ ایک چیز کو دوسروی چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام استعمال ہے۔ والمعنی استحبوا الکفر علی الایمان وانما اخراجہ بالفاظ الشراع تو سعا والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئاً بشيء (القری)

۲۲ءے انہوں نے مُنافت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فائدہ حاصل کریں گے۔ مال غنیمت سے اُنھیں حصہ ملے گا اور اُن کی چوڑھڑ بہت قائم رہے گی لیکن اُن کی کوئی امتیاز برداشتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کا پردہ چاک کر دیا رحمو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخپل ایک ایک کا نام لے کر اسے سجدہ سے نکال دیا۔

۲۳ءے لفظ کمانا تو بجا ان امحقوں نے تو اپنا سارا میر (وفرطت سیم) ہی تباہ کر دیا۔ دھم ضیعوا راس المال وہی الفطرة وما حصلوا الفضل بادراك الحق ونیل الكمال (مظہری)

۲۴ءے مُثَلٌ، مُثَلٌ، اور مُثَيْثٌ ۝ یعنی نظریہ ہے لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل (الردو) کے معنی میں ہوتا ہے اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں نہ رت اور اوپر اپن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی معنوں میں مذکور ہوا ہے۔ یعنی اُن مُناافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے اُن لوگوں کی جن کا ذمہ راس آتی میں ہے۔

۲۵ءے مُناافقوں کے دو گروہ تھے ایک وہ جو دون سے کفر پر مجھے ہوتے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے دوسرا

صَمْ بِكُمْ عَمَّا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ^{۱۸} أَوَكَصَّبَ مِنَ السَّمَاءِ

یہ بھرے ہیں گونجے ہیں اندر ہے ہیں ۲۴ سو وہ نہیں پھریں گے یا پھر جیسے زور کا ملینہ برس رہا ہو بادل سے ۲۵

فِيَهُ طَلَبَتِ وَرَعْدٍ وَّبَرْقٍ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ

جس میں اندر ہیرے ہوں اور گرج آور چمک ہو ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں

مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتٌ وَاللَّهُ هُجِيبٌ بِالْكُفَّارِينَ^{۱۹}

کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اور اللہ کھیرے ہوئے ہے کافروں کو

يَحَادُ الْبَرْقُ يَخْطَعُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَأَ لَهُمْ مَشَوا

قریب ہے کہ بھلی اچک لے جاتے ان کی بینائی جب چکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں

وہ جو ایمان توقیول کرتے ہیں مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دست برداز ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی اوکھیبی آیت میں۔

۲۴ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صدر الافتضال مزاد آبادی قدس سرہ نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر کھکھرا قرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ اور وہ بھی جو مون ہونے کے بعد مرتد ہو گئے اور وہ بھی جنہیں فطرت سیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق وارضخ کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور مگر ای احتیار کی۔ اور جب حق سُنئے، مانئے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوتے تو کان، زبان، آنکھ سب بے کار ہیں ॥ (اخراج ابن البرغان)

۲۵ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ بارش، اندر ہیرے، بادل کی کڑک اور بھلی کی روشنی اور ایسے سے میں سفر کرنے والا شخص۔ یہ سب مشبہ بہا ہیں۔ جب تک ان کے مشبهات (یعنی یہ کن چیزوں کی تشہیں ہیں) کا تعین نہ کر لیا جائے اس مثال کا حصہ نہ کھکھرا سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مزاد اسلام، اندر ہیروں اور بادل کی کڑک سے مزاد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا۔ اور بھلی کی روشنی سے مزاد وہ فتوحات غیرہ ہیں جو ان نامادر حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں جس طرح بارش مژده زمینوں کوئی زندگی بخش دیتی ہے اسی طرح اسلام مژده دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش بستے وقت گھنگھوار گھنٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے۔ بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کامینہ بستے وقت کھلی عداؤتوں اور پوشیدہ سائزشوں کا ایک

فِيْكُلٍ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ

اس (کی روشنی) میں اور جب نہ ہیرا پھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تو لے جاتے

لِسْتُعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۲۶

ان کے سننے کی وقت اور ان کی بینائی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ۲۷

بِأَيْمَانِ النَّاسِ أَعْبُدُ وَأَرَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

لوگو! ۲۸ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرما�ا تھیں نسلے اور جو تم سے

ہنگامہ برپا ہو گی۔ فنا یکسر مکدر ہو گئی مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے زندہ ہیں اس نے
وحشت بختی نہ بادل کی کڑک سے وہ ہر سال تھے مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چنان کی طرح ڈٹے رہے لیکن وہ لوگ جو
مذہب بختے ان کی حالت بھیب ڈاؤں ڈول بختی وہ اسلام کے حیات بخش چھینتوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے۔
لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر شکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے اور اسلام کا دامن
چھوڑنے میں ہی اُنھیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف پکنے کی تیاری کرتے
ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تقدیر تیز چھوٹا کام جاتا تو وہ بد دل ہو کر رہ جاتے۔

۲۸ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندی، هصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں۔ کائنات
کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے۔ بلندیاں اور سپتیاں سب اس کے ہلکے سامنے سر افکنہ ہیں۔

۲۹ ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد لیعنی توحید، صداقت، قرآن اور حقانیت بثوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت
دی جا رہی ہے۔ اسلام کو نکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بني نوع انسان کا تاقیم قیامت دین ہے
اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے یا ایسا الناس اے تمام انسانو!

۳۰ تو حیدر بُوئیت سے توحیدِ الہیت پر استدلال فائم کیا جا رہا ہے۔ نعمتِ ایجاد اور بقاء کا ذکر فرمائی ثابت کیا کہ وہ وحدۃ
الاشتیک ہے لیعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیونکہ وہی ہے جس نے تھیں پیدا فرما�ا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی
دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے۔ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تھیں پیدا کر کے تھمارے آرام و آسائش اور حیات
بقا کے سامان خود فراہم کر دیتے۔ اگر وہ تھیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے اُطف و عنایت سے تھمارے
رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تھمارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ
ہے اور تھماری زندگی اور بقاء بھی اسی کی نظرِ رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرا کے لاس میں کوئی حصہ نہیں جبایجاو

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ^(۱) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

پہلے تھے تاکہ تم پیغمبر کار بن جاؤ وہ جس نے بنایا تھا رے یہ زمین کو پچھونا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

اور آسمان کو عمارت اور آثار آسمان سے پانی پھرنا کے اس سے پچھو

الثَّرَاثَ رُشْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا إِلَهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(۲)

پھلے تھا رے کھانے کے یہ پس نہ بھیرا اللہ کے یہ م مقابلہ اے اور تم جانتے ہو

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاقْتُلُوهُ إِسْرَافِهِ مُنْ

اور اگر تھیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر تو یہ آؤ ایک سورۃ اس

رُبویت میں وہ وحدۃ لا شرکیہ ہے تو اوہیت میں کون اس کا شرکیہ ہو سکتا ہے جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی تنگیاں نہیں تو لا محالہ الا اللہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور جب اس پر ایمان مکمل ہو گیا تو لا مبتدؤ الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوئا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدۃ لا شرکیہ ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلہ پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کتنا فطری، کتنا سادہ ہے اس کے باوجود دلتنا موثر اور یقین پرور ہے۔ ایک اُن پڑھ عالمی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کا نات کے تندرا کا ماہر غواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کے صفات میں توحید کے دلائل پڑھتے فتنی موشکاں کیوں، پیغمبر اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پیشان کی جگہ آپ کو مرغوب تو کر دے گا لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی رہے گا۔ یعنی قرآن کا اعجاز ہے جس نے پوچھہ صدیوں سے دانشور ان عالم کو یہت و استحباب میں مبتلا کر رکھا ہے۔

اے اس کا مفرد تھا ہے جس کا معنی ہے المثل المناوی یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو مشرکین کے بُتوں کو اندکوں کہا گیا؛ اس کی وجہ علماء بینا وی تحریر فرماتے ہیں۔ لانہو لمات کو عبادتہ الی عبادتہ و سموها الہتہ؛ یوکہ انہو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بُتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو الہ (خدا) بھی کہتے تھے۔

۲۳ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهِدًا كُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ

جیسی ۳۴ اور بولا لو اپنے حماں تیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَئِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّ الْأَرْضَ وَقُوَّدُهَا

پھر اگر ایسا نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن

النَّاسُ وَالْجِنَّا تَهُدُ أَعْدَّتُ لِلْكُفَّارِينَ ۚ وَبَشَّرَ اللَّهُ رَبَّ الْأَرْضَ أَمْنًا

انسان اور پتھر ہیں جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور خوشخبری ۳۵ یہ مجھے انھیں جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ قِيمَتِهَا الْأَنْهَارُ

اور کیے نیک عمل (کہ) یقیناً ان کے لیے باغات ہیں ہتھی ہیں ان کے لیے نہیں

كُلَّمَا رَزَقْنَا مِنْ ثُمَّةٍ رَّسَقْنَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِّقَنَا

جب کھلایا جاتے گا انھیں ان باغوں سے کوئی پھل (تصویرت دیکھ کر) کیسی کے لیے توفیقی ہے جو ہمیں پہلے

۳۶ یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ چیز صرف عرب

کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب مبلغرین کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا انسان طلاقیہ تھا

کہ تین آیت کی ایک سورت بناتر قرآن کے اس چیخنگ کا جواب دے دیتے۔ اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت اور

عملیت کو یہ دمختہ کر کے بیک کر شتمہ سہ کار کا منظر دھا دیتے۔ لیکن چودہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور شرق و مغرب کے بغواہ اپنی

بے پین خواہشوں، لکھار کو ششوں اور جانگل کاوشوں کے باوجود اس چیخنگ کا جواب آج تک نہیں دے سکے۔ اور نہ

قیامت تک دے سکیں گے جیسے قرآن نے پیش کی گئی کردی ہے تو اب کسی الصاف پسند ڈی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی

کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس عبد مقرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ

اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرمادی جس کے سامنے بڑے بڑے کرش مخالفوں کی گردیں چھک گئیں۔

۳۷ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اس کے ذکر کے بعد

ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں اللہ تعالیٰ کی سرمدی نعمتوں کے مژده سے خوسرند کیا جا رہا ہے۔

مِنْ قَبْلٍ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

کھلایا کیا تھا۔ اور دیگر اخیں بچل (صوفیت میں) ملتا جلتا اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ ہو یا ہوں گی ۳۵

وَهُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿٤٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا

اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ۳۶ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا ۳۷ اس سے کہ ذکر کرے کوئی

مَا بِعْوَذَةٍ فَمَا فَوْقَهَا طَفَّالًا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

مثال پھر کی ہو یا اس سے بھی ہتھیر پیز کی تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے (اُتری ہے) اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قدس کیا اللہ نے

بِهِذَا أَمْثَلَ أَمْ يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ

اس مثال کے ذکر سے مگرہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتیوں کو اور بدایت دیتا ہے اس سے بہتیوں کو اور نہیں مگرہ کرتا

حضرت معاذ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں چار ہتھیزی ہوں علم، نیت، صبر اور اخلاص (منظہری) نیزاں سے یہ بات

بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے منصف ہو۔

۳۷ یعنی جنت کے نبیوں کی شکل تو ایسی ہو گی جس سے وہ پہلے سے آشنا ہیں لیکن ان کا ذائقہ اور خوبی بالکل زوالی ہو گی۔

۳۸ یعنی بالکل پاک و صاف۔ زندگانی آلالشوں کا دہان گور ہو گا اور نہ اخلاقی تعیوب سے ان کی سیرت کا دامن داغدار ہو گا۔

۳۹ ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ ہو گی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے۔ بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندر ہو گے۔

۴۰ علامہ قطبی فرماتے ہیں لا یستحب ای لا یخشعی و قیل لا یترک و قیل لا یمتنع مقصده یہ ہو اکسی حقیقت کو

واضح کرنے کے لیے اگر بھکھی، مکٹھی، مچھی یا اس سے بھی حرثہ ترین ہیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض

کے درسے ایسی مثال کو توڑ نہیں فرماتا۔ سلیمان اطیح لوگ تو مثال کے مقید ہونے کی وجہ سے شیلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام

ہے لیکن جن کی فطرت مسخر ہو چکی ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں منکھی اور

پھردوں کا ذکر ہے۔

بِهِ إِلَّا الْفَسِيقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اس سے مگر نافرمانوں کو^{۲۸} وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ

مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ آنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ

باندھنے کے بعد اور کامٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا اور فساد پھاتے رہتے

فِي الْأَرْضِ طُولِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ

ہیں زمین میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا^{۲۹}

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاهُ كُمْ تُمْ حِيَةٌ كُمْ تُمْ حِيَةٌ كُمْ تُمْ حِيَةٌ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

حال انکہ تم مردہ تھے اُس نے تھیں زندہ کیا پھر تھیں مارے گا پھر تھیں زندہ کرے گا یہ جسم کی طرف پہنچائے جاؤ گے^{۳۰}

^{۳۷}۔ الضلال اصلہ الہلاک (قرطبی) ضلال کا اصل معنی ہلاک ہونا ہے اور افسوس عرب شرع میں کہتے ہیں۔ الخروج

من طاعة اللہ عزوجل (القرطبی) اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری سے نکل جانا۔ ان کی نافرمانی کی نوعیت اگلی آیت میں تفصیلاً بیان فرمادی۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، وہ رشتہ اور تعلقات افرادی اور اجتماعی جس کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے اُن کو قطع کرتے رہنا۔ اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا۔ یہ ان کے کرتوں تھے۔ اور جن کے یہ کرتوں ہوں اُن کو ہلاکت و تباہی سے کیونکہ رچا چا جا سکتا ہے۔ عارفِ رومی فرماتے ہیں سے نقض میثاق و شکست توبہ موجب لعنت شود درانتہ^{۳۱}

^{۳۸}۔ از راہ چیرت و تجیب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاتی اور انہی ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی حراثت کیسے کر رہے ہیں۔

^{۳۹}۔ یہاں دو چیزوں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابتدی اور داہمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ موت ہمارا نعمتوں سے بڑی لغت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موقوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے اگر قبر کی زندگی مانی جاتے تو تین زندگیاں اور تین موتیں لازم آتیں گی اور یہ آیت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریحیکو سے قبر کی زندگی مُراد ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے شرعاً یہ ترجیعون۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے جاؤ گے۔ یہاں شعرو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ هَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَتْمَمْ أَسْتَوَى إِلَى

وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تھا رے یہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ۳۷ پھر توجہ فرائی اور پر

السَّمَاءَ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ وَإِذْ

کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اُخیں سات آسمان ۳۷ اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے اور یاد کرو ۳۳

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہو گالیکن اس کے بعد فراہمیں بلکہ دیر کے بعد اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جاتے۔ اگر کہا جاتے کہ شوھیم کھو سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر تم کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اُٹھاتے جاتیں گے تو فرآبار گاہِ الہی میں پہنچیں گے۔ کسی کو طال مطلوب یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔

یہ سب بحث اس وقت ہے جب کہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصہ مقصود ہو حالانکہ علامہ قرطجی اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصہ مقصود نہیں کیونکہ احادیث صحیحہ میں چار پانچ دفعہ تک موت و حیات کا انکار ثابت ہے بہ حال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت کا یہی مذهب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے اور متعدد احادیث صحیحہ جو حدائق تک پہنچی ہوتی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔

۳۷ آئندہ رکوع میں انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفۃ اللہ کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر آرہا ہے اس لیے اس سے پہلے اس کے شرف اور اس کی عظمت کا بیان فرمایا کہ زمین اور اس کے شکم میں نہماں بے پایاں اور بیش قیمت خزینے الہاماتے ہوئے کیست اور رسیلے اور رنجکے چکوں سے لدے ہوئے سربراہیاں، اپنے پھاڑ اور گہرے دریا، رنگ بنگ پرندے اور گواناں گول چوپاتے یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہئے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے۔ اس سے فائدہ اُٹھاتے اور اپنی خدمت لے۔ لیکن جادہ حق سے بھکنے ہوئے انسان کی لپتی کا کیا ہمنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا اٹلوب بنایا بلکہ بعض نے تو انھیں خدا تعالیٰ کے تحنت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاع بنایا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے اہدافی کا تصویر کیا جاسکتا ہے آیت کے اس حصہ نے انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس خود فراموش کو جھنجھوڑا تاکہ وہ اپنے چہرے سے ڈلت و رسوائی کی گرد صاف کرے۔

۳۸ استوی کا صلہ جب الی ہو تو اس کا معنی قصد کرنا، متوجہ ہونا ہوتا ہے یقصد یہ ہے کہ زمین کی تحقیق کے بعد ارادہ خداوندی آسمان کی آفرینش کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اسے ایسے درست فرمایا کہ اس میں کوئی کمی اور بھی باقی نہ رہنے دی۔ ان آیات سے علم تخلیق کائنات (COSMOGEN) کی تفصیلات

قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

جب فرمایا تھا رب نے ۲۴۷ فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب ۲۶۴ کرنے لگے

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ

کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو شاد بر پا کرے گا اس میں اور خونزی بیان کرے گا حالانکہ ہم تم تیری تسبیح کرتے ہیں

اور جزویات کا بیان مقصود نہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ انسان کائنات سماوی و ارضی میں غور کرے اور اس کو نیست ہے ست کرنے والے کی قدرت کا اعتراف کرے اور رب قدیر نے اس کی بقارہ اور آسانیش کے لیے عتنے تکمیل انتظامات کیے ہیں ان سے جائز فائدہ اٹھاتے اور اس کی ان عنایات بے پایاں کا شکریہ ادا کرے۔

۲۴۸ اس روایت میں ایک اور عظیم الشان احسان کا ذکر ہے۔ یہ ہے حضرت انسان کی پیدائش کا ذکر۔ خالق کائنات نے جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اس اہتمام سے کسی دُوسرا مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔

۲۴۹ اس مقام پر رب ہدایات ہے کہ ضمیر کی طرف جس کام رحم ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس اضافت میں جو لطف ہے اس کا صحیح اور اک صرف اہل محبت و عرفان کا خاصہ ہے۔ علامہ الوسی فرماتے ہیں کان.....رمزا الی ان المقبول علیہ بالخطاب لہ الحظۃ الاعظہ فهو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الحقیقة الخلیفة الاعظمو لولاہ ماخلق آدم ولادا (روح المعانی) یعنی حضور کریم کی ذات ہقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے۔ اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوئی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔

۲۵۰ اس کا واحد ملک ہے۔ اس کا تأخذ اشقاق اولوکہ ہے جس کا معنی ہے "پیغام رسانی" کیونکہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اُس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے ماہور ہیں اس لیے انھیں اس نام سے موسوم کیا گیا۔ ملا نکہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں کہ اُن کا احاطہ یہاں آسان نہیں۔ علماء اسلام کے نزدیک اُن کی حقیقت یہ ہے انہا بحشام لطیفة قادرۃ علی التشكیل باشکال مختلفۃ۔ یہ وہ لطیفۃ اور نورانی جنم ہیں جو مختلف شکلیں بدلتے ہیں۔ لا یرَا هُوَ مَا هُوَ علیہ الارباب النفوس القدسیۃ۔ اور اُن کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کا بھیں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہونا بھی یونہی چاہیتے کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی وقت سے نہیں ہوتا۔ بلکہ مختلف وقتیں مختلف پیروں کا شعور و ادراک کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھوٹتے سے ہوتا ہے۔ زبانا اگر سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معدُور ضرور ہے لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملا نکہ ہن کا تعلق عالم رُوح سے ہے اگر ظاہری بواسُ انھیں نہ پاسکیں تو وہ معدُور ہیں۔ اور وہ آنکھ جو عالم رُوح کے اسرار و اطائف کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے۔ جب ریاضت اور مجاہدات

مُحَمَّدٌ كَ وَنَقْدِ سُ لَكَ طَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَمَ

تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے فرمایا ہے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے

سے ترکیہ نفس ہوا اور دل کا آئینہ چکنے لگے جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے درپے رہتے ہیں جنہوں نے ترکیہ نفس کی اہمیت کا بھی احساس نہیں کیا۔ وہ اگر اس نور انی اور طبیعت مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معدہ وہیں یکین اغیث کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی حشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی اس لیے جس لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے۔ اور مختلف دُور از کار اور رکیک تاویلیں کی ہیں ان کا انکار بھی علمی نہیں اور ان کی یہ تاویلیں بھی کسی ستائش کی مستحق نہیں۔

۲۶ یہاں فرشتوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے اور نہ اذن طلب کیا جا رہا ہے بلکہ رب البرئت اپنے ارادہ عالیہ سے نہیں آگاہ فرمایا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ (۱) خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ (۲) انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کراتے۔ اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اُس کی استعداد، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے۔ اور جس کی حکومت و دیست کا یہ عالم ہو وہ اس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا جس کا علم، ارادہ، احکام اور اصراف غیر محدود ہے لیکن انسان جو ابتداء میں ضعیف بھی ہے اور جوں بھی اس میں وہ پایاں ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے۔ اور عقل و فهم کی وہ قوتیں و دلیعت فرمادی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پہاڑ تو انایوں سے جیسے پرده اٹھایا ہے اس کی گرد را کوچی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکے۔ عارف کامل اسماعیل حقی کے الفاظ ملحد خلف فرمائیے۔ ان فی الاہسان صورۃ من عالم الشہادة الحسوة و دو حامن عالم الغیب الملکوی غیر المحسوس و سرا مستعد القبول فیض الانوار الالهیۃ فی التربیۃ یتلقی من عالم الشہادة الی عالم الغیب و بسر المتابعة یتلقی من عالم الملکوی الی عالم الجبروت والعظموت ویشاہد بنور الله المستفاد من سر المتابعة انوار الجمال والجلال انہ لیمن انسان مختلف عناصر مے مرکب ہے۔ اس کی صورت کا تعلق عالم الحسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوی سے ہے صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک پرسائی حاصل کرتا ہے اور رسالہ عاصت کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں ٹھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ هسبحان الله احسن الخالقین۔ انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں کاش اس کی حقیقت پر غور

أَدْمَرَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكِ كَذَّ فَقَالَ أَنْبُوْنِي

سکھادیتے آدم کو تمام اشیاء کے نام کے پھر پیش کیا انھیں فرشتوں کے سامنے اور فرما�ا بتاؤ تو مجھے

بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِّقِينَ ۝ قَالُوا سَبِّحْنَاكَ لَا عِلْمُ لَنَا

نام ان پھیزوں کے اگر تم (پہنچنے اس خیال میں) سچے ہو عرض کرنے لئے ہر عرب سے پاک نوہی ہے کچھ علم نہیں تھیں

إِلَّا مَا عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا دَمْرَ أَنْبِهِمْ

مگر عتنا تو نہیں سکھادیا بلے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے فرمایا آسے آدم ابتدا و انھیں ان

بِاسْمَاءِ هُمْ قَلَّمَا أَنْبَاهُمْ بِاسْمَاءِ هُمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلِ لَكُمْ إِنِّي

پھیزوں کے نام پھر جب آدم نے بتا دیئے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں

أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبَدَّوْنَ وَمَا كُنْتُمْ

خوب جانتا ہوں سب چیزیں ہوتی چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور میں جانتا ہوں جو کچھ علم مقام طاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم

تَكُونُونَ ۝ وَإِذْ قَلَّمَا لِلْمَلِكَةِ اسْبَحْدُ وَالْأَدْمَرَ فَسَجَدُ وَالْأَبْلِيسُ

چھپاتے لختے اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو ۲۸ تو سب نے سجدہ کیا سوار بالیں کے

کریں تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی ٹھپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرا ہے جس کے سامنے آسمان کی رفتگیں سرگوں ہیں اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گمراہیاں ہیں۔

۲۸ حضرت ابن عباس، عکرمہ، قادہ اور ابن جیر رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی تفسیر لویں بیان فرمائی ہے علمہ اسماعیل جمیع الاشیاء کله جیلیها و حقدیروہ (القرطبی) یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھوئی طریقی تمام اشیاء کے سب نام سکھادیتے اور خلافت کے منصب کا تھا ضاہی بھی یہی تھا کہ انھیں ان تمام پھیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا تھا جب آدم علیہ السلام کے علم کی یکیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم و معارف کا کیا کہنا۔

۲۸ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے بخرا کا اعتراف کر لیا تو پورا دکار عالم نے انھیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع الجہة علی الارض پیشانی کا زین پر

اَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ بَيْنَ^{۲۸} وَقُلْنَا يَا دَمْرَ اسْكُنْ اَنْتَ

اس نے انکار کیا اور تکبیر کیا اور (داخل) ہو گیا وہ کفار کے ٹولے) میں اور ہم نے فرمایا اے آدم! رہو تم

وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شَعْطَمَا هُنَّ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ زَمَانَةً

اور تھاری بیوی اس بحثت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو اور مت نزدیک جانا اس

رکھنا۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا الغوی معنی مراد ہے۔ کفر شتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جہوں علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دعویٰ ہیں۔ ایک قویہ کہ پیشانی بھکانے والایم اعقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی بھکارہ ہوں وہ غلبہ تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اُسی وحدۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عالم و مالک ہے ساری کائنات کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں بلکہ انبیاء مکی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ قویہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو عبادت کے لیے نہ ہو تو اس کو سجدہ تحریک کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمادیا۔ اب تعظیم سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یہ عزت و سر فرازی جو آدم علیہ السلام کو تسبیب ہوتی اس کا سبب علم نکوئی یعنی اشیاء اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم ہے وہ امّت جس کی آسمانی کتاب میں آدم کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے اسرار سربراہی سے آگاہ کیا گیا تھا وہ امّت اگر علم سے محروم ہو تو نہیں اور حکمت سے نا آشنا ہو تو یہ اُس کی اپنی بدجنتی ہے۔ اس کے دین نے تو اس کے سمندِ شوق کو ہمہ نکانے میں کوئی اسرار اٹھانی نہیں کھی دیتا میں جتنے مہبی صفات موجود ہیں کسی میں اتنی وضاحت اور اتنے ایتمام سے مقام آدم کی لشانہ ہی نہیں کی گئی ہے۔ اب ہم اپنی شورہ بختی کے علاوہ کس کو ملامت کریں کہ ہماری غالب اکثریت تو اب جد خواں بھی نہیں۔ اور بوجعل سے آشنا ہیں وہ علم کو تین پرواری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن کب طلوع ہو گا جب مومن اپنے مفت امام کو پہچانے گا۔ پھر کب اس آسودہ خواب راحت کو رومی کا سوز اور رازی کا سچ و تاب نصیب ہو گا۔ ہمارے مطالعہ کی میز پر تو تہ دلتہ گرد جبی ہوئی ہے اور ہمارے عشت لکدوں میں نور و نکتہ کا سیلاں امداد اچلا آ رہا ہے۔ ہماری رصدگاہیں اب آن تھک تیز نگاہوں سے محروم ہیں جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھیں۔ ہماری تجربہ گاہیں اب ایسے علماء کو ترس کیتیں جو دنیا کی لذات سے کدارہ کش ہو کر نشرت تحقیق سے کائنات کی ہر پیز کا دل چیز کر تے اور ان میں پوشیدہ اثرات اور قولوں کا کھون لکایا کرتے اور اس سے بھی بڑھ کر قابل یحیت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اٹھاتی

الشَّجَرَةُ فَتَكُونُ أَمِنَ الظَّلَمِينَ ۝ فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا

درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق لافت کرنے والوں سے پھر پھسلا دیا اُنھیں شیطان نے ۲۹ء اس درخت کے باعث انکلادیا

مِنَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا أَهِيَّ طَوَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدْ وَوَلَكُمْ فِي

انِّوْنُوں کو وہاں سے جہماں فتحے اور ہم نے فرمایا اُتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دُشمن رہو گے اور (آب) تھارا

جہار ہی ہے کہ بُنی کو تشریعی علم دیا جاتا ہے تکونی علم سے اُسے کیا سر و کار۔ اور اس طرح اس ذاتِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کے علم کی بیکار و معتوں کو تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوپی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمادے ہمارے حال زار پر اور بخشے ہماری کوتاہ اندیشیوں کو۔ انه هو التواب الرحيم۔

۲۹ء اس مقام پر ساختہ ریخیاں پر پیشان کرنے لگتا ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؛ اس لیے احوال کو ملاحظہ رکھتے ہوئے اس سلسلہ کے متعلق کچھ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ علامہ قطبی نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ انہم موصومون من الصغار كلها لعصمتهم من المكاثر اجمعها۔ یعنی ماں کی حفظی اور شافعی مسلمک کے چھوڑ فقہا۔ کایہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح بکیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آتے گی۔ جس سے ہدایت کا سارا نظام درجہ بیم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جابجا انبیاء کی طرف ایسی چیزیں مفسوب ہیں جو گناہ ہیں اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندانست اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیونکہ متن ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لیے ایک چیز کو جھیشہ ذہن شین رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جاتے۔ اور اگر عزم اور قصد غفوہ ہے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بطاحہ کسی حکم کے خلاف ہے تو اُسے گناہ نہیں کہتے اور ایسے امور کا صد و عصمت انبیاء کے منانی نہیں۔ اب آپ اسی ایک واقعہ پر غور کریں۔ قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسلم کی نزاکت کو ملاحظہ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا ہے۔ فازلہمَا۔ اب آپ زلَّةٍ کی لغوی تحقیق پر غور بیجئے۔ الزَّلَّةُ فِي الْأَصْلِ استرسال الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ؛ بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس تحقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرمادیا ف Kensی دلخواحد لہ عزم۔ یعنی آدم سے یہ حرکت بھول سے ہوتی اس کا عزم والا دہ ہرگز نہ تھا۔ جب تک عزم والا دہ فقوہ ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہے

بُوْدَ آدَمْ دَيْدَهْ لُورِتَدِيمْ مُوْتَهْ دَرَدِيدَهْ بُودَ كُوهْ ظَلِيمْ (رُوْدِمِيْ)

یعنی آدم علیہ السلام تو لور قریب کی آنکھ تھے۔ اور انکھیں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اس کو برداشت نہیں

الارض مُستَقِرٌ وَمَتَاعٌ لِلْجِنِّ فَتَلَقَّى ادْمُونْ رَبِّهِ كَلِمَتِ

زین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک نہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے

فَتَأَبَ عَلَيْهِ طَائِلَةٌ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا أَهِيَّ طَوَامِنَهَا جَمِيعًا

توالہ نے اس کی توبہ قبول کی اگر بے شکر ہی ہے بہت تو قبول کرنے والہ نہیں رحم فرمائے الہم نعکم دیا ارجوا اس جنت سے سبک سبق

کر سکتی بلکہ وہ ہلاکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔

نہ اس آیت میں یہ طیف اشارہ بھی ہے کہ اس دنیا میں تھا راقیام تھیشہ نہیں ہو گا۔ بلکہ یہ تھاری عارضی قیام کا ہے اس فرضت کے لمحوں میں تھیں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش رہنا چاہیئے۔

اہ آدم عليه السلام بھوکے سے یخطا کر تو بیٹھے لیکن بچھڑنے دامت سے روئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا ہادیتے۔ ان کے درد انگلے نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہ و فغاف سے کام تھا۔ ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملجمی رہتے۔ سالہا سال اسی طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہیں۔ آخر ایک روز اسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آگیا اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ وہ کوئی سے کلمات تھے۔ اس کے متعلق میں حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی تفسیر فتح العربی کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خوش نصیب کی طاعتیت قلب کا باعث ہو۔ اور طبری نے بحاجم صغیر میں اور حاکم اور البغیع اور بیحقی نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا تو قبول ہونے میں ہی راجح تھے کہ اتنے میں ان کو باد آیا کہ مجھ کو جس وقت خلائے تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور ذریوح خاص میرے اندر پھونکی ہی اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا اس جگہ لکھا دیکھا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُمَدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قد کری شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں کہا اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ جو اسی شخص کے سووال مغفرت کا کروں پس دعا میں کہا۔ اسئلہ بحق محمد ان غفرت لی (آے مولا میں تجویس سے خلائق کے صدقے کے صدقے) ایجاد کرتا ہوں کہ تو مجھے سمجھن دے، حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وحی سبھی کمیٹھی کو کہاں سے جانا تو نے انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا حکم پہنچا کہ "آے آدم احمد سب بیغروں سے چھلا بیغیرہ بے اولاد تیری میں سے اور اگر وہ نہ ہوتا تجویس کو نہ پیدا کرتا۔" (ص ۱۱۶ ج ۱ تفسیر عزیزی تجویز ادو و مطبوع علمی پولیس دہلی ۲۰۱۹ء)

۱۴۵ توبہ کا الغوی معنی رجوع کرنا ہے اور جب کہا جاتے تاہ العین (کہ بندے نے توبی کی) تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ درجع الی طاعة ربہ۔ کرشی چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن گیا اور اگر تاب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور شرمسار بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کا قصور محفوظ فرمادیا۔

فَامَّا يَا تِبْيَكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى اَيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

پھر انگر آئے تھا کے پاس میری طرف (پیغام) ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی اخیں نہ تو کوئی خوف ہو گا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِلَّهِ أَصْحَابُ

اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جھنوں نے کفر کیا اور جھنڈلایا ہماری آئیوں کو (تو) وہ دوزخی

الثَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَلَئِنِي إِلَرَأْءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَيِ اللَّهِ

ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے اولاد یعقوب ۵۲ یاد کرو میرا وہ احسان بو

۳۴۵ یونچہ اُتر نے کا حکم دوبار ہوا۔ پہلے لغزش کے صادر ہونے کے بعد پھر قبول توبہ کے بعد۔ پہلے حکم سے ناراضگی کا اظہار مقصود تھا۔ اور دوسرا با منصب خلافت سنبھالنے کے لیے۔ دونوں حکموں کی غرض و غایت الگ الگ ہے اس لیے یہاں تک رہنیں۔

۳۴۶ تیسرا رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام دی گئی اور توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے گئے۔ چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش، اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اب یہاں سے مسلسل کئی رکوون ٹک بندی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں یہ مصلحت ہتھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً بجزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ چارہزار سال تک سلسلہ بیوتوں ان میں جاری رہا۔ ہزاروں بنی اان میں پیدا ہوئے۔ جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گرد نواحی میں بستے والے قبائل ان کی علمی برتری سے بہت معروب تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا کر کیا تھی کہ اگر یہود نے (جو اہل علم و کتاب ہیں) اسلام قبول کیا تو وہ بھی قبول کر لیں گے اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلیا تاکہ اُن کے اسلام لانے سے دوسرا لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہوا رہ جاتے۔ اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو اُن کی بہت دھرمی کا پرده چاک ہو جاتے اور دنیا کو پہنچ جاتے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس تفصیل کی ایک حکمت یہ ہی ہو سکتی ہے کہ ملت اسلام میر کو درس عترت دیا جاتے کہ بنی اسرائیل کی داستان عروج و زوال تھا اس سامنے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو عترت و حکومت تھاری خانہ زاد لوٹدی ہو گی۔ اور انگریز کی تھماری بد عملیاں کسی بخت لفڑ کا لباس پہن کر مودار ہوں گی اور تھیں صفحہ ہستی سے حرث غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیں گی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفَ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّمَا

کیا میں نے تم پر ہے اور پورا کرو تم میرے (ساتھ رکیے ہوئے) وعدہ کو میں پورا کروں گا تمہارے (ساتھ رکیے ہوئے) وعدہ کو ۵۶۔

فَارْهَبُونَ۝ وَامْنُوا إِمَّا أُنْزَلَتْ مَصِّرٌ قَالَهَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ

اور صرف مجھی سے ڈرا کرو ۵۷۔ اور ایمان لا تو اس (کتاب) پیچوں ایس کی ہے میں نے یہ تجارت کرنے والی ہے اس کو تمہارے پاس ہے ۵۸۔

كَافِرٌ يٰهُ وَلَا شَتَرٌ وَلَا يَأْتِي ثِنَانًا قَلِيلًا وَلَا يَأْتِي فَآتِقُونِ وَلَا تَلِسُوا

اور بن جاؤ تم سبے پہلے انکار کرنے والے اس کے اور نہ خرد و نعمیری آئیوں کے عوض خودڑی ہی قیمت ۵۹۔ اور صرف مجھی سے ڈرا کرو اور مت ملایکرو۔

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُبُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

حق کو باطل کے ساتھ نہ ۶۰۔ اور مت چھپا وحق کو حالانکہ تم (اسے) جانتے ہو اور صحیح ادا کرو نماز

۶۰۔ حضرت سیدنا ابوابیم (۱۴۰ تا ۱۹۸۵ق.م) کے فرزند حضرت اسحاق جو حضرت سارہ عراقیہ کے بطن سے تھے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہم السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اس کا معنی ہے بعد اللہ۔ اللہ کا بندہ۔

۶۰۔ اس عہد کی تفصیل اسی پارہ کے دسویں بکوع میں (اور دوسرا مقامات پر) مذکور ہے۔ تورات کے الفاظ مجھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سُنے گا۔ (استثناء ۲۶: ۱۷)

۶۰۔ علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بڑی عکاوٹ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انھوں نے اپنے پرانے دین کو بچوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا اور مالی منفعت جواب انھیں اپنے مانشے والوں سے حاصل ہو رہی ہے بند ہو جاتے گی اللہ تعالیٰ انھیں متنبہ فرماتا ہے کہ ایسی بالوں سے ہر انسان مت ہو۔ درنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈروہیں کے قبضہ قدرتیں رزق کے خزانے ہیں اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

۶۰۔ قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہے۔ تمہارے دین کی حقایقت کا عالم بروار ہے تمہارے انبیاء کی شان بلند کرتا ہے تو پھر تم اس سے کیوں بد کتے ہو۔

۶۰۔ اس کا یہ طلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو خودڑے داموں فروخت نہ کرو اور اگر مُنْذَمَاتٍ دام ملیں تو یعنی دو بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر حق کو مت یہ چکیونکہ ساری دُنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلہ میں حقیر ترین معما و مضمہ ہیں۔

وَاتُوا الرِّزْكَوَةَ وَارْكِعْمَعَ الرَّأْكِعِينَ^{۴۷} أَتَا مُرْوُنَ النَّاسَ بِالْبُرُّ وَ

اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یکا تم حکم کرتے ہو (دوسرے) لوگوں کو نیکی کا اور

تَسْوُنَ الْفُسْكَمْ وَانْتَهِ تَسْلُونَ الْكِتَبَ طَافَلَا تَعْقِلُونَ^{۴۸} وَاسْتَعِيْنُوا

جھلادیتے ہو لپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب اللہ یکا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے اور مدد لو

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ^{۴۹} الَّذِينَ

صبر اور نماز سے ٹک اور بے شک نماض رو بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر (بھاری نہیں) بو

۴۷۔ تورات کے صفحات بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و صفات اور علامات کے ذکر سے مرتب نہیں تھے علماء بنی اسرائیل ان کو چھپانے کی کوشش میں لمحے رہتے۔ تاکہ لوگ ان پر مطلع ہو کر حضور پر امیان نہ لے آئیں۔ اور انگریزی کی نظر سے ایسی کوئی آیت گز جاتی تو وہ اس کی ایسی تاویلیں گھر کر اسے بتاتے کہ وہ بے چارہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ انھیں اس نہ مُؤْمِن حركت سے منع فرماتے ہیں۔ لبس کے دو معنے میں ڈھانپ لینا اور خلط مطکر دینا اس سے ہر طرح کی تحریف لفظی ہو یا معنوی سے بازاں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ملتِ اسلامیہ سے تسبیت رکھنے والے علماء کو بھی شامل ہے۔

۴۸۔ علماء یہود لوگوں کو تو یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعلیم کرو لیکن اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سے ذاتی فائدے کے لیے تورات کے صریح احکام کو پس پشت ڈال دیتے۔ تورات کی بیان کردہ علامات حضور میں دیکھ لیئے کے بعد بھی امیان نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دو رُخی پالیسی سے منع فرماتے ہیں۔ یہ زبرد تو زین پر اس شخص کے لیے ہے جو دُسوں کوئی کا حکم دے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو۔ خواہ وہ یہ یہودی کہلاتے یا مسیمان۔ قرآن مجید نے جابجا قول و عمل کے اختلاف سے روکا ہے۔ حضرت النبی سے مردی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسیل نے فرمایا۔ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر پہاڑ کے ہونٹ اگ کی قشیبوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے جریل سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جریل نے بتایا۔ ہو لاع المخطباء من اهل الدنیار دی روایۃ من امتك) یا صرون الناس بالبر و یسون الفسھو و همیتوں الكتاب افلای عقولون۔ (ترجمہ)۔ یہ دنیا کے خطب ہیں۔ (ایک روایت میں ہے آپ کی اُمّت کے خطب ہیں) جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے اور اپنے نفسوں کو جھلاتے رکھتے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے۔ تسون انفسکم کی تعبیر کتنی اثر آفرین ہے یعنی تم ایسا کر کے اپنی بھتری نہیں کر رہے بلکہ تم تو وہ زیان کاراً اور سود فرموش ہو جن کی نظر وہ سے اپنی بھتری او جبل ہو چکی ہے۔

يُظْنُونَ أَنَّهُمْ قَلْقُولَهُمْ وَأَنَّهُمْ لِيَهُ رَجُونٌ^{۱۴} يَبْنَى عَلَى إِسْرَاعِنَّ

یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے ربے اور وہ اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں لیکن اے اولاً و لیکوں بے!

اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ^{۱۵}

یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور (یہ کہ) میں نے فضیلتی بھی تھیں سارے بھانوں الٰوں پر ۴۲

وَاتْقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

اور ڈروں دن سے جب نہ بدل دے سکے گا کوئی شخص کسی کا پچھہ بھی اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے

۴۳ کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاقی بجاویوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے یہ لخت ان کا ان عادتوں سے دست بردار ہو جانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اب انھیں ان سپتیوں سے تخلی آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔

صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ اور اس سے مروارادے کی وہ ضبوطی، عدم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انصباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور یہ وہی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر گاتا رہتا چلا جاتے۔ (تفہیم القرآن) اگر انسان اپنے اندریہ وقت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعہ اپنا راشتہ عبودیت اپنے رب تھقیقی سے حکم کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حنور کریم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل کام آپرata تو فرآنا ماز پڑھنے لگتے۔ نیز رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حاجت ہوں اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے تو اسے چاہیے کہ بڑی اختیاط سے وضو کرے۔ پھر دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر سے اس کے بعد درود شریف کشت سے پڑھے اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّبِّ الْكَبِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيلِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَسْلَكَ رَبِّ الْحَمْدَكَ وَعَزَّا يَعْزَّ مَغْفِرَتَكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرِّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذُنُوبَ الْأَغْرِفَةَ وَلَا هَمَّ إِلَّا فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةَ هُنَّ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ (رواہ الترمذی)

۴۴ علماء رکعت کے زدیک ظن ان الفاظ سے ہے جو مختلف اور متضاد معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی نچھے نکاح بھی ہے اور تین بھی۔ اور اس آیت میں ظن مبنی یقین مستعمل ہوا ہے۔

۴۵ دنیا کی ساری قویں، خاندان اور ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے زدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔

شَفَاَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ^(٤٨) وَإِذْ

سفارش ۵۴ اور نہ لیا جاتے گا اس سے کوئی معاوضہ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اور یاد کرو جب

تَجْيِيدُكُمْ حِنْ أَلِ فَرْعَوْنَ يَسْوِهُمْ وَنَجْمُ وَسُوْءَ الْعَدَابِ يَذْكُرُونَ

نجات بخشی ہم نے تھیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تھیں سخت عذاب (یعنی) ذبح کرتے تھے ۵۵

صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت یہ تین ایسی چیزوں تھیں جو جمیع طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھیں اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت ستم تھی۔ لیکن جب صند اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو مغلکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسلیں کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں تحریف اور بگاڑت شروع کر دیا اور انہی کرام کی توہن اور لے ادبی کو اپنا پیشہ بنالیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا تو ان کرتوں کے باعث ان پر فلت و مسکنت کی لعنت مستط کر دی گئی۔ کویا انہوں نے اپنے بناہوں سے اپنی فضیلت کا لاگھوٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل و اوصاف کی وارث امانت مسلسل تھی اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج اس کے سر پر کھو دیا گیا اور اسے کن تو خیرامہ کا مژده سنادیا گیا۔ اس لیے امانت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۵۵۔ دنیا میں "جمُم" کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی نفعی کر دی کہ قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آتے گا۔ معتزلہ نے اس آیت سے گنگار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا ہے جو غلط ہے۔ علامہ قرطبی رکھتے ہیں۔ اجمع المفسرون علی ان المراء بعدهنَ الْأَلْيَةُ الْفَنَّ الْكَافِرَةُ لَا كَلَّ نفس۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے نہ نفس۔ علامہ بضاوی معتزلہ کا رد کرنے ہوتے رکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے کیونکہ گنگار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات اور احادیث (بوجحد تو اتر کو پہنچی ہوتی ہیں) دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول ہیود کے اس غلط عقیدہ کے بطلان کے لیے ہٹاؤہ سمجھتے تھے ان کے اعمال اور عقاید کیسے ہی ہوں ان کی نجات یقینی ہے۔

۵۶۔ پیغمروں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ البته عام مفسرین کا تھاں یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لاکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا مختصر اکٹ دے گا۔ احتیاطی تداہیر کے طور پر اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لوٹ کا پیدا ہو قتل کر دیا جاتے اور لوٹ کیاں زندہ رہنے والی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لڑنیاں نہیں۔ اس وقت کی توہن پست مصری ذہنیت سے یہ کچھ بعدی بھی نہ تھا۔ لیکن شیخ محمد عبده نے ایک اور درج بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے کی تھی کہ فرعون کو یہ اندریشہ لاحق ہو گیا کہ اگر

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

تحارے بیٹوں کو اور زندہ برسنے دیتے تھے تھا ری عورتوں (بیٹیوں) کو اور اس میں بڑی بھاری آزمائش بھی تھا رے رب کی

عَظِيمٌ^{۴۹} وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلْفَرْعَوْنَ

طرف سے لے آور جب پھاڑ دیا ہم نے تھا رے یہ سمندر کو پھر ہم نے پھایا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو

وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ^{۵۰} وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ

اور تم (کما ہے پر کھڑے) دیکھ لئے تھے ہے آور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر

أَتَخَذُنَّهُمْ عَجْلًا مِّنْ بَعْدِهِ وَأَتَتْهُمْ ظَلَمَوْنَ^{۵۱} ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْهُمْ

بنایا تم نے پھر طے کو (معبود) ان کے بعد اور تم سخت خالم تھے پھر بھی درگز فرمایا ہم نے تم سے

ان کی پیدائش کی رفتار یہی توبنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جاتے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بناء پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدا شکر کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی سسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔

۴۷ مصیبیت اور نعمت دونوں میں آزنائش ہے۔ پہلی میں صبر و شبات کی، دوسرا میں شکر و سپاس کی۔ ذلک کو کامشار ایسے یہ دونوں چیزوں میں قتل اولاد کی مصیبیت اور اس سے بخات کی نعمت۔

۴۸ سالہ ماہان تک نظام برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کے کراقوں رات مصر سے روانہ ہوتے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے شکر جریانیت موسیٰ کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر (بحر قلزم) کے کنارہ پر

پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے شکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آئی تو گھبر گئے۔ تبھے کہ اب بخات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لکائی۔ سمندر کا پانی سست گیا۔ درمیان میں سے راستہ مسدود ارہ ہو گیا۔

جس پر چل کر بنی اسرائیل سخیر و عایت دوسرے کا رے پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیتے جب سب سمندر پر راستے میں اتر چکے تو پھاڑوں کی طرح ہمی ہوئی موجوں میں جہش ہوئی۔ اور پشم زدن میں فرعون اور اس کا شکر

غرق ہو گرہ گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

سمندر نے کیونکر راستہ چھوڑ دیا؟ کیا چیز بھی جس نے سمندر کے پانی سے روانی چھین لی اور اس کی محور قص و خرام

لہوں کے پاؤں میں نہیں ڈال دیں؟ اور جب کلیم کنارے پہنچ گئے تو پھر سمندر را بنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ جب ہماری عقل ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں اور اگر انکا ہی نہیں کہ سکتے

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ^{۴۹} وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اس (علم عظیم) کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ ۴۹ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ^{۵۰} وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُم

اور حق و باطل میں میزگی قوت نے تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو اور یاد کرو جب کہا موسیٰ (علیہ السلام نے) اپنی قوم سے

إِنَّكُمْ حَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ لَا تَخَذُوا كُمُّ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكَمْ

آئے میری قوم اب شک تم نے ظلم ڈھایا پس آپ پر بچھڑے کو (خدا) بناتے پس چاہیتے کہ تو پہ کرو اپنے خالق کے حضور

فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ يَارِبِّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

سو قتل کرو اپنوں کو (جنہوں نے نیڑک کیا) یہ بہتر ہے متحارے یہی متحارے خالق کے نزدیک ۴۹ پھر تعالیٰ نے متحاری توہیر

تو ایسی بھونڈی تاویلیں کرتے ہیں جن سے واقعہ کا سارا احسن بھی خاک میں مل جاتا ہے اور وہ بھی مطہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد لیتیں کر بیٹھتا ہے اور اپنی تحریک کا ہیں علت معمول، سبب اور مسبب کی بوجوئیں قرہ تیار کرتا ہے اس کے علاوہ وہ سبب و علت کے کسی دوسرے سلسلہ کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آزادہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور اس کے تجزیے بھی نامکمل ہیں۔ نیوٹن نے بہت کلے الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراض کیا ہے۔ وہ کتابتے ہی میری مثال اس بچھے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ غولبصورت سنگرینہ یا گھونکاں جاتا ہے لیکن ابھی حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔^{۴۹} (HEROES OF CIVILIZATION) جب علم انسانی کی نار سماں یوں کا یہ عالم ہے تو اسے واقعات جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولوں نے ان کو بیان فرمایا ہے تو ہمارے یہ مسلمانی اور حقیقت شناسی کا راستہ ہے کہ ہم ان کو ملا جوں و حرا تسلیم کر لیں۔

۴۹ جب بندی اسرائیل غلامی کی لعنت سے بخات حاصل کر کے ازاوی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمتِ الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ راس لیے موسیٰ کو طور پر چالینیں روز تک پلہ کشی کا حکم دیا گیا موسیٰ کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ پبل کیا اور اس کے بھکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدۃ الشریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوچھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتکب ہوتے۔ چاہیتے تو یہ تھا کہ تم پر توہیر کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تھیں نہیں تھیں نہیں۔

إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ^{۵۴} وَإِذْ قُلْتُمُ يَمْوَسِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ

قول کریں پے شک فہی بہت تو بے قبول کرنے والے حمیشہ رحم فرانے والا ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا مے موسیٰ اہم ہر گز ایمان نہیں لائیں گے

حَتَّىٰ تَرَىَ اللَّهَ جَهَنَّمَ فَلَا خَزَّنَنَا لِصَعْقَةٍ وَأَنَّتُمْ تَنْظَرُونَ^{۵۵}

تجھے پر جب تک تم نہ دیکھو لیں اللہ کو ظاہر ہے پس (اس گستاخی پر) آیا تم کو بھلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے ہے تھے

ثُمَّ بَعْثَنَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَذَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{۵۶} وَظَلَّلْنَا

پھر ہم نے جلا اٹھایا تھیں تمہارے مرجانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو اور ہم نے سایہ کر دیا

عَلَيْكُمُ الْغَيْمَارَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَىٰ طَلَوَامِنْ

تم پر باول کا ۳۴ کے اور آثارا تم پر من و سلوی ۴۷ کا وہ پاکیزہ

کر دیا جاتا یہکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت گھلار کھا اور تمہاری تو بہ کو شرف قبول بخواہ۔

نے کتاب سے مراد نوات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا اور باطل سر نگوں اور شرم سار ہوا۔

اے موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آئے پرچھترے کے پنجاریوں کو اپنی حافظت کا احساس ہوا تو لگے تو بہ کرنے اللہ تعالیٰ نے تو بہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جھنگوں نے پنجار کہیں کیا وہ پچھترے کے پنجاریوں کو قتل کریں۔ اور شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تعریف کرے۔ کہی لوگوں نے سمجھ قتل کی کہتی ایک تاویلیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ اس قتل سے مراد ریاضات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ زبرہ بہت سکلیں ہے انھیں اس آیت کی تاویل کرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جرم صرف نہیں قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی۔ کیونکہ مصر سے بھارت کے بعد فسطین میں ان کی لونیخی حکومت جس بنیاد پر اتنا توڑ کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا اور توحید کا انکار تھا جو خلیل نعمتوں اور صریح غدر تھا۔ جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظیریات اور طریقہ کاری میں بڑی آزادی نہیں ہو یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو اکھیڑ پھینکئے اور بوجزو ایسا کرے اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تحفہ دار پر لکھنچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی نوعیت تھی۔ اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق انتہ جو انھیں دی گئی۔

لکھے اُن کی ہست دھرمی اور اُن سے عفو و درگزر کا ایک واقعہ فرمایا۔

۳۴ کے بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہدیں یہ صرچے گئے تھے تو عالمہ نانشام پر قبضہ کر لیا۔

طَبِيبَتِ مَارَشَ قَنْكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلِكُنْ كَيْ أَنُوا آنْفُسَهُمْ

چیزوں سے جو ہم نے متعین دے رکھی ہیں اور انھوں نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جاون پر زیادتی کرتے

يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا إِدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرَبَاتِ فَكُلُّهُمْ مِنْهَا حِيشٌ

رہتے تھے ۵۷ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس سبتوں میں ۶۷ کے پھر کھاؤ اس میں جماں سے

جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انھیں حکم ملا کہ عمالقة سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بس رکھیں۔ یعنی انھوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس کی پاداش میں چالیس آن سال تک تیہ کے ریاستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فواز شات ان پر سایر افراد رہیں۔ اس آیت میں ان العمامات کا ذکر ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا۔ پانی کے چشمے بھادتے اور من وسلوی ان کی خوارک کے لیے مہیتا کر دیا۔ اس طرح ان کی زیست اور راحت کے جملہ سامان اس چھلیں میدان اور بے آب و گیاه ریاستان میں فراہم کر دیتے اور انھیں پھر وقوع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھاگ جائیں۔

۶۷ کے علامہ قرطبی تکہتے ہیں کہ اکثر فرسنگی کے نزدیک من سے مراد ترجمہ ہے اور ترجمہ ان ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو اونٹ کٹارے (یا اس قسم کی دوسرا بُونیوں) کے کانٹوں پر شنمکی طرح گر کر جم جاتی ہے اور سلوی بُنیہ کو کہتے ہیں جو دادی سینا کا خاص پرندہ ہے کیونکہ یہ رزق لدنیان کو منت و مشقت کے لیے بُنیہ کی رجاتا ہا اس لیے اسے من (احسان) فرمایا گیا اور بُنیر کے شکاریں ان کے معموم اور افسرہ دلوں کی شکنی اور تازگی کا سامان بھی تھا اس لیے اسے سلوی کے نام سے تعییر کیا گیا۔
۶۷ کے ایک اہم حقیقت کا بیان ہے یعنی احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا چھبھڑاٹ نہیں سکتے بلکہ اپنی دُنیا و آخرت ہی بر باد کرتے ہیں۔

۶۷ کے اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کوں سی تھی اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا۔ باقیل کی تصریح یہ ہے۔ ”اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے اخیر زمانہ میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں جن کے تیجہ میں خدا نے ان پر و بھیجی اور ۴۲ ہزار آدمی ہلاک کر دیئے۔“ (النّٰتی باب ۱۸ آیت ۱-۸) ایک پھر قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رسمی چاہیئے وہ یہ کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف عبرت و موعظت ہوتی ہے اس سے اس واقعہ کی تاریخی حقیقت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا اس لیے قرآن این واقعات کے صرف ان پہلوں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو۔ عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو لمخون نہیں رکھتے وہ تقصیل قرآنی میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے تو وہ طرح طرح کے شکوہ و بشمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

شَعْلُمْ رَغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَمْدًا تَغْفِرُ لَكُمْ

پا ہو اور جتنا چاہو اور داخل ہونا دروازہ سے سر جھکاتے ہوتے ہیں اور کہتے جان بخش دے (یعنی) ہم بخش

خَطِيلَكُمْ وَسَنَرِيْدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَلَ الدِّينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

دین کے مختاری خطا تین اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے

غَيْرُ الدِّينِ قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الدِّينِ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ

جو کہا گیا تھا انھیں تو ہم نے اُنہا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان

السَّمَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ۝ وَإِذَا سَتَسْقَى مُوسَى لِقَوْلِهِ

سے بوجہ اس کے کردہ نافرمانی کرتے تھے اور یاد کرو جب پانی کی دُعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے

فَقَلَنَا أَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ

تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں پھٹان پر تو فوراً بہہ تکھلاس پھٹان سے پارہ

عَيْنًا قُلْ عِلْمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرِبَاهُمْ كُلُوا وَاشْرُبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

پھٹے ہی پہچان لیا ہرگز وہ نے اپنا اپنا گھٹاں کھاؤ اور پیو اللہ کے دیتے ہوتے رِزق سے

وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ

اور نہ پھرہو زمین میں فساد برپا کرتے ہوتے اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ!

کے انھیں ہدایت فرماتی جا رہی ہے کہ جب فاتحہ طور پر شہر میں داخل ہوئے لگیں تو دوسرا فاتحین کی طرح سرکش و مغروف ہو کر داخل نہ ہوں بلکہ دل میں عجز و تواضع اور زبان پر (حکمة) طلب تغفرت کی دعا مانگیں ہوں۔ یہاں سجدہ کا الغوی معنی یعنی تندیل اور انسلاخ مراد ہے۔

کے اس سے یہ تبلان اقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجوہ نہیں آتا بلکہ ان کی اپنی یہاں عالمیوں کا طبعی تیجہ ہوتا ہے۔

کے جب تیہ کے ریاستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاواہی میں پانی کے لیے

نَصِيرٌ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا هَمَّاتِنِيَتْ

ہم صبر نہیں کر سکتے ایک بھی طرح کے کھانے پر سو آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروگرام سے کہ نکالے ہمارے لیے

الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَ قِثَائِهَا وَ فُوْمَهَا وَ عَدَسَهَا وَ بَصَلَهَا

وہ جن کو زین اگاتی ہے (مثلاً) ساگ اور گلٹری اور گیوں اور مسور اور پیاز

قَالَ أَتَسْتَبِدُ لِوْنَ الدِّيْنِ هُوَ أَدْنَىٰ بِالدِّيْنِ هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا

موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ پیغز بوادنی ہے اُس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے (ابحاجا) جا رہو

مَحَرَّرًا فَانَّ لَكُمْ قَاسِمَ الْمُطْهَرَاتِ وَ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْنِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ

کسی شہر میں تھیں مل جائے گا جو تم نے مانگا اور مسلط کر دی گئی اُن پر ذلت اور غربت نہیں

وَ بَاءُ وَ بَغْضَبٌ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاِيمَانِ

اور مستحق ہو گئے غضبِ الہی کے بیہ (سب کچھ) اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آسمیوں کا

عرض کی حکم ہوا فلاں پھر پر اپنے اعضا مارو۔ حضرت موسیٰ نے یونی کیا اور اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور پانی

کی قلت دوڑ ہو گئی وہ چنان اب تک جزیرہ نما تے سینا میں موجود ہے۔ پادری دین اشیندے (DEAN STANLEY)

نے انسیوں صدی کے وسط میں باقیل کے مقاماتِ متفق سے کی جغرافیائی تحقیق کے لیے خوفلشیں کی ساخت کی اور

اپنے مشاہدات و تحقیقات کو (SINAL PALESTINE) کے نام سے شائع کیا۔ اس میں اس چنان کا ذکر کے لکھتے ہیں

یہ چنان دس اور پندرہ ذلت کے درمیان بلند ہے آگے کی طرف ذرا تحریک ہے اور دائیں سفسفہ کے قریب لیجا

کی وسیع وادی میں واقع ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہی نے ہمتی طور پر بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے لیے بارہ چشوں کی

تعداد بیان کی ہے یہ اشارہ اُنھیں شکاؤں کی طرف ہے ۳۷۸ (تفسیر مابعدی)

۳۷۹ ہمارا یہ بُشِر دل میں کھلکھلتا ہے کہ قرآن کرم کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر و تندگستی مسلط کر دی۔ حالانکہ اُن

کاشمار دُنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ اس شہر کو دوڑ کرنے کے لیے جوش انسانی کو پیدا کیے مندرجہ ذیل فقرات ملاحظہ فرمائیے۔

اگر یہود کا تمیل ضربِ المثل کی حد تک شہرت پاچکا ہے لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یا وہ کچھ جس ملک میں

آباد ہیں۔ ہمارا کی آبادی میں اُنھیں کے مغلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے (جلد ۱۰، ص ۱۵۱)

اَللّٰهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحُقْقٰطِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناقہ لئے یہ (سب کچھ) اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور

رَوْدُونَ^{۱۱} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَ

حد سے بڑھ جایا کرتے تھے یقین کرو ۸۳ اسلام کے پیر و کار ہوں یا یہودی ، عیسائی ہوں یا

الصَّابِرِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَمْ

صابی ۸۳ ہے جو کوئی بھی ایمان لاتے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے

عوام یہود دوسرا قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے چند افراد بہت زائد دولت مند ہیں ۔

(جلد اصل ۴۱ تفسیر مجیدی)
۸۴ یہاں پھر اس امر کی وضاحت کر دی کہ بنی اسرائیل پر ذلت و افلas کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہ تھا بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کہ توتوں کی سزا تھی ۔

اس فہتم کے جرائم سے بنی اسرائیل کی تاریخ بھری طبی ہے مثلاً ”تب خدا کی روح ذکر یا پر نازل ہوئی تو سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر رہنے لگا پوچھا تم نے خداوند کو پوچھوڑ دیا۔ تب اخھوں نے اس کے خلاف سائزش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اُس سے سنگسار کر دیا (۲۷، تواریخ ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰)

اسی طرح مرتس کے باب ۴ کی آیات ۷ اتا ۲۹ میں حضرت یوحنان (جیلی علیہ السلام) کے متعلق مذکور ہے کہ جب آپ

نے ہر دوسری بادشاہ کو اس پر ٹوکا کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاں کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا تھے تو بادشاہ نے پسندے اخھیں قید کر دیا۔ بعد میں اپنی داشتہ کی فراش پر آپ کا سر کھانا اور ایک تھال میں رکھ کر اس کی خدمت میں بیٹھ کیا۔

۸۵ اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ سختی کا دار و مدار سب اور قمیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں بدلنا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب ہیوں نہ ہوں جنت ان کی ہے اور ان کے علاوہ جتنی قیمتیں ہیں وہ لکھنی پاک باز کیوں نہ ہوں سب ووزخ کا ایندھن ہیں اللہ تعالیٰ نے

ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صافت الفاظ سے دُور کر دیا۔ اور لطف یہ ہے کہ مخالفین مسلمانوں، یہودیوں، لصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا اور مسلمانوں کا ذکر پسند کر کے اخھیں تدبیہ فرمادی کہ مباوام تم بھی کہیں اپنی قمیت پر نازل ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو۔ سجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔

۸۶ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اُسے صابی کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایک نہیں فرقہ کا نام ہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ۲۴

ان کا اجر ہے ان کے سب کے ہاں اور نہیں کوئی انذیریہ ان کے بیلے اور نہ وہ غمیکیں ہوں گے

وَلَاذْ أَخْذَنَا مِثْقَالَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الظُّرُوفُ خُلُوْقًا مَا اتَيْنَاكُمْ

اور یاد کرو جب ہم نے یہاں سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو (اور حکم دیا) پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا

بِقُوَّةٍ وَّاَذْكُرُوا مَا فِي الْعُلُوكِ تَتَقَوَّنَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

مضبوطی سے اور یاد رکھنا وہ (احکام) جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پر ہمیز گاربین جاؤ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَوْنُتُمْ مِّنَ

کرنے کے بعد تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے لفظان

الْخَسِيرِينَ ۖ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَ وَامْنَكُمْ فِي السَّبَّتِ

اٹھانے والوں میں اور تم خوب جانتے ہو ۸۲ اُنھیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے بہت ۵۵ کے قانون کی

جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اُنھیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذریحہ کو حلال فرماتے تھے

۸۲ یہاں سے ایک ایسے واقعہ کی یاد دہانی کرائی جائی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے

لطف عمل تمر پرقد اور قرپلام، تاکید بالاتے تاکید پر دلالت کرتا ہے یعنی بلاشک و شبیقیناً تم اس واقعہ کو جانتے ہو ۸۳

۸۴ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سنحر کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرمادیا تھا۔ اس روز ان کے لیے یک دنی بڑی کار و بار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔

بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنا نے کے لیے جیلے و فریب سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دریا کے کنارے کڑھے

کھود رکھتے تھے۔ اور پچھوٹ پچھوٹ نایلوں کے ذریعہ اُنھیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ سنحر کو (جب کوچھلیاں شکار کی کام سے نذر ہو)

کر سڑھ آپ پرکشت سے نمودا رہو تیں) ان نایلوں کے دہانے کھوں دیتے اور کوچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گلڑھوں میں چل جاتیں پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور ایتوار کے روز آکر کوچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ بروائش تھیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو حیلوں اور بہانوں سے مغلل و بے اثر کر دیا جاتے۔ اس لیے ان پر وہ عذاب سلط

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قَرَدَةً خَاسِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْبَابَيْنَ

تو ہم نے حکم دیا اُخھیں کہ بن جاؤ بندر پچھلے کارے ہوتے لئے پس ہم نے بنادیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے

يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَقِيْنَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَى

(جو اس زمانہ میں موجود تھے اور جو بعد میں آ رواں تھا اور (اسے) نصیحت بنادیا ہے گاروں کیلئے اور یاد و حب کہا گئے (اعلیٰ اللہ عنہ)

لِّقُوْمِهِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً ۝ قَالُوا أَتَتَخْذِنُ نَّا

اپنی قوم سے کلائد تعالیٰ حکم دیتا ہے تھیں کہ تم ذبح کرو ایک گاتے ۸۷ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق

کیا جس نے ان کو رسوائی و خواری کے ساتھ نہیں دنا بود کر دیا اگر تو سوی شریعت میں اس قسم کے حدیبے برداشت نہیں ہے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت جس کے بعد اور کوئی اسلامی قانون اسلامی اصلاح کے لیے آئے والا نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ تک حکمت اور غیرت کسی شریعت کی تحریف اور حیله سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں بخدا ہرگز نہیں اُوہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اُوہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعہ کا ذکر پر درگاہ نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے۔ داستان سرای قرآن کا مقصود نہیں۔

۸۴ مجاہد کا قول یہ ہے کہ یہ مسیح معنوی بخایعی ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہی رہیں لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخر ہو گیا اور بندروں کی سی قیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ انسانی شکل ہو اور کرتوت بندروں کی طرح ذلیل اپناہ بخدا! کتنا اہلناک ہے یہ عذاب ایکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں۔ اور وہ چند روز کے بعد بلاک کر دتے گئے تھے۔ اور یہ کوئی امر محال نہیں۔ جو بدجنت اس کے تشریعی قانون کو مسلسل توثیق رہے ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنے تشوییقی قانون میں ان کو سزا دینے کے لیے مختوڑی سی تبدیلی کروے تو اس میں کیا استعمال ہے؟ نیز جو علیق آدم کے بارے میں ڈاروں کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لا جائے ہیں ان کے لیے تو سرے سے اس میں اچھے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے۔ ارتقاء مستقیم نہ سی ارتقاء متعکوس سی۔ بہر حال ہے تو ارتقاء ہی۔

۸۵ بھی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا۔ اس کا ایک بڑا کھانا تھا۔ اس بوڑھے کے بختیوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی اُخھیں ملے اور اس کی لاش کو اُخھا کر دوڑشہ کے دروازہ پر چھینک آتے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے اُخھیں ایک گاتے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شہد گاتے کا ایک طوراً مقتول پیارا و۔ دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پرده اٹھتا ہے۔ خاص گاتے کے ذبح کرنے میں ریحکت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مقول

هُزْوًا طَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا دُعْ

۸۸ آتے ہیں ۸۸ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہیں شامل ہو جاؤں جاہلوں رکے گزوہ ہیں ۹۰ ۹۱ بولدعا یکجی

لَنَارَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ طَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ہمارے یہ اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہیں ہے وہ گائے ۹۲ مولیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ

فَأَرْضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ مَبْيَنَ ذَلِكَ طَقَالُوا مَاتُؤُمَرُونَ ۝

بُوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی (بلکہ) دریمانی عمر کی ہو تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے

قَالُوا دُعْ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنَهَا طَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

کہنے لگے دعا کرو ہمارے یہ اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہواں کا مولیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی

بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَإِقْمَمْ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّظَرِينَ ۝ قَالُوا دُعْ لَنَا

گائے بس کی رنگت خوب اگری زرد ہو جو فرجت نہیں دیکھنے والوں کو کہنے لگے پوچھو ہمارے یہ

رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ لَا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا طَوَّلَ إِنْ

اپنے رب سے کہوں کو بیان کرے ہمارے یہ کہ گائے کیسی ہو بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر اور ہم اگر

میصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے دھام لقین مزارج سے کچھ بعدینہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگے ہوں۔ اس لئے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال ہی ان کے دلوں سے مٹا دیا جاتے۔

مسئلہ: وراشت کا لایچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسلام نے یہ حکم دے کر قاتل مقتول کے دراثت سے محروم ہو جاتا ہے قتل کے ایک بڑے محرک کو ختم کر دیا۔

۸۸ وہ آتے تھے قاتل کا پتہ لگا نے اور حکم ملا گائے ذبح کرنے کا کیونکہ دونوں چیزوں میں کوئی منابدت نہیں اس لیے سوال کریا

۸۹ علم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوه ہے اور بنی کامقاوم تو بہت بلند ہے۔ اس سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور کیونکہ ہو سکتا ہے۔

۹۰ کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سارے نہ ملے اس لیے طرح کی محبت بازیاں کرنے اور بمال کی کھال تازی لگے

شَاءَ اللَّهُ لَمْهُتَدُونَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُولٌ وَ

اللہ نے چاہا تو ضور اس کو تلاش کر لیں گے موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے وہ گاٹے جس سے خدمت نہیں کی گئی ہو

تَثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقُى الْحَرَثَ مُسْلِمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا

کہ ہل چلاتے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو یہ عیب ہے داغ (عاجز ہو گو) کہنے لگے

إِنَّ حِدْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَإِذْ

اب آپ لاتے سیخ پتہ پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے اور اباد کو

قَتَلْتُمُ نُفْسًا فَأَذْرَعْتُمْ فِيهَا طَوَّافَةً وَاللَّهُ مُخْرِجٌ هَمَا كُنْتُمْ

جب قتل کر ڈالا تھام نے ایک شخص کو پھر تم ایک دسر سے پقتل کا لازم لکانے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم

تَكْوُنُونَ ۗ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَضْهَا طَكْلِيلَكَ يُحْيِي اللَّهُ

چھپا رہے تھے تو ہم نے فرمایا کہ مار داس مقتول کو گاٹے کے سی طڑکے سے (دیکھا) یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ

الْمَوْتِ وَيُرِيكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ ۗ ثُمَّ قَسَّ قَلْوَبُكُمْ

مُردوں کو اور دکھاتا ہے تمھیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں شاید تم سمجھ جاؤ پھر سخت ہو گئے تھے ایسے دل

۱۹۷ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکو کار آدمی تھا۔ اُس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک

بچھیا تھی۔ جب مر نے لگا تو اس نے دعا کی آئے بارالله اساں نئے بچے کے لیے میں یہ بچھیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرنا ہوں۔ پھر اس بچھیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو

قول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پتی رہی۔ اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گاٹے ہوئے تھی۔ اپنے والک کی آواز سنتے سی وہ گاٹے اس کے پاس آگئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہوئے کے

مخصوص قلبیہ والی گاٹے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف قہری گاٹے میں جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اُسے مُنہہ مانگی قیمت ادا کی اور گاٹے خریدی۔ اس قسم سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو

چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی چیز گزندہ نہیں پہنچا سکتی اور جس چیز کا تعلق بندگان غذا سے ہوتا ہے، اس کی

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِرَّىٰ كَالْجَارَةَ وَأَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ

یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ تو پتھر کی طرح (سخت) ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ۹۲ (کیونکہ) کتنی

الْجَارَةَ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَهْرَوْرَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقَقُ فِي خَرْجِ

پتھر ایسے بھی ہیں جن سختیہ نہ لختی ہیں نہ رہیں اور کتنی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے

مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيلَةِ اللَّهِ وَمَا

پانی نہ لکھنے لگتا ہے اور کتنی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوتِ اللہ سے اور اللہ

اللَّهُ يَغْافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ

بے خبر نہیں ہے ان (کرتوقوں) سے جو تم کرتے ہو (ائے مسلمانوں) کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ (یہ یہودی) ایمان لا لیں گے

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ

تمہارے کہنے سے حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلامِ اللہ کو پھر بدل دیتے تھے اسے

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَذَا القُوَاذِينَ امْنُوا

خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر ۹۳ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے

قدرو قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جاسکتا۔

۹۳ انسان جب سورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات کر دیتا ہے کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں اور اپنے حال کے مقابلے اس کی حد و شناختی کر ترہتے ہیں اور یہ رکھ اپنے رب سے غافل نافرانی کے میدان میں ہوا ہوس کے گھوڑے سر پیٹ دوڑتا چلا جاتا ہے۔

۹۴ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کر سی دلیں برپی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا لے کارہے۔

اس میں علوم ہو اکہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا

قَالُوا أَمْتَأْلِيٌّ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحْدِثُ تِبْيَانَمْ

تو کہتے ہیں تم بھی ایمان لائے ہیں ۹۶ اور جب تہماں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں (اللہ) کیا بیان کرتے ہو ان سے

بِيمَأْفَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عَنْكَرِبَ كَمْ أَفَلَكَ

جو کھولا ہے اللہ نے تم پر یوں تروہ دیل قائم کریں گے تم پر ان باقول سے تھارے بے سامنے کیا تم

تَعْقِلُونَ^(٧٦) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا

اتباہی نہیں سمجھتے کیا وہ (یہ) نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ پچھاتے ہیں اور جو وہ

يُعْلَمُونَ^(٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا آمَانَى

ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ آن پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بخوبی امیدوں کے

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ^(٧٨) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ

اور وہ تو محض دسم و مگان ہی کرتے رہتے ہیں ۹۵ پس ہلاکت ہو ان کے پیسے جو لکھتے ہیں کتاب

یہود کا شیوه تھا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب اور کریم رسولؐ کے کمالات بیان کرتے سے ان کی زبان میں ملکت ہو اور فضائل سُنّت سے دل میں ھٹھن ہو۔ رغبت شانِ مصطفیٰ حبیب خدا علیہ و علی آلہ طیب الطہیۃ و احسن الشمار کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔

۹۶ یہاں سے یہودی مُنَافقوں کے احوال کا بیان ہے۔ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بلیحثیہ ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس رسولؐ پر ایمان لائے ہیں کیونکہ نبی بحق کی جو لشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باقول پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشا کر رہے ہو۔ تھارے انھیں اقوال سے وہ تھارے مذہب کی تردید کریں گے اور قورات کی وہ آیات جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو انھیں آیات سے وہ تم پر محنت قائم کر دیں گے۔ لیحا جو کوہ عندر بکوہ کی تفسیر جس کو علامہ زمخشری اور علامہ بیضاوی نے سیند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عندر بکوہ کا معنی ہے ما فی کتاب بیکوہ یعنی تھارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے اور عندر اللہ کا معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ

فی کتاب اللہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ اس کا یحکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلہ کا یحکم ہے۔

بِأَيْدٍ يُهْمَمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا اِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

خود پسند ہاتھوں سے ۹۶ پھر کستہ ہیں یہ نو شہة اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض

ثُمَّ نَاقَلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدٍ يُهْمَمُ وَوَيْلٌ لَهُمْ

خٹوٹ سے دام سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا اُن کے ہاتھوں نے اور ہلاکت ہوان کے لیے

مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَامًا مَعْدُودَةً

بوجہ اس مال کے جو وہ (لُؤلُؤ) کماتے ہیں اور انھوں نے کہا ہرگز نہ چھوٹے گی ہیں (دوڑخ کی) آن بجز نکتی کے چند دن ۹۷

۹۵ ہمہ ان کے عاملوں کا ذکر ہے۔ اب اُن کے آن پڑھ عوام کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ امامی کا مفرد سے امنیہ جس کا اصل معنی ہے۔ اس کا معنی ہے فرض کرنا یا وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حق دار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے خواہش رکھتا ہو۔ اس خواہش کو عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ بخات کے متعلق ان کے من گھر خیالات اور جھوٹی ارز و دین ہیں۔ قویں اپنے زوال و انحطاط کے درمیں انجیں بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لکھتے رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش تم بھی اپنی حالت پر خود کریں اور احکامِ شراغی سے کھلی بغاوت کے باوجود اپنی بخات کے جو شر سے سپنے ہم دیکھ رہے ہیں ان سے چونکیں۔ الهم اپنے اسلام کی طرح احکامِ الہی کی اطاعت کرتے تو ان کی مادی اور روحانی بخات سے خود بھی بالمال ہوتے اور دوسرا گم کردہ راہ قوموں کے لیے بھی مشتمل راہ ثابت ہوتے۔ ہم دارثان اسلام اور مدعا عیان شریعت کی محرومیوں اور حال زار کو دیکھ کر دوسرا

قویں اسلام کو دو رسی سے سات سلام کر دیتی ہیں۔

۹۶ یہودی عُلَمَاء کی مزید کارست انیاں ملاحظہ ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کوہ ایں بناتے گئے تھے۔ جس کی حفاظت اور اُس پر عمل کرنے کا انھیں حکم دیا گیا تھا انھوں نے صرف اسی پسندیں کی کہ خود عمل ترک کر دیا ہو بلکہ انھوں نے آیاتِ الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیتے۔ اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ رسولوں میں سے بھی کسی سلسلہ الطبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیاتِ الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصاریٰ اب تک تو تحریف کے قابل نہ تھے لیکن اب ان کے محققین نے تسلیم کر لیا ہے کہ اُن کی کتب تحریف و تغیر محفوظ نہیں ہیں۔

۹۷ بنی اسرائیل کہارتے تھے کہ ہم خدا کے لادے اور محبوب ہیں۔ دوڑخ کی آگ ہمیں جلانہیں سکتی جیوش انسائیکلوپیڈیا میں ہے۔ آتش دوڑخ گنگا ران قوم یہود کو چھوٹے گی بھی نہیں۔ اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گاہوں کا اقرار

قُلْ أَنْخَذْتُمْ تُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَكُمْ يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ

آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{٨٠} بَلِّيٌّ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَاتَ

کی یا (یوں) بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں ہاں (ہمارا قانون یہ ہے) جس نے جان کر بڑائی کی

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دو زخمی ہیں وہ

فِيهَا خَلِدُونَ^{٨١} وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو ایمان لائے اور لمحے کام کیے وہی

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^{٨٢} وَإِذْ أَخَذَنَا بِثَاقَ

جنتی ہیں ۹۵ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد کر جب لیا تھا ہم نے سچتہ وعدہ

کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ (جلد ۵ ص ۵۸۳) (ماجدی) بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف چالیس روز عذاب ہو گا۔ یہ وہ مدت ہے جس میں یہود اسرائیل نے بچپنے کی پوچا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصویر بڑا نہ البتہ۔ ایک طرف تو اس کے جبر و قهر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آباؤ اجداد سے سر زد ہوا اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ان کی نسل سے قامت تاک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردار گناہ کی سزا بھکتے گی۔ اور دوسرا طرف اس کے عفو و درگزدگی یہ یقینت کہ کسی شخص سے ٹکلیں گناہ کے بارے میں اس کے اصلی جرم سے بھی باز پس نہیں افراط و تفریط کا یہ ہوش بباچکر ہوش و خرد کے لیے ناقابل حل معہم ہے۔

۸۷ قَرَآن حِكْمَمْ بِهِيَانِ بُجَاتِ وَجْشِشِ كَا اصل الاصول بِيَانِ فِرْمَارِيَاهُبِهِ۔ بُجَاتِ كَادَارِ وَمَارِ كَسِيِّ قَمْ وَنَسْبَ سَهِ وَابْسِتَكِيِّ
پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صلاح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور وطن کی بنیاد پر پہنچتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نامہ غل کتنا سایہ ہو ہر کالی رنگ ولے سے برتر ہے خواہ اس کی سیرت ہمروہ سے تابندہ تر ہو۔ ہر ہمین وہ کتنا جاہل اور کنڈہ ناتراش ہی کیوں نہ ہو افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی بہمن ماں نے جنم نہیں دیا جرمی کی حدود میں پیدا ہونے والا خواہ وہ کتنا غنچوار اور زیاد کار کیوں نہ ہو اپنی بُجَاتِ میں لا جواب ہے۔ یہ

بِنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

بنی اسرائیل سے (اس بات کا) کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے^{۹۹} اور مال بآپ سے اچھا سلوک کرنا

وَذِي الْقُربَى وَالِيَّمِى وَالْمُسَكِّينِ وَقُولُوا لِلَّهِ أَنْسِ حُسْنًا

یتیموں اور مسکینوں سے بھی (مریانی کرنا) اور کہنا لوگوں سے اچھی بائیں

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوِّلِزَكُوَّةَ ثُمَّ تَوَلَّ يَتَمَّمُ الْأَقْلِيلًا مِنْكُمْ

اور صحیح ادا کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے (ثابت قدم ہے)

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ^{۳۳} وَإِذَا خَذَنَا مِيَثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

اور تم روگردانی کرنے والے ہو اور یاد کرو جب یا ہم نے تم سے سچتہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بھاؤ گے

وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَبُوهُمْ وَأَنْتُمْ

اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے (اس عدہ پر ثابت ہے کہ) افراد بھی کیا اور

تَشَهَّدُونَ^{۶۶} ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا قَتْلُوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ

تم خود اس کے گواہ ہو پھر تم وہی ہونا جھنپھوں نے (ید علیے کیے) کہاب قتل کر لیے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو

شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد مبین ادویں کو اگھیر پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مونی اور کافر اصلاح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی۔ اور اس طرح بلا و جبر اترانے والوں سے فخر و مبارکات کے سب جھوٹے اسباب بھیں لیے اور نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستہ میں حائل ہونے والی سب چنانوں کو ریزہ رینہ کر دیا فیکلہ و رسولہ الجھۃ البالغۃ۔

۹۹ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کار بند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انھیں اسی کی یاد ہانی کرانی اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرمادیا شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔

فَرِيقًا مِنْكُمْ مَنْ دِيَارِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعُدُوانَ

اپنے گروہ کو ان کے وطن سے (نیز) مدد دیتے ہو ان کے خلاف (و شمنوں کو) لگانا اور خلم سے

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَقْدِيرُهُمْ وَهُوَ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

اور اگر آئیں متحارکے پاس قیدی بن کر تو بُرے پاباز بن کر اُن کافریہ ادا کرتے ہو حالانکہ حرم کیا گیا تھام پران کا گھول سنے نکالنا

أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَضِ الْكِتَبِ وَتَكْفِرُونَ بِعَضٍ فَإِنَّ جَنَاحَ

تو کیام ایمان لاتے ہو کتاب کے پچھو جھسے پر اور انکار کرتے ہو پچھو جھسہ کاتا (تم خود ہی کو) کیا سزا ہے

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمُ الْأَخْزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

ایسے ناچارکی تم میں سے سوانے اس کے کہ رسوائیہ دُنیا کی زندگی میں اور قیامت

الْقِيمَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں اور اللہ بے غیرہیں ان (کر توں) سے جو تم کرتے ہو۔

وَلِلَّهِ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَى

یہیں دُہ لوگ جنمھوں نے مولے لے لی ہے دُنیا کی زندگی آخرت کے عوض تو نہ ہلکا کیا جاتے گا

تائیش کے رہنے والوں میں مشکل بھی تھے اور یہودی بھی یہ شب کی مشکل آبادی دو قبیلوں اوس اور خمزہ

میں بھی ہوتی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں بین قریظہ اور بنی نصیر پر مشتمل تھی جب اوس و

خمزہ برس رکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نصیر خمزہ کے اور اس طرح یہ یہودی آپس میں

ایک دسرے کا تکل کاٹتے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فرقت کے اسیر ان جنگ کو فدیریہ ادا کر کے آزاد کرنے کا

مرحلہ دریش ہوتا تو اُس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرتے آور اس کی آیات سے فدیر دینے اور فدیر لینے کے عواز

پر استدلال کرتے قرآن حکیم انھیں کہتا ہے کہ تورات تو تھیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلاوطن کرنے سے بھی

روکتی ہے۔ وہ حکم تو تھیں یاد نہ رہا اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تھیں تورات رعمل کرنے کا شوق

پیدا ہو گیا۔ بخلاف یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل نہ لیا اور کتاب کا

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُحِرَّونَ ﴿٨٧﴾ **وَلَقَدْ أَتَنَا مُوسَى الْكِتَابَ**

وَقَيْنَةٌ مِّنْ بَعْدِهِ يَا لِرُسْلِنَ وَاتَّبَعْنَا عِيسَى ابْنَ مُرْيَمَ الْبَيْتَ

وَأَيْدِنَهُ بِرُوحِهِ الْقُدُّسِ أَنْكَلَمَا جَاءَ كَمْ رَسُولٌ وَمَا لِكَفُوْيٍ

۱۷۰ اُنْفُسُكُمْ أَسْتَكِبْرُونَ فَقُرْيَقًا كَلَّ بَدْمَ وَ فَرِيقًا نَقْتُلُونَ

قَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ طَلْعَةٌ لَعْنَمُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

وَلَكُمْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَ

وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گران معلوم ہتا یا جس پر عمل کرنے سے مادی لفظان کا اندر یقینہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔

۱۰۷۔ اس سے مراد جبکل ایں علیہ السلام ہیں بعض فسرنے نے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے جس کی برکت سے حضرت علیہ السلام مُردوں کو زندہ لیا کرتے تھے۔

۳۰۔ یہودی بُرے فخر سے لئے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں۔ اسی کا صحیح بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کے مجرمات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مختاری مسلسل نافراگیوں کے باعث تمہیں رحمتِ الہی سے خرُوم کر دیا گیا ہے

كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الدِّينِ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ

وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر (اس بنی کے دیسلے سے) ۱۰۷ء توجہ تشریف فرمائوا ان

قَاتَعَهُ كَفَرُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ۴۹ **بِعَسْمَةِ اشْتِرَا وَابَهَ**

کے پاس وہ بنی بھوہ جانتے تھے تو انکا کردیا اس کے ماننے سے سوچنا کہ رہا اللہ کی (وہ انتہہ) کفر کرنے والوں پر بہت بُری چیز ہے

أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ آنِ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ

جس کے بعد سوچ کا یا انھوں نے اپنی جانوں کا وہ یہ کفر کرتے ہیں اس (کتاب) کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی حمد ہے کیا رے کر

فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَيَأْتِهِ بِغَصَبٍ عَلَى غَصَبٍ

نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل (وہی) جس پر جاہت ہے پانے بندوں سے سوہہ حق دار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے

وَلِلَّهِ كَفِيرُونَ عَذَابُهُ مُهِمٌ وَإِذَا أُقْتَلُ لَهُمْ أَمْوَالٌ مَنْ وَآتَهُمْ

اور کافروں کے لیے ذلیل و سوکرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر بھے اللہ نے اتا ہے

اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت کدرے روشن ہوں۔

۱۰۸: اے یہود کی ہٹ دھرمی اور دانتہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے جنہوں کو تم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب تک بھی کفار و مشرکین سے ان کی جگہ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری مکانات

ختم ہو جائتے تو اس وقت تورات کو ما منے رکھتے اور وہ مقام کھوں کو جہاں حضور بنی کرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی صفات و

کمالات کا ڈکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے۔ اللہ ہم انہا نسلک بحق نبیک الذی وعدنا

ان بتیعہ فی آخرالزمان ان تتصرون الیوم علی عدو ناقین صرون - (روح المعانی - القرطبی وغیرہ)

اے اللہ تم تجھے تیرے اُس بنی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بیعت کا تو نے تم سے وعدہ کیا ہے آج ہیں

ایسے دشمنوں پر فتح دے تو حضور پر نور کے صدقے اللہ تعالیٰ اخیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا ہم لے تر

جیتے رہے اور جس کی برکت سے فتحیاب ہوتے رہے جب میرا وہ رسول اور محبوب اور مختار انجات دہنہ تشریف فرمائوا تو

اُس پر ایمان لانے سے انکا کردیا تقوٰ ہے ایسے تھب پر احیف ہے ایسی حب جاہ و مال پر!

ھنہ یعنی ان کی سرکشی اور انکا کرسی دلیل پر بنی نہیں تھا۔ صرف یہ حمد اُنھیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام

اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَءَهُ وَهُوَ

تو کہتے ہیں ہم تو (صرف) اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ (دوسرا کتابوں) کے ساتھ

الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ فَلَمْ يَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّٰهِ مِنْ

حال انکہ وہ بھی حق ہے تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے ہے ایش کے یغمبیر کو

قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ۝

اس سے پہلے اگر تم (ایمان کتاب پر ہی) ایمان رکھتے تھے ۴۷ اور بے شک آئے تھے اس پاں موسیٰ روشن دلیں لے کر پھر

اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَلَمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا

تم نے بنا لیا پھر مٹے کو (اپنا مبعود) اس کے بعد اور تم (تعاوی) جفا کار ہو گئے اور یاد کرو جب تم نے یہاں

مِبْشِّرًا كُلَّمْ وَرَفِعْنَا فَوْقَ كُلِّ الْطَّوْرِ خَذْ وَمَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعْنَا

تم سے پچھتا وغذا اور بلند کیا تھا اسے سروں پر کوہ طور (ادھمین حکم دیا) کم پڑ لو جو تم نے تھین یا صفوی سے اور غوثی سے سنو

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَبْنَا قَ وَأَشْرَبْوْا فِي قَلْوَبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

انہوں نے (ذیان سے) کہا ہم نہیں لیا اور (دل میں کہا) نہیں مانسا سیراب ہو چکے تھے ان کے دل پھر مٹے (کے عشق) سے یہ ان کے یہم انکار کی

کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں مُخَاَلِیکِ میکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مریضی ہے جس پر چاہے اپنا
فضل و کرم فرمادے۔

۴۸۔ جب انھیں قرآن پر ایمان لائے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس دھی پر ہی ایمان لائیں گے
جو ہمارے انہیاں پر اترتی۔ اس کے علاوہ کسی دوسری وجہ پر ایمان لائے کی ہمیں ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا
تو اپنے انہیاں پر نازل شدہ وہی پر بھی ایمان نہیں ورنہ وہ اپنے انہیاں کو قتل کرنے کی جرأت کر سکتے؟ ان کا ایسا کرزاں ان کے عدم
ایمان کی واضح دلیل ہے۔

۴۹۔ اے ان کی نافرمانیوں کی طویل فہرست سے چند اتفاقات کی طرف اجمالاً اشارہ کر کے ان کے اس دعویٰ کے بطلان کو
 واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے انہیاں پر صدق دل سے ایمان لا چکے تھے۔

قُلْ يَسْمَا يَا أَمْرُكُمْ بِهِ إِيْسَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ إِنْ

نحوست مخفی فرمایست بہت بڑا ہے جس کا حکم کرتا ہے تھیں (یہ) متحار (عجیب غریب) ایمان اگر تم ایمان ارہوں نے آپ فرمائیں اگر

كَانَتْ لَكُمُ اللَّهُ أَوِ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ

تمہارے یہی دار آخرت (کی راحتیں) اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو پھوڑ کر

فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنُوا هُنَّا بِإِيمَانَهُمْ

تو بخلاف آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو ۹۰۹ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں کہ اپنی کارشنبیوں

أَيْدِيهِمْ وَأَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظَّلَمِينَ ۝ وَلَتَجَدَ نَهْمَمُ أَخْرَصَ النَّاسَ

کے خوف سے اور اللہ نوب جانتا ہے خالموں کو اور آپ یقیناً پائیں گے انھیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس

عَلَى حَيَاةٍ ۗ وَمِنَ الدِّينِ أَشْرَكُوا شَيْوَدَ أَحَدَهُمْ لَوْيَعَرُّ الْفَ

رکھنے والے زندگی کی حقیقت کو شکوں سے بھی زیادہ جیتنے پر حرص ہیں) چانتا ہے ہر ایسا نیں سے کمزور ہئے دیجاتے ہزار

سَنَّتِهِ ۗ وَمَا هُوَ بِمُرَجُزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَعْرِرُ اللَّهُ بِصَدِيرِ

سال اور نہیں پچھا سکتا اس کو عذاب سے (اتفاق مدت) جیتے رہنا اور اللہ در وقت دیکھ رہا

۸۰۸ ام اگر ایسے قبح جرام اور ہر حکم الہی سے گھلی بغاوت کے باوجود تھیں ایمان کا دعویٰ ہے تو عجیب ہے تھا لایہ ایمان جو تھیں بڑا نی پر اساتا ہے اور نیکیوں سے باز رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا دل ہلا دینے والا اندمازِ بیان! دعوتِ حق کا حق ادا کر دیا لیکن جس کے دل مفرده ہو چکے تھے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

۸۰۹ ام جس چیز نے انھیں ان کا حق پر حکم کر دیا تھا وہ اُن کا یہ عقیدہ تھا کہ اُن کی نجات لیقینی ہے اور جنت کو صرف انھیں کی

غاطر اُن کی طرح سجا یا جارہا ہے۔ قرآن تحریم اُن کے اس حباب کو بھی تار تار کرتا ہے اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو ذرا

اپنے مرنے کی دعا تو کرو تاکہ اس دار الحسن سے نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد کام ہو۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور واقعی وہ ایسا نہ کر سکے اُن کے لیے کتنا آسان تھا کمرنے کی اُرزو کر کے قرآن کے اس علان کو جھلدا دیتے لیکن وہ دل کی گمراہیوں میں نوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں اگر انھوں نے تنہا کی تو اُن کی زندگی کا چرخ اسی مح

بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَذَلَهُ عَلَىٰ

ہے جو بکھر دہ کرتے ہیں آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریلؑ کا (اسے معلوم ہونا چاہتے) کہ اس نے اُنمرا قرآن

قَلِيلُكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

آپ کے لیے پراللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں (یہ) تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اُنمیں اللہ اور سارا پیدا ریتا از خوبی

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكِتَمْ وَرَسُولِهِ وَجَبْرِيلَ

ہے ایمان الوں کے لیے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کے سوالوں اور جبریلؑ

وَمِنْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكُفَّارِ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ

و میکائیلؑ کا تو اللہ بھی دشمن ہے (ان) کافروں کا اور یقیناً ہم نے اُنمیں اسے آپ پر روشن

بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ ۝ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدَ وَاعْهَدَ

اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بھرنا فرماؤں کے کیا لایوں نہیں) کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا نشان

نَبَّأَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ

تو پھر توڑ پھینکا اُسے انہیں میں سے ایک گروہ نہ بلکہ ان کی اکثریت تو اسرے سے ایمان ہی نہیں لائی اور جب آیا ان کے پاس

بچھا دیا جاتے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ اکرم وسلم سے مردی ہے کہ اگر یہود اُس وقت مرنے کی تباہ کرتے تو ایک بھی زندہ نہ پچتا۔

اللے یہود کے ایک عالم عبد اللہ بن صوریا نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اکرم وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی ناس افرشتہ وحی کے کو

آپ کے پاس آتا ہے حضور نے فرمایا جبریلؑ ایں۔ ابن صوریا کیسے لکھا کہ وہ تو ہمارا پروانہ دشمن ہے ہمیشہ غصب و عذاب ہی

لے کر ہم پر اُن تارہا ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبریلؑ

اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعییں پر مقرر ہے۔ اگر جبریلؑ سے تھیں دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ

بھی مختاراً دشمن ہے۔

اللہ ان الفاظ سے تنبیہ فرادی کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو وحی لے کر اب جبریلؑ اُتر رہا ہے اس سے تو تورات اور جملہ انہیاً

بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دوڑ کہ اس پر ایمان لاتے ہیں یہ اُلمیٰ کھوپری والے اپنے دوست اور

رَسُولُهُ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَّأَ فَرِيقٌ مِنْ

رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اُس کتاب کی جو آن کے پاس ہے تو پھر انکے پیاس ایک

الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ لَا كِتَبَ اللَّهِ وَرَأَءَاءُ طَهُورٍ هُمْ كَانُوكُمْ

جماعت نے اہل کتاب سے ۱۱۲ اللہ کی کتاب کو اپنی پستوں کے پسچھے بیسے وہ

لَا يَعْلَمُونَ^(١) وَاتَّبَعُوا مَا تَرَوُا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ

پچھو جانتے ہی نہیں اور پیروی کرنے لگے اس کی بوجپڑھا کرتے تھے شیطان ۱۱ سیماں میں کے ۱۲ ہمکومت میں ۱۱۳

وشنمن کو بھی نہیں پہچانتے۔
۱۲ اللہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائی ہوتے اور حضور ﷺ کے اوصاف و مکالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاکِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا میں مشاہدہ کر لیتے تو بجا تے اس کے کامیابی لاتے ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحیات کو ہی پس لپشت ڈال دیا۔ اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حسر، قوم، بہت دھرم، کامہ حمال، ہوا از سے بھلہ دامت کو، کوہ، قوچہ کا، حاسکتی، سے!

۱۳۲۷ء میں اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک تاریک صفحہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عردوں کے نامات میں بہت، محنت اور جالفاشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کر تی ہیں۔ اور اخاطاط کے دو دیں بھی اپنے اسلاف کے حامل کڑے بلند مقامات سے چھٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں چھکیاں لیتی رہتی ہے لیکن ان کی پست ہمیں اور شکستہ خو صدے کسی اشارہ و قربانی کے لیے انھیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ جادو اور منتر کا سہما را لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے زیب سر ہے اور انھیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ یہود کا بھی دور اخاطاط شروع ہوا تو سچی عربت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشان دری تورات نے کی اس پر چلنا تو ان کے لیے دشوار ہو کیا اور اپنے بھجوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انھوں نے جادو وغیرہ کا سہما رالینا شر فرع کر دیا۔ اس آیت میں ان کی اسی بے راہروی کا ذکر ہے تو اس کا معنی پڑھنا ہے۔ اگر تو سے مانوذ ہے تو اس کا معنی پروردی کرنے لگکے اس پیریز (محر) کی حس کا شیطان، حضرت نبی مسیح، برہتان، باندھنا بھی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ یہود پروردی کرنے

۱۲۔ علی بمعنی فی پہلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ اور علی اور فی ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتے رہتے ہیں۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلِكُنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرَ وَأَعْلَمُونَ النَّاسَ

حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ۵۔ الہ بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا سکھایا کرتے تھے ۶۔ الہ لوگوں کو

۱۱۵۔ بہتر ہے کہ آیت کی مزید تشریح سے پہلے سحر کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں :-
وَاصِلُ السُّحْرِ صِرْفُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَكَانَ السَّاحِرُ لِمَارِي الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِيقَةِ
وَخَيْلِ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ فَقَدْ سُحْرَلَشَيْءٍ عَنْ دِجْهَدِهِ أَيْ صِرْفُهُ (تاج)

سحر کا اصلی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدیں گے اس کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت
کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شیئ کی حقیقت کو بدیں گے۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق، اب اس کے اصطلاحی
معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جانے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل
ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرمازدار بن جاتے ہیں۔ اور ان اعمال اور الفاظ کے اثر سے کافیں اور اسکوں پر ایک ایسی
لکھتے طاری ہو جاتی ہے جس سے آدا نہ ہوتی کچھ ہے اور سنا نی کچھ دیتی ہے۔ اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھانی
دینے لگتی ہیں لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھانی ہی نہیں دیتیں بلکہ ان کی حقیقت بھی بدیں
جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؓ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔
”والمشهور عنہ ان الساحری قتل مطلقاً..... ولا يقبل قوله اتوب عنه (روح المعانی)

۱۱۶۔ یہود و نصاری ایک طرف تو حضرت سلیمانؑ کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بخوبیر پر اُن کی فرمادگی کا ذکر برڑے
خڑسے کرتے اور دُوسرا طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر سلیمانؑ نے تو چید کو چھوڑ دیا اور اپنی مشکل بیویوں کے باطن غلوتوں
کی پرستش کرنے لگا چنانچہ باسکل میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور سلیمانؑ بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی
عورتوں سے مجتنب کرنے لگا سلیمانؑ ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کی بیویوں نے
اس کے دل کو پھیر دیا کیونکہ جب سلیمانؑ بڑھا ہو گیا تو اُس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبوذوں کی طرف مائل کر لیا اور
اس کا دل خداوندانے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا اور سلیمانؑ نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند
سلیمانؑ سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا (بابا آیات آتا و سلاطین) نعوذ باللہ
من ذلک سلیمانؑ پر اخنوں نے شرک صریح کا یہ اذیم لکایا اور دُنیا اپ کو یونہی شبحتی ریسی۔ یہاں تک کہ اللہ کا جیب
اور سارے انبیاء و رسول کی عزّت و نامُوس کا نگہبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا اور اپنے رب
کا یہ فرمان دُنیا کو سُنایا و ملک فرسی سلیمان۔ یعنی سلیمانؑ تو جلیل القدر پغمبر تھا اُسے کفر و شرک سے کیا واسطہ اندر گوش
یہود و نصاری نے از را و تعصب اُس وقت بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا لیکن ۷۔ ۸۔ اصدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخر کار

السِّحْرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَأْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

جاؤْهُ نَيْزُوهُ بُهْجِي جُو اُتارا گیا دو فرشتوں پر (شہر) بابل میں (جن کنام) ہاروت اور ماروت تھے حال

وَمَا يَعْلَمُنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا مَنْهُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوهُ

اور (کچھ) نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نبی آزمائش میں (ان پر عمل کر کے) غرفت کرنا

وہی یہم کرنا طریقوں خدا تے بحق نے اپنے نبی بحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کھوایا تھا۔ چنانچہ انسانیکلوپیڈیا برٹانیکا جلد ۲۹۵ ص ۲۹۵ محققین کے قلم کو یہ لکھنا طراً۔ سلیمان خدا نے واحد کے مغلظ پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کمیسی و نیا کے فضل آئے انسانیکلوپیڈیا بدل کیا میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتہ لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں اور بعد میں لوگوں نے لائی ہیں۔ اور حضرت سلیمان نے تہمت شرک سے مبرأ تھے۔ کالم (۲۴۸۹) اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے اور ان تہمتوں اور بہتاںوں سے ان کی براءت کرنے کے لیے آیا ہے جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چپاں کر رکھی تھیں۔ سبحان من لا الہ الا ہو۔

کالہ اس آیت میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ مانا فیہ ہے اور یہ جیلہ عصر صہبہ ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جاؤ و بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا اس لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے اور مقدس ہے یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے دما نزل علی الملکین فرشتوں پر ہرگز کوئی جاؤ و نازل نہیں کیا گیا۔ ہاروت اور ماروت یہلک العرض ہو گا شایطین سے یعنی شیاطین جن کے دوسروں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں وہ جاؤ و سکھایا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ هذل ادلی ما حملت علیہ الایہ من التاویل د اصح ماقبل فیها ولایتافت الی سواہ۔ یعنی آیت کی یہی تاویل کرنا چاہیے۔ یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی قول کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ واقعی اس تاویل سے کتنی شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ما النزل میں ماموٹولہ ہے اور اس کا عطف انتہوں کے تحت ہے یعنی یہودیین میں مرج جاؤ و پر بھی عمل پیرا تھے اور جب بخت نصربیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قدری بننا کر بابل میں لے گیا تو جیسے اس کے کہ اس کفر والحاد کی دُنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے الہادہاں کے لوگوں سے بھی انخبوں نے جاؤ و سیکھا اور اس پر بھی عمل پیرا ہوتے۔ اب یہاں یہ خدا شرپیدا ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت جو مخصوص فرشتے تھے انہیں کوئی کر جاؤ و کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اُتارا گیا۔ تو اس کی جمکت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دُنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جاؤ و کا بہت رواج تھا۔ جاؤ و کے نور سے لوگ طرح طرح کے کوشے دکھاتے جس سے

فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرِئَ وَزَوْجِهِ وَأَهْمُمْ

(اُس کے باوجود) لوگ سمجھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر ۱۸ جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں اور وہ

بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِذِنِ اللّٰهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَصْرِفُهُمْ

ضر نہیں پہنچا سکتے پسند جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے ۱۹ والے اور وہ سمجھتے ہیں وہ چیزوں پر رسال، ان کے لیے

سادہ لوح دنگ رہ جاتے ان کے نزدیک جادو اور محجزہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادو وگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کئے جو لوگوں کو جادو کی اصلاح سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور محجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں اور اگر آنکھوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تھارے آنمازے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر تم نے جادو پر عمل شرف عگر دیا تو خوب سُن لو کہ ایمان رخصت ہو جاتے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔

بعض فسیرین کرام نے لکھا ہے کی علاوہ کام قصدیہ نہیں کہ وہ باقاعدہ سحر کے اصول و قواعد کا درس دیا کرتے اور اس کی جڑیات انہیں از بر کرایا کرتے بلکہ یہاں یُعَلِّمَانَ بمعنی یُعَلِّمَانَ ہے جس کا مصدر اعلام ہے (قرطبی) اس کا معنی ہو جانا۔ آگاہ کرنا یعنی وہ جادو کے مفاسد اور مضرات سے انہیں آگاہ کرتے تاکہ وہ اس سے پرہیز کر سکیں۔

۱۸۔ سحر و جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچاہی پیدا ہوتا کہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جاں میں بچا شیں لیں۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار لگرم رکھتے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کدار کے چہرہ پر جس بد نمایاں کی نشاندہی پر وہ صدیاں پہلے قرآن نے کی اس کو آج وہ غود اپنی شخصیت کے آئندہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں جیوں انسانیکو پیدا کیا کیا یہ عبارت پڑھیے۔ سحر کی سب سے زیادہ عام مثالوں میں اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا۔ خاص کر وہ نقش جو ناجائز اشتراطیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔

(جیوش انسانیکو پیدا یا جلد ۲۵۵ ص ۱۸۷ فسیر بارہجی)

۱۹۔ آیت کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ سحر اور اس پر مرتب ہونے والے اختار کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب و مسبب کا اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذنِ الٰہی ہو۔ اور اگر اذن نہ ہو تو سبب م uphol ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحر ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی غالب ہو۔ اور اگر وہ نہ چاہے تو بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود و عدم کا مدار و مدار ہے۔ سحر بھی الگ اس اذن مرتب ہوتے ہیں تو خود بخود نہیں بلکہ اذنِ الٰہی ملنے کے بعد۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو چہ اس پر اثر

وَلَا يَنْقِعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا إِلَهَنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

اوئلئک نفع پہنچا سختی انھیں اور وہ اپنی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں (رحمت اللہی سے)

خَلَاقٍ وَلَبِئُسٍ مَا شَرَّوْا إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۱۲

کوئی حصہ نہیں اور بہت بڑی ہے وہ چیز بچا ہے انھوں نے جس کے عوض اپنی جانوں (کی فلاج کو) کاش اور وہ کچھ جانتے

وَلَوْأَنْهُمْ أَنْوَا وَاتَّقُوا الْمَتْوَبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْكَانُوا

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز کار بنتے تو راس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا کاش! وہ کچھ

يَعْلَمُونَ ۱۳ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا إِرَاعَنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا**

جانتے اے ایمان والوا زیرے عجیب سے کلام کرتے وقت مت کما کرو "راعنا" ۱۴ بلکہ کو "انظرنا"

مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مدنظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بُری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے ہاں تک یہی مصلحتوں کے باعث ان اشارے سے اُس کی مشیت متعلق ہوئی رہتی ہے۔ اس نے یہ کام نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دیں لیکن اس کے ذم کے بغیر نہ سر کر دتا ہے نہ موت آتی ہے اسی طرح مفتریں بارگاہ اللہی کو اذیت نہیں اور انھیں قبل کرنا اُسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے لیکن اس نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ وہ ایسے جرام سے خوش ہوتا ہے اس اذن مشیت میں وہ مصلحتیں اور اس اڑ ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔ اس سرہنماں کے لئے خ سے ذرا سا پر وہ حضرت خضریؑ سر کا یاد کا لوح حضرت علمیہ نتاب نہ لاسکے۔ ما و شاگرds شماریں ہیں۔

باقی بڑی وہ روایت کہ زبرہ نامی بدکارہ نے ان دونوں فرشتوں ہارڈت و ماروت کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لیا اور اس کے کہنے پر دونوں نے بشراب پی اور بدکارہ کی اور بدکارہ کی اور اب وہ بابل کے کسی کنوئیں میں اونڈھے لٹکے ہوتے ہیں یہ روایت علمی محققین کے نزدیک مردود اور غیر مقبول ہے (رازی) اور صاحب روح البیان بعد حسرت لکھتے ہیں کہ کاش ایسی بیوودہ روایات سے اہل اسلام کی تصنیفات پاک ہوتیں۔

۱۴ راعنا ذہنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی قوی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح سمجھنے سکتے تو عرض کرتے راعنا اے عجیب اللہ اہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے ہماری رعایت فراتے ہوتے دوبارہ سمجھا دیجئے لیکن ہیودی عباری زبان میں

وَاسْمَعُوا طَوْلَكُفَرِيْنَ عَذَابَ الْكِبْرِيْمِ ۚ مَا يَوْدُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ

اور (ان کی بات پہلے ہی) خور سے سُنا کرو ۱۲۱ اور کافروں کے لیے روزگار عذاب ہے، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں

اَهُلُ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ

ایں کتاب سے اور نہ مشک کہ اُنمّاری جائے تم پر کچھ بھلانی تھا لے

رَبُّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ

رب کی طرف سے ۱۲۲ اور اللہ خاص فرمایتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ چھے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل

الْعَظِيْمُ ۚ مَا نَسْخَهُ مِنْ اِيْلٰهٖ اُوتْسَهَا نَأْتٰ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ

(فرمانے) والا ہے جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فرماؤش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں (دوسرا) بہتر اس سے یا

یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا جس میں گستاخی اور بے ادبی پانی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و عظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی منسوخ فرمادیا جس میں گستاخی کا شایرہ تک بھی ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے تصریح کی ہے ذہاد دلیل علی بتجذب الانفاظ المحتملة التي فيها التعریض للتنقیص والغرض (قرطبی)، یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہِ رسالت میں منسوخ ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مذاکر نے تو ایسے شخص کو حدیقت لگانے کا حکم دیا ہے۔

۱۲۳ راعنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے (کہا کرو۔ کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تبیر فرمادی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھُسنا رہا ہو تو ہمہ تن گوش ہو کر منسوخ۔ تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آتے۔ کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو یہ کمال ادب اور انتہائے تنظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلام انصطفیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب جو لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں وہ اپنے انجام پر خود ہی خور کر لیں۔

ادب کا ہمیست زیر آسمان اذرعش نازک تر نفس مگر دھ مے آمد جنید و بازید ایں جا

۱۲۴ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جوان کی وراثت تھی بنی اسماعیل کو کیوں ملی اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ بنی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسیوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا لیا بعد المطلب کے تیم پوتے کا انتخاب آن کی ظاہر بین نکلا ہوں میں ہرگز

مِثْلَهَا طَالَمَ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي تَعْلَمَ أَنَّ

(کم از کم اس جیسی ۱۲۳ کام کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(اللہ تھی کے یہی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور تھارا اللہ کے سوا

مَنْ وَلِيٌ وَلَا نَصِيرٌ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ

(کوئی یار و مددگار نہیں کیا تم (یہ) چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے

كَمَا سَيِّلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفَّارُ إِلَّا مُؤْمِنٌ

(ایسے سوال) جیسے پوچھے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے ۱۲۴ اور جو بدلتا ہے کفر کو ایمان سے

موزوں نے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے جس کو چاہوں سفر از کروں تھا۔ مشورہ کی یہاں ضرورت ہے، مگباش۔

۱۲۳ یہ یود سادہ لوح منشائیوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شہمات پیش کرتے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے کل اسے بدلتا ہے اور ایک دوسرا حکم رعمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں۔ اس شبہ کے رد میں یہ آیت

نازل ہوئی۔ نسخ اصول فقہ کی خاص اصطلاح ہے جس کا معنی ہے "بیان حض لانتهاء الحکوم الاول" یعنی اللہ تعالیٰ نے بحکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا جب اس کا وقت ختم ہو

گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقرونہ میعاد کے ثبوتے کا اعلان کر دیا۔ اس میں کشفیت میں کی قباحت نہیں بلکہ یعنی حکمت ہے کیونکہ عرب بھی آوارہ منش و قم کو تفاؤن و آئین کا پابند کرنے کے لیے جن تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ

نہیں اس لیے اگر چند ابتدائی احکام بمحض وقت مصلحت کے لیے نافذ کیے گئے تھے بعد میں مفسوخ کر دیئے گئے اور ان کی جگہ دوسرا سے احکام جواب اُن کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیئے گئے تو یہ بالکل

درست ہے آیت کا طبقاً "نَاتٍ بِخَيْرِهِنَّا" اسی بات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ آخرین سب تعریفین کا منہ بذرکرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ میں قادر طبق ہوں جو چاہوں کروں تھیں اعتراض کیا تھا ہے؟ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احضر کی تالیف سنت خیر الامر علیہ الصلاوة والسلام میں شیخ کی بحث)

۱۲۴ یہو مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اُسکا تے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سختی سے منع فرمایا۔

فَقُدْ صَلَ سَوَاءَ السَّبِيلٍ ۚ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرْدُونَكُمْ

وہ (شمت کامارا) تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے دل سے چاہتے ہیں بہت اہل کتاب کسی طرح پھر نبادیں تھیں

مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَصْلَحَ حَسَدًا أَمْنٌ عِنْدُ أَنفُسِهِمْ مِنْ

ایمان لانے کے بعد کافر (۱۲۵) (ان کی یہ آرزو) بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُقْقَى فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

(ایسا بچھو) اس کے بعد جبکہ خوب و اصلاح ہو جائے گا ہے ان پر حق پس (ای غلامان صطفیٰ) معاف کرتے رہو اور درگز کرتے رہو

يَا أَمْرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

یہاں تک نیچجے دلے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور صلح ادا کرو نماز اور

اتُّوا الزَّكُوَةَ وَمَا تَقْدِلُ مُوَالِاً لِإِنْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُ وَهُوَ عِنْدَ

دیا کرو زکوٰۃ اور جو بچھو آگے بھجو گے اپنے یہے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا تمثیل اللہ کے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَقَالُوا لَنَ يَلْخُلَ الْجَنَّةَ

ہاں (۱۲۶) میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو بچھو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہو گا جنت میں (کوئی بھی)

کمیرے جدیب یہودیوں کی طرح قیل و قال نہ کیا کہ درمگرا ہو جاؤ گے جن انور کے کرنے کا سمجھم دیا جاتے ان کو کرو جن سے منع کیا جاتے ان سے باز رہو۔ اور جن انور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا ہے انھیں مت چھیڑو اسی میں تحاری سلامتی ہے۔

۱۲۷ یہود ضد اور ہبہ دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو، وہ وقت مسلماوں کو اسلام سے برکشته کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزوں اور شرقوں سے ڈگنر کرتے رہو۔ بات بات پر ان سے انجھنے کی ضرورت نہیں جب مناسب ہو گا ان کا قلع تعم کرنے کا تھیں حکم دے دیا جاتے گا۔

۱۲۸ چھوٹی یا بڑی جو نیکی کرو گے وہ بھلا نہیں دی جاتے گی بلکہ اس کا پورا پورا ثواب تھیں عطا کیا جاتے گا۔

إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ طَلَّكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ

بغير ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی یہاں کی من گھڑت باتیں ہیں آپ انھیں فرمائیے لاؤ بینی کوئی دیں

إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

اگر تم سچے ہو ہاں جس نے بھی مجھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ

فَحْسِنُ فَلَكَ أَجْرٌ ۝ عَذْرَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس ۱۲۴ نہ کوئی خوف ہے انھیں اور نہ ہی وہ

يَحْزَنُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَ

غیبکن ہوں گے اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر اور

قَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ لَا وَهُمْ يَتَّلَوُنَ

کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر ۱۲۵ مالا لانکہ وہ سب پڑھتے ہیں

الْكِتَابُ كَذَلِكَ قَالَ الرَّبُّ إِنَّ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ

(عیسائی) کتاب اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات ۱۲۶ تو (اب)

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَ

اللہ فیصل فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن بالوں میں وہ جھکتے رہتے تھے اور

۱۲۷ یہ سب دعوے باطل ہیں نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح جس نے اپنی ذات

اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بھیجا دیا تو ہی بارگاہ والی میں سرخ روپ ہو گا رومی وزیری عربی و عجمی کی کوئی قید نہیں۔

۱۲۸ بخوبی کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی دھماں پہنچ گئے فرقیہ میں گفتگو شروع ہو کریں اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصاریٰ کا نسب بالکل باطل ہے اور نصاریٰ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صدرا

سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تواتر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

کون زیادہ خالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے نہ کہ ذکر کیا جاتے ان میں اس کے نام رپاک کا

وَسَعِيٌ فِيْ خَرَابِهَا وَأَوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَلْعُبُوهَا

اور کوشش ہو ان کی ویرانی میں اُنھیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں

إِلَّا كَايِفِينَ هَلْهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرِبُوا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دُنیا میں (بھی بڑی) ڈلتی ہے اسلام اور ان کے لیے آخرت میں (بھی) بڑا

عَظِيمٌ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ

عذاب ہے اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اسلام سوجہ ہر بھی تم رُخ کرو وہیں ذات

رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعوے کرنے والے یہود کو یہ تنہیں پہنچا کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی آن گفت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصاریٰ کسی منہ سے موسمے

علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں غرضیکہ راستی کا دام دلوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے دلوں اپنی فندک پاڑتے ہوتے ہیں اسلام بتوں کے سچاری آگ اور ستاروں کے پستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ بھی اپنے سواب کو گرم کر دے را یقین کرتے ہیں۔

سلامیعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے والے اپنے عمل کے آئندی میں اپنا چہرہ دیکھو حقیقت نمایاں ہو جاتے گی۔ رُوم کے علیا تپوں نے اپنے باڈشاہ طبیطس (TITUS) کے ساتھ ہیودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر شکریٰ کی اور بیت المقدس کو

ویران و پر باد کر دیا اور اس کی پیشکوہ عمارت کو ہکنڈ روں میں تبدیل کر دیا بھلا جس کا عمل یہ ہو کیا اُسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے

آپ کو حق کا علم بردار کے کفار مکہ نے ضئور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجدِ حرام میں عبادت کرنے سے مددوں روک کے کھا کر کیا اں مشرکین کو نزیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہوتے کا دعویٰ کریں۔ مقصدیہ ہو اکہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت

کے لیے عمل صاریح کی گواہی نہ ہو وہ تو بوجہ کے قابل نہیں۔ یحکم عام ہے جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانیا کسی قوم کے ساتھ اس کی تضییص کی ضرورت نہیں۔

اسلام دُنیا میں ان کی ذلت و رُسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا۔ یہود جلاوطن کر دیتے گئے اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرجم لہرانے لگا اور آخرت کا عذاب بھی عفرقیب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

اسلام منتشر اور ادب قوم بننے ہیں جب ان میں یکت ہمتی ہو۔ اور یہکہ جنمی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔

اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ۝ وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَا سُبْحَانَهُ۝

خداوندی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت میں الارجوب جانے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کہنا یا یہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا پاک ہے (الس تہمت ۳۴۳)

بَلْ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۝ كُلُّ لَكَ لَهُ قَاتِلُونَ۝ بَدِيعُ

بلکہ اُسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اُسی کے فرمانبردار ہیں موجود ہے ۱۳۷

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۝ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ۝

آسمانوں اور زمین کا اوجب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا صرف اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ

فَيَكُونُ۝ وَقَالَ اللَّهُ يَنِّي لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا وَكَلِمَنَا اللَّهُ أَوْتَأْتَنَا

ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ (خود) اللہ یا کیوں نہیں آتی

اسی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آئت کے لیے ایک خاص قبیلہ قفر فرمادیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال پڑ کر تاکہ یہ میہت کسی اپنی ذاتی حصہت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ اس آئت میں اُن کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جتنیں اور متعدد ہیں سب اللہ کی ہیں مشرق، ہیں مغارب، ہیں جنوب، ہیں شمال سب اس کی پیدائش ہوئی اور اُسی کے زیر یخیں ہیں اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی حصہت کی بناء پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے پورتچھم سے تھیں کیا سر و کار اتم اس کے حکم کے بندے ہے ہونیزا کوئی مشکل قریں۔

سونج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق اُس کے طلوع کی سمت ہے اس یعنی حصہ صحری طور پر اس کے تقدیس کی قابل تھیں اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کے اصم کو بھی پاش پاش کر دیا اور فرمایا یہ ہست انہوں کچھ بھی نہیں! ان کی حقیقت

بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جباری ساری ہے۔

۱۳۴۲ء یہود و حضرت عزری کو عیسائی حضرت علیہم السلام کا ایضاً مانتے اور مشرکین لیقین کرتے (اغویباللہ)

اس آئت میں ان عقائد فاسد کی تردید ہے زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنچتوں میں جو چیز ہے تو زری ہو یا ناری ہا کی ہو یا افلاؤ کی، بے جان ہو یا جاندار، تھیہ ہو یا عزمیز سب پر اس کی ملکوں ہونے کی نہ لگی ہے۔ اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم

کے سامنے سر افگنید ہے۔

۱۳۴۲ء نیست سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو نہ نمودنہ اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگوں کا (مثلاً اور یہ سماجی وغیرہ) جو کہتے ہیں کہ روح بھی تکشیہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کار گیر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو

إِيَّاهُ طَكْذِلَكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهُتْ

ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح کمی تھی ان لوگوں نے جوان سے پہلے (گزارے) بخت ان کی سی رجیہ روپیا بات ہے ملتے جلتے ہیں

قُلُّهُمْ قُلْ بَيْتُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

ان سب کے دل بے شک تم نے صاف صاف بیان کروی ہیں (ایپنی نشانیاں اس قوم کے یہ عوالمیں لکھتے ہیں) بے شک تم نے بھیجا ہے ۱۳۷

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا سُئَلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝ وَلَكِنْ

آپ کو آج چینت (حق کے ساتھ رحمت کی) خوشخبری دینے والا (غائب) طریقہ الائوا پس بارپس نہیں ہو گی ان ورزشیوں کے متعلق اور ہر کوئی خوش

تَرْضِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ طَقْلَ

نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی ۱۳۸ تک کہ آپ پیریوی کرنے لگیں ان کے دین کی آپ (انھیں)

إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَكُنَّ اتَّبَعَتْ آهُوَاءَهُمْ بَعْدَ

کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ سی سیدھا راستہ ہے اور آگر (فرض محال) آپ پیریوی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد مجھی

ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگارنگ چیزیں نہ دار ہو گئیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہیں بلکہ بدیع ہے۔ اُس نے آسان اور زیین کو حض اپنے ارادہ سے بغیر کسی سابق مادہ کے پیدا فرمایا۔

۱۳۹ یہاں سے حضور کویم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہی مقصود ہے کہ اگر یہ کافروں و مساجد اور وارض دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی ترقی بات نہیں جس سے آپ دلکھی ہوں بلکہ یہ تو محشیہ سے ایسا ہی کرتے چلے آتے ہیں۔

۱۴۰ اس آیت کے پہلے حصہ میں ان نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انھیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہ تھی اس لیے اس کا توجہ بہت دیا۔ دوسرا بات کے متعلق فرمایا کہ تم تصرف ایک نشانی کا مطلب کر رہے ہو اور ہم نے تمھیں بے شمار فیصلہ کوں نشانات دکھاتے ہیں اور پھر ہمیں تم باطل پڑاٹے ہوئے ہو۔ ان تکھی نشانیوں کے بعد تمھیں اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لا سکے۔

۱۴۱ ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور بامثال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے انھیں کوئی آور مسخرہ یا دلیل کیونکر را ہدایت دکھانی سکتی ہے۔

الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ

جو آپ کے پاس آچکا ہے (تو پھر) نہیں ہو گا آپ کے لیے اللہ (کی گرفت) سے بچائے والا کوئی یار اور کوئی دشمن نہیں ۱۳۹

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَتَلَوُنَهَا حَتَّىٰ تَلَاوَتْهُ إِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ

جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں اس کے

بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ يَبْيَنِي إِنْ رَأَيْتُ

ساختہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھاتے والے ہیں اے بنی اسرائیل!

إِذْكُرْ وَإِنْعَمَّتِي الرَّقِّيْقَيْتِ عَلَيْكُمْ وَآتَيْتُكُمْ عَلَيْ

یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی اور (خصوصاً یہ کہ) میں نے تم کو فضیلت می (اس زمانہ کے)

الْعَلَمَيْنَ وَالْقُوَّايْمَالا تَبْخِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقِيلُ

سب لوگوں پر نہ ۱۴۰ اور ڈرو اس ۱۴۱ دن سے کہ نہ پکڑا جاتے گا کوئی آدمی کسی کے عوض اور نہ قبول کیا جائے گا

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذَا بُتَّلَى

اس سے مالی تاویں اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ ہی ان کی امداد کی جاتے گی اور یاد کرو جب ۱۴۲ آنے لیا

۱۴۳ ان یہ بوجہ نجات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائیں کمرہ ہے ہیں اس سے اُن کا مقصد قبول ایمان نہیں۔ یہ

توصیر جست بازیاں ہیں۔ وہ توصیر اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں جو ناممکن ہے۔

۱۴۴ یہ خطاب امانت تھی کہ جب تم نے جان لیا کہ سید اہلبیار صلی اللہ علیہ وسلم و مسلم تھارے پاس حق و برائیت لاتے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اشتباہ نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو متعین کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ (خرائن العرفان)

۱۴۵ اے بنی اسرائیل کی فضیلت کی وجہ پر مفضل سجت گزرا چکی ہے۔ ملاحظہ پو صفحہ ۱۴۶ حاشیہ

۱۴۶ اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ملاحظہ پو صفحہ ۱۴۷ حاشیہ

۱۴۷ یہ آنکش اس لیے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیمؑ کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ وہ تو علیم و تجیر ہے۔ بلکہ اپنے مقبول بندے کے جذبہ صدق و اخلاص سے لوگوں کو آکاہ کرنا مطلوب تھا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ بے شربوگ کمیں یہ نہ

إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَهُنَّ طَّافِلًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

ابراهیم کو ۱۲۷۳ء میں کے بنتے چند باتوں سے تو انھیں اپنے طور پر جالا یا شک میں بنانے والے ہوں تھیں تماں انسانوں

قَالَ وَمَنْ ذَرَّتِي طَّافِلًا عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ وَلَذُ

کا پیشوا ۱۲۵۴ء عرض کی ہیری اور لادسے بھی؟ ۱۲۷۴ء فرمایا نہیں پہنچتا اور یاد کرو

کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہو رہا ہے یونہی ہو رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ بلکہ انھیں علم ہو جاتے کہ وہ اس طبق تھیں کے ہر طرح مستحق ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ ہر بُو اہوس ان مقاماتِ رفیعہ کی طرف للچانی ہوتی نظرؤں سے نہ دیکھے بلکہ اسے معلوم ہو کہ آزمائش و ابتلاء کا آتشین سمندر نوجوان ہے اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔

۱۲۶۰ء ابوالأنبیاء حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلوٰۃ والسلام کے اسم گرامی سے عرب کا بچپنچہ واقف تھا اس لیے قرآن حکیم نے پہلی دفعہ ہی کسی تمہید و تعارف کے بغیر ان کا ذکر فرمایا۔ تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہیم دونوں طرح آیا ہے۔ جدید ترین اثری تحقیقات کے مطابق آپ کا سال پیدائش ۱۲۱۴ق م ہے۔ تورات میں عمر شریعت ۱۵۷۴ء اسال درج ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوتی اُس کا نام تورات میں ”اور“ (OR) ہے۔ مذوق یہ شرنشیس سے غائب رہا۔ اب اُس نو مودود اہو گیا ہے۔ کھدائی کے کام کی داعی بیل ۱۲۹۸ء عرب میں ہی پڑھتی تھی۔ ۱۹۷۲ء میں برطانیہ اور امریکیہ کے ماہرین اثیریات کی ایک مشترک تحقیقاتی مصمم عراق کو روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پورے سیات سال تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نو مودود اہو گیا۔ موجودہ محرف بالیل میں تاریخی غلطیوں کی کثرت سے مکث کر بعض محققین نے انہیسوں صدی کے آخریں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم نامی کوئی تاریخی شخصیت گزی ہی نہیں۔ بلکہ یہ محض ایک نوعی نام تھا۔ یا ہر قبیلہ کے شیخ کا لقب تھا یعنی اب پھر تینیں کافر خ بدلا اور بیسوں صدی کے آغاز میں ہی پھر (پورپ) کو اپ کی تاریخی شخصیت کا پوری طرح قائل ہونا پڑا۔

(ماخذ از تفسیر باجدی)

۱۲۷۲ء وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کیا تھے؟ ذبح ایمیل، آتش نمروڈ اور عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے نئے نئے کو حکم الہی کے طابق چھوڑ آنا اور ان کے علاوہ تمام احکام شرعاً پر کار بند ہونا ہے جس میں ناخنوں کے تراشنے، دانتوں کو مسواؤ سے صاف کرنے سے لے کر حج و زکوٰۃ کے جملہ مناسک داخل ہیں۔

۱۲۷۵ء امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے یعنی تمام انبیاء اور اُن کی اُمیتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی۔ یہاں تک کہ سید انبیاء علیہ الصلوٰۃ والنشاء کو بھی حکم ملا۔ اتبع ملة ابراہیم و حینفا۔

جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلّٰتِي اسْ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مَقَامَهُ

جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مکرہ^{۲۷۴} لے لوگوں کے پیسے اور امن کی جگہ اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے

إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ طَ وَعَمِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا

ہونے کی جگہ کو جاتے نماز^{۲۷۵} اور ہم نے تائید کر دی۔ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستمہ رکھنا میرا گھر^{۲۷۶} کے

بَيْتِي لِلطَّاهِرِينَ وَالْعَكَفِينَ وَالرَّوْكَعَ السُّجُودَ ^{۲۷۷} وَادْقَالَ

طوف کرنے والوں، اعتماد کاف یعنی نہ والوں اور رکوع و سبحانہ کرنے والوں کے پیسے اور یاد کرو جب عرض

^{۲۷۴} اپنی اولاد کے پیسے حضرت ابراہیم کا دعا کرنا ایک طبعی بجزیز بھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیدا و مارہ ظالموں کے لیے نہیں۔ ہاں جو نیک اور اطاعت گزار ہوں گے اُن میں سے بعض کو شرفِ نبوت سے سرفراز کیا جاتے گا لیکن ظالم اور بد کار اس نعمت کے حقدار نہیں۔ اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام کی محنت پر استدلال کیا ہے نیز صدرِ مملکت میں جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان کے متعلق علم اسلام نے تصریح کی ہے ”ان الامام بیکون اهل العدل والاحسان والفضل مع القوۃ على القیام بذلک و هو الذی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عو الامرا هله و اما اهل الفسوق والجحود فليسوا له باہل“ (قطیعی) یعنی امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیر گز ہوں سے داغدار نہ ہو احسان وفضل کی صفات سے متصف ہو۔ اس کے ساتھ اس میں حکومت کی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی قوت بھی ہو۔ ان غوریوں والے خلیفہ (یا صدرِ مملکت) کے متعلق ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے مت بھگتو یا لیکن جو فاسق و فاجر ہوں وہ خلافت و صدارت کے اہل نہیں۔

^{۲۷۵} اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہزار ہا افلاطیلوں کے باوجود جس طرح پُرزا ہو رہا ہے دوست دشمن سب اس کا مشاہدہ کرتے چلے آتے ہیں اور تلقیامت مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے۔

^{۲۷۶} وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے اس کو مقامِ ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی بردا اور ان سبقتن لرکھے والی ہر چیز بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہاں تک کہ وہ بے جان ہتھ پر چھڑھڑست خدمیں کے باقی سے پچھوچنے کا شرف حصل ہتا وہ قدرت کی نیجگاہ میں اتنا عزیز اور ذلیشان ہے کہ امانت صطفوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی جائے مانزینا ہیں۔ ^{۲۷۷} اب کبھی کبھی آبادی اور رونق افرادی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے حکم ہے اے ابراہیم اے اسماعیل اے ابراہیم اس سے ہر کو وکی سے اسے پاک صاف رکھو۔ اس کا فرش غبار سے، اس کی دیواریں بد نما و جبوں سے اور اس کی چھتیں مکڑی کے جا لوں سے نہ اٹی رہیں بلکہ اچلا فرش، شفاف آئندہ وار دیواریں اور پاک و صاف چھتیں ہوں۔ تاکہ عبادت کرنے والوں کو دفعیعی ضیب ہو اور وہ اطمینان سے اپنے رب کی یاد کرتے رہیں جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے تو کفر و شرک کی غالاطت و غنونت سے اسے

إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمْنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَّتِ

کی ابراہیم نے اے رب ابنا دے اس شہر کو نہ امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے چھپوں سے

مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْنَاهُ

(یعنی) جوان میں سے ایمان لاتے اللہ پر اور روزی قامت پر اللہ نے فرمایا انہیں جس نے کفر بھی کیا اسے بھی

قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

فادہ اُنھیں نہ دلوں کا چند روز پھر مجبور کروں گا اسے دونخ کے عذاب کی طرف اور یہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے اور

إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ طَرَبَّاتَ تَقْبِيلٍ

یاد کرو جب اٹھا بھیتے تھے ابراہیم (علیہ السلام) بنیادیں اہل خانہ کعبہ کی اور اسماعیل (علیہ السلام) بھی۔ اسجاہے پر ردا گار قبول فرمایا

مِنَّا إِذْكَرْ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ

ہم سے (یغیل) بے شکر تھی سب کچھ سننے والا سب کچھ جائز دالا ہے اے ہمارے رب ابنا دے ہم کو فرمائیں بردار اپنا

وَمَنْ ذَرَّيْتَنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صَوَّرَنَا مَنْ اسْكَنَنَا وَتُبَّ

اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا ہوتیری فرمائیں ہو اور بتائیں ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ

پاک رکھنا کتنا اہم ہو گا۔ اسی دلیل سے ہر مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔

۱۵۔ حضرت خلیلؑ نے عرض کی۔ اے ربِ کریم اس شہر کو امن کا گھوارہ بنادے اور اس کے ایماندار شہروں کو تازہ پھل کھانے کے لیے عطا فرمائے۔ اس سے بیرونی قبائل فرمائیں۔ امامت کے سلسلیہ میں چونکہ یہ بدایت کی کسی بھی کوئی صرف فرمایا جائے تو اس کا حجہ ہے اس سے بیرونی قبائل نے حضرت خلیلؑ نے رزق طیب کا سوال کیا تو صرف اہل ایمان کے لیے میکن پر ردا گار عالم نے فرمایا کہ رزق تو مون اور کافر سب کو دلوں گائیں کفار چند روزہ زندگی گزارائے کے بعد اپنے کفر و سرکشی کی سزا بھکتنے کے لیے وزرخ میں پھینک دیتے جائیں گے۔

۱۶۔ اے خود کعبہ کی دیواریں چھپ رہے ہیں۔ بلند اقبال فرنڈ پھرا اور گارا اٹھا اٹھا کر لارہا ہے۔ یہ سیم رحمت کے جھونکوں سے دلوں کے غصے شکفتہ ہو رہے ہیں۔ کیف و سرور کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ اس وقت اللہ کے یہ دلوں مقبول بندے

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ رَبُّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ

فراہم پر ایسی رحمت سے بے شک قسمی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ حرم فرزادِ الائمه آئے تھے رب ۱۵۷ ملے بھج ان میں ایک نہ زندہ۔

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ

رسویں اخین میں سے تاکہ پڑھ کر شناختے ہالے اخین تیری آئتیں اور سکھاتے اخین یہ کتاب اور دانانی کی باتیں

اپنے ربِ کریم سے مانگ رہے ہیں اور وہ دیتے چلا جا رہا ہے۔ دامنِ طلب پھیلنا تو آہے اور دستِ کرم مصروف بُجُود و عطا ہے۔ اپنے لیے اور پنی اولاد کے لیے اتنا ہی مانگا کہ لذتِ نیاز اور ملے۔ لطفِ عبادت میں اور اضانہ میں مسلمین لک اور امتِ مسلمة لک کہم کرو گو باس کوچھ سی تو مانگ لیا۔

۱۵۸ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسولؐ کی بعثت کے لیے اتحاد کی جا رہی ہے جس کا دامن رحمت اتنا کشادہ اور خوان کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اُس سے فائدہ اٹھاسکے لاب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا مصدق اکون ہے۔ قرآن کے افاظ پر غور کرنے سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ وابعث فیهموا در رسول امّنه روپغور فرمائی۔ هُنْدُر کامر مزح یا امّۃ مسلمة ہے یا ذریتنا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو کسی تاویل سے بھی هُنْدُر کامر مزح بنایا جا سکتا ہو۔ ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو آپ مزح بنائیے تو پہلی صورت میں معنی یہ ہو گا کہ امّۃ مسلمة میں سے جو ہماری (ابراہیمؑ و مسلمؑ) کیونکہ یہی دونوں دعا کرنے والے ہیں تغیر اور کوئی نہیں، اولاد میں سے ہو۔ رسول مبسوط فرم۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہو گا کہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول مبسوط فرمادونوں گورتوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا دھی مصدق ہے جو ابراہیمؑ اور اسماعیل علیہما السلام دونوں کی نسل سے ہو۔ اور جو حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے توہین مکین اسماعیلؑ کی نسل سے نہیں (نشاۃ اولاد اسحاق علیہ السلام) وہ اس دعا کا مصدق نہیں بن سکتے۔ اور لطفت ایزدی ملا حظہ ہو کہ ان دو حضرات کی نسل سے حضور کرم مُحَمَّد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول مبسوط نہیں ہوا بلکہ کسی کو جھوٹا دعویٰ بوت کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تاکہ یہ حقیقت برہنگار شہد سے بالاتر ہے کہ وہ ذائقِ صطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والشَّفَاء ناخنی جس کے لیے خلیلؑ و ذیعؑ دعا یں کرتے رہے۔ رسول امفوڑ اور نکره منون استعمال ہو جائیں سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہو گا بھی ایک اور ہو گا بے مثال صاحب شان عظیم۔ الحمد لله الذي جعلنا من امته حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ انا دعوة ابی ابراہیمؑ میں اپنے باب ابراہیمؑ کی دعا ہوں۔

سلاہ اہ اس رسولؐ کے تین فراپنگ گنوں تے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا تے۔ دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سلکھا تے۔ تیسرا یہ کہ اینے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو حلا دے اور روشن کرے تاکہ تعلق و معارف

وَيُرِكُّهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(١٤) وَمَنْ يُرْغَبُ عَنِ الْفِلَةِ

اور پاک صفات کر دے ایخیں۔ بے شک تو ہی بہت زبردست (اور حکمت اللہ ہے اور کون روگوانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے ۱۵۸)

إِبْرَاهِيمَ الْأَمَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ طَوْلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا

بمحاسن کے جس نے احمد بنادیا ہو اپنے آپ کو اور بے شک ہم نے چون لیا ابراہیم کو دنیا میں

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلِحِينَ^(١٥) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَا

اور بلاشبہ وہ قیامت کے دن نیکو کاروں میں ہوں گے اور یاد کرو جب فرمایا اس کو مس کے بے ھلہ (ابراہیم)

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمَيْنَ^(١٦) وَوَضَى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيَهُ

گردن جو ہکا دو عرض کی بیان گزند جو ہکا دی سارے جانوں کے پروگار کے سامنے ۱۵۶ اور وصیت کی اسی میں کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو

ان میں جلوہ نہ ہو سکیں۔

حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے سمجھنے سے ایک بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جاتے گا۔ حکمت کہتے ہیں وضع کاشنا علی مواضعہ۔ ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر کھانا۔ یہاں احکمۃ کا لفظ جو مذکور ہے اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جانتے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے قرآن نازل کرنے والے فدائماً مشتاً ہے۔ اور بھی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھاتے تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سُنْتَ نبوی کہا جاتا ہے۔ دوسری متعدد آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ حکمت قرآن یعنی اس کا بیان نبی کا ذاتی اجتناد نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ اشادہ دانزل اللہ علیک الکتاب والحكمة توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آئے نبی کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہی قرآن کی اطاعت فرض ہے اُسی طرح صاحب قرآن کی سُنْت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کازال بھی ہو گیا جو سُنْت کو شی کر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی راستے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری یقین نہیں کرتے (حکمت اور سُنْت پر فضل بخش احقر کی تالیف بنت خیر الامم میں ملاحظہ فرمائیں) ۱۵۷

ام ملت سے مراد دین اور شریعت ہے کیونکہ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے اس لیے ہر سیدم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں جن کی طبیعتیں مسخر ہو چکی ہوں اور سمجھ بطور چی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔

۱۵۸ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا یعنی اپنی راحت اور تخلیف، اپنے نفع اور لفظان، اپنی

وَيَعْقُوبَ يَدِنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَتَوَقَّ

أَوْ يَعْقُوبَ ۖ هَذِهِ نَسْرَتِي بِشَكِ اللَّهِ نَسْرَتِي سَنَدِي مَيَايَهِ تَحْتَارَهُ يَلِي يَهِي دِينَ سَوْمَتِي هَرَگَزَ نَهْ مَرْنَا

إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ۝ أَمْ كُنْتُمْ شَهِدَ آءَ رَدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

مَگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو بھلا کیا تم (اس وقت) موجود تھے جب آپ پنجی یعقوب کو

الْمَوْتُ لَا ذَقَالَ لِبَنِيِّكُمْ مَا تَعْبُدُ وَنَّ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعَّبُدُ

موت جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے (انتقال کر جانے کے) بعد انہوں نے عرض کیا

إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا

عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراهیم و اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی بھروسائے وحدۃ لاشریک

وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا

ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے یہ ایک جماعت بھتی جو گور چکی انھیں فائدہ دے گا جو

راتے یا غواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و جھٹ کے اپنے رب کرم کے احکام کی تعمیل برکت سترہ ہو جائے یہیں اسلام کا حقیقتی فہرست

۱۵۴ یعنی وعده حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے رب سے کیا اور دینیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عمد کو بنجایا ان کی نندگی مشکل سے مکمل امتحان آتے لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور شریم و رضا کا ثبوت دیا اس نے فرشتوں کو محی تشوییحیت بنادیا جب مخفیت میں رکھ کر نمود کی بھڑکاتی ہوئی اگلیں آپ کو چھین کا جانے لکا تو جبراہیں ایں نے حاضر تو کر عرض کی۔ هل لاد ک حاجۃ ؟ کوئی کار خدمت ؟ کوئی ضرورت ؟ فرمایا مالا لیک فلا تجھ سے کوئی حاجت نہیں جبراہیں نے پھر گزارش کی فاسائل دیک اپنے رب سے تو سوال کر کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے جواب دیا جس بی من سوالی علمہ بخالی یعنی جب وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔

۱۵۵ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام بر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے زیادہ محض اور زور دار الفاظ مل نہیں سکتے۔ لاموتون الا و انتو مسلمون یعنی مرتا تو اسلام پر مرتا۔ کیونکہ موت نے ضرور آتا ہے لیکن اس کے آئنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آجائے وائی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت ضبوطی

كَسْبَتْ وَلَكُمْ فَا كَسْبُتُمْ وَلَا تُشْكِلُونَ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۴۱

(نیک عمل) اخنوں نے کیا اور تمہیں لفظ دیں گے جو نیک اعمال، تم نے کھاتے اور زپور تھے جاؤ گے تم اس سجودہ کیا کرتے تھے اور (بیوی)

قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَتَّدُ وَاطْقُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

کہتے ہیں بیوی بن جاؤ (عیسائی کہتے ہیں) عیسائی بن جاؤ (تب) ہدایت پا لوگے آپ فرنائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سنتہ

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۴۲

مولانا الحق پسند تھا اور وہ ہیں تھا شرک کرنے والوں سے ۱۵۸ کہہ دو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر بوجو

أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو ائمہ اگیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْتَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أَوْتَ النَّبِيُّونَ مِنْ

اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور علیؑ کو اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے

سے پکڑے رہو۔ اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ ڑپے مبادا وہی آن تھا لے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو گرفتہ
کی حالت میں ہوت کا بیعام آگیا تو اپنے کریم رب کے حضور میں کیا منہ لے کر حاضر ہو گے۔ زندگی کی یہ باری جتنے کا ایک ہی طریقہ
ہے کہ ہر وقت انسان چونکا رہے۔ اپنا دامن گناہوں سے آلوہ نہ ہونے دے۔ نافرمانی اور سرکشی تو کجا عقلت کی گردسے
بھی اپنے دل کے انتہی نہ کمرے۔

۱۵۵ بیویوں اور صابریوں کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد ہونے پر ہزار تھا۔ محفل اور مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے۔

اور اپنی صداقت کی بھی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمؑ کے پر دکار ہیں لیکن سچائے اس کے کہاں کے بتاتے ہوئے راستہ
پر گامز ہوتے اخنوں نے الٹا حضرت خلیل عکو بیوی اور عیسائی تثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا پردہ
چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہیں کہ تھا ری اس شرک اک الوہ بیوی دیت اور نصرتیت سے اس موحد ہاشم
کا کیا واسطہ۔ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بد نماد ہبتوں سے پاک اور منزہ تھا۔

۱۴۷) رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں اور ہم تو اللہ کے فماں بردار ہیں وہاں

۱۴۸) فَإِنْ أَهْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَ وَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا

تو اگر یہ بھی ایمان نہیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ پھیلیں تو (علوم ہو گیا کہ)

۱۴۹) هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَبَكْ فِي كَهْمِ اللّٰهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وہی مخالفت پر کربستہ ہیں تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سب کو چھوٹے والے سب کو چھوڑ جانے والا ہے

۱۵۰) صَبْغَةُ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُوْنَ

(یہم پر) اللہ کا نگ (چڑھا ہے) اور کس کا نگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے ۱۴۹) ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں

۱۵۱) قُلْ أَتَحَا جَوَنَّا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَ

آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں حالانکہ ہمارا بھی ملک است اور مختار ابھی ملک۔ اور ہمیں ہمارے اعمال اور

۱۵۲) لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ

تمھیں تھارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں کیا تم کہتے ہو

۱۵۳) ۱۴۸) يَوْمَ دُنْصَارٍ كَيْ تَنَّـگ نَظَـرِيَ كَيْ تَنَّـگ نَظَـرِيَ كَيْ تَنَّـگ نَظَـرِيَ كَيْ تَنَّـگ نَظَـرِيَ
 کاشکار نہ ہوتا بلکہ تمھارا شیوه یہ ہونا چاہیے کہ اُن تمام کتابوں پر ایمان لاو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو جیسیں اللہ تعالیٰ نے معورث فرمایا۔ اگرچہ ان کتابوں کے مانند کا دعوے کرنے والے تمھارے قرآن کو نہ نہیں اور ان انبیاء کی امت کہلاتے والے تمھارے بنی مکرم پر ایمان نہ لائیں بلکہ طرح طرح کی شرائکنیزیوں سے اذیت پہنچائیں تب بھی تمھارا راویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے سر افکنہ ہو۔

۱۵۴) ۱۴۹) يَوْمَ كَيْ رَسْمٌ هُنَيَّ كَيْ جَبْ كَوْنِي انَ كَيْ دِنِي مِنْ دَاخِلٍ ہُنْ تَأْلَوَسَ سَرْكَنَدَارِيَانِي سَعْشُلْ دِيَتِي۔ پَھْرِ عِيسَائِيُونَ
 نے بھی اسے اختیار کر لیا۔ اور جب کوئی سچے پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اُسے عشش دیتے (جسے اصطلاح یا پیلسسہ کہا جاتا ہے) اور پھر یہ سمجھتے کہ اب اس پر یقینیت اور عیاسیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ رنگ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

كَمْ وَاهُدَّاً أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمْرُ اللَّهِ وَمَنْ

يَوْدُىٰ تَحْتَهُ يَا عِيسَىٰ فَرَمَيْتَ كِبَيْا تَمْ زِيَادَه جَانِتَه هُوٰ يَا اللَّهُ أَوْ كُونْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

زِيَادَه خَالِمَه سے اُس سے بُوچھپا تا ہے گواہی جو اللَّهُ کی طرف سے اُس کے پاس ہے اور اللَّهُ بے خبر نہیں ہے جو

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾ تِلْكَ أَمْلَه قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

تم کر رہے ہو وہ ایک اُمّت بھتی جو گزر پکی اُسے ملے گا جو اُس نے کمایا

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

اور تھیں ملے گا جو تم نے کمایا اور تم سے نہ پُوچھا جائے کام اُس سے بُجُودُہ کیا کرتے تھے

چڑھانے پے تو اللَّهُ کا رنگ پر ٹھاؤ جونے پانی سے دُھلنے دُھوپ سے اڑے اور زندگی کی زمانے پر بھکاری پڑے۔

بھلا یہ ناپاتیدار رنگ بھی کوئی رنگ نہ ہے جس پر تم اترائیتے ہو۔ اور اللَّهُ کا رنگ یہی توحیدِ غالص کا رنگ ہے جس کو

چڑھانے والا سیدِ انس و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي

اب کہیں کے بے وقوف لوگ ۱۴۱ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان (مسلمانوں) کو اپنے قبلہ سے جس

كَانُوا عَلَيْهَا طَقْلَةُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

پر وہ اب تک تھے آپ فرمائے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے

إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَالَتُكُونُوا

سید ہے راستہ کی طرف اور اسی ۱۴۲ طرح ہم نے بنادیا تھیں (آئے ملاؤ!) بہترین امت تاکہ تم

۱۴۱ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکہم سے بھرت کر کے مدینہ متورہ تشریف فرمائی ہوئے تو بت المقدس کی طرف جو ایں کتاب کا قبلہ تھا رُخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ سول سترہ ماہ اسی پر عمل رہا۔ لیکن حضور کی دلی آرزو یہی تھی کہ بعد ہے حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا امّت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جدیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ جب وہ اعتراضات کی بوجھا لکریں تو مسلمان سی تندیب کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ تمام قیل و قال سے لے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے جو اپنی کم غفلتی کی وجہ سے یہ خیال کیے ہیں کہ بہت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا اور وہ خصوصیت سی اور سمت میں نہیں اس لیے بہت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں۔ آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرمادیا۔ کسی کو اعتراض کا کیا حق جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے وہ نادان اور بے سمجھ نہیں تو اور کیا ہیں۔

۱۴۲ یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تھیں رہا راست اختیار کرنے کی توفیق نہیں اسی طرح ہر معاملہ میں تجدید امّت بسط بنایا۔ وسط کا لفظ قابل غور ہے۔ اس کا معنی ہے درمیان۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہو اگر تاہے انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ "عبدِ شباب" اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ دن کے درمیانی حصہ دوپر میں روشنی اپنے نقطہ عزوفہ پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے افراد و قریطہ دونوں پہلوں مذموم بھی اور دھوپل خرچی کی درمیانی حالت کو سجاوات، بُزدُلی اور طیش کے درمیانی حال کو شجاعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امّت محمدیہ کو اس عظیم المرتب خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقامہ، ان کی شریعت، ان کے نظام اخلاق، سیاست

شَهَدَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا

گواہ بنو لوگوں پر ۱۴۳۶ء اور (ہمارا) رسول تم پر گواہ ہو اور نہیں

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعَ الرَّسُولَ

مقرر کیا ۱۴۲۷ء ہم نے (بیت المقدس کو) قبلہ جس پر آپ (اب تک) سے مگر اس بے کام دیکھ لیں کہ کون پڑی کرتا ہے (ہمارے رسول کی)

اور اقتصاد میں افراد و تفريط کا گزر نہیں۔ یہاں اعتدال ہے تو ازان ہے موزونیت ہے جب مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ منصب کا پاس تھا اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل ایتنے تھا اس ارشادِ بیانِ کامیابی کا تین آج تو ہم یوں بیکار چکر کر قرآن ہیں جس امتت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں تم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالِ زارِ رحم فرمادے۔ آئیں۔

۱۴۳۶ء امتت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول ہر فعل اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب الگ سیپرون کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا تو اس وقت امانتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تیرے پیغمبر کے توتیرا پیغام حرف بحروف پہنچا دیا تھا اور جب ان پر اغتر اعلیٰ ہو گا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے تم گواہ کیسے بن گئے تو یہ جواب دیں گے کہ آے اللہ اتا تیرے جلیبِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغِ کاتح ادا کر دیا اور بنی کرم علیہ الصلوٰۃ والتسیم اپنی امتت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے کیونکہ حضور اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔

پناہنچے حضرت شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیرِ فتح العربی میں تحریر فرماتے ہیں :-

باشد رسول شما بر شما گواہ زریانکہ اوطعن است بنوی نبوت بروتہ ہر متین بدین خود ک درکدام در بحد در دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست وجہا بے کہ بد ان از ترقی محبوب ماندہ است کرام است لپس اومے شناسد گناہان شما را در جات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔

ترجمہ:- تھا را رسول تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے لوز سے اپنے دین کے ہمانے والے کے رہنمہ کو کمیرے دین ہیں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ کوشش پردا ہے جس سے اس کی ترقی روکی ہوئی ہے لپس وہ تھا رے گناہوں کو بھی پچانتے ہیں۔ تھا رے ایمان کے درجوں کو، تھا رے نیک اور بد سارے اعمال کو اور تھا رے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پچانتے ہیں۔

۱۴۲۷ء سول سترہ ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنادینے کی ایک حکمت بیان

مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى

(اور) کون مررتا ہے اُٹھے پاؤں بے شک یہ (حکم) بہت بھاری ہے مگر اُن پر

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيقَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

(بخاری نہیں) صحیفہ اللہ نے ہدایت فرمائی اور نہیں اللہ کی یہ شان کو صنائع کردے تھمارا ایمان ۱۴۵ میں بے شک اللہ تعالیٰ

بِالثَّالِثِ لَرْءَوْفُ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ

لوگوں پر بہت ہی مہربان اور حرم فرمائے والا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ۱۴۶ بار بار آپ کامنہ کرتا آسمان کی طرف

فما نی جارہی ہے کہ وہ جو بنی کی بے چون میرا اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جاتیں جو بات بات پر اعتراف کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خواگر ہیں۔ لعلو کا عام معنی تو یہ ہے "تاکہ ہم جان لیں" اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہیلے ان کو نہیں جانتا۔ اس لیے علامہ قطبیؒ نے سید الفضحاء و امام البغاء حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لِنَعَلُوْمَا مَعْنِي لِنَرَى نقل کیا ہے یعنی جو چیز ہمارے علم از لی میں قدیم سے ہے اُسے وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے۔ والعرب تضع العلم مكان الرؤىۃ والرؤیۃ مكان العلم یعنی اہل عرب لفظ علم رویت (الیعنی دیکھنے کے معنی میں اور رویت علم کے معنی میں عام استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اب کوئی اشکال نہ رہا۔

مطیع اور مفترض کی پہچان کے سواتحیں قبلیں یحیمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس امر کا اعلان مقصود ہے کہ اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتفع ہو کر اولاد اسلام میں آئی اسی لیے جبکہ کو قبلہ بنایا گیا۔

۱۴۷ بعض صحابہؓ کو یہ خیال گزرا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور تحول قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے اُن کی نمازیں تو صنائع ہو گئیں۔ اُن کی تسلیکین کے لیے فرمایا کہ اُن کی نمازیں صنائع نہیں ہوتیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف ہٹھ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے اس لیے صنائع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۱۴۸ کعبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنابِ محی حضرت خلیل کا قبلہ تھا۔ نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک موثر ذریعہ تھا۔ یہ اور ان کے علاوہ ہمی دیگر وجوہات بھی صحیفہ نگاہ بتوت دیکھ رہی تھیں جن کے باعث حضورؐ کی ولی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جاتے۔ اور ہشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادائیتی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطراتی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرمادیا کے محبوب ابو قبلہ تھیں پسند و فہمی ہیں پسند اور ترمی خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ قدیمی تقبّلہ جھاک (بصیغہ مضارع) فرمایا قد ایسا (ماضی) نہیں فرمایا جیسے ظاہر حال کا تفاضل ہے اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رُخ اور کا بار بار آسمان

فَلَنُولِّيَّكَ قِبْلَةً تَرْضِهَا فَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں (لو) اب پھیر لو اپنا پھر مسجد حرام کی طرف ۱۶۷

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا

(آئیہ الحجہ ۱۶۸) جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف اور بے شک وہ جنہیں کتاب

الْكِتَبَ لِيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

دی گئی ۱۶۸ میں ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم بحق ہے ان کے ب کی طرف سے اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبران کا انہوں تجوہ کرتے ہیں

وَلَكِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ بِكُلِّ أَيْتَهُمْ مَا تَبَعَّدُوا قِبْلَتَكَ وَمَا

اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل (پھر بھی) نہیں پیروی کریں گے آپ قبلہ کی اور نہ

أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةِ بَعْضٍ وَلَكِنْ

آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو مانتے والے ہیں اور اگر (بلطفہ محال)

کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ ماضی بن کر بیان کیا جاتے۔ بلکہ چشم قدر اس منظرِ روح پرور کا اب بھی یونہی مشاہدہ فرمائی ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رُخ جہاں افروز کا اٹھانا۔ کیا شانِ محبوبیت ہے سُجحان اللہ!

۱۶۷ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضورؐ اپنے صحابہ کرامؓ کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ دو رکعتیں ادا فرنا پچھے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اُسی وقت حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت المقدس سے منہ مودڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرامؓ نے بھی اپنے رُخ کعبہ کی طرف پھیر لیے۔ مدینہ کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جماعت ہے رہی تھی جب یہ حکم پہنچا تو افسی لمحہ تمام صحابہ کرامؓ نے اپنے رُخ پھیر لے اور دُنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا۔ صحابہ کرامؓ کی تحریر العقول ترقی کا راز اپنے بنی اور اپنے قائد کی اسی بے خونی ہر اطاعت میں مضمون تھا۔

۱۶۸ اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے۔ انھیں خوب معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اب محض تعصب اور بہت فحمری کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے جتنے دلائل پیش کیے جائیں انھیں ہدایت نہ ہوگی۔

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَنَكَ إِذَا الْمِنَ

آپ پیروری کریں ۱۴۹ ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آچکا آپ کے پاس علم تو یقیناً آپ اس وقت

الظَّلِيمِينَ ۝ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

ظالموں میں (شمار) ہوں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انھیں جیسے وہ پہچانتے ہیں

أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اپنے بیٹوں کو نکلے اور بے شک ایک گروہ ان میں سے پہچانتا ہے حق کو جان بوجھ کر

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ

یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے اور ہر قوم کے لیے اسے ایک امت (مقرر) ہے

۱۴۹ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد امت ہے۔ کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری ممکن ہے لیکن بنی اسرائیل کی ذات ہو صغار سے بھی مخصوص ہوتی ہے اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا بزرم سزد ہو مضمون کی اہمیت کے باعث حضورؐ کی طرف نسبت کی گئی۔ فهو حموں علی ارادۃ امته لعصمه اللہی صلی اللہ علیہ وسلم و خوطب عليه السلام تعظیماً الامر (رقیبی)

۱۵۰ اسی معنی اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح حضور بنی کرم کو خوب پہچانتے ہیں۔ اُن کی آسمانی کتابوں میں حضورؐ کا اعلیٰ، اوصاف اور بحثات یوں صاف کئے ہیں کہ شک کی تباہی ہی نہیں رہتی۔

۱۵۱ اس تحول کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوجھا لڑ شروع کر دی اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے مکروہ فریب سے اسلام سے برگشته کرنا اپنا مشغله بنالیا۔ قرآن نے ان کے سب شور و شغب کا ایک ہی مسکن جواب دیا۔ کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے مسلمانوں سے پہلے جتنی امتنیں گزدی ہیں سب کے لیے ایک ایک سمت عبادات کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اگر یہ میر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبہ کو اپنی امت کا قبلہ مقرر فرمادیا تو اس میں کیا الوحی بات ہے کہ تم یوں سچ پا ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کعبہ سے ابراتیم و امیریل علیہما السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا ملت ابراہیم کے علیہ السلام اعلیٰ عمل کے بنی کا قبلہ بنایا جاتے۔

هُوَ مُوْلِيْهَا فَاسْتِقْوَا الْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

وہ اُسی کی طرف منکرتی ہے پس آگے بڑھ جاؤ ۴۷۶۴ دُوسری سنتیکیوں میں تم کہیں ہو لے آتے گا اللہ تعالیٰ

جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَقِيرٌ وَمَنْ حَدَثُ خَرْجَتَ

تم سب کو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جہاں سے بھی آپ (باہر) نکلیں

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِكُلِّ هُنْدَيْرٍ مِنْ زَيْلَ

تو موڑ لیا کریں (نماز کے وقت) اپنا رُخ مسجد حرام کی طرف اور بے شک یہی حق ہے آپ کی طرف سے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۴۴ وَمَنْ حَدَثُ خَرْجَتَ فَوَلِّ

اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو اور جہاں سے آپ (باہر) نکلیں تو موڑ لیا کریں

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَدَثٌ فَالْكُنْهُ فَوَلُوا وَجْهَكُمْ

اپنا رُخ (نماز کے وقت) مسجد حرام کی طرف اور ایسے مسلمان جہاں کہیں تم ہو تو پھر لیا کرو اپنے منہ

شَطْرَهُ لَعَلَّا يَكُونُ لِلْغَائِسِ عَلَيْكُمْ وَجْهَتُهُ لَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْنًا مُمْ

اس کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض رکی گنجائش ۴۷۶۵ کے مجرمان لوگوں کے جو ناصافی کہیں ان سے

۴۷۶۶ اے یہ معمولی سی بات یہ ستم کیوں اچھاں رہے ہو مصروف سخن بنانے کے لاٹ نہیں بات تو یہ ہے کہ وہ خیرات یعنی اذنی ابدی نیکیاں جن پر سب ادیان متفق ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے میں ایک دوسرا سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کرو۔ لیکن یہ کام تو مشکل ہے۔ اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے اور وہ تحالے بس کاروگ نہیں۔ اس لیے تم ان حقیقی امور سے روگردانی کیتے ہوئے ہو۔ اور فروعی اور غیر احمد چیزوں کو یوں اہمیت دے رہے ہو گویا دین کا اصل الاصول بس یہی ایک چیز ہے۔

۴۷۶۷ اے بتادیا کہ سفر ہو یا حضر، دُور ہو یا نزدیک حالت نماز میں مختار اُرخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض بجاہ ہو کا کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر النبیان کا قبلہ کعبہ ہو گا اور تم کعبہ رُخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت

فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُوْنِي وَلَا تَرْتَمِّ نَعْمَاتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

سوہنہ دروم آن سے (بلکہ صرف) مجھ سے ڈرا کرو تاکہ میں بپورا کروں اپنا انعام تم پر کہا تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو مَا عَلِيَّكُمْ أَيْتَنَا وَيُزَكِّيْكُمْ

جیسا کہ بچھا ۵۷۶ء میں ہم نے تمہارے پاس رسولؐ تم میں سے پڑھ کر سنا تاہے تھیں ہماری آئینیں اور پاک کرتا تھے تھیں

وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِّمُكُمُ الْأَلْمَةَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

اور سکھتا تھے تھیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا تھے تھیں ۵۷۶ء میں ایسی بالوں کی تھیں تم جانتے ہی نہیں تھے

ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ اول شرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیم ہونے کا اور ان کے قباد کو قباد بھی نہیں سمجھتے۔ اور بعض ناحق شناس جواب بھی غوفا آرائی کر رہے ہیں وہ اتفاقات کے لائق ہی نہیں۔

۵۷۶ء کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خوب بہت بڑی نعمت ہے تکیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرمادیا گیا جو ان کی توجہات اور عبادات کام بمع ہو۔ تاکہ رنگ و زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود اسے دیکھنے والے یقین کر لیں کہ یہ ایک قوم ہے، اس کام کرنے توجہات ایک ہے، اس کا مقصد حیات ایک ہے نیز تحریل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی صاف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر آئی عمل علیہ السلام کی اولاد میں آگئی ہے۔ یہ سفر انہی اور یہ شرف بذاتِ خود ایک نعمت عظیٰ ہے۔

۵۷۶ء تیر کعبہ کے وقت جو دعا حاضرات ابراہیم و ایکیل علیہما السلام نے کی کہ ان میں ان صفات والا رسول مبعوث فرمایا جاتے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعا مقبول ہوتی۔ اور وہ رسول کریم ان تمام صفات سے متصف ہو کر تشریف فرمائے گیا۔

۵۷۶ء امام وقت قاضی شاہ اللہ پانی تی پتی قصیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں:- تکرار الفعل یدل علی ان هذالت التعلیم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللذی فی الماخوذ من بطون القرآن ومن مشکاة صدر النبی صلی الله علیہ وسلم والذی لا سبیل الي درکه الا الانعکاس۔ ترجمہ یعلم کافل دوبارہ ذکر کیا جو اس بات پر ولات کرتا تھے کہ تعلیم سہل تعلیم کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے اور شاید اس سے مزاد علم لہتی ہے جو قرآن کے باطن اور بنی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کلم و سکم کے منور و روشن سینے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے حصوں کا ذریعہ یہ مذہب تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے یعنی آنات قرآن کی کرنیں اور ماہتاب بتوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں (اس عارف ربانی نے اس مسئلہ کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے چاہیئے کہ ملاحظ کیا جائے) اور اولیا تے کاملین جو اذائب بتوت کے صحیح و ارش ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مربیاں باصفا پر اسی فہم کے علوم و معارف کا القاعا اور فیضان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا إِنِّي لَا تَكُفُّرُونِ^{۵۷} يَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ

سوتم مجھیا کرو یعنی متحین یاد کیا کروں گا اور شکردا کیا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو اے ایمان والو!

أَمْنُوا إِنْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ^{۵۸}

مد طلب کیا کرو صبر^{۵۹} اور نماز (کے فرع) سے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے

پربھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ انعام فرمادے آئین ثم آئین!
یہاں بھی عارف باللہ قادری شناس اللہ کے الفاظ ہی قارئین کی خدمت میں بیش کرتا ہوں۔ ولما كان طریق
تحصیل تلك المعرف منحصر في الالقاء والانعکاس وكان كثرة الذكر والمواقبة يغایل للقلب والنفس صلبة
الانعکاس من مشکاة حصل بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطة او بواسطہ عقب اللہ سبحانہ بقولہ فاذکروني
ترجمہ: جب ان معارف کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف القاء اور انعکاس ہے اور ذکر الہی اور مراقبہ سے ہی دل میں
یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُنُوسینہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان والقارب قول کر سکے
اس لیکھم دیا کہ میرا ذکر کیا کرو کہرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی بے محابا بارش ہوتی
ہے اور دُوری کے حجابت یکسر الٹ دستے جاتے ہیں۔

تم مجھے یاد کروں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندہ کی کوئی عربت افرادی ہو سکتی ہے کہ اس کا ماکو فناق
اس کو اپنی یاد سے سر فراز فرمادے۔ ایک حدیث قدسی بھی ملاحظہ ہوتا کہ اپنے رب کریم کی بندہ فوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔
اناعند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکری فان ذکری فی نفسہ ذکرته فی نفسی وان ذکری فی ملء ذکری فی ملء
خیوه وان تقرب الی شبد انتقیلت الیه ذرا عاداً تقرب الی ذرا عاقبت الیہ با عاداً ایا تیه هر وله (اتفاق علیہ)
ترجمہ: میر بندہ ہی سے مجھ سے گران رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ بتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں
بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں اور اگر جمیع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک
بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک بالشت اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں
ایک تدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ (بخاری سلم)
۵۸ اے جوانعام میں نے تم پر فراتے مثلاً رسول بھجے، بدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذب عطا فرمایا اس پر شکردا کرو۔
نعمتوں کا انکار، رسول کی نافرمانی اور غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری نہ کرو۔

۵۹ اے دُنیاگی امانت کا جو شرف تھیں بخشنا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآہوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کصر
کا دامن ضبطی سے پکڑے رہو مشکلات سے گھبراو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ

اور نہ کہا کرو اُخیں جو قتل یکے جاتے ہیں اے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں

اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو سچھتہ بناتے رہو یعنی کامیابی تھا رے قدم پوئے گی (اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے) ۱۸۷ یہاں معیت سے خصوصی معیت مراد ہے یعنی تائید اور نصیرت کی معیت۔ اور صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں۔ قلت بل معیتہ غیر متکیفہ یتضح حلی العارفین یعنی اس سُنّت سے وہ خاص سُنّت مراد ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ صرف عارف ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔

۱۸۸ جب میدان بدر میں کشمکشان شہید ہوتے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فلاں مر گیا وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرتِ اللہ اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربراہی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اُخیں مردہ کہا جاتے۔ اس لیے یہ آیت نازل فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا۔ بلکہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے؟ اس پر فتنوں کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تصریح کرتے ہیں۔ فذ هب کثید من السلف الی انها حقيقة بالروح والجسد وذهب البعض الی انها رحانية والمشهور ترجيح الاول۔

ترجمہ: یعنی سلف صاحبین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی رُوحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ صرف رُوحانی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری بیان فرماتے ہیں یعنی ان اللہ تعالیٰ یعطی لارواحهم قوۃ الاجساد فیذ ہبون من الارض والسماء والجنۃ حیدث یشاؤن وینصرون اولیاءهم دید مردن اعداءہو ان شاعر اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے رُوحوں کو سبموں کی وقت دیتا ہے۔ وہ زین، آسمان اور جنّت میں جہاں جاہیں جاتے ہیں اور وہ (شہداء) اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انہیاں اور صدیقین اُمّت جو شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں ان کی زندگی میں کیوں کوشش کیا جا سکتا ہے۔ اسی زندگی کی وجہ سے ان کے ہم خالکی بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں چنانچہ امام مالکؓ نے روایت فرمایا ہے کہ جنگِ احمد کے پھیالیں سال بعد حضرت عمر بن جبیر اور حضرت عبد اللہ بن جبیر کی قبر (دووون ایک ہی قبر میں مدفن تھے) سیلاپ کی وجہ سے جب کھل گئی قوان کے احصار طاہریوں ترقاڑاً اور گفتہ و شاداب پائے گئے جسے اُخیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ (موطا) اس سبیوں صدی کا واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبد اللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی قبور کے بالکل زدیک پنج گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلمانؓ فارسی کے مزار پر اُنکے جوار میں منتقل کرنا چاہا تو ان حضرات کی قبریں کھودی گئیں تیرہ صدیاں گزرنے کے بعد جبی ان کے پانچ ہم صحیح و سلامت پائے گئے۔ ہزارہا

وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ^{۱۵۴} وَلَكُنْبُلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ

لیکن تم (اسے) سمجھ نہیں سکتے ۱۸۷۲ء اور ہم ضرور آزمائیں گے تھیں کسی ایک چیز کے ساتھ یعنی خوف ۱۸۳۳ء

وَالْجُوعُ وَنَقْصٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتُ وَ

اور بھوک اور کمی کرنے سے (تحارے) مالوں اور جانوں اور پھلوں میں اور

بَشَرُ الصَّدِيرِينَ^{۱۵۵} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا

خوشخبری سنایتے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انھیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ^{۱۵۶} أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

صرف اللہ کیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی وہ (خوشصیب) ہیں جن پر ان کے لئے طرح کی نواز شین

خنوق نے اسلام کا میمعجزہ اور قرآن کی اس آیت کی صداقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا وہ من اصدق من اللہ قيلا۔ ۱۸۴
یعنی اس زندگی کی ماہیت و حقیقت تم اپنے عقل و حواس سے نہیں سمجھ سکتے اگر تم اسی عقل نہ سمجھ سکے تو تم انکار کی چوریات نہ کرنا۔

۱۸۳ء جب تک انسان اس دُنیا میں ہے رنج و غم اور مصیبت و الم نے اُسے کم دیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں بدلنا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ آب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی جس سے وہ مصائب بحادث کے بے رحم حلول سے اپنا بجاو کر سکتے ہیں۔ انھیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتوں اسے خس دھاشاگ کی طرح بھاٹے جاتی ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈھارہ تو یہ کالے بادل خود بخود چھپت جاتے ہیں۔ یہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے وہ کسی کے مرتبے یا حیثیت باڑی اور کار و بار میں نقصان و دفع ہونے سے نا قادر ہیں کیوں ہو گا کہ اس کا حوصلہ ہی لٹک جاتے بلکہ وہ نئی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اسی لیے قرآن نے رنجیدہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ توہ و گُربی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ^(۱۷) **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْدَةَ**

اور رحمت ہے لکھ اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں بے شک صفا اور مروہ

مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ

اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس بوجہ کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ ہرج نہیں

عَلَيْهِ أَنْ يَكُلُّوْفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان اور جو کوئی خوشی سنبھل کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا

شَاكِرٌ عَلِيهِمْ ^(۱۸) **إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ**

قدر ان خوب بجانے والا ہے بے شک جو لوگ ^{۱۸} میں پھیلاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل ہیں وہ دلیلوں

وَالْهُدُى مِنْ بَعْدِ فَابَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لِأُولَئِكَ

اور پڑا یت سے اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر دیا اغیض لوگوں کے اس طبق (پی) کتاب میں یہی وہ لوگ ہیں

۱۸۳ ان اللہ تعالیٰ ان باہمتوں اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے پہنچنے کی توفیق رحمت کی جاتی ہے۔

۱۸۴ شعائر بجمع ہے شعیرۃ کی اس کام معنی علامت ہے۔ احناف کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا حج و عمرہ میں واجب ہے اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جایلیت میں صفا پر اساف اور مروہ پر نماہ کے بُت نسب تھے۔

۱۸۵ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ سی کرنا ناگوار گزار جہاں پہنچ بُت رکھتے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تھیں تو حضرت ہاجرہ کی پریوی میں دوڑنا ہے تھیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے ایمیل علیہ السلام کی والدہ نکریمہ کی سُنّت کو ترک کر دیں مسلمانوں کے دل میں جونفتر تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے دُور دنادیا یعنی کوئی سحر ج نہیں پیش کیا۔

صفاو مرودہ میں دوڑ لگای کرو۔ اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے ثابت ہوا۔

۱۸۶ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء سوہنگا ذکر ہے جو اپنے دُنیادی فائدہ کے لئے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اکم وسلم کے کمالات کو چھاتتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی مشتراء اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے۔ اب بھی کوئی عالم اگر

حضور کے کمالات کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے۔

يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَكْلِعُنُهُمُ الْلَّعْنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

کہ دُور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ (پتی رحمت سے) اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے البتہ جو لوگ تو پر کر لیں اور اپنے اصلاح کر لیں

وَيَكْبِنُوا فَأَوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ

اور ظاہر کردیں (جواب تک چھپاتے رہے) تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور یہیں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ حم فرمائے والے ہوں پیش کیں

الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْلَوْهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مسے اس حال پر کہوہ کافر تھے یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی

وَالْمَلِكُوتُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ۝ خَلِيلُ الدِّينِ فِيهَا لَا يَخْفَى

اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ہلاکایا جاتے گا

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَإِنْ

ان سے غذاب اور نہ انہیں مُلکت دی جاتے گی اور تمہارا خدا ایک خدا ہے ۱۸۷

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

نہیں کوئی خدا بھروس کے بہت بھی مہربان ہمیشہ حم فرمائے الہی بے شک ۱۸۷ آسماؤں اور زمین کے پیدا کرنے میں

۱۸۷ یہ آیت قرآن سمجھیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے طور پر یہیں توحید کا ثبوت، دوسرا میں شرک کی نفی اور تغیرے میں دونوں کی دلیل ہے یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تھارے وجود، تھاری بقا اور نشوونما اور تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی ہے جو الہ یا معبود بننے کا تقدیر ہو۔

۱۸۸ اس آیت میں توحید کے دلائل شرح و بسط سے بیان کیے گئے ہیں اس اہم ترین اور مشکل ترین مسئلہ کے اشات کے لیے قرآن کا طرزِ استدلال فلسفیوں کے طرزِ استدلال سے بالکل الگ ہے۔ قرآن فکر و نظر کے گھر سے ہٹوئے دلائل میش نہیں کرتا جو پیچیدہ اصطلاحات سے بوجھل ہوں جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو۔ اور سمجھ آجھی جائیں تو ان ہیں وہ زور نہیں ہوتا کہ وہ انسان کوشک اور مگان کی دلدل سے باہر کھلخ لیں اور یقین کی منزل تک پہنچا دیں۔ اس کے بر عکس قرآن کریم دلائل کو نیہ پیش کرتا ہے جو کائنات کے کئی صفات پر جی قلم سے لکھے ہوئے ہیں جو روشن اور واضح ارتئے ہیں کہ ہر شخص

وَ اخْتِلَافُ الْيَوْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

اور رات اور دن کی گردش میں اور جہاڑوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں وہ چیزیں

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا

املاکے بونفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو اور جو آثاراً اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور پھیلا دیتے اس میں ہر قسم کے جانور

وَ تَصْرِيفُ الرِّيحِ وَ السَّحَابَ الْمَسْكَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

اور ہواوں کے بدلنے رہتے ہیں اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے ریمان (الکتارتہما) ہے

انھیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے اور پیچیدہ اتنے کہ ماہر غوط زمین بھی ان کی تہذیب پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا عقل گہرہ کشا جتنی گہری کھولتی جاتی ہے اس سے زیادہ عقدہ ہائے لائیل اس کو جیخ کرتے ہوئے یہکے بعد دیگرے نمودار ہوتے رہتے ہیں ان دلائل میں جو شخص سمجھدی گی سے غور کرے گا وہ یقین و تصدیق کی دولت سے مالا مال ہو گا۔ یہی ہے قرآن کے طرز استدلال کا طریقہ امتیاز اور وجہ اعجاز اب آپ اس آیت کا بغور مطالعہ فرمائیں۔ آسمان کی نیلی دلیع چھٹت اس میں لئے ہوئے آن لہت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مفترہ وقت رطبوں و غروں بن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا، اُن کی گردش کے متعلق راستے جن سے سر توکبھی انحراف نہیں ہوتا۔ زمین کا یہ شاذ صحیح، اس میں روایاں دوال ندیاں اور دریا، رات دن کی ہی تمیم گردش، ان کا کھنڈنا بڑھنا، یہ کار سمندروں کے سینیوں پر مسافروں سے لدی اور سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہاڑوں کا خراماں خراماں آنا جانا، گھنگھور گھٹائیں اور اُن کا موسلا دھار برستا، پھر مردہ زمین کا دیکھتے دیکھتے مرسیہ و شاداب ہو جانا، کہہ ہوایں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، بھی برستا اور کبھی ترسائے ترسائے آن واحد میں ناپید ہو جانا ایسی چیزیں نہیں جسے عالم تو جانتے ہوں اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے داشمن سمجھ سکتے ہوں اور کم عقل کی سمجھ سے بالآخر ہوں بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورقہ کہ وہ کے لیے یہ کیاں طور پر وہشی کامیاب رہے اور اس کا باؤدہ لطف یہ ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اتنا طبعی بھی نہیں کہ اپنی فکر و دانش کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو بلکہ انھیں دعوت ہے کہ اپنے نشرت تحقیق سے فڑے فڑے کا دل چیزوں اور دلکھیں کہ اُن میں اسرار و رموز اور قوت و طاقت کے وہ سمندر رہ جو ہوں ہیں جن کا انھیں تصور تک تھا یہی وجہ ہے کہ ہر ملمحہ مشاہدہ میں آتئے والی چیزوں کا ذکر فرنانے کے بعد قرآن نے بارہا افالۃ تقدیکوں افلاتیں بڑوں

لَا يَتَّبِعُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ

رَانِ سب میں انسانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے پوچھ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں ۱۸۹ کے جو بناتے ہیں اور وہ کو

اللَّهُ أَنَّدَ أَدَأَ يُحِبُّونَهُمْ كَحِبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا أَشَدُ حِبًّا

اللہ کا مدد مقابل مجتہت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے مجتہت کرنا چاہیے اور جو ایمان لاتے ہیں وہ سبے زیادہ مجتہت کرتے

لِلَّهِ وَلَوْلَرِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

ہیں اللہ سے ۱۸۹ اور کاش اراب جان لیتے جھوپوں نے غلبم کیا (جو وہ اس وقت جائیں گے) جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب

لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ

کے ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (خیال کرو) جب بیزار ہو جائیں گے وہ

کے ہمد کرنے کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبیر نہیں کرتے؟ اور ان صحبت ہوتے ف فهوں سے داش و خرد کو لکارا ہے کاش یا الفاظ اس امتت کے نوحاؤں کی خفثتہ ضلال ہیتوں کو بیدار کر دیں جن کی آسمانی کتاب نے انھیں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ ہوالذی خلق الکو ما فی الارض جمیعاً۔ اللہ تعالیٰ نے زین کی برچیز صرف تھارے لیے پیدا کی ہے۔

۱۸۹ ان روزمرہ دلکھائی دینے والی چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبوہ ہو جائیں گے کہ توسع میں یکساں نہ، انتلا میں توافت، کثرت میں وحدت اور یہ بے مثال نظم و ضبط بغیر سی حلیم حکم اور قدرت والے خانق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیون یہیں دلیلیں صرف ان کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بیان ہے اور جو اس کے کام لینا پسند کرتے ہیں۔

۱۸۹ اس کے بعد ان ناد اوفوں کا ذکر ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اور ان واضح دلائل پر غور نہیں کرتے اور اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے بتوں یا جھوٹے سرداروں کی مجتہت کا دم بھرتے ہیں۔

۱۸۹ اہ یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مجتہت کرتے ہیں اور کسی سے مجتہت نہیں کرتے بلکہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ مجتہت کرتے ہیں لیعنی عزیز و اقارب، فرزند و زن، مال و جاہ سے ان کو مجتہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ان کو مجتہت ہے وہ سب مجتہتوں سے بڑھ کر ہے اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ مجتہتوں کچھ کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مجتہت کچھ کہتی ہو۔ تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردان حکم کر دی تو وہ سچا ورنہ جھوٹا صوفیاً کرام نے "اذ اد" کی تفسیر یہ فرمائی ہے۔ کل ماکان مشغلاً عن اللہ مانغا من امتنال امرہ۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے

اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَنَقَطَعَتْ بِهِمْ

جن کی تابع داری کی گئی ان سے جو تابع داری کرتے رہتے اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور رُوت جائیں گے ان کے

الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْوَآنَ لَنَا كُرَّةً فَذَتَ بَرَّا

اور کہیں کے تابع داری کرنے والے کاش باہمیں روت کر جانا ہوتا (دنیا میں) تو ہم بھی بیزار ہو جاتے

مِنْهُمْ كَمَاتَ بَرَّءَ وَامْتَأْكِلَنَّ لِكَ يُرِيْبُهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتِ

ان سے جیسے وہ رآج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے یونہی دھکائے کا انھیں اللہ تعالیٰ ان کے (انہیں) اعمال کے بعد پیش مانی

عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كُلُّهُمْ

ہوں گے ان کے لیے اور وہ (کسی صورت میں) نہ کل پائیں گے آگ کے عذاب سے اے انسانو!

مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيِّبًا وَلَا تَتَبَعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ

اس سے جو زمین میں ہے حلال (اوہ) پاکیزہ (پھیزیں) ۱۹۱ اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو

روں دے وہ "انداد" سے ہے خواہ وہ بُت ہوں، مگر اہ رہیں ہوں، مال و دولت ہو، فزند و زن ہوں یا علم و فن ہو، پھیزیز ہو اللہ تعالیٰ سے دُور کرنے والی ہو وہ نہ ہے اور پاش پاش کر دینے کے لائق حضور بنی کرم مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو عشق و عقیدت ہے اور اولیاء رکام سے ہمیں جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہی تو ہے کہ وہ محبوب بان خدا ہیں اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہو اکرتا ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں۔

۱۹۱ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی حیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا۔ یعنی ظاہری طور پر بھی غلطیز اور لئنڈی نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے اور باطنی طور پر بھی بخس اور پلید نہ ہوں تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ ظاہری صفائی کو قرآن نے طیب کے لفظ سے اور حقیقتی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو جیسے حرام جا فور، مردار، شراب وغیرہ اور نہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے مثلًا چوری، جو اخواہ وہ کلبوں میں ہو۔ رشتہ، سُود وغیرہ وغیرہ

إِنَّكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ^{۲۴} إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالصَّوْرَةِ وَالْفَحْشَاءِ وَ

بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے ہتھیں فقط بڑائی اور بے جیانی کا اور

أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{۲۵} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعَثُوا

یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر بھوت جانتے ہی ہتھیں^{۱۹۲}۔ اور جب کہا جاتا ہے ۱۹۳ ان سے پیر وی

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا طَوْلَوْ

کروں کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسکی پیر وی کریں جس پر ہم نے پایا پسند پاپ دادوں کو۔ الگ چ

كَانَ أَبَاوْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْغًا وَلَا يَهْتَدُونَ^{۲۶} وَمَثَلُ الدِّينِ

ان کے باپ دادا نے کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور مثال ان کی^{۱۹۴}

اسلامی نظام معاشرات کا یہ ایک بُنیادی اصول ہے۔ کسب معاش کے لیے کھلی چھپی نہیں بلکہ تمام وہ راستے بند کر دیتے ہیں جن ہیں کسی کی کمزوری، بھجوی اور نداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں جب سُود، جوا، رشوٹ اور بلکہ ماڑنگ فائزہ کے چور دروانے بند ہو جائیں تو کیا دولت شکر کو صرف چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہو جائے گی! دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ رُکھ سوٹ جن معاشری، اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے وہ اہل علم سے پوشید نہیں۔ کاش ہم اس الہامی نظام کو خود سمجھتے۔ سنجیدگی سے اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دُسری قوموں کو سمجھاسکتے۔

۱۹۲۔ شیطان تھیں بُرکاری اور بدمعاشی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے دسو سے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ٹکرائے کا قصد کرو تو وہ ہتھیں معاشری بھائی اور بین الاقوامی بدنامی کے موہوم خطرات سے ڈلاتا ہے۔ ایسے بدخواہ کے چکروں میں آکر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔

۱۹۳۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات چھوڑ کر پسے گراہ باپ دادا کی تعلیم کرتے ہیں ان پر سرست و فسوس کا انہصار ہے۔ اور اگر آباؤ ابجاد سرایا رشد و ہدایت ہوں تو ان کا اتباع عین مقصود ہے اور ابیا کی یہی سُنّت ہے۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید غماڑی میں یہی فرمایا تھا۔ کتابت بعثت ملّة آبائی میں اپنے آباؤ ابجاد کے دین کا پیر و ہوں۔

۱۹۴۔ کفار کی مثال اُن جانوروں کی سی ہے جنہیں ہمکا جائے تو وہ ہانختے والے کی آواز تو سُنّتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔

كَفُرُوا كَيْثِلَ الَّذِي يَتَعَقَّبُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَادُعَاءَ وَنَدَاءَ

جہنوں نے کفر رکھتیار کیا۔ ایسی ہے جیسے کوئی پلارہما ہو ایسے جانوروں کے تیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پچارا اور آواز کے۔

صُمُمٌ بِكُمْ عَمَىٰ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ^(۱۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْوَاكُلُوا

یہ لوگ ہر سے ہیں گونگے میں اندر ہیں سوہہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والوں!

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُوا إِلَنَّا إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَةً تَعْبُدُونَ^(۱۷)

پاک پھریں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبارت کرتے ہو۔

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالَّذَّمَرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ

اُس نے حرام کیا ہے ۱۹۵ تم پر صرف مردار اور حزن اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو۔

بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط

جس پر فتح کے وقت غیر اللہ کا نام ۱۹۶ لیکن جو بھروسے وہ رحلتے داشت کیا کہ وہ نہ کوش ہوا ورنہ حد سے بڑھنے والا تو اسق (پندت خضرت ھالیتیں)، کوئی نہیں

۱۹۷ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں (۱) مردار وہ جانور جسے شرعی طریق پر فتنہ نہ کیا گیا ہو۔ اس کی کسی چیز کا استعمال درست نہیں۔ اور اب تو کب رجھاص نے تصریح کی ہے کہ شکاری کتوں اور شکاری پرندوں کو کھانا بھی منع ہے۔ باں چھڑا باغتہ (رٹکنے) کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ (۲) خون جاری (۳) خنزیر (۴) کا اہل بہ لغیو اللہ۔

۱۹۸ میں اس کا ترجیح کیا ہے اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو زندگ کے وقت غیر اللہ کا نام ۱۹۸ میں نے اس ترجیح میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجیح کا اتباع کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت چار بار آئی ہے اور ہر جگہ حضرت شاہ صاحبؒ نے یہی ترجیح کیا ہے اور ما اہل کے لفظی ترجیح میں وقت زندگ کی قید کو ہمیشہ محظوظ رکھا ہے۔ مثلاً آپ نے اس آیت کا ترجیح "کاچھ آواز بلند کرو شو در زدن و سے پیغما۔"

کے الفاظ سے کیا ہے (فتح الرحمٰن) اور تمام مفسروں کرام نے اس آیت کا یہی معنی بیان فرمایا ہے۔ میں امام ابوبکر رجھاص کی عبارت تقلیل کرنے پر اتفاق کرتا ہوں "وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمُرْدَدَيْهُ الدَّبِيَحَهُ أَذَا أَهْلَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ الدَّبِيَحِ" یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبح ہے جس پر فتح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے (مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہوں فتاویں، فتاویں، فاطمی، بیضاوی، روح المعلانی ابن کثیر و بکر بن عزیز) بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن کو کسی

ولی یا بنی کا نام لے دیا جائے غواہ فتح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشراکاً علی سے تشییر

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ^{۱۷۷} إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ

بے شک اللہ تم بہت گناہ بخشنے والا ہیشہ حرم کرنیوالا ہے۔ بیٹک جو لوگ بھپاتے ہیں مٹھے اللہ نازل کی ہموئی

الْكِتَبِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَا كَلُونَ فِي

کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے پدے تھیر سامواضہ۔ سودہ ہنیں کھار ہے اپنے

بُطُونَهُمْ إِلَّا التَّارُ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةَ وَلَا يُزَكِّيُهُمْ

پیٹوں میں سوائے آگ کے اور بات تک نہ کر لیا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن^{۱۷۸} اور نہ انکے گناہ بخشنے کا اپیس

ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بُتوں کے نام لے دیکرتے تھے۔ لیکن انگریز اضافات سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس علی کوشش کیں کے علی سے ظاہری یا باطنی، صوری یا معنوی کسی فرم کی بھی مشا بہت ہنیں۔ لفڑا جب ایسے جا نزوں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بُتوں کا نام لے کر ان کے لکھ پڑھتے وہ بہت باسم اللات والعزیزی۔ لات اور عزیزی کے نام سے سہم ذبح کرتے ہیں۔ اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ظاہری مشا بہت نہ ہوئی۔ نیز کافران جا نزوں کو ذبح کرتے تو ان بُتوں کی عبادت کی نیت سے انکی جان تلف کرتے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا۔ اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت یہ ہوئی ہے کہ اس جا نزو کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقر اور عام مسلمان کھایں گے۔ اور اس کا جو ثواب ہو گا وہ فلاں صاحب کی مروح کر پہنچے۔ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے علی اور کوشش کیں کے طریقہ میں نہیں واسان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کیے کسی جانوں کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک ہنیں۔ اگر مقصود صرف ایصال ثواب ہر جیسے ہو کر گو کام مصدقہ کرتا ہے تو اس کو طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا قتوی دیتے چلے جانا کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ مفضل بجت سورہ الحلق کی آیت ۱۵^{۱۷۹} کے ضمن میں ملاحظہ فرمایں۔

۱۹۴ یعنی اگر کوئی شخص مجبوہ ہو جائے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو ان حرام چیزوں سے وہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے

۱۹۵ یہ مود احکام الہی کو حصپتے تھے۔ صبور کریم صلی اللہ علیہ اآل و سلم کے حامد و اوصاف جو تورات میں لکھتے تھے ظاہر ہنیں ہے نہ دیتے تھے اور پیغمبر مکوں کے لامیں اپنی خدا ہش کے مقابی تشریعت میں رو و مبل جی کر لیتے تھے۔ خود بھی چشمہ پرہایت سے سیراب نہ موقت اور دوسروں کو بھی سیراب نہ ہونے دیتے تھے۔ خود بھی گماہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند رکھتے۔ یہ جنم کیوں کہ بہت سنگین تھا اس لیے اس کی سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی۔ فرمایا کہ یہ لذیذ لذتی جو رشتہ کرتم اپنے جعلی سے نیچے آتا رہے ہو یہ

آگ کے زنجھنے والے انگارے ہیں ان کی سوکش کو بھی ختم نہ ہوگی۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(۱۷۶) اولِيَّكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّنَلَةَ بِالْهُدَىٰ

پاک کر لیکا اور ان کے لیے در دنک عذاب ہے۔ یہ وہ (بِضَرِيبِ) ایسی جنوں نے خریدی لی گرامی ہدایت کے عوض ،

وَالْعَذَابُ أَبَى إِلَيْهِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى التَّارِ^(۱۷۷) ذَلِكَ يَانَّ

اور عذاب کو نجات کے بدلے (تعجب ہے) کس پیزے نے انسان سا برنا دیا ہے نہیں آگ کے عذاب پر۔ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی

اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ طَوَّلَ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ

کہ اللہ نے تو اُنمی کتاب حق کے ساتھ اور بیشک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ^(۱۷۸) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ

وہ دُورِ دُراز کے جھکڑوں میں بچنے سے ہیں نیکی (بیس یہی نہیں کہ نماز میں) تم پھیرلو اپنے رُوحِ نسلے مشرق کی

۱۹۶ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حُجَّہ و حکیم ہے ایسے لوگوں سے باتِ تک ذکرے گا۔ ہر دو شخص جس نے بھی اخلاقی محبت

کا نام بھی سننا ہو یہ سرزنش برداشت نہیں کر سکتا۔ ماکت حقیقی بھجوں حقیقی ہمیشہ ہمیں فرط نے والا

اپنی نگاہِ رحمت پھیر لے، اپنے کرم کا اُرخ مور لے، اپنے خطابِ جاں پر ور سے حرم مکر لے اور پھر بل برداشت کر لے۔ وہ دل نہ ہو

پھر ہو ابکہ پھر سے بھی سخت تزاور فوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ الرَّحْمَن الرَّحِيم کے طفل اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ نارِ ضمگی سے

بھی بچائے۔ آئین پیشی مزدیگی ہے کہ ان کے پھر وں پر کتابِ حق کی نجاست چسپاں ہٹنے دی جائے گی۔ اب حمت سے اسے دھوپا نہیں جائے گا۔

تلہ ہر دن میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد کی

آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس لیے ان ظاہری اعمال کی سجا آوری ہدایت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک قوم دین کا دامنِ ضمبوطی سے

تحامے رہتی ہے۔ وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد و نوؤں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دنوں کو کیاں اہمیت دیتی ہے لیکن جب

ویسیں کا دلوں سرد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہست حقیقی مقاصد انکھوں سے اوچھل ہونے لکھتے ہیں اور قوم صرف ظاہری اعمال کی دلیلی کو کافی

سمجنے لگتی ہے اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑچکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اعمال بے جاں رسموم ہو کر رہ

جاتے ہیں اور غلط اندریش قوم انہیں رسموم کی سجا آوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شاہ کرنے لگتی ہے و حقیقی مقاصد سے کیفر غفل ہو جاتی

ہے۔ مثلاً نماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے یہی لیکن حضور رحمت للعلیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد

فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بد کاری سے باز رکھ سکے فَلَوْ تَرَكْتَهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا (أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الْمَصْلُوْهُ وَالسَّلَامُ وَه نماز اسے خُلَّا سے اور زیادہ دُور کر دیگی۔ روزہ سے متعلق ارشاد ہے مَنْ لَمْ يَدْعُ مَوْلَاهُ فَقُولَ الزُّورُ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

طرف اور مغرب کی طرف بلکہ اسے نیک (کامال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز

الْأَخْرَى وَالْمَلِكِ كَوَافِدُ الْكِتَابِ وَالنَّبِيَّنَ وَآتَى الْبَالَ عَلَى حِسْبِهِ

قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیریں پر اور دے اپنا مال اللہ کی مجتہ سے

ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لَا وَالسَّاکِلِينَ

راشتہ داروں اور بیتیوں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو

وَفِي الرِّقَابِ وَآقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْفَفُونَ بِعَهْدِهِمْ

اور (خرچ کرے) غلام آزاد کرنے میں اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور جو پورا کریں گے یہیں اپنے وعدوں کو

حاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً۔ روزے دار اگر گھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے بازنے آتے تو اللہ کو اس کے بھوکا بیاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آئیت کرمیہ میں اسی حقیقت کوھول کریان فرمایا گیا ہے تاکہ امّت مسلّم ہیلی امتوں کی طرح چند نظاہری اعمال پر ہی قائم نہ ہو جائے اور سیکی اور طاعت کو اپنی میں منحصر بھجوئی۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لیس البر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف مُنْهَنَہ کرنا نیک اور طاعت ہے ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مرف اسی میں منحصر نہیں یہ بھوکی بھوکی سے اور اس کے علاوہ اور بھوکی بھوکی اور طاعت کے کام میں جو حقیقی مقاصد میں اور تمہاری توہج کے زاویہ تھیں ہیں ۱۰۷۔ سابقہ غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد بڑی وضاحت اور خاص ترتیب سے اسلام کے جو حقیقی مقاصد بیان فرمائے جاہے ہیں اسلام کی ساری تعلیم این چار عنوانوں کے نیچے درج کی جائیں گے۔ ۱۔ عقائد ۲۔ معاملات ۳۔ عبادات ۴۔ اخلاق من آمن سے یکر والشیعین تک عتماً مسلم ہیں کا ذکر فرمایا آتی المال سے وفی الرقباب تک معاملات کا بیان ہوا۔ افتام الصّلوة و آتی النّکوّة سے اسلامی نظام عبادات کے دو اہم ترین رکن نمازو و زکوٰۃ تباہ کئے گئے اس کے بعد اسلام جن ضابط اخلاق کی پابندی کا اپنے مانسے والوں کو حکم دیتا ہے اس کی وضاحت کردی گئی۔ کاش ایسا مکمل اور اثاثی دستور حیات رکھنے والی امّت اپر عمل کرنے کی ضرورت کو بھی محسوس کرے تو وہ اپنے آپ میں اور اپنے گروپوں میں ایک واضح انقلاب محسوس کرنے لگے ۱۱۹

چوں بجاں درفت جاں دیگر شود پہ جاں چوں دیگر شد جاں دیگر شود (اقبال)

إِذَا عَاهَدْ وَالضَّيْرُونَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجِئُنَ الْبَاسِ

جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور کمال نیک ہیں ۳۰۷ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَوِّنُونَ ^(۵۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

سہی لوگ ہیں جو راستا بڑا ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں ۔ اے ایمان والو

أَمْنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ إِنَّ الْحُرُوفَ لِلْحُرُوفِ وَالْعُبُودِ

فرض کیا گیا ہے تم پر فصاص ۳۱۸ جو (ناحق) مارے جائیں ۔ آزاد کے بدے آزاد اور غلام کے

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخْيَارِ شَيْءٍ

بدے غلام اور عورت کے بدے عورت، پس جس کو انتہا معاف کی جائے اسکے بھائی ہیں (مقتول کے وارث) کی طرف

۲۰۶۔ قاعدہ کے مطابق والصّابرون ہونا چاہئے لیکن خلیل انہم نہ نہ کہا کہ بیان المصابین منصوب علی اللوح ہے ایسے یہ

اس معنی مرح کو جو در آن کا دلول ہے ترجمہ میں خلاہ کرنا اخذ ضروری ہے اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ والله الموفق

تو یہ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طلاق تو قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر احتفاظ کرتے

بلکہ قاتل کے قبیلے کے دس دس بیس میں آدمی قتل کرنا پناہی سمجھتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیا تو غلام کے بدے غیر قاتل آزاد کا قلم

کیا جاتا اور اگر عورت قتل کر کی تو مرد قاتل کیا جاتا۔ اسی طالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا۔ اور عرب اپنی نسلی خروجت اور

قبائلی برتری کی تکمیل بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو یہ قلم منسوج کر دیا۔ اور حکم دیا کہ مقتول

کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ روح صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قبائل

میں بھی تھا بلکہ انہیں بھی اس پر عمل پیرا رہی ہیں۔ جنوبی افریقیہ کے عشیشی، اکٹھیلیا کے اہل باشدے اور امرکر کے ڈیڈی

انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ غیر اسلام کو ہی مصلح ہے کہ اس نے مجھوٹے انتیات کے بہت مدت ہوئی پاش پاش کر دیئے اور انسانی

مسادات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کی بلکہ عمل کر کے دکھا دیا۔

۲۰۷۔ قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا

لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ آج تک کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں جس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان خرابیوں

کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دیدی۔

۲۰۸۔ مِنْ أَخْيَهِ كَانَ فَظْلُهُ ثَانٌ رَكْتَمَاهُ۔ ایسی حالت میں جبکہ قاتل قتل کا ارتکاب کر جھاپا ہے۔ محبت، پیار، حم

فَإِنَّا عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَمَ أَعْلَمُ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

یک چیز تھا ہے لئے کہ طلب کرے مقتول گا دارث خواہ، دیکھ کر مطابق اور قاتل کو چھپتا کرتے ادا کرے پھر طرح۔ یہ رعایت ہے ۲۰۷

مَنْ زَلَّ كُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَ لَيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

مہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو جس نے زیادتی کی حلتہ راس کے بعد قلاس کے لیے در دنک عذاب

الْيَمِّ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا وَلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

ہے۔ اور مہارے لیے فصاص میں زندگی ہے ۱۔ سے حلقہ مندوں نے تاکہ تم قتل کر شیئے

او شفقت کے تمام بر شتے ٹوٹ پکھے ہیں۔ عدالت اور انتقام کی ہگ بھڑکنے لگی ہے۔ قرآن مقتول کے غصناں کا دارثوں کو بیاد دلاتا ہے کہ قاتل بھرم ہے، قصیر وار ہے اور تھا راغصہ بے جا بھی نہیں۔ تا، ہم تمہارا اسلامی بھائی تھے۔ الگ بخشن دفعہ معاف کرد تو کوئی ٹبی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جب جائیں۔ اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو بچا پک پڑگیا ہے اسے پھر سے سی دیجاۓ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی بھی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطلع بنادیا تھا۔

۲۰۸۔ مقتول کے دارثوں کو ضمیحہ کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پرم نے اتنا احسان کیا اس کس سے خوں بہا اس حرثیۃ سے طلب کر دی کہ اسے تخلیف نہ ہو۔ اور قاتل کو بدایت فرمائی کہ وہ احسان فرماؤش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی عبدی جلدی خون ان اور کرنے ۲۰۹۔ قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا دا کرنے کی بھی کجناہ شرکی ہے۔ یہ بھن مہارے رب کا تم پر احسان ہے۔ میں اسی تھیفہ کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا۔ قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار اسے در دنک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنا چاہئے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے فصاص لینے، حد و قائم کرنے اور تعزیزات لگانے کا حق افرا کرنیں دیا بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے کیونکہ عمل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراد فرمی پیدا ہو کے الاماں!

۲۱۰۔ اس آیت کریمہ میں قانون فصاص کی علت، اور حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ رہے گا۔ اور بھرما نہ ذہنیت کے دوسرا سے لوگ بھی نذر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اسی کے جرم کے بدلتے قتل کر دیا گی تو دوسرا سے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر بازار جائیں گے۔ اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معمصوم جانیں مغل و غارت سے بچ جائیں گی۔ اسی بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزا خالما نہ اور بھیان نہ ہے مقتول تو قتل ہو جکا، اب اس کے عوض ایک دوسرا سے کدمی کو تحفہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے۔ آپ خوفناک حقایق کو لکھ عبارتوں سے حسین بناسکتے ہیں لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ

تَتَقُونَ^(۱۷) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدًا كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

پر ہمیز کرنے لگو۔ غرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آجائے تم میں سے کسی کے موت۔ بشرطیکہ چھوڑے

خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقِيقًا

کچھ مال نہ۔ کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اضافات کے ساتھ ایسا کرنا

عَلَى الْمُتَّقِينَ^(۱۸) فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

ضروری ہے پر ہمیز کاروں پر۔ پھر جو بدلتے اس وصیت کو سنبھالنے کے بعد تو اس کا گناہ اُنمیں

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ طَبَّ اللَّهُ سَمِيمُ عَلِيهِ^(۱۹) فَمَنْ خَافَ

بدلتے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ اور جسے اندر یہ شہادت ہو

ان کے برے نتائج کو روپنڈری ہونے سے روک سکتے ہیں جس نکاح کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گھر میں چھانٹی کا پھیندا دیکھ کر رُپم ہو جائیں وہاں مظلوم و بے کس کا خلاہ ہی حافظ، وہ اپنے آخونش میں ایسے مجرموں کو نماز و نعمت سے پال رہا ہے جو اس کے ہمپستان کے شکنکفتہ پھپولوں کو مسل کر کر کھو دیں گے۔ وہ دین جو دین نظرت ہے، جو ہر قسمیت پر عدل و اضافات کا ترازوں برابر رکھنے کا مدعی ہے اس سے ایسی بے جا بلکہ نازی بانا زبرداری کی توقیعیت ہے۔

اللَّهُ إِنَّ آيَاتِ كَرِيمَةِ سَعْدَ كَأَيْكَ ادْجَاهِلَهُ بِرَوْاجِ مِنْ صَلَاحٍ فَرَانِيَ - اہلِ عَرَبٍ كَأَيْدِ تُوْرَتَهَا كَمَرَتَهُ وَقَتَ اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے ہیں سے ان کا دُور کا دھمکہ بھی نہ ہوتا۔ اور اپنے زعم بالل میں اسے سخاوت سے تغیریز کرتے۔ اور اگر کوئی وصیت یہی بغیر رحماتاً تو دراشت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی۔ والدین اور دُور سے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتوں میں کیونکہ علم صریح تھیں اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرمادی لیکن یہی سخت سارے سابقہ نظام کو دفعہ برمیں کیا بلکہ اسستہ اصلح فرمائی کا طبق ہو اور اصلاح کا قصد پورا ہوا جاتے اس سے پہلے کو دراشت کی قسم کا مغلظ و مکمل قانون نافذ کیا جاتا۔ انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے طبق مخصوصہ دیں۔ لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا ہیں جا سکتا تھا اس لیے کچھ مدت کے بعد سورہ النساء میں دراشت کے احکام بالتفصیل بیان فرمادیے۔ حضور کرم مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام دراشت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی مبالغت کردی جو دراشت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ وصیت

مِنْ مُّوصِّصِ جَنَّفًا أَوْ إِثْنَيْ فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ طَوْبَةٌ

و صیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا پس وہ صلح کرادے ان کے دمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمْ

بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ۔ اے ایمان والو ! فرض یکے لئے یہیں تم پر

الصَّيَامُ كَمَا كَتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ

روزے للہ جیسے فرض یکے لئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہنچے تھے کہ کہیں تم پر ہمیز گار بن جاؤ ۱۲۴

کو ماں ترقوک کے تیرے حصے تک محفوظ فرمادیا ۔ پڑھتے تک اپنے غیردارث رشتہ داروں یادو سرے سختی لوگوں یار فاہ عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے ۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ او منوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازل ہونا چاہیے بعض لوگ حضور علیہ الرسلوۃ والسلام کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کریم سے ہوئے ماننے سے اخخار کرنے لگے ہیں لیکن اگر وہ ذرا تائل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھاوی جائیں تو اپ کا فلام دراشت بازی پر طفلاں بن کر رہ جائے ۔ (مزید تحقیق کے لیے احتکری تالیف مُفت نیز الامام رضوی ۲۵۲۳ تا ۲۷۴ صفحہ ۲۵۶) تمام شکر و شبہات کا ضلع جو برج ہے

۱۱۲ صیام جمع ہے ۔ اس کا مفرد ہے صوم ۔ لغت میں صوم کا معنی ہے الامساک عمانتانع المیں النفس ۔ اس پیہیز سے باز رہنا ہیں کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو ۔ اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبارت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عملِ زوجیت سے روکا رہے ۔ یہ محکم بحث کے دوسرے سال نازل ہوا ۔ پہلی امتیوال پر بھی دوڑ فرض تھے ۔ گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ بھتی ۔

۱۱۳ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت رایشت کا بچل یہ ہے کہ قمّتیقی اور پاکیازدہن جاؤ ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں بالوں سے پرہیز کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاقی رذیلہ اور اعمال یہ سے انسان مکمل طور پر مستکش ہو جائے ۔ تم پاپس سے تڑپ لئے ہو، تم بھنوک سے بیتاب ہو ہے ہو۔ ممیں کوئی دکھ بھی نہیں رہا۔ ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو جا آنکھ اٹھا کر اُدھر دیکھنا بھی گوا را نہیں کرتے ۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے ناکہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے । اب جب حلال پیہیز اپنے رتب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رتب نے ہجھیہ ہجھیہ کے لیے حرام کر دیا ہے (حوری) رشتہ بد دیانتی وغیرہ) اگر یہ ماقابلہ بخوبی ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو ؟ ہرگز نہیں ۔ ہمیز بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی گیارہ ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یونہی گزار دو ۔ جو لوگ روزہ تو کھل لیتے ہیں لیکن جھوٹ غیبت نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے ۔ ان کے متعلق حضور پر حصلی اللہ علیہ آللہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمادیا ۔ من لم يدع قول الرؤ

اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ

یہ گفتگی کے چند روز میں ۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو گا یا سفر میں ہو تو اتنے

فَعَلَهُ مَنْ اِيَّاهُ اُخْرَاطَ وَ عَلَى الدِّينِ يُطِيقُونَ كَمْ فِدْيَةٍ طَعَامٌ

روزے اور دنوں میں رکھ لے ۔ اور جو لوگ گاہے راستے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدریہ سے

مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ

ایک سکین کا کھانا ۔ اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ۔ اور ممکنہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے

لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{۴۶} شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ

تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو ۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اُنْزَلَ فِیہ

والعمل بہا فلیس اللہ حاجۃ فی ان یَدِع طعامہ وشرابہ ۔ یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں بھپڑا اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ۔

۳۴۷ مرض اور مسا فر کو اس حکم سے مستثنی کر دیا ۔ مرض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی بلاکت یا اس کے حصے بڑھ جاتے کا خطہ ہو اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک ۳۴۷ کا سفر ہے جس کا اندازہ ۳۶۰ کوس یا ۲۵ میل ہے ۔ خواہ آپ اتنی سماں کرنے کیک گھنٹوں میں طے کریں آپ کو افطاکی اجازت ہے ۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نرکھ سکیں تو تھیا ہونے اور سفر سے واپس آئنے پر ان کی قضادینا ہو گی ۔ مرض اور مسا فر کو افطاکی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا ضرر ہے جو حنون کر کم حقیقی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفیری کیجی ہو گی روزہ رکھا اور بھی نہیں رکھا۔ لیکن ہر جہاں میں روزے کے افطاک کا حکم ہے بنتخواہ کے موقع پر حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس نے یوم قتال ایج جنگ کا دن ہے روزے افطار کرو ۔

۳۴۸ اس گیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے ۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدائی جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی انسانی کے پسیں نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزے نرکھے تو وہ فرید ادا کر دے ۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت درکت سے آشنا ہو گئے تو یہ عایت واپس لی گئی ۔ اور عام حکم دے دیا گیا ۔ فمن شهد منکو الشہر فلیصمه ۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو متوظر کھا گیا ہے ۔ یہ قول اس کے عین مطابق ہے ۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقوں کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فرید ادا کریں ۔ مثلاً بڑھا، دم، ملٹیپس، حاملہ عورت، دودھ بلانے والی ۔ ان کے لیے یہ عایت دی گئی ہے ۔ اور یہ عایت آج بھی مجال ہے ۔

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلْكَافِرِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانُ فَمَنْ

قرآن ۱۵۳ اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور (اس میں) روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق دہائل میں تیز کرنیں۔ سوچ

شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ طَوْهَرٌ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَالِيًّا

کوئی پائے ۲۱۴ متبیں سے اس مہینہ کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے۔ اور بجو کوئی ۲۱۵ بیمار ہو، یا

سَقَرَ فَعِلَّةٌ مِّنْ آيَاتِ أَخْرَىٰ طَيْرٌ يُرِيدُ اللَّهُ يَعْلَمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ

سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مہاری یہ سہولت اور نہیں چاہتا۔ ۲۱۵

۲۱۶ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی۔ کتم متنی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جاہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ تباہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قسم یا ملک کے لیے ہنسیں بکھر ہدایت للناس تمام اولاد اکام کے لیے ہادی و مرشد ہے۔ اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بال ممتاز ہو جاتے ہیں جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس مقابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محض حقیقت کی شکر اندازی میں صرف کر دی جائے۔ اور اس نعمت کی تکمیل کی بہترین صورت یہی ہے کہ وہ میں روزہ رکھا جائے۔ رات کو قرآن پڑھا اور سننا جائے تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بارہ ماہ کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم دشکرون اغلب اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

۲۱۷ علامہ قطبی تھختے ہیں فزالت الرخصۃ الامن عجز منہم پہلے حکم میں وزہ کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت وی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جانا دنوں مraudیں۔ یعنی خواہ و خود دیکھنے سے صحیح طریقے سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اختلاف مطابع ایک سلسلہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہائے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دو دراز علاقوں میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان البلاط اذ تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على اهل كل بلد ان تتمل على زعيته دون رویة غيره۔ (قطبی) قری سال کا ہمیڈہ مقرر فرمایا ہے کہ یہ سال کے مختلف موسماں میں پھرنا رہتا ہے۔ تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔

۲۱۸ کیونکہ فدیہ کی رعایت واپس لے لی گئی تھی اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ لفڑی اور سافر کے لیے افطار کی جو حاجزت دی گئی تھی شاید وہ بھی سافٹ کر دی گئی ہو۔ اس لیے اس کو واضح کیا کرنیں وہ رخصت بحال ہے۔

۲۱۹ یعنی احکام شرعیہ تو زیری احکام نہیں جن سے کسی کو تہجی کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا مٹش ان سے تہاری آسانی اور اصلاح کرنے ہے۔ اس طریقے میں گیا احکام شرعیہ کی روح روایا کا ذکر فرمادیا۔

۱۲۴ پکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْبِلُوا الْعُدُّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ

مہارے لیے دشواری اور (چاہتا ہے کہ) تم کتنی پوری کر لیا کرو۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے متین پرایت

وَلَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ۝ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدٌ مِّنْ قَرِيبٍ ط

دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اور جب پوچھیں فٹے آپ سے رسمی حجیب (میرے متعلق تو (ایں بتاؤ) میں (انجھ) بالکل نزدیک

أَحِبُّ دَعْوَةَ اللَّهِ إِذَا دَعَانَ فَلِيَسْتَجِيبُوا إِلَيْ وَلَيُؤْمِنُوا إِلَيْ

ہوں۔ قبل کرتا ہوں دعائے دعا کرنے والے کی جوئی دعائیں اگلے ہوں جوئی سے پہلے نہیں چاہتے کہ میرے حکم نہیں اور ایمان لا میں مجھ پر

۱۲۵ لے کتنی پیاری آیت ہے، بحوم بلا میں طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکست دل اور پیشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطیان و سکون کا لیا روح پر درپیام ہے۔ آپ عور فرمائیے۔ اسی قریب کے دلفظوں میں راحت اطیان کی ایک دنیا سیکھ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی ضل بہار کی نیم سحر میں، کسی ارب نیماں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جواہر ان دو لفظوں میں ہے! اُدھر دکھ دکارا جب یہ سُننا ہے کہ میرا ماں، میرا خالی محب سے الگ تھلک کہیں دُور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو۔ رنج دالم کی خبر نہ ہو بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب نزدیک ہے، رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تھا بی زبان پر اپنی ہوئی بات تو کیا مہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار بوقوت گریانی کو پانچھرہ دکھانے سے شرمند ہیں۔ انکار اور انیشور کے دُنے نازک و لطیف آبیگھنے جو ہوائی صوتی لہ دل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے رجمن و دریم بھی تم دستِ دعا دراز تو کرو۔ تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو تم دل کے ہاتھوں سے اُس کے درجحت پرستک تو تو، وہ سُنے گا تھا بی فرماد۔ وہ دعا کریم تھا بی دعا۔ وہ بدل دے گا تھا بی بگڑی ہوئی منتظر۔ لیکن جب وہ کرم فرمائے تو مکرش زبن جانا۔ اسی طرح سر نیاز اس کے دراقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں۔ جو عہد تم نے باذھاتھا ان کو نباہتہ رہنا۔ مرشد وہ ایت پاجاؤ گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔

۱۲۶ ممکن ہے یہاں پر کسی کوشک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سالماں گرد جاتے میں لکین قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ حجت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر الرحل بیطلیل السفر یمد یدہ الی السماوی یارب اشعش اغبر مطعمہ حرام و ملبوس حرام و عنذی بالحرام فا فی یستجاذ لذلک رودہ اسلام حضور نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دُور دراز کا سفر کرتا ہے، انسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دُعا نہ ہے۔ بال اسکے پریشان جنم اس کا گرداؤ کو۔ اس کا کہاں ایکس سب حرام کیا ہے۔ اس کے پیٹ میں جو غذہ ہے وہ بھی حرام ہے، (تو وہ لاکھ لپکارے اور دعائیں کرے) ایسے حرام خور کی دعا کب قبل ہونے کے لائق ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ^{۱۸۴} أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى

تاک وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ حلال ۲۲ کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی

نِسَاءٍ كُمْ طَهْنَ لِبَاسٍ لَكُمْ وَآتُوهُنَّ طَعَلَمَ اللَّهُ

عورتوں کے پاس جانا۔ وہ ۲۲ تھا کہیے پر وہ زینت دکارم ہیں اور تم ان کیلئے پر وہ، زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَّا عَنْكُمْ

کرم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا ہتھیں،

فَالْعَنْ بَأْشِرٍ وَهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا

سواب تم ان سے ملبو ملاقو اور طلب کرو جو (یقینت میں) لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اور کھاؤ اور پیسو

کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فرموش کر دیا۔ بلکہ ہم نے تحمل محرم میں فرق کرنے کی زحمت بھی کھی گوارا ہتھیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو جانتے تجھب نہیں بلکہ تجھب و حیرت تو اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ پھر بھی وہ فریادیں سن لیتا ہے۔

۲۲۱ رابتہ میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا۔ لیکن بعد میں تخفیف کردی گئی اور رات کو مقابلاً کی اجازت دے دی گئی۔ ان گزنت سلام اور بے شمار درود و داس ذات پاک پر برجست بن کر آیا تھا۔ رحمت لے کر آیا تھا۔ رفت ایک جامن لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے ساتے درجہ کو شامل ہے۔ قال الزجاج الرفت کلمہ جامعتہ لکل مایرید الرجل من امریتہ (قرطبی)

۲۲۲ آیت کا یہ حصہ خاص توجیہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش مہموں سے بیان فرمایا گیا ہے یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں دیے ہیں اس کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی تبریز کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پڑھ دے ہے۔ بر عیب کو چھپا تاہے۔ زینت ہے حسن و جمال کو نکھرا تاہے۔ راحت ہے سر دی و گری سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خانہ کے لیے اور ایک اچھا خادم زبانی بیوی کے لیے پر وہ، زینت اور راحت نہیں ہے یقیناً ہے۔

حسن ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بُند تصور اور علی امصار ہو سکے لیے یہ دُنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنیوالے کو اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے۔ اگر آیت کے اسی حصہ پر نظر والیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں اسلام نے ملت ایمانی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم دھیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے عورت کو محفل قرض و سر و دکی زینت بننے کی

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخِيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخِيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

بیہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تھا رے یہ سفید ڈورا۔ سیاہ ڈورے سے ۳۲۷ صبح کے

الْفَجْرِ صَلَّمَ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّلَلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَإِنَّهُمْ

وہ مت پھر پورا کرو ۳۲۸ روزہ کو رات تک اور نہ مبادرت کرو ان سے ۳۲۵ جب کہ

عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهُنَّ كَذَلِكَ

تم امتحان کاف میٹھے ہو مسجدوں میں یہ اللہ کی حدیں ہیں ان (کوتورنے) کے ۳۲۶ قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح

راہیز نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے۔ اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطہ حیات ہے اور اس کے استقلال کی ایسی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند ہے۔ کسی کو پسند آتے یہ بات یاد کوئی خوش ہو رہا نہ خوش۔ ہلام کوہ دلخرازینا نے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لوح بھی خواہوں نے اس کے فطری خدو خال میں جس وقت قطع دبر بید گوارا کر لی اُس دن اسلام بھیثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھپن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ اس ورزہ سے بچا کرے۔

۳۲۳ اس سے مراد صحیح صادق کا طلوع ہے یعنی وہ روشنی جو دیاں بائیں بھیتی ہے قال الجھور ذالک الفجر المعرض في الأفق يمنةً وَلِيُسْرَةً (قرطبی) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عذی بن حاتم نے حضور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اکیا خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ درتاگے مراد ہیں حضور نے فرمایا: لابل ہو سواد اللیل و بیاض النہار نہیں بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ اور لغت عرب میں خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی مشتمل ہوتا ہے۔ والخیط فی کلامہم عبارۃ عن اللون۔ (قرطبی)

۳۲۴ پہلے روزے کی رات بدلا کا وقت بتایا اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صحیح صادق سے لے کر رات کنے تک روزہ رکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فراہدی اذ الدبر للنہار من همنا واقب اللیل من هہنا جب ادھر (مغرب) سے دن پیٹھ پھیر دے اور ادھر (شرق) سے رات آجائے وہ وقت ہے انظار کا۔ بعض لوگ روزہ کے انتظام میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب ہیں ہوتا کہ وہ انظار کا ناقہ رہ بجا دیتے ہیں۔

۳۲۵ اگر کوئی مختلف ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاشرت جائز نہیں۔

۳۲۶ یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر ہگئے تک جانے کا تو خیال ہی ملت کرو۔ تمہاری سلامتی اور جہلائی اسی میں ہے ان کے نزدیک تک مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی روتھا رے قدم حدد کے پاس مجھے ہی نہ رے اور تم بے بس اور اغیرہ۔

يَبْيَنُ اللَّهُ أَيْتَهُ لِلْقَارِئِ لِعَلَّهُمْ يَتَفَقَّدُونَ^{۱۸۷} وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آئیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کر لیں ۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرا سے کامال

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِنْ

آپس میں ۲۷۸ ناجائز طریقہ سے اور نہ ۲۷۸ رسائی عمل کرو اس مال سے (رشوت دیکر) حاکموں تک کہ لوں کھاؤ کچھ حصہ

ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ پھٹکو
۲۷۸ مسلمی نظام معاشریات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے ۔ یعنی جاہر طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ ۔ علام قرطیسی فرماتا ہے من اخذ مال عنیرہ لاعلی وجہ اذن الشرع فقد اکمل بالباطل ۔ وہ شخص جس نے یہ طریقہ سے مال حاصل کیا جس کی شرعتیت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا ۔ فید خل فیہ القمار وللذی اع
والفضوب و جحد الحقوق و مالا متطیب بہ نفس مالکہ : ترجمہ ۔ اس میں جزا ، دھوکہ دہی ، زبردستی چھین لینا
کسی کے حقوق کا انکا راد وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا ۔ سب اکل باطل میں شامل ہیں ۔ علام قرطیسی نے تصریح کی ہے، اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی فتنم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلو کر لپسے حق میں فیصلہ کر لے تو تقاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا ۔ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضى . حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کا ارشاد بھی ہے
یہجے ۔ انکم تختصمون ای و لعل بعضکم ان یکون الحنیجتی من بعض فاقضی لم على خو
ما اسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا ياخذه فاما منا اقطع له قطعة من نار ۔
(قرطیسی) ترجمہ : تم میرے پاس بھٹکے چکانے کے لیے آتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے ایک فرتوں زیادہ چرب زبان ہو اور میں ،
ابفرض حال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں ۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دی دں تو وہ ہرگز نہ لے بے شک وہ اس
کے حق میں آگل کا ایک ٹکڑا ہے ۔

اگر ہمارا بھائی لین دین قرآن کے اس حکم او حضور پر کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو تکنی مقدمہ بازیا ختم ہو جائیں ۔
ان کی پیر دی پر جو سے مجاہد پسیہ اور بے انداز وقت صنائع ہوتا ہے وہ بچ جائے ۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقشان
یہ بھی ہے کہ قربتی رشتہ طوف جلتے ہیں ۔ باہمی محبت اور اخلاص کی بھی نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے ۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم
کو سچے دل سے مان لیں تو مسلمی تعاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا ۔ اور اس کا محوال اتنا پاکیزہ اور نجاشی کو اب جائے گا
جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ کاش اقرآن کو سینے سے لکانے والا مسلمان اس پر عمل کرنیکی اہمیت کا بھی احساس کرے
۲۷۸ دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھلنے کا یہ بھی ایک مردج اور مورث طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دیکر ان سے پانے
حق میں فیصلہ کرایا جائے ۔ اس ناپاک طریقہ کی مانعت کو الگ ذکر فرمایا ۔ لفظ تدلوا مانعوذ ہے اولاد سے ۔ اس کا معنی ہے رہی

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَشُورِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ

لوگوں کے مال کا خلم سے حلاکتہ مم جانتے ہو (کہ اللہ نے یہ علام یا ہے)۔ درافت کرتے ہیں آپ سے نہ نے چاند کی شمع

فَلِهِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةُ وَلَيْسَ الْبُرُّ بِأَنْ تَأْتِوا

(کہ یہ کیونکہ گھستے بڑھتے ہیں) فرمائیے یہ وقت کی علمتیں ہیں لوگوں کیلئے اوج کیلئے اور یہ کوئی نیکی ہیں کہ تم داخل ہو

کو کنوئیں میں پانی نمکانے کے لیے لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کہی پھر شک پہنچنے کا ذریحہ بنا۔ استعین للتوصل الى الشيء
(مفردات)۔

۲۹: فریت کامنی گردہ بھی ہے۔ اور کسی چیز کے حصہ اور بجز کو بھی فریت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے۔ فریقاں
قطعہ و مجزاً (قطبی)۔

۳۰: قدرت کی کوشش سازی ملاحظہ ہو۔ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسیں بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کچھ
چل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان میں اتنا غرض رکھ دیا کہ لاکھ سر ٹکھے ان کی وحشی اور سر کارا معلوم ہیں ہوتا۔ اور اس پر
ستم طریقی یہ فرمائی کہ کھون لگانے کی ترب اور سراغسانی کی بے تابیاں مغض کر دیں کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ
اس کے بغیر تو عدوں کا نبات کے ہنس پر نکھار آسکتا تھا اور زان صلاحیتوں کا انہما برہسکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں
سمودی گئی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غوض سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہمیت حسن اور جلال اور بانی کے سامنے
سر بجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا کائنات پر جبود طاری ہو گیا۔ ہر چیز افسرہ ہر ظراہ پر شرودہ نظر آتے لگا۔ کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا
جو گیسوئے کائنات کی مشاہی کے لیے پیدا ہوا تھا اور طبیع فتنہ طرز و جلوہ پر کو پا بچالاں کر دیا گیا تھا۔ عقل و نظر کے سب چیزیں
بچھا دیئے گئے تھے۔ ورنی آتی تو کہاں سے، بارونت ہوتی تو کیا چیز ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرب حرم مصلی اللہ علیہ و آله
و سلم کو معمورث فرمایا۔ حس نے اک انسان کی آنکھ سے بھالت کی پٹی کھوئی۔ اس کی چند ہیاتی ہوئی آنکھوں کو تازہ بنیانی مرمت فرمائی
اور اسے تباہ کیا یہ مہر و ماہ، ارض و سما، کوہ و دمن، دریا و صحراء تیرے سب جو نہیں تیرے سب جو نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں تو قدم
شو ق اٹھا تو ہی ان کی ساری خوبیں تیری راہ میں پامال ہونتے کیلئے بے چین ہیں تو پشم جہاں میں کھول کر تو دیکھاں کی ساری
رعایات اپنے نتاب اللہ کے لیے بے تاب ہیں۔ اور تو ان سے ڈر کر، مروع ہو کر دو رجھاگئے کی تو شرش کرتا ہے اور جب
بھاگ نہیں سکتا تو عن شکا کر سجدہ کنائیں کئے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ فاران کی چڑیوں سے ایک سیجانے انسان کی خوابیدہ قوتیں
بلکہ انسان کے خوابیدہ بخت کو جننجھوڑا سے

بھاگ اگرچہ دکروں ہے فُسُم باذن اللہ

وہی زمیں وہی گردوں ہے فُسُم باذن اللہ

الْبَيْوْتَ مِنْ طُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيْوْتَ

گھروں میں انکے پچھو اڑے سے ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ اور آیا کرو گھروں میں ۳۷

کیا نوازے اناجیت کو لاشیں ہیں ۔ پتیری رگوں میں دہی خون ہے شتم بادی اللہ جہاں تک انسان کی نجومی غلطی کا تعلق تھا اس کی صلاح کردی گئی۔ انہیں تباہیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معمود نہیں بلکہ تمہارے یہے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا اور کائنات کی بہرحیک کا غایق اللہ وحدۃ الشکر ہے اور اس حقیقت کو اتنا فتنہ کر دیا کر شک و شہب کا شایری تک نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد ۹ دہی کائنات کی دلکشی تھی۔ وہی اس کا غرض تھا اور دہی جذبہ جستجو کی چیزوں تھی۔ جب دوسری بھجن کو حل نہ کر پتہ تھوڑی بیکری کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فخری افتابی سے پہلے ہے وہی اس مشکل کو اس کر دے گا۔ ان کی یہ ترقع نہ بے محل تھی اور نہ بیجا۔ لیکن اس اشتاد کامل کی شفقت ان کی نیز ٹھکہش پوری کرنے پر کامدہ نہ ہوتی۔ کیونکہ اس میں ان کا سارا سرفاً قصان تھا۔ آپ شایر پچھیں یہ کہے ہی تو سینے اگر کوئی اشتاد ریاضی کے سب سوال خود حل کرے دے دیا کرے اور اپنے طلبہ کو اپنا داعی ستمال کرنے کا موقع ہی نہ مے تو کیا وہ ریاضی میں ہمارت پیدا کر سکیں گے جبکہ ان میں خود عستادی کا جو ہر جچکے گا؟ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گھر کو کھو لے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے اس یہے دانستہ عراض فرمایا کہ حضور کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو برائے کار لا کر ان چیزوں کو سخراج فرمانبرداری نہیں۔ اگر حضور فلکیات و طبعیات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امانت کی عظیمیں باخچہ ہو کر رہ جاتیں۔ اور افلات متعقولوں افلاطون و تھوفیتوں اور افلاطونیوں کی بانگ شوق افروز پر کینکریتیک کی جاسکتی۔ اسی قسم کا یہ سوال ہے اور اس کا جواب۔ چاند کا منوار ہے ایک اندازے سے اس کا بڑھا، پھر گھٹنا اور پھر گزاب ہو جانا۔ ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔ صحابہ نے اسکی وجہ دریافت کی تو ائمہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا۔ کیونکہ اس کا جواب تینی خود تلاش کرنا تھا۔ بلکہ چاند کے گھٹنے ہڑھنے کے فاویم بیان دینے کے اس سے تم اپنی عبادات، لیں دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو۔ اور یہ کہی ہوئی جنتی ہے جس سے شخص پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھے۔ شہری ہو یا دیہاتی، وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور کے اس سکوت سے جو عین صلحت اور ساری شفقت و رحمت کا مظہر ہے۔ بعض کم فہم یہ تیجہ اخذ کرنے لگے میں کہ حضور کو نہ نہیں بالشہر امور کا علم نہ تھا۔ اور خاموشی لا ملکی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ کہے باور کر لیا جائے کہ نبی کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مذہل یا میرٹ کے ایک طالب علم کو ہر اک تائبے کرتی غیر مناسب ہے یہ بات پ

اللہ امام بخاریؓ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ ستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھروں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ بھیچھے سے دوار میں سوراخ کر کے داخل ہو کرتے اور اس کو بڑی نیچی سمجھتے۔ اس لایعنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب کہتے اہنہ

مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتْقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلٍ

ان کے دروازوں سے اور درستہ رہو اللہ کے ہر مید پر کامیاب ہو جاؤ اور لڑو اللہ کی راہ میں ۳۳۷

اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُمْ بِحِبْ

ان سے جو تم سے رہتے ہیں اور (ان پر بھی) زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا

اق بیت من بابہ۔ یعنی اس نے صحیح طریقہ سے یہ کام کیا۔ اور اگر غلط طریقہ سے کوئی کام کرے تو کہتے انہے لمیات البیت من بابہ : بیاں بھی سائیں کوتیا گیا کہ ان چیزوں کے درافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور بندی سے پوچھ دیا۔ بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ واللہ عالم

۲۳۶ ان آیات میں ان ظلموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر بارہ تیرہ بر مسلسل ظلم کے پھاڑ توڑے جلتے ہے۔ اور تیسم و رضد کے یہ محبت خاصو شی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو بھجنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کو خوب ذہن شین کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ۴۔ کس کے ساتھ۔۔۔ اور کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کردی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق توفیر میا : ف سبیل اللہ حق کی سر بلندی کے لیے۔ لُطف مار، تجارتی و صفتی رقبابت، وطنی یا نسلی عداوت و تحصیب یا اس فرم کے سفل مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ، المذین يقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جو تم پر ملینا کرنے کے لیے پرتوں رہے ہیں۔ اور کس شرط کے ساتھ "لا تعتدوا" کجب جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ آتش ہتھاں بھڑک رہی ہوئی ہے۔ خبردار۔ اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں کہتا۔ عورتوں مخصوص بچپن، اپا، بھوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور ابیوں پر با تھا اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے (بشرطیکہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں)۔ حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سپہ سالار زینیں ابی شفیان کو الوداع کہنے کے لیے پایا۔ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار و ختموں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیریں دار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہی اضافت سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم اسی گزی ہے یا آج کی مہذب و متمدن دنیا میں کوئی قوم اسی موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل والضافات کا یوں لحاظ رکھا گی ہر آج تو جنگ مشروع ہوئی ہے تو پرمیں شہروں اور آباد بستیوں کو ایم بھوں سے اٹا کر کرکے دیا جاتا ہے۔ عورتوں مخصوص بچپن، بوڑھوں بیماروں، کرسی سے در گذر نہیں کی جاتی۔ سہپتا لوں، درگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پُشت وال دیا جاتا ہے۔

الْمُعْتَدِلُونَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ

زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاد ۳۳۳ میں اور نکال دو۔ انہیں

مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُوهُمْ

جہاں سے انہوں نے ہمیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو ۳۲۲ میں قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ جنگ کرو ان سے

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فَإِذَا قُتِلُوكُمْ

مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ (حدود) تم سے دہاں جنگ کرنے لگیں۔ سو اگر وہ لڑیں مم تے

فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ فَإِنْ اتَّهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

تو پھر قتل کرو انہیں۔ یہی سزا ہے (ایسے) کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں (تو جان لوکہ) اللہ تعالیٰ

غَفُورٌ لِّرَحِيمٍ وَقُتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونُ

بہت سختہ والا ہیش حرم فرمائیں واللہ ہے۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے نستہ (و فنا) ۳۴۵ میں اور ہو جائے

۳۳۳ میں جب صلح حید عبییر کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رکھیاں پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت حرام میں حدود حرم میں ان سے کینونکر جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آنادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔

۳۴۳ میں فتنہ کیا ہے جب رضا میں نکالنے کے لیے سونے کو گھپلتا ہے تو عرب کہتے ہیں۔ فتن الصانع الذهب او کسوئی کو فتنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا المعنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو دین سے برگشہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غیر مسلمانوں کو دین سے برگشہ کرنے کے لیے سخت ترین سزا میں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا جیسا کہ جرم ہے لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز کھنابن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے لفظیں رکھتا ہو قتل سے بھی زیادہ خوفناک حرم ہے۔

۳۴۵ میں پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی۔ اب اس کی انتہا کا ذکر ہے۔ یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے مذاہ میں مداخلت اور جگہ کرنے کی توتّ طوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے

الَّذِينَ لِلَّهِ طَقَانُ اتَّهَوْا فَلَا عُدُونَ وَانَّ إِلَاعَلَى الظَّلَمِيْنَ ۝

دین صرف اللہ کے یہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو (بیکھو) کے سختی کرسی پر جائز نہیں گر ظالموں پر۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحِرْمَةُ قِصَاصٌ فِيمَنَ

حرمت والا ہمیں لئے حرمت ولے ہمیں کا بدله ہے اور ساری حرمتوں میں (فریقین کے روئیں) برابری چاہئے

اعْتَدُوا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا وَاعْلَمُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدُوا عَلَيْكُمْ

تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو (لیکن) اسی تدریجی زیادتی اس نے تم پر کی ہو ،

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ وَأَنْفَقُوا فِي

اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور جان لوتیں اللہ (کی نظر) پر ہمیز گاروں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کیا کرو

سَيِّدُ الْلَّهِ وَلَا تَلْقُوا يَوْمَ يُكَوَّلُ إِلَى التَّهْلِكَةِ شَوَّالَ حِسْنَوَا شَوَّالَ

اللہ کی راہ میں لئے اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں لئے اور اپنے کام کیا کرو

۳۳۶ لئے عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برس پر پا کر رہا کرتے تھے لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں چار ماہ، حرم، رجب ، ذی قعدا اور ذی الحجه میں جنگ بند کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب سلمن ماہ ذی القعده میں عرو کے لیے گئے تو عمار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام نوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو۔ اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کر بستہ ہو جاؤ۔

۳۳۷ پہلے جانی جہاں دکھم دیا اب مالی جہاں دکھم دیا جا رہا ہے۔

۳۳۸ حضرت ابوالیوب انصاری صحنی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اَنَّ الْاِلْقَاءَ بِالْيَدِ إِلَى التَّهْلِكَةِ هُوَ تَرْكُ الْجَهَادِ فِي سَيِّدِ الْلَّهِ۔ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بلکت میں ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاں دھپور دے۔ امام رتندی محمد اللہ تعالیٰ رحمۃت کرتے ہیں کہ اسلام ابی عمران سے مردی ہے کہ جب ہم نے فتنہ نظر پر حملہ کیا تو رومیوں کا آیہ شکر جبارہ اس مقابله میں صفت آرا ہوا۔ مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تہبا شکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صفت میں گھس گیا۔ لوگ چلائے بسم اللہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بلکہ کیا حضرت ابوالیوب کھڑے ہو گئے اور فرانس لے۔ اے لوگو! اتم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ اُوئیں تینیں اس کاشان نزول بتاویں جب اسلام کو غلبہ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^(۱۰) وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے ۔ اور پورا کرد ۲۳۹ نے حج اور عمرہ اللہ کی ضمانت کیے

أُحَمِّرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهُدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوا رَاءُ وَسَكُونٌ

پھر اگر تم گھر جاؤ ۲۳۹ نے تو قربانی کا جائز بھروسائی سے مل جائے (وہ بھیجو) اور نہ منڈاؤ اپنے سر یا ہاتھ میں تک

حَتَّىٰ يَبْلُغُ الْهُدَىٰ حِلَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بَهْ

ہر ہنچ جائے قربانی کا جائز اپنے ٹھکانے پر ۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اے

أَذْعَى مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْ يَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

پھر تکلیف ہو سریں (اور وہ سرمنڈاے) تو وہ فریدہ دیے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے ،

حامل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خیریہ مشورہ کیا کہ اب جانبازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و نعمت بھی حامل ہو گئی ہے اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھدیتی باری اور کار و بار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے ۔ اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہئیں ۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار اگر تم چہاد کو چھپوڑ کر راست و تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھ میں بھینک دیا ہے ۔ حضرت ابوالیوب راطرے رہے یا ہاتھ کر جام شہادت نوش کیا اور قسطنطینیہ میں یہی ان کا مزار پر اوارہ بیجاں ملت اور قال ملت مسلمان کو آج بھی اس جدوجہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ تباہ ہے ۔

۲۳۹ عرب قید زمانے سے حج کیا کرتے تھے ۔ لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا ۔ عبارت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا اس تغیرہ ہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا ۔ لوگ آتے سیر و تفریح کر جاتے تھا اپنے قصائد اور حطبیب اپنے آہتنیں خطبے سننا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فضاحت و بلا غصت کا سکر جاتے اور چلے جاتے ۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب کرم رہتا ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کی رضا جوئی کے لیے یعنی پورے آداب و شرائع کے ساتھ پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ ۔

۲۴۰ اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستہ میں بیمار ہو گئے یا مسکن نے راستہ بند کر دیا ۔ اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے ۔ تواب احرام سے نسلکتے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جائز بھروسہ ہے اسے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دیا اس کی ممتیت رہ کر دو اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تھاری طرف سے جائز رہ کر دیں ۔ جب تم زیارت کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور

فَإِذَا أَمْتَمْ فِيمَ تَمَّتْ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

او جب تم امن ہو جاؤ (اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ) تو جفا نامہ اٹھانا چاہئے عمرہ کا ۳۲۱ حج کے ساتھ توجہ سے میسر ہو

مِنَ الْهَدِيٍ فِيمَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَاتِهِ فِي الْحَجَّ وَ

فرابی دے پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے حج کے وقت اور

سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ

سات جب تم گھر لوٹ آؤ یہ پورے دس (روزے) ہوئے ۔ یہ رعایت اس کے یہے

أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

ہے ۳۲۲ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں ۔ اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ

جانور ذبح کر دیا ہو گا تو قسم منڈا کریا بال کٹو اکرا حرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر سبایاری کی وجہ سے جلد سرمنڈلنے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیری کے طور پر روزے رکھو۔ صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ تین روزے یا چھ سوکھنیوں کو ۴-۲ سیر گندم یا ۷-۴ سیر جو (صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق) دے یا کم سے کم بھری ذبح کر دے اور جماعت بنو لے ۳۲۳ حج کی تین صورتیں ہیں، ۱- افراد یعنی حج کے دونوں میں صرف حج کیا اس میں قربانی واجب نہیں۔ ۲- متین۔ لیکن فیض ایام حج میں پہنچنے عذر کا حرام باندھا طواف سوچی کے بعد تنگ کر کے اس حرام سے غانغہ گیا پھر وقت آیا تو حج کا حرام باندھا یا نہ کرکے ایک ہری وقت میں دو عبادتیں جمع کریں اور دوہری قافیہ اٹھایا تو سے متنقہ کہتے ہیں۔ ۳- قران۔ ایکسا تھا یعنی حج و عمرہ کا حرام باندھا پہنچنے عذر کے لئے اکان اولیے لیکن اعتماد پڑ رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے اکان ادا کر کے حل کرایا اور حرام سے غانغہ ہوا پھپلی دونوں صورتوں میں ایک سفریں دو عبادتیں جمع کریں۔ اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی۔

۳۲۴ ایک سفریں حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ کسکے رہنے والے نہیں بلکہ دو دروازکی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ کہ کے باشندوں اور حدوں میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک بھی حج ہے، مسئلہ: میقات اس بھر کو کہتے ہیں جہاں باہر سے صدی حس مکرنے والا جب پہنچنے تو اسے حج ہے کہ بغیر حرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذو الحیفہ۔ اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات عرق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے جھنہ۔ اہل خند کے لیے قرن۔ اہل مین اور اس طرف سے آئے والوں کے لیے یلمیم۔ پاکستان کے حاجی جو بھری راستے سے جلتے ہیں ان کا میقات بھی یلمیم ہے۔ جب ان کا جہاں بھیرہ احمدیہ داخل ہوا اور یلم

کوئی سے بھروسہ نہ ہوں گا جیسی کہ اپنے

فراز (فراز)

۱۰

三

卷二

حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں
تو باری اسکا مکمل ہوا تھا

سیف الدین

مژده خانه

مکانیزم

۱۰

جبلی رہت ہے اسی سے خوشخبری
عینہ ملے نے اپنے الکھبیں پڑا یا
ایک الکھاہیں پڑا کچھ اس
کو خطاں ازما۔

گلستان

A hand-drawn diagram on a white background. It features a large, irregular loop with a winding arrow pointing clockwise. To the right of this loop is a small square with a vertical line through its center, also with an arrow pointing towards it. Below the main loop, there is a winding path with the Persian word 'زنگنه' written above it. The entire drawing is done with black ink and includes several other smaller arrows and lines.

三

卷之三

شَدِيدُ الْعِقَابٍ أَكْبَرُ أَشْهَرٌ مَعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ

ساخت سزا وینے والا ہے۔

الْجَهَنَّمُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْجَهَنَّمِ وَمَا تَفْعَلُوا

حج کے چند ہیں ہیں جو معلوم ہیں ۲۳۳ سے پس جو نیت کر لے ان میں

حج کی تواریخ ہیں بے یادی کی بات اور نافرانی اور نجھڑا ۲۳۳ سے حج کے دنوں میں اور جو تم نیک کام کر دے ۲۳۵ سے

من خیرٰ یعلیمہ اللہ و تزوہ و دوافاً فَإِنَّ خَيْرَ الرَّازِدِ التَّقْوَىٰ وَ

الله تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا تو شہ ۲۳۶ سے تیار کرو اور سب سے بہتر تو شہ تو پرہیز کاری ہے اور

الْتَّقْوَىٰ يَا وَلِيَ الْأَلْبَابٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ حِنَا حَانَهُ أَنْ تَدْتَغُوا

درستے رہو مجھ سے اے عقائد! ہیں ہے تم پر ۲۳۷ کوئی حریج را کرج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو

کے مقابل سے گزرے تو دہاں ان حاجیوں کو حرام باندھنا ہوتا ہے۔

۲۳۸ یعنی شوال، ذلیعید، اور ذی الحجه کے دن دن۔

۲۳۹ رفت کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأة بالكلام۔ جماع کرنا یا اس سے متعلق باتیں کرنا۔

فسوچ: جبیح المعاصی کلہا۔ تمام گناہ۔ چھوٹے بڑے خالہ پر شیدہ۔ جدال: جھگڑا۔ ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقتی مقصد یعنی تربیت نفس ضایع نہ ہو جائے۔

۲۴۰ یعنی حونیک کام تم کرتے ہو جس کوئی اور نہیں دیکھتا یا جس متعلق جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دو سر ہنہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تھہارے ہریں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اپنے نفس سے تھہاری کش میکش کی زیعت کو بھی خوب جانتا ہے وہ ہیں

ضد اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

۲۴۱ عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اپنے میں کا متور تھا کہ حبِ حج کی نیت سے گھروں سے بیکٹے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے اور رستے میں لوگوں سے بھیک مانگ کرتے میلانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گی اور حکم دیا کہ زاد راہ لے کر حلاکرو کسی کی خدمت نہ کر سو تو کم از کم دوسروں پر بوجہ تو نہ پڑ ساتھ ہی فراہم اہمترین تو شرتفونی ہے جو سفر افترت میں کام آتا ہے۔

۲۴۲ امام رازیؒ لکھتے ہیں نزات رد اعلیٰ من یقول لاحق للتجار والاجراء على المجالين۔ یہ آیت ان لوگوں کے ردمیں نازل ہوئی جو یہ کہتے کہ تاجر و مزدوروں اور سارے باؤں کا کوئی حج نہیں بلکہ اجازت دی کر تب بشک نفع کا دلکین ایسا نہ ہو کم فرع کمانے میں ہی لگے رہو۔ اور یہی تھا امر مقصداً و لین ہو کر رہ جائے۔ اور حقیقتی معانی ذکر الہی بھول جائے۔

فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَّلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

اپنے رب کا فضل (رزق) پھر جب دلیں آؤ عرفات سے لئے تو ذکر کرو اللہ کا

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرْوْهُ كَمَا هَدَّ لَكُمْ وَانْكُنْتُمْ مِنْ

مشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے بھیں سمجھایا اور اگرچہ تم اس سے

قَبْلَهُ لَيْمَنَ الصَّالِيْنَ ثُمَّ أَفْيُضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی لئے مزدراں قربیش (وابہ تک) (جابر)، دلیں آجہاں عکار کو دمر لوگ اس سے

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ

پس آتیے، اور معافی مانگو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت والانہایت حکم کرنے والا ہے، پھر جب تم پولوے کر چکو

فَمَنَّا إِسْكُنْهُ فَإِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ كَذَّ كَرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذَكْرًا طَفِيلَ

ج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طبقے پہنچنے پاپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو اور کچھ

لئے حکم ہوتا ہے جب عرفات میں عاضی کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اس کی زیارت و تبلیغ میں وقت صرف

کرو، حاجی دسویں کی رات بیان مسر کرتے ہیں مشعر حرام اسی مسجد کو کہتے ہیں جو دادی مزدلفہ کے لیکے پہاڑ فتح پر ہے جہاں امام فیام کرتا ہے۔ اگرچہ سارا مزدلفہ (اماًوا دادی محشر) موقعت ہے لیکن مشعر حرام اور اس کے قرب میں وقت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

۲۲۹ لئے قریش اپنے یہ یہنک سمجھتے تھے کہ دوسرا سو لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقت کریں اس یہ وہ مزدلفہ

ہی میں شہرتے اور اس کی وجہ بیان کرتے تھے اہل اللہ ووطان حرمۃ (یعنی تم ایں شہریں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی میراث و نعمت پیش کرنے

اور انہیں حکم دیا کر جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹوچ تو ہے ہی سب یا طل امتیازات مٹانے کے لیے سبھوڑے

تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نئے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہر و کعب ہو گا اور

۲۵۰ ان کی ایک اور جاہلہ نسم کا بطلان کیا جا رہے ہے۔ وہ جب جس سے فارغ ہوتے تو بیست اللہ کے پاس علیمین منعقد کرتے

جن میں وہ پہنچنے پاپ دادا کی تقریبیوں کے پہلے بامدھا کرتے۔ حکم ہوتا ہے اپنے رب کی کو یاد کرو جیسے اپنے پاپ دادا کو ذوق شوق سے یاد کیا کرتے۔ اذ اخْتَيَارَكَ لَئِنْهِنْ بَلَدَ تَقْرِيْبَكَ کے لیے ہے اور بل کا ہم معنی ہے۔ یعنی بلکہ ان سے بھی

الَّذِي أَنْتَ فِي دُنْيَا وَمَا لَكَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

رُوگ بیں جو کہتے ہیں ا۱۵۲ آئے ہمارے رب دیدے ہمیں دُنیا میں ہی (سب کھو) نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں

خَلَاقٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسِنَةٌ وَفِي

کوئی حسنہ اور بعض لوگ بیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اعطاؤ رہا ہمیں دُنیا میں بھی بھلانی اور

الْآخِرَةِ حَسِنَةٌ وَقِنَا عَذَابًا لَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا

آخرت میں بھی بھلانی ۱۵۲ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اپنی لوگوں کو بڑا حسنہ بلیکا (دونوں ہماؤں میں) بیب

كَسِبُوا طَوَّافَ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابٍ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودٍ

انکی (نیک) کلائی کے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب پڑکانے والا ہے۔ اور (خوب) یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں جو معدود چند ہیں ۱۵۳

زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔
۱۵۴ مُشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا۔ وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے۔ کس لیے جو کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں دُنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے۔

۱۵۴ ان کے بچکس مون صرف دُنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا ہمیں کرتا بلکہ دُنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دان پھیلا تاہے۔ حسنۃ سے مُراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر چیزی مراد ہے فان حسنۃ نکرہ فی سیاق الدّعاء فہو محتمل لکل حسنۃ (قرطبی) ایک شخص کو حضور ﷺ کی طرح دُبلا ہو گیا ہے۔ حضورؐ نے درافت کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی دُعا مانگا کرتا ہے۔ عرض کرنے لگا ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دُعا کیا کرتا ہوں کہ اے ماں ک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دُنیا چاہتا ہے وہ کس دُنیا میں ہی دیدے۔ حضورؐ نے فرمایا تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی وقت کہاں، تم یہ دُعا کیوں نہیں مانگا کرتے۔ رَبَّنَا آتِنَا الم

۱۵۵ دسویں رات تو گزری مزدلفہ میں۔ صحیح سویرے مُمنہ انڈھیرے بخرا کی نماز ادا کی اور وہاں سے منی میں آکر قیام کیا۔ یہاں آکر ہی سرمنڈا یا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پانڈیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلتے۔ ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر تھریجی مارنے پڑتے ہیں اور ذی الحجہ کی ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے۔ باہوں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر کہ دلیں آجائے تو بھی درست ہے اور اگر تیر ہوں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت ام صحابہؓ کے نزدیک افضل دُوسرا صورت ہے۔ منی میں حجتے

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ

اور جو جلدی کر کے دو دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو کچھ دریواں تھیں اور رہا تو اس پر بھی کوئی

عَلَيْكُمُ الْمَنَانِ التَّقْنِي طَرَاطِقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُمْحَشَّرُونَ

گناہ نہیں (بیشتر طبقہ) وہ دو تارہ ہو، اور ڈسترنے رہا اور (خوب) جان لوئیں اسی کی بارگاہ میں اٹھا کیا جاتے گا ۴

وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ

اور (ای شفیعہ والی) لوگوں سے ۲۵۲ء وہ بھی ہے کہ پسند کرنی ہے مجھے اس کی گفتگو دنیادی زندگی کے بارے میں اور وہ گواہ بنانا رہتا ہے

اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّدُ الْخَصَالِمِ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيٌ

اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ حالانکہ وہ (حق کا) سخت ترین ۲۵۵ء شہن ہے۔ اور جب وہ حاکم بن جہان ہے تو سر توڑ کو ش

فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِّكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا

کرتا ہے کہ کہکش میں فاد برپا کر دے اور تباہ کر دے کہیں تو اور نسل انسانی کو اور اللہ تعالیٰ

روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہمیل اور حمد و ثناء میں لکھا رہے اور اپنے باطن کی صلاح کی طرف پوری پوری تو ہجڑے۔

۲۵۳ء یہاں سے مُنافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی بیٹھی بیٹھی کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان ہونے کے لئے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے

جھگڑا اور دشمن یہی ہیں جب یہ تمہارے پاس دیپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے قوان کی شرپنڈ طبیعت میں جھکلاتی

ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت خنس بن شریق تلقینی کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کا حکم عام ہے۔ سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریق کارا دری یہی انجام ہے۔

۲۵۴ء بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑا اور کو اَلَّد کہتے ہیں۔ خصم یا تو مدرسے میںی ختمتہ یا خصم کی جمع ہے۔

۲۵۵ء تو لی کے دو معنی میں، والی بننا اور پیچھے بھیزنا۔ قاضی ہمیادی اس کی تفسیر فرماتے ہیں اذ برو انصرف

عنتک و قیل اذ اغلب و صار والیا۔ یہاں دونوں معنے مزاد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو

فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوت کھسوٹ شروع کر دیتا ہے یا جب مسلمانوں کے میں سے اٹھ کر حلا آتے ہے تو پھر وہی منافق

ظاہر کرنے لگتا ہے۔

يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا أُقْتِلَ لَهُ أَنْقَلَ اللَّهُ أَخْذَهُ بِالْعَزَّةِ بِالْأَنْوَرِ

فنا کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب کہا جائے اسے کہ (بیان) خدا سے توڑو توادر اکسات ہے اسے غرورگناہ پر ۲۵۴ ہے

فَحَسِبُوهُمْ جَهَنَّمَ وَلَيَعْشَ الْمَهَادُ وَمَنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَرِّى

پس اس کے لیے ہبھیں کافی ہے اور وہ بہت بُرا مٹھا کا نام ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو ۲۵۵ ہے ڈالتا ہے

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ فِي الْعِبَادِ يَا يَا هَا

اپنی جان (عربی) بھی اللہ کی خوشخبریں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر ۲۵۶ ہے ۱۔

الَّذِينَ آمَنُوا دَخَلُوا فِي السَّلَامِ كَافِلَةً وَلَا تَتَبَعُوا أَخْطَارَ

ایمان والروز ۲۵۷ ہے دخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ چلو شیطان کے

۲۵۸ ہے اخنس اور اس کے سارے ہم مرثبوں کا ایک ہی ڈھنگ ہے۔ جب انہیں انکی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصہ سے انکے سخنے بچوں جاتے ہیں۔ اور اسے وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا سند بنایتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ اس کے دردناک عذاب کا، وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو قرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چپو وہ گئے مر گئے۔ اپنا کیا حال ہے۔ کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو عار نہیں سمجھتے۔ اور اپنی ناچیت بات پڑا رے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے ذرا طنز عمل کو تجھیں پیں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہو گی

۲۵۹ ہے منافقوں اور منافقین مشرب لوگوں کی اخلاقی سیستی کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بندگان خاص کا ذکر ہے جو اپنا نہیں ہے۔ اپنے مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے قربان کرنے پر آمادہ مُؤْتَدِعٍ میتھے ہیں۔ حضرت ہمیں بھرتوں کے ارادہ سے کہہ سے نکلے تھے۔ کفار نے آگھیرا۔ آپ نے انہیں فرمایا، میرا سارا سامان لے لوا در مجھے مدینہ جانے سے نہ دو کو۔ کافر اس پر رضامند ہو گئے اور یہ مردحق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندرونیتہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس ہیں جا خضر ہوا تو توجیریں ایسیں یہ آیت لے کر پیچے۔ لکھتے خوش رضیب تھے صمیریت اور کہتے بلند تعالیٰ میں اس کی راہ پر جلنے والے۔

۲۶۰ ہے سَلُو اور سَلُو دو نوں قرائیں ہیں۔ دونوں کا معنی نہ سریش ہم کرنا غیر مرض و طاطاعت اختیار کر لینا ہے۔ اسلام بالکسر والفتح الاستسلام والطاعة (بچادری وظہری) یہاں اس سے مراد اسلام ہے۔ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ دین تقلیل ضابطہ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقاید ہیں۔ اس کا اپنا

الشَّيْطَنُ طِلْكُمْ عَدُوٌ وَّ مُنَيْنٌ^{۲۶۰} فَإِنْ زَلَّتُمْ مِّنْهُ بَعْدًا

نقش قدم پر بے شک وہ تمہارا کھلا دوسمن ہے ۲۶۰ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ

جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{۲۶۱} هَلْ يَنْظُرُونَ

آپنی ہیں تھا کے مپس رکش دلیلیں تو جان لو ۲۶۱ کہ اللہ تعالیٰ نیز مست ہے حکمت والا ہے کیا وہ اس بات کا انتظار کر

إِنَّمَا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْغَمَّامِ وَالْمَلِئَكَةُ وَ

رسے ہیں کہ ۲۶۲ آئے انکے مپس اللہ کا عذاب چھائے ہو رہے بادلوں (کی صورت) میں اور فرشتے اور (انکا)

دیوانی اور فوجداری قانون ہے۔ سیاسیت اور معاشریات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں۔ اور یہ انسان کی ذہنی روحانی اور سادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تسبیحی رونما ہو سکتی ہیں جب کہ اسے مانتے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس یہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسے بتامہ قبول کریں اس کا کوئی گوشہ نہ کرو اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنا لئے گریز کرے۔ کافتہ کا لفظ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کافتہ حال ہے اس کا ذوالحال ادھروا میں ضمیم ستر ان تعجبی ہو سکتی ہے اور السلو بھی۔

۲۶۳ یعنی حق کو بطل کے ساتھ نہ ملاد۔ اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا اور اس کا سحر شیخ مکدر ہو جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے کہ اس طرح اسلام کے نام پر شہزادے کیے جلتے ہیں۔ پھر اسی کی شاہزادوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوس کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر مکتوبین معرض وجود میں لالہ جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کے قانون ضابط خلاف اور اس کی مقدس قدیم کو سرو خانوں میں متنقض کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا فریبی بھی ہے اور خود فریبی بھی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مناق کرنا چھوڑ دیں۔

۲۶۴ یعنی اگر تم نے ای کیا تو اللہ تم سے انتقام لے گا۔ وہ عمر نہیں ہے، سب پر غائب ہے۔ کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ لیکن اسکا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو بھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فرا پکڑتے ہیں لیا جاتا بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی یہے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی آیا ہے۔

۲۶۵ اس آیت میں بظاہر کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاری ہی ہے۔ لیکن آنچنان حرم کی صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حرم اور اس کی صفتیں سے پاک اور منزہ ہیں۔ اس کے متعلق علماء سلف کی متفرقہ رائے ہے کہ اسی قسم ایسیں مشتبہات سے ہیں۔ اور انہا حقیقی ہفہوم اللہ اور اس کا رسول ہبہ تھا جتنے ہیں یہیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ قال سفیان بن عیینہ کل ما وصف اللہ بہ نفسہ..... لیس لاحد ان یفسرہ الا اللہ و رسولہ و بہ قال ابو حینفہ رحمۃ (منظہری) لیکن علماء متأخرین کا ملک یہ ہے کہ ان آیات کی لیسی تاویل کرنا بوجانکی شایان شان ہو درست ہے چنانچہ علامہ ہبصیانوی

قُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧١﴾ سَلْ بَنْتَ السَّرْلَانِيَّ

فیصلہ ہی کر دیا جاتے اور (آغز کار) اللہ کی طرف ہی لوٹاتے جائیں گے سارے معاملات۔ آپ پوچھتے بنی اسرائیل سے

كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ إِيمَانٍ بَيْنَكُلَّ طَوَّافٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

کہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں اور جو (قوم) بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے

مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زین الدین یعنی کفرروا

کے بعد - تو یقیناً اللہ تعالیٰ (اس قوم کو) سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کردی گئی ہے کافروں کے لیے ۲۶۵

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الدِّينَ أَمْنُوا مَوْلَانِيَّ وَالَّذِينَ أَتَقُولُ

دنیا کی (فانی) زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان

اور دوسرا مفسرین نے یہاں آیت میں مضافت مذوف مانا ہے۔ یعنی صل عبارت یوں ہتھی۔ ان یا تیئھو امرالله و بأسه (بیضاوی) اور لغت عرب میں مضافت کا مذوف عام مستعمل ہے۔ یہ نے ترجمہ میں اسی قول کو خیال کیا ہے۔ ۲۶۶ مسلمانوں کو جو عزّت اور امانت سوچی جا رہی ہتھی، وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دوستی گئی ہتھی۔ لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیا وی عزّت ان سے چھپن لی گئی اور دین ہتھی کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رُسو اکرو گیا۔

مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا ٹشکرداون کیا اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور رشون نہ کر دی تو یاد رکھو تمہارا انجم بھی دیساہی ہو گا۔ اگر مثل بھینجا چاہو تو ہمیں قدیم کتب خانوں کی در قرآنی کرنے اور پڑنے کھنڈرات میں سالہ مال سر برگیاں محفوظ کر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں یہ جو تمہارے پڑوں میں قم بمنی اسرائیل بس رہی ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ اپنی کج بحقیقتی اور کتنی پوشی کی پڑائی نعمادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔

۲۶۷ کہ کافر سے مراد یہاں صرف اللہ و رسول کا ٹشکر نہیں بلکہ انکا رکھنے اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے۔

یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں اور وہ اُن لوگوں کا مذاق اڑلنے لگے جو حقیقت کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے مستبردار ہو کر افلان اور تنگ پر قافع ہو گئے تھے۔ تیامت کے دن جب حقیقت سے پر دہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ مسکین لوگ جنہیں تم تھیز بھتھتے تھے مالک حقیقتی کے نزدیک کتنی

فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

تمبین ہوگی ان سے قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے ۲۶۵ ہے بے حساب دے دیتا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّينَ مُبَشِّرِينَ

(ابتدا میں) اسپ ب لوگ ایک ہی دین پر تھے ۲۶۶ (پھر جب ائمہ اختلاف پیدا ہو گیا) تو یحیی اللہ نے انبیاء خوشخبری سنایا ہے۔

وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ

اور ڈرانے والے ۲۶۷ اور نازل فرمائیں ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان

عزّت و کرامت کے مستحق ہیں۔

۲۶۸ وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے فضل و کرم کے لیے چون لیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت، مقبرہ لیت اور قرب خداوندی کی دلیل نہیں۔ رزق کی کمی بیشی گمراہی وہ بہایت کا معیار نہیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، تین حصیقت روز روشن کی طرح و کھانی دینے لگے گی۔

۲۶۹ دین کی تایاری لکھنے والے اس کے آغاز، اس کی نشوونما اور اس کے عروج کی داستان قلمبند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مددوں سرگردان رہے کہ دین کی ابتدائیوں کر ہوئی اور انجی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتداء میں مُشرک تھا اور عقیدہ توحید کا اس کی رسانی آئندہ آئندہ سیکھوں صدیاں ملکوں کھو کر یہ کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوں نہیں بلکہ انسان اول (آدم علیہ السلام) موحد تھا۔ مُشرک سے اسکا کوئی سروکار نہ تھا اور عرصہ دراز تک اس کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت تھا ہی قرآن نے اس سوال کا جواب جو صدیوں پہنچ دیا تھا اور جس کو تلیم کرنے کے لیے یورپ کے محقق کل مکت تیار نہ کر کے آئیں جیسا کہ اُس تیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ آثار قریبیہ کے ماہرین انسانیات اور اجتماعیات کے علماء صاحبوں مارشی، پروفیسر لنگڈن اور پروفیر شدٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین اولین دین توحید خلائق تفسیر ماجدی

۲۷۰ یہاں اُمّۃ وَاحِدَة اور فَبَعَثَ اللَّهُ کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ فاختلفوا مخدوف ہے جس پر فیما اختلفوا فیہ کے الفاظ صراحتہ دلالت کر رہے ہیں۔ اب آیت کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ پہلی مرتب دراز تک ایک ہی اُمّۃ بنی ہے بعد میں جب نسل انسانی طبھی تو لوگ اپنے مراجعوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے اپس میں جھوٹے لگے اور اولاد اُدم مختلف ٹوکیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ ٹھنکے ہوؤں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی ہگ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور انکو انسانی کتابیں عطا فرمائیں۔ انبیاء کرام نے اپنے وعظ و نصیحت

الثَّالِثُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا

جن باتوں میں وہ جگہ رہنے لگے تھے
اوکسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں شے بجز اُن لوگوں کے نہیں کتاب

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ

دی گئی تھی بعد ازاں کہ آگئی صحیح ان کے پاس روشن دلیلین (اٹکی وجہ) ایک دوسرے سے حد تھا۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی

الَّذِينَ أَمْنُوا إِلَيْهِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ اللَّهُ يَهْدِي

انھیں جوابیاں لاتے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے شے ۴۶۹ اور اللہ تعالیٰ ہدایت تیکے

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا

جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف۔ کیا تم خیال کر رہے ہو شے کہ (یہ ہی) داخل ہو جاؤ گے

سے ان کو جگہ رہا بازی اور فرقہ بندی سے نکالنے کی کوششیں کیں تاکہ منتشر انسانوں کی یہ ٹکڑیاں پھر ایک قوم بن جائیں۔

۴۶۸ شے ان الفاظ سے تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے ایسے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو اخداد پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کو جانشی اور سمجھنے والوں نے اس کتاب کے ذریعہ "اس کو ماننے والی امت" کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انکا باہمی اختلاف اور فرقہ بندی حسن نیت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ حسد اور عناد اور سرکشی کا جذبہ تھا جس نے ملت کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔

۴۶۹ شے یعنی کتاب سے ہدایت اُنھیں لوگوں کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کتاب کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے من گھر میں کامیابی کی ایات بیتات کو زبردست پہنچانے کے لیے علم و کمال کا کریمہ سمجھتے ہیں وہ اس سے ہدایت نہیں پاسکتے۔

شے مسلمانوں کو تسلیم ہگی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دمن بچانا۔ جن حالات سے پہلی ہمتوں کو واسطہ پا ہتھیں بھی انکا سامنا کرنا ہوگا، ایسے فرستہ بازم تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کریں گے تم ان کے حال میں نہ چھپنا۔ اگر تم اس خوش چمنی میں مبتلا ہو کر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جہالت کے دروازے کھوں دیتے گے ہیں تو اس خام خیالی سے باز آجائے۔ خوب کافی کھوں کر رہیں لو، ہوش رہا صیبیتیں، کڑی آزادی کی ایسا شیش اور لرزہ خیز متحملات تھا رہی راہ دکھ جسے ہیں۔ اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے اور صیر کا دامن ضنبھولی سے پکڑتے رکھا تو اللہ کی مدد تھا رہی دستیگی کو تیقیناً آئے گی۔

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمْ

جنت میں حالانکہ نہیں گزئے تپروہ حالات جو گذئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں ، پہنچی اخیں

الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزِلْزَلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

سختی اور مصیبت اور وہ لرزائی یہاں تک کہ کہہ اٹھا (اس نامہ کا) رسول اور جو ایمان لے کے

مَعَهُ مَتَّىٰ نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝ يَسْعَلُونَكَ

تحت اسکے ساتھ کب آئیں اللہ کی مرد ہی سن لو یعنی اللہ کی مرد قریب ہے ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ

مَاذَا يُنْفِقُونَ طَقْلٌ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِمَّا دَيْنُ وَ

وہ کیا خرچ کریں اکھے ، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو (پہنچے) مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں ، اور

الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا

قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسانت ہیں اور جو نیچی تر کرتے ہو

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرِيمٌ

تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اُسے خوب جانتا ہے۔ فرض کیا گیا ہے تپروہ جہاد اور وہ ناپسند ہے

۱۷۴ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ دونوں کا جواب دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ

پہلے سوال کا جواب ضمانت ہے اور دوسرا کا ضرر اور تفصیل کیا خرچ کریں کے متعلق تو فرمایا، من خیر یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے تو غالباً اور یا کمال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی ذات حرام اور نیا پاک ماں کو تقبل نہیں فرماتی۔ دوسرا سوال کا جواب

اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا اس کی وضاحت کردی یحیم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا اغاظ لپٹنے گھر سے کرو اور گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں۔ انکی خدمت اور ولداری تمہارا فرض اولیں ہے۔ ان کے بعد دوسرا عزیز و رشتہ دار ہیں، اولاد، بین بھائی، چا، چھوپھی، مامول اور خالہ وغیرہ سب کے ساتھ احسان و مردود از خد اہم ہے۔ اسکے بعد باری ہے قوم کے یتیم بھوپل کی، مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی، امداد و اعانت کا لکھنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ ایسا ہیں کہ اپنے تو بھوک سے پلاک رہے ہوں اور یہاں کا اپ کی سخاوت کا مینہ برس رہا ہو۔

لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُّهُوَا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوَا

۲۴۲ ہمیں اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کر سی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۲۴۳ یَسْأَلُونَكَ

کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بھی ہر اور (حقیقت جال) اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم ہمیں جانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے

عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ طَقْلٌ قِتَالٌ فِيهِ طَقْلٌ كَبِيرٌ وَصَدْ

کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے ۲۴۴ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے لیکن روک دینا

۲۴۵ بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب زنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مارا و جنگ و جبال کے ریاستے۔ ہر وقت تلواریں سوتتے پر امن استیتوں کو برداشت کرنے اور لوٹنے کے لیے آدمکتے تھے۔ وہ زبردستی لوگوں کی پہنچ دین میں داخل کیا کرتے تھے، کہنے کو انسان بوجی چاہے کہ، لفڑی کو جو دل میں آئے لکھ دے لیکن اس طرح حقیقت توبدل ہمیں جاتی، واقعات تو توشیخ ہمیں ہو جاتے۔ تایخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افذاں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کوئی قوم اگر طاقت کے نشیں ملت ہو۔ اس کے پاس وسائل کی بہتان ہو اور اس کا مقابل کمزور ہو اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابط بھی اس کو روکنے والا نہ ہو تو مانجا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور شم کو نیت ذما بود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمت گاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور انہی دولت و درودت کو ہڑپ کرے۔ لیکن تایخ ہمیں ایسی ایک بھی مثال ہمیں بتا سکتی کہ کسی کمزور اعداء میں کم، سماں جنگ سے بکھر دیں قوم نے شوقیہ اپنے سے طاقتو، کشی العداد، ہر قسم کے السلوک سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للاکرا ہو۔ اب خود فیصلہ فرمائیے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغله تھا۔ یہ مسلمان ان حالات میں پل کرنے کی پیشش میں تھے ہرگز نہیں۔ آپ قرآن حکیم کے ان الفاظ پر غور فرمائیے وَهُوَ كَرْمٌ لَكُمْ کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ ہمیں ناپسند ہے اگر مسلمان طبعی طور پر جنگ ہو تو اور ان کا دین اپنیں لڑ کار کا بہق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے بلکہ وہ توہہت لاش کرتے کہ کوئی موقوف ہاتھ آئے تاکہ لڑت مارا تاخت و تاریخ کی حرث پوری ہو سکے۔

۲۴۶ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو خل نہیں تھا را فرض ہے اپنے رب کا ہر حکم انتہی پڑھ جاؤ۔ لیکن کہ دہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز مفید ہے اور کوئی نفع نہیں دہ ہے۔

۲۴۷ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادی المثلی کی آخری تاریخوں میں عبد اللہ بن حیش کو ایک منحصرے دستے کے ساتھ گفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی میٹھ بھیر مرشیخین کے ایک قافلہ سے ہو گئی۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرِيهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ

اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور (روک دینا) مسجد حرام سے اور نکال دینا ایسیں بینے والوں کو

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

اس سے بھی بسکتا ہے میں اللہ کے نزدیک اور فتنہ اور ضار، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیشہ ۲۴۵

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرَدُّوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أُسْتَطَاعُوا وَمَنْ

رہتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تھیں تمہارے دین سے اگر ان پڑے اور جو

يَرْتَدُّونَكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبَطَتْ

پھر سے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر تو یہی وہ (ید ضیب) میں کہ صنایع

مسلمانوں کے ما تھوں مارا گیا اور تین آدمیوں کو ساز و سامان سمجھتے گرفتار کر لیا گیا جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ

رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جادی الٹانی کی تیسویں تایخ ہے اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے قارئ کے اور یہود و منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پر و پیکنڈے کا ایک شہری موقدہ باقٹھا گیا۔ انہوں نے تو اودھ مچانہ شریع

کر دیا کہ فزادیکوہ ان مسلمانوں کو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اور حرام (رجب) میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو کہ انہوں نے بات کا بیکھرنا بدایا۔ ان آیات میں اسکے پر و پیکنڈے کے کامنہ تو جواب دیا گی کہ ٹھیک ہے

ماہ رجب کی طبی عترت و حرمت ہے اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اپنے کرتو تو کوئی تو لا خطر کرو۔ وہ راستہ جو

بندے کو مولا سک کہچا ہے وہ تم روک کر کھڑے ہو۔ مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم دخل ہونے نہیں دیتے صرف یہی نہیں بلکہ ان وسلامتی کے اس شہر سے اس کے صلی باشد ول کو جلاوطن کرنے سے تم باز نہیں آتے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت

اسلام قبل کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دیج، اس کے دل میں شکر کو شجاعت ابھا کر دین حق تے سے دور کرنے کے لیے کوشش سبھتے ہو۔ ان شکریں جرام کا تو تھیں خیال تک بھی نہیں، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں اور اس معمولی واقعہ کو مجھن غلطی

سے سرزد ہو گیا اسے یقین اچھا رہے ہو گریا یہ تمہارے ہر جو موں سے قبیح تریں ہے۔

۲۴۵ مسلمانوں کو کفار کی ولی آکرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ نہ شیار رہیں۔

أَعُلَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الشَّارِقَ هُمْ

ہو گئے ان کے عمل دُنیا و آخرت میں اور یہی دو زندگی ہیں ، وہ

فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُوْ فُؤْ

اس میں سیکھ رہنے والے ہیں بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جہنوں نے، بھرت کی اور جہا دیکا ،

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ

اللہ کی راہ میں ، (تو) یہی لوگ اُمید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی ، اور اللہ بڑا بخششے والا

رَحِيمٌ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمَا كَيْدُ

بہت رحم فرمائیں الہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپے ۶۴۷ شراب اور جوئے کی بابت ، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے

۶۴۷ شراب کی حُرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض علماء طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت فاروق علیہ السلام اور حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں شراب کے متعلق حکم دیکھے۔ فانہما مذہبۃ للعقل و مسلبۃ للہمال۔ یعنی قل زائل کرنے والی اور بال ضائع کرنے والی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر بعض نے شراب ترک کر دی، اور بعض پیتے رہے۔ کیوں کہ اس میں صراحت سے روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض جہا کو بیلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کرستہ ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہیں میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورہ الکافرون کی تلاوت شروع کی اور بجائے لا اعبد ما تعبدُون (یہی انکی عبادت ہمیں کرتا ہجہ کی تم عبادت کرائی) کیا کرتے ہو را کی جگہ اعبد ما تعبدُون (یہی بھی انکی عبادت کرتا ہجہ ہو جن کی تم کرتے ہو) پڑھ گئے۔ تو اس وقت حکم ہوا۔ لائقہ تھا جب جام شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خارج چھٹا شروع ہو تو لمحے اپنے قلبیوں کی تعریف میں زین و آسان کیا تھا۔ کسی صاحب نے انصار کی بھروسے میں شعر کہہ دیا۔ ایک انصاری نے اونٹ کے جڑیے کی بڑی ان کے سر پر دے ماری اور سر چھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب کی تھا کی اسے اللہ باشراب کے بارے میں ضخ حکم نازل فرم۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ماننا الخمر۔ الی۔ فھل انتم منتہوں۔ یہ شراب کی حُرمت کا اصل حکم تھا (اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشا اللہ تعالیٰ)

وَمَنَّا فُرُّ لِلثَّائِسِ وَإِشْمَهْمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْلُونَكَ

اد کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ۲۶۶ ان کے فائدے سے اور پوچھتے ہیں آپ سے

مَاذَا يُنْفِقُونَ هَذِهِ الْعَفْوُ طَكَذِيلَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

کیا خرچ کریں فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہوا ۲۶۷ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم تھا سے یہ اپنے حکوم کو

۲۶۸ یعنی یہ درست ہے کہ شراب سے عاضی سُر و بھی حاصل ہوتا ہے اور بجوتے سے بخیر مخت مشفقت کے دولت بھی مل جاتی ہے لیکن اسکے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اسکے سامنے اس نفع قليل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی (مزید وضاحت کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۹۱-۹۲ ملاحظہ فرمائیے)۔

۲۶۸ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتیوں پر بوجھہ نہ ہو العفو ماسہل و تیسر و فضل و نو شیق علی القلب اخراجہ (قربی) ایک شخص سونے کا اندھا یہ حضور کیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے حضور نے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور ہر اصن فرماتے ہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور نے وہ آٹھ اس سے لے کر غصہ سے دُور پھینک دیا۔ اور اگر وہ اسک جاناتا تو اس کا سر ہو پورا دیتا۔ پھر اس سعیم و مشفت انساد اور مرتبی نے فرمایا یا قی احد کو بیتالہ کلہ یہ مصدقہ بہ و یجلس یتکتفت الناس إنما الصدقة عن ظهر عنني (تمہیں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے گلتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو) نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہس عبرت ہے جن کے اپس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پروں میں کئی غیر مسکین اور محروم زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس ہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ نہ بھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ ری سے سبکدوش ہو گے یہی بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی جماعتیوں کی ضرور مد و کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کر دیا کر و لیکن زکوٰۃ کی فضیلت کے بعد یہ آیت منسون ہو گئی صاحب تفسیر مطہری فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورہ البقرہ کی ابتداء میں ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی اس لیے وہ اس آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی قلت و هذالیس بس دید فنان انتزال الحکم بالریکوٰۃ فی صدر سورۃ البقرۃ ... (فہی) مقدمۃ نزول ولا علی هذه الآیۃ (منظمو)

نیز یہاں نسخ کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ زکوٰۃ و فرضی صدقہ ہے اور یہ آیت غفل صدقات کے بارے میں ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^{۲۴۹} فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

تاکر تم غور و بخرا کرو ۲۴۹ دُنیا اور آخوند (کے کاموں) میں - اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں

الَّذِي قَلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَلَمَنْ تَخَلِّطُهُمْ فَاخُوا نَفْكَمُ

کے بارے میں نہ ہے فرمائیے (ان آگے تھاک ہے سے ہی بھلائی کرنا بہتر ہے اور اگر (کاروباریں) میں آئیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہاری بھائی ہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسَدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاَعْذَّكُمْ

اور اللہ خوب جانتا ہے بھاڑنے والے کو سلوار نے والے سے لہے اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا ہتھیں

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{۲۵۰} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُوعَصِّيَ

بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا رحمت والا ہے - اور نہ زکاٹ کرو ۲۵۰ مشرک عورتوں کے ساتھ یا انہیں کوہ میان لے آئیں

۲۴۹ یعنی دُنیا و آخرت دونوں کو بہترینے کے لیے غور و فکر کرو - یہ ہے مومن کامل کا طبقہ کار-

۲۵۰ بعض لوگ یومیتوں کے اموال کو خود بُرد کرنے کے لیے انکے ساتھ شرکت کرتے - لیکن کسی یہی حق پر اولادی

ان کو اپنے کاروباریں شرکیں کر لیتے - اور داینڈاری سے انجھ جھند کا نفع ان کو ادا کرتے اور ان کی سہولت کے پیش نظر انکے

کھانے پینے کا انتظام پہنچ کر لیتے - جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بد دیانتی کرنے سے سختی سے روکا بلکہ انکے مال

کے نزدیک تک جانے سے منکر کر دیا تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدہ کے لیے ان کو

اپنے ساتھ شرکیں یکے ہوئے تھے - اس لیے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ کاروباریں لگاو تو اس سے انہیں نفع پہنچے تو یہ

اچھی بات ہے - منع تو اس امر سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال سختم کر جاؤ -

۲۵۱ وہ ہر ایک کی نیست اور ارادے سے واقع ہے - اس سے کوئی چیز مخفی نہیں -

۲۵۲ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ لیا جی کرتے تھے اور دیا جی کرتے تھے لیکن اب انہیں اس بات

سے روک دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ مانا کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و مکالم میں بڑھی ہوئی

ہے لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و مکالم کو بہنمبا ناکر کر دیا ہے اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جوہا ہے

اس نے اس کی دوسرا بھلکا خامیوں کی کسر نکال دی ہے اور یہی فرق مومن مردا اور مشرک مرد کا ہے - اس کی ایک وجہ یہ ہے

کہ جب میاں اور بھی کے عطا یاب لکھ تضاد ہوں گے ایک اللہ وحدہ لا شرک کا بنہ اور دوسرا ہزار دل بُتوں کا پرستار

ہو گا تو ان کی کب بندھ سکے گی - لاخالہ کچھ ہنیں تو کل کیستی کسی چنان سے بندھ ائے گی اور پاپ پاش پاپ شہر جائے گی - نیز وہ دو

وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تُنَكِّحُوا

اور بے شک مسلمان نویندگی بہتر ہے (آزاد) مشرک عورت سے اگرچہ بہت پسند کئے تھیں۔ اور نہ نکاح کرنیکاہو

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ

(ابنی عورتوں کا) مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور بے شک مومن غلام بہتر ہے (آزاد) مشرک سے ،

وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ

اگرچہ وہ پسند آئے تھیں وہ لوگ تو بلاتے ہیں تھے دوزخ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِرَذْنَهُ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعْلَهُمْ

جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے اور حکوم کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ

يَتَّخَذُ كَرْوَنَ ﴿٢﴾ وَيَسْكُونُكَ عَنِ الْمَحِيطِ طَقْلٌ هُوَ أَذَىٰ لَا

صیحت حامل کریں۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق کہتے فرمائیے وہ تبلیغت دہ ہے

قریں جو ایک دوسرے سے بر سر پر کیا رہیں ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کیس ہو گا اور وہ شادی بھاہی باہمی اعتماد نہ ہو۔ جذبات اور منگلیں ایک دوسرے سے بالکل تضاد ہوں وہ زنا وہ دیراہنیں ہو سکتی اس لیے تم جذبات کی رویں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔

اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم اپنے موقع پر آئے گا
۲۸۳ سبقہ حکم کی جملت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تھیں اسلام سے رُد گراں کر دے اور عورت کے دم فریب میں توڑ پڑے بڑے سورماں کو چھپ کر تدھکا ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیٹی کی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے اس کی سیلبت کا کوئی جھوٹا مہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بھیجا دے۔ خود سوچ یہ کتنا اقبال برداشت خارہ ہے۔

۲۸۴ یہود ایام حیض میں عورت سے بالکل قطع متعلق کر لیا کرتے تھے۔ ایک ساتھ ٹھنڈا بلیٹھنا تو کجا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا بلکہ اس کے ہاتھ کا پچاہو اکھانا بھی نیاں خیال کیا جاتا تھا اور مشکلین عرب کا رویہ ہی تقریباً ایسا ہی تھا۔ لیکن نصاریٰ ان دونوں میں کسی فرقہ کا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حسنور بی بی کیم علیہ الصالوۃ والسلام سے دریافت

فَاعْتَزُّوْلَا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيطِ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ

پس اگر رہا کر دعورتوں سے حیضن کی حالت میں اور نزدیک جایا کر دان کے یہاں تک کہ

يَطْهَرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوْهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ

وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں ۲۸۷ تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دایا ہے میں اللہ نے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ نِسَاءُكُمْ

بے شک اللہ درست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور درست رکھتا ہے صاف تحریر ائمہ والوں کو۔ تمہاری بیرونیاں

حَرُثُ لَكُمْ فَاتُوْهُرْ شَكْرُمْ أَلَيْ لِشَعْلُمْ وَقَلْمُوْلَا نُفْسُكُمْ

تمہاری بھیتی ہیں ۲۸۸ سوم آواپنے کھیت میں جس طرح چاہو ۲۸۸ اور پہلے پہلے کرو اپنی بھلانی کے کام ۲۸۸

کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں نہ افراط ہے نہ تفرط بلکہ اسلام کی روایتی میانہ روایتی اور اعتدال بلکہ فرماتے ہے صحبت سے منع کر دیا کیونکہ مرد عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ عورت کی طبیعت ان دونوں بڑھاں ہوئی ہے اور یہ عمل اس کے لیے بھی ناگور خاطر ہوتا ہے۔ نیز خون جو بہر حال غیظاً اور سب سے ایسے حال میں مقابیت کو کوئی سلیم طبع انسان پسند نہیں کرتا بلکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ اٹھنے بلیخنے کھانے پینے کا اسلام نے جائز کھا کیجیے اس میں کوئی حرج نہیں۔

۲۸۹ یہاں طمارت میں مبالغہ مطلوب ہے۔ یعنی خون کے بند ہونے کے بعد عنک کر لے یا ایک نماز کا وقت گز جائے یا خون دس دین گز نے پر بند ہوا ہو تو پھر مقابیت کی اجازت ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے۔

۲۹۰ ”یعنی فطرۃ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگا ہیں نہیں بنایا بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے“ (تفہیم القرآن) ایک نازک ترین حقیقت کو کیسے اس پریا یہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسیں حیا پر تکن بھی نہیں پڑی اور قصد بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر خور کیا جائے تو اسلامی ازو و اوج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دونوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طبی نہیں بلکہ حصوں اولاد ہے۔ اس لیے اپنے لیے ہو یہ اسی منتخب کرو جو نیک اور پاکیا ہو۔ کیونکہ اگر رُوی زین میں تھم ریزی کرو گے تو اچھی بھیتی کی توقع عبشت ہے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشابی بلکہ بقا کا اختصار اس کے کھیت کی حفاظت فغمہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وہستگی ضروری ہے۔ اسی طرح تمہارا لقمن اپنی رفیقة حیات سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلْقُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور دُرستے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ عمر ملنے والے ہوں سے اور (ای جیب) خوشگیری دو منونوں کو

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ إِنَّمَا تَبَرُّو أَوْ تَتَّقُوا

اور نہ بناؤ اللہ (کے نام) کو رکاوٹ ۲۸۹ اس کی فتنہ کا کر کنیکی نہ کرو گے اور پرہیز گاری نہ کرو گے

دلی و استھنی کا ہونا چاہئے۔ غرضنیکہ آپ چتنا غور کرتے جائیں گے شادی کے مقاصد اور فرائص نہ کھنکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔

۲۸۸ آپ بمعنی کیف ہے۔ یعنی مفاربت کی کوئی ایک ہستیت معین نہیں بلکہ جیسے ہمیں پسند ہو۔ صرف ایک شرط بالخط رہے کہ تم زیری ہو اسی دہلی ہو جو جگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا ہے۔ یہ دو نے مفاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی۔ فرمایا کسی خاص ہستیت کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے ہمیں پسند ہو۔ اور بعض گندے مذاق کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے۔ اس سے منع فرمایا کہ وہ تم زیری کی بجائی نہیں۔ اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے اور عورت کے طبعی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔

۲۸۷ ڈا جامع فقرہ ہے اور یہ سیم مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا تو شرح کرتے رہو۔ نیز شادی سے اولاد طلب کروتا کہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے اور ان کے اعمال صاحب سے تمہارے مرحاب کے بعد بھی تمہارے اعمال نامہ میں نہیں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اگر تم لذت طلبی میں ہی غر بر باد کر کے دنیا سے چل دیتے تو تمہارا نام تک مٹ جاتے گا۔ اور اگر اولاد ہوئی اور اس کی مٹنے تصحیح تربیت نہ کی۔ ان کے اخلاق اور سیاست کو اسلامی سلسلے میں نہ دھالا۔ وہ جاہل۔ بیغل، بیدکاریں گئے تو ہمیں یاد تو کیا جاتے گا لیکن ایسی بڑائی کے ساتھ کہ اس سے نہیں اگر یاد نہ کیا جاتا تو ہزار بار بہتر تھا۔ نیز نیک اولاد کی خواہش ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادتمند بچوں کی ماں بن سکے۔ یہ سارے مطالب قدموالا نفس کم میں بیان فرمادیتے گئے ہیں۔

۲۸۸ عرضۃ ای حاجز (بیضاوی) یعنی رکاوٹ۔ بعض نادان فتنہ اٹھایا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں پولیں گے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹی گواہی پڑو رہیں گے اور پھر اپنی قشتوں کی وجہ سے اپنے آپ نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے (اور ۲ جمل بھی یہ عام راجح ہے) اس آیت میں تایا گیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ حضور علیہ صلواتہ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اذ احلفت علی یعنی فریات غیرہ اخیر امنہ افات الذی هو خیر و کفر عن یمینک۔ یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا را اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کرو اور قسم کا کام ادا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذرا یہ مت بناؤ۔ قسم توڑنے کا کفار ویر ہے کہ دین مکینوں کو کھانا کھلانا یا پاپے دینا یا میان روزے رکھنا۔

تَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمْ

صحیح نہ کراؤ گے لوگوں میں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جلنے والا ہے۔ نہیں پھر ٹے کا ہتھیں

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ

اللہ تعالیٰ تمہاری لایعنی فتنوں پر نہ ہے لیکن پھر ٹے کا ہتھیں ان فتنوں پر جن کا ارادہ تمہارے

فُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِ إِنَّمَا

ڈلوں نے کیا ہے۔ اور اللہ بہت سخت نہیں والا حلم والا ہے۔ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ اپنی بیویوں کے

تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

قریب نہ جائیگے مہلت ہے چار ماہ کی پھر اگر رجوع کریں (اُن تین میں) تو بیشک اللہ غفور رحیم ہے۔

وَإِنْ عَزَّمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝ وَالْمُطْلَقُ

اور اگر پکا ارادہ کریں طلاق دینے کا تو بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جلتے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی خود تین

يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرْوَطٍ وَلَا يَمْلِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ

روکے رکھیں اپنے آپ کو تین حصوں تک ۲۹۳ نہیں ان کے لیے کہ چھپا میں ۲۹۴

۲۹۳ نہیں یعنی اگر ارادہ اور قدر کے بغیر قسمیہ الفاظ زبان پرچاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا ہتھیار ہو گا۔

۲۹۴ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھایا کرتے کہ وہ ان سے ہم بستری نہ کریں گے۔ اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی۔ قرآن نے اس نظم کا بھی خاتم کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر چار ماہ کے اندر متنے اپنی یہ قسم

توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہتے گی مہتیں صرف کفارہ ادا کرنا ہو گا۔ اور اگر متنے چار ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑ دی تو عورت جانے کا۔ اور عورت کو حق حاصل ہو گا کہ وہ کسی دوسرا شخص سے نکاح کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قسم عورت کو اپنے نکاح

میں بھی بھرپور کھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے پھر اس خاوند سے نکاح کرنا چاہئے تو کوئی سختی ہے۔

۲۹۵ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے اُٹھے اور جبکہ دوسرا شخص سے جا کر یہاں رحلے، جیسا یہود کے ہاں قاعدہ تھا۔ بلکہ اسے سمجھ ہے کہ تین حصیں گزرنے کی مدت تک صبر کرے۔ اس کے بعد اسے نکاح کرنے

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

جو پیدا کیا ہے اللئے ان کے رحوں میں اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روزِ

الْآخِرِ وَبِعْوَلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصْلَاكًا

آخر پر اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں صلاح کا سفر

وَلَهُنَّ مِثْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

اور ان کے بھی حقوق ہیں (مردوں پر) جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق البتہ مردوں کو عورتوں پر

دَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾ الظَّلَاقُ هُرَتِنْ فَامْسَاكٌ مَعْرُوفٍ

فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزت والا محکمت والا ہے۔ طلاق دوبارہ ہے ۲۹۵ پھر ا تو روک لینا ہے بھائی کے ساتھ

کی اجازت ہے۔ اس مدت انتشار کو مشرعت میں عدالت کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خاوند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے (بشرطیکہ اس نے تیری باطلاق نہ دے دی ہو) نیز اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پرہیز پل جائیکا اور یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر مشرعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے۔ کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی وقار نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ تو ایک انساک حادثہ ہے۔ لیکن عدالت کی مدت اس عورت کے لیے ہے جو مدخول بھاہ ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حصہ بھی بندہ ہو گیا ہو۔ اور حاملہ بھی نہ ہو۔ اس قسم کی عورتوں کی عدالت کا بیان دوسری آیات میں مذکور ہے۔

۲۹۳ عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اندر و فی کیفیت بتا دے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں تاکہ عدالت کے فوائد مرتب ہو سکیں۔

۲۹۴ ان کے خاوند اگر اصلاح کر لیں اور آباؤ کرنے کی نیت سے دوبارہ انہیں اپنے گھر میں بسالیں تو یہ بہت بہتر ہے بشرطیکہ اہنوں نے تیری باطلاق نہ دی ہو۔

۲۹۵ عرب میں یہ روح تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت باطلاق دے سکتا تھا۔ چنانچہ مفسر سبیر ابن حجر العسکری ہیں کہ مرد جتنی بار جاہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا کوئی پابندی نہ تھی اور ہر بار عدالت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا۔ ایک فغم ایک الفصاری نے اپنی بیوی کو دھکی دی لا افتریک ولا تحملین منی، کہ نہ تو یہ تمہارے نزدیک جائز گا اور نہ تو

اوْتَسِرِيْهُمْ بِالْحَسَانِ وَلَا يَحْلِلُ لَكُمْ آنَّ تَأْخُذُ وَإِنَّمَا آتَيْتُمْ هُنَّ

یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ اور جائز ہنسیں تمارے لیے کہ لوگ ۹۶ء اس سے جوم نے دیا ہے انہیں

مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے ہے تو وہ بولا کہ میں تھیں طلاق دیا کروں گا۔ اور عدالت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے تاریکیں تقبل کا صدور کر کے روزگاری اور شکوہ کنان بارگاہ رسالہ کتاب حجۃ للعلمین میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام و ملکہ میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پر درود کا رعالم فے اپنے جیب مکرم پر آیت نازل فرمائی۔ جس نے عورت کے مشیر مصائب کا خاتم کر دیا۔ خاوند کے حق طلاق کو تین بار تک محدود کر دیا۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسرا بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور اگر اس نے تیری بار بھی طلاق دے دی تو اب سہ کل تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گی۔ اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

طلاق دینے کا قاعدہ: اگر قطع تعلق کے نتیجہ کوئی چارہ کا رہ ہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فانع ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے۔ پھر دوسرا ماجب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسرا بار طلاق دے۔ اب تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر تیرے ماجب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیری طلاق دے۔ اب نکاح کا تعلق ہیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ مرد کو اتنی مہلت بجود گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلہ پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے۔ اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ دوپتہ کر دیں تو اس عورت کو کوئی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اسے یہ حق نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا حلولنا بنا لے رکھے۔

یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا معاون طلاق ہے۔ ایک طرف عرب کے جاہلہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا ہے اور دوسرا طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصاریٰ کے قانون سے کہ جا ایک بار نکاح کی زنجیر ہیں جبڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی ناگفہتہ برکیوں نہ ہو جائیں چھپکار لکی کوئی صورت نہیں۔ اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ انتیاز ہے جس کا متعاب دینا یہ قیم وحدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے اکاشر اس کے مطابق عمل کرتے۔

۹۶ء مرد کینکر فطری طور پر عورت سے نسبتہ زیادہ مدد، دُرانہ لیش اور جذبات کی روئیں بر جانے کی بجائے عقل دہوش نے زیادہ کام لینے والے ہے۔ نیزاں وابی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر پیس اس یہ شرعیت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو قفویض کیا ہے۔ اور اس حق کو ستمان کرنے کا حکماء طریقہ بھی تعلیم کر دیا۔ اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو جیزی اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدایہ کے طور پر دی تھیں وہ دوپتہ نسلے بلکہ اتریح باحسان کے الغاظ تو بتاتے ہیں کہ ہم افسوں کا حادثہ پر اس کی مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ بزرگ چوری ہو جائے۔

شیئا لَّا أَنْ يَخَا فَآلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَيْقِيمَةَ

پکھ بھی بجز اس کے کہ دونوں اندر شہر کو کہ فائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو پھر اگر مہین خوف ہو کر وہ دونوں قائم نہ رکھ

حُدُودَ اللَّهُ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَرِیقَ

سکیں گے اللہ کی حدود کو تو کوئی حرج نہیں ان پر ۲۹۶ کے عورت پکھ فدیہ دیکر جان پھردا لے ۔ یہ

حُدُودَ اللَّهُ فَلَا تَعْتَدُ وَهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

حدیث ہیں اللہ کی سوانح سے آگے نہ بڑھو اور یوں کوئی ۲ گے بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے سو وہی لوگ

۲۹۶ اگر خاوند عورت کو مارتا پہنچتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر زینکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی عصیتوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصہ میں بیان فرمایا گیا ہے جسے فقہاء کی صطلاح میں خلخ لہا جاتا ہے۔ یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو حورت حاکم وقت کے پاس خلخ کا مطلبابر کرے۔ اور حاکم پیدا ان کی مصالحت کی کوشش کریجگا اگر کامیابی نہ ہو تو خاوند نے عورت کو مہر میں بوجوچہ دیا تھا حاکم اسے لے کر خاوند کو واپس کر دے۔ اور ان کے درمیان تفریق کر دے۔ خلخ ہے اور کس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔

فقہاء اخوات نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زنا یا خاوند کی طرف سے ہے تو اسے خلخ کرتے وقت بھی سے کچھ لینا مناسب نہیں اور اگر زنا یا بھی کی ہے تو حبنا اس نے بھی کو دیا تھا اتنا لینا سے مباح ہے اور اس سے زنا یہ مکروہ ہے اور بعض دیگر علمائے کہلہ ہیں کہ زنا یا بھی لے سکتا ہے۔ معلوم کی عدالت بھی میں حضیں ہے۔ اسی حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام نے یہ بھی ہے کہ جمیلہ بنت عبد اللہ نے جو ثابت بقیہ کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی لانا اور لاثابت لا بیحتج راسی و لاسدہ شئی۔ یہ اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میر اسرار اور اس کا سرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا (اس نفرت کی بیجز اس کے کرنی وجہ نہ تھی کہ اکوان کی مشکل پسند نہ تھی) حضور نے فرمایا کیا تم وہ باغ وابس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نہ فرم کو نہ ہیں دیا تھا۔ جمیلہ نے کہا ہاں وہ بھی اور کچھ اور بھی دیتے تو تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ (خلخ کے تفصیل احکام کے لیے کتب فقہ کی طرف حرج عرب کیا جائے)

هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَشْيٍ

ظالم ہیں۔ (دوبار طلاق دینے کے بعد) ۲۹۸ پھر اگر وہ طلاق نہ اپنی بیوی کو تودہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں

تَنِكِحَ زَوْجًا غَيْرَهِ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا

کہ نکاح کر سے کسی اور خاوند کے ساتھ پس اگر وہ (دوسرا) طلاق نہ اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں یہ شرطیکہ

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَاهُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا

انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو اور یہ حدیں ہیں اللہ کی وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ

لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں اور جب تم طلاق دیوں عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدالت ۲۹۹

فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّ حُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

پس یا تو روک لو انہیں بھلانی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلانی کے ساتھ اور نہ روکو انہیں

۲۹۸ یہاں سے تیسرا طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے۔ یعنی اگر تیسرا طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بنتے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا اور پھر وہ دوسرا خاوند ہم بسترنی کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جاہل تھی۔ یہ ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد جس میں تاویل کی کجھ نہیں۔ ابھل اس کا حل حالہ کی باعث صد فرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ کا یہ حکم پیش نظر ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔

ترجمہ : حلال رکنے والے پر بھی اشکی چھپکارا اور جس (بے غیرت) کے لیے حلال کیا جا رہا ہے اس پر بھی اشکی چھپکار۔ رکوع کے آخر تک حصی ایتیں ہیں ان میں مکر رہ کرتا کیم کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے تانے اور دُکھ دینے کے لیے نہ کرو بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو۔ اور جو ایسا کرے گا وہ کوایا اللہ تعالیٰ کی کیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی شکنی سرزنش ہو سکتی ہے۔

۲۹۹ طلاق سے یہاں مزاد طلاقی رجی ہے۔ یعنی جب تک تم نے طلاق محفوظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں ختمیار ہے چاہے تو رجوع کرو اور اسے اپنے گھر بیالا اور اسکے ساتھ مسون سلوک کرو۔ اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عذر گی اور شاشتہ ہی ہے۔

خَرَارًا لِتَعْتَدُ وَإِوَّاهًا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ طَوْلًا

تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیستی کرو۔ اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ خلکم کر گیا اپنی ہی جان پر اور نہ

تَكْتَلِخُ وَمَا أَيْتَ اللَّهَ هُزُواً وَأَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آتَنَا

بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں اور یاد کرو لئے اللہ کی نعمت کو بھوت پر ہے اور (یاد کرو) جو اس نازل

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةٌ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

فرمایا تم پر قرآن اور حکمت وہ نصیحت فرماتا ہے تہیں سے۔ اور دوسرے رہوا اللہ سے اور خوب جان پر

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ^(۲۳) وَلَا إِلَهَ قَرْبُهُ^(۲۴) التَّسَاءُ فَبَلَغْنَ

کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کرچکیں

أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

اپنی عدت تو نہ منع کرو اہمیں نہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے جبکہ رضامند ہو جائیں

علیحدہ کرو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اہمیں نیک نیتی محفوظ ہو۔ عورت کو ضرور دینا اور اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔

نہ گھر بیوی نہ فرگی کی اہمیت کے بیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تہیں میں تاویل سے کام لیا شروع کیا تو یاد کوہ متارا یہ جسم نظر انداز ہمیں کیا جائے گا کیونکہ تم ایات تحدا و فری کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور یہ بڑا سمجھنے جرم ہے۔ اس کی سزا اتمیں محبتمنی پڑے گی۔

نہیں پہلے جملے میں سرزنش کی گئی بھتی۔ اب ملاطفت و شفقت سے ان قوانین کے اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہدایت ہمہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ تہیں اس نعمت عظمی کا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے۔ تبھی تو تم اس احسان عظم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب و تہیب کی کیا حسین آمیزش ہے۔

نہیں یعنی مطلقاً عورت جب اپنی عدت جپی کرے اور اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہ کریں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ عدت اگر نہ کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پہلا خاوند اسے نزد کے اور یہ کوشش نہ کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

آپس میں مناسب طریق سے یہ فرمان الہی (ہے) نصیحت کی جاتی ہے اسکو جو تم میں سے تین رکھتا ہو

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرَطِ ذَلِكُمْ أَذْكُرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اللہ پر اور قیامت پر یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

اور تم ہنسیں جانتے۔ اور ماں دو وہ پلایں اپنی اولاد کو پورے دو

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمِّمَ الرَّضَا عَلَةً طَوَّعَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

سال ۳۳ھ (یہت) اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مت۔ اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ پر

رَسْقَهُنَّ وَكَسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَفِّرُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

کھانا ان ماوں کا اور ان کا لباس مناسب طریق سے۔ تکلیف، ہنسی دی جاتی کسی شخص کو گراہی حیثیت کے طبق

دوسرا بھی اس سے بکاہ نہ کرے۔

۳۴ھ یہاں طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس جد اتنی کے بعد اس کی پورش کا کیا طریق ہوگا۔ اس لیے ضروری تھا کذبچہ کی پورش کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر میں انہیں اس موقع پر بیان فرمادیا جائے۔ لہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔

مسئلہ: ماں خواہ مطلقاً ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے بشرطیکہ باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت و مہنگائی نہ ہو ایک دو دوھ پلانے والی میسر نہ آئے بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔

اگر یہ باتیں نہ ہوں لیجنی بچہ کی پورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہنسیں مستحب ہے۔ (منقول از حاشیہ صدر الأفضل^۱ مراد ابادی)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر جکی تو وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ (حاشیہ صدر الأفضل^۲)

لَا تُضْرِبَنَّ وَالدَّةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ

نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اسکے لڑکے کے باعث اور نہ کسی بابک (ضرر پہنچایا جائے) اسکے لڑکے کے باعث اور وارث

الْوَارِثٌ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تِرَاضٍ قِنْهُمَا وَ

پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ پس اگر دونوں اراوهہ کریں (دودھ چھپڑانے کا اپنی مرضی اور

تَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُنُّهُمَا

مشورہ سے تو کوئی گناہ ہنیں دونوں پر اور اگر تم پھا ہو کہ دودھ پلواؤ (دا یہ سے) اپنے

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط

اولاد کو پھر کوئی گناہ ہنیں تم پر جبکہ تم ادا کر دو جو دنیا بھر ایسا تھا تم نے مناسب طبقی سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ

اور ڈستے رہو اللہ سے اور (غب) جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ

يَتُوقُونَ مِنْ كُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةٌ

فوٹ ہو جائیں کہتے ہیں میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں ہیں چار

الشَّهْرُ وَعَشْرًا فَإِذَا أَبْلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

ہنیں اور دس دن اور جب پہنچ جائیں اپنی راس) مدت کو تو کوئی گناہ ہنیں تم پر اس میں جو

۳۳۔ یہاں ان عورتوں کی عدالت کا بیان ہے جن کے خادم فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہوں۔ حاملہ کی عدالت وضع حمل ہے یعنی جس وقت وہ پچھنے کی اس کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ اس کی تصریح ہو گئے ہتھے کی

۳۴۔ اس کا صرف یہ طلب ہنیں کہ وہ اس مدت میں نیکاں نہ کرے بلکہ احادیث صحیح کے مطابق تکی دوسرا چیزیں سے بھی پرہیز لازمی ہے۔ یعنی عدالت کے اندر وہ نیکیں اور شیئی لباس نہ پہنے۔ خوشبو نہ لگائے۔ ہنہی اور دیگر ارشاد سے احتساب کرے۔ اپنے متوفی خادم کے ہی گھر ہٹرے۔ (اہل ضروری کام کی غرض سے دن کو گھر نے نکل سکتی ہے رات کو

فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ^{۲۲۱}

کہتیں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقع ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ السِّيَامِ

اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارہ سے پیغام نکاح دو۔ ان عورتوں کو

أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا لَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ وَلَكُنْ

یا جو چیز سے ہوتا ہے دلوں میں یہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے البتہ

لَا تُوَاعِدُ وَهُنَّ بِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا

نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی مگر یہ کہہو (ان سے) شریعت کے مطابق کوئی بات اور نہیں کرو

عُقْدَةُ النِّكَارِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

نکاح کی گردہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عقدت اپنی انتہا کو اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے

مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَالْحَدَّرَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ^{۲۲۲}

جو مہماںے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔

پھر اسی مکان میں شب باشی کرے۔ نیز نئے نکاح کے لیے بھی بات چیزیں ذکرے۔

یہی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عترت وفات گزارنے والی عورت سے صراحتہ نکاح کرنے کا ذکرہ نہ کریں یعنی وامزو کی ان گھریلوں میں جبکہ ایک گھر سے چار شخص ہو چکا ہے تھا راجشن شادی منانے کی طرح ڈالنا کتنا ہی یوب ہے اور اس مرحوم کے ساتھ تھنی بے انصافی ہے کہ ابھی اسکا کافن بھی میلا نہیں ہوتا اور تم اسکی بیوی کو شادی کا پیغام بھیجنے لگے ہو۔ ہاں پر وہ داری سے اگر قم لپٹنے ارادہ کا انہمار کر دو تو اس میں کوئی تحریج نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات تھماںے دلوں میں ہی سہے اور زبان پر نہ آنے پائے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

کوئی ہرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جسی کوئی نہیں ۳۰۵ اور نہیں

تَفِرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرَهُ

مقرر کیا تھے ان کا نہر اور غرچہ دو انہیں مقدر و لے پر اسکی حیثیت کے مطابق

وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ^(۴)

اور تنگست پرس کی حیثیت کے مطابق یہ خرچ مناسب طریقہ پر ہونا چاہئے یہ فرض ہے نیکو کاروں پر ،

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنَّ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْنَا

اور اگر تم طلاق دو انہیں ۳۰۵ اس سے پہلے کہ تم انہیں باختہ لکاؤ اور مقرر کر پکے تھے

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفٌ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آنَّ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا

ان کے لیے مہر تو نصف مہر (ادا کرو) جو تم نے مقرر کیا ہے گریہ کرہے (ایسا حق تھا معاوضہ کردیں یا معاف

۳۰۶ یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی اور مرد نے اس کے ساتھ صحبت اور خلوت صحیح بھی نہیں کی۔ بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہی عورت

کو خرچ کیلے کچھ دید و تاکہ اس کی دلچسپی ہو جائے۔ فقہار نے قیم کپڑوں کا جوڑا فرمادیا ہے۔ یہ بھی بتاویکہ خاوند اس میں تنگی

سے بھی کام نہیں اور ضرولی خرچ بھی نہ کرے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہئے وے رحمات یہ دضاحت کی کہ دینا ضرور ہے

۳۰۷ یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو جوچا تھا لیکن صحبت اور خلوت صحیح سے پہلے

طلاق دے دی گئی۔ فرمایا اس صورت میں خاوند نصف مہر عورت کو دے۔ اس اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخشن

دے یا خاوند پورا مہر دینے کی تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت نہیں اس رعایت کو وہ معاف کرنے تو پھر اور بیات ہے۔ الذی بیده عقدۃ النکاح سے مُراد خاوند ہے۔ کیونکہ نکاح کی گرفت کے باہم ہے اور کھونے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے۔ اور ان تعفووا سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اور فرانخ دلی کے

زیادہ سمجھتی مرد ہیں ۔

الَّذِي بَيْدَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُواً أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَ

کرنے والہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے ۔ اور (اکمدو) اگر تم معاف کرو تو یہ بہت قریب سے تقویٰ سے اور

لَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُمَانِعُ الْمُعْلُوْنَ بَصِيرًا ۲۴۹

نہ بھولا یا کرو ۔ ۹۷ ہے احسان کو آپس (کے لیے دین) میں بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے ۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا اللَّهَ قُنْتَدِينَ ۲۵۰

پابندی کرو سب نمازوں کی ۳۳۳ اور (خُصُوصاً) درمیانی نماز کی ۳۳۳ اور کھڑے رہا کرو اللہ کیستے عاجزی کرنے ہے ۔

۹۸ ہے اس وقت احسان و مرتوت کی پہاڑت کی جا رہی ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق ہینے کی نوبت آپنی ہے ۔ لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوتے ہوئے حالات میں یہی حُسْنٖ خلق کا مظاہرہ کرو ۔ اور اگر دوسرا فتنہ تمہارے اس حُسْنٖ سلوک اور مہربانی کا اعتراض اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تو ہتھیں دیکھ رہا ہے ۔ اگر وہ رضاخی ہو گیا تو پھر ہتھیں اور کیا چاہے ۔

۹۹ ہے ذکرِ الہی اسلام کی روح ہے ۔ یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخشی شریعت کے تمام قوانین پہل کر سکتا ہے ۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکام کا بیان ہوا وہاں ساختہ ہی ذکرِ الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیتا کہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں ۔ یہاں بھی خانجی زندگی سے متعلق احکام طلاق، عُلُم، عدالت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا ۔ کیونکہ نماز ہی ذکرِ الہی کا سب سے ہلی اور تمثیر طریقہ ہے ۔ اسمیں حسم و روح، دل و دماغ سب مصروفِ عبادت و مناجات ہوتے ہیں ۔ یہاں قرآن کے الفاظ غلط طلب ہیں ۔ حافظوں علی الصّلوات فرمایا احفظوها ہیں فرمایا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاسد کا صدر علی اکباتے تو اس تو افتت اس کے معنی بار بار اور علی الدّوام کرنے کے ہوتے ہیں (المدار) یہاں بھی تقصید یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو ۔ یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفت بھر کے لیے چھٹی مل گئی ۔ اسلام میں نماز کو جو ہمیت حصل ہے وہ محاذ بیان ہیں ۔ قرآن کریم میں اسکا حکم سود فرم کے قریب ہے حضور علیہ الصّلوات وَالسّلَامُ فَنَّ اَسِ دِيْنِ كَائِنُونَ فرمایا ہے ۔ اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملہ میں عتبی سُتّی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرنا ہوں ۔ ممکن ہے اس سے کوئی خشن نصیب ہدایت پا جائے ۔ من حافظ علیہما کانت له نورا و بر هانا و نجاہ و کان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف (رواه احمد و الطبرانی) ترجمہ : حضور نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا

پھر اگر تم تو در ہو (یعنی غیر کا تو پیدا ہے یا سوارہ میسے بن پڑے) ۳۱۲ پھر جب تھیں ان حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو حسن

عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ

اُس نے سکھا یا ہے تمہیں بحث نہیں جانتے سمجھتے - اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم تھیں سے ۳۱۳ سے اور

يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيْرَةً لَا زَوْاجَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرُ اخْرَاجٍ

پھر طلاقتی ہیں یہ بیان (انہیں چاہئے کہ) صیحت کر جایا کریں بھی بیویوں کیلئے کہ انہیں غریب دیجائے اکیسال تک (اور) شکار لاجائے انہیں گھر

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ

پھر اگر وہ خود میں جایتیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کروں - اپنے معاملہ میں مناسب

ادا کر کے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نہ رہو گی۔ اس کے ایمان کی واضح دلیل ہو گی۔ اور اس کی بخات کا باعث ہو گی۔ اور جن نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نہ رہو گا نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ اور اس کا حشرت قارون، فرعون، ہامان اور ابی بیٹھفت کے ساتھ ہو گا۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرو اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیقی عطا فرم۔ آئیں۔ بجاو جبیک الکیم علیہ افضل الصلة وہ مسلمان۔ ۳۱۴: در میانی نماز سے کوئی نماز مراد ہے۔ اس میں علمار کے احوال مختلف ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت علی۔ ابی مسعود و عائشہ وغیرہم صحنی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ اور امام عظیم صحنی اللہ عنہ کا یہی مسئلہ ہے جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور صنے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھرنے اہنگوں نے ہمیں در میانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ ملا اللہ بیویوں و قبور ہو نار لکھا ماسغلونا عن الصلة الوسطی حتی غابت الشمس۔ متفق علیہ ۳۱۵: یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تھیں دشمن کے حملہ کا اندر یا شہر ہو۔ ہاں اتنی انسانی کردار گی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا پیش ہوں یا بیویوں پر پیٹھی بیٹھیے جد ہر جگہ رُخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔

۳۱۶: ابتدائی اسلام میں یہ کی عدت ایک سال تھی اور ایک سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مساحت ہوتی تھی پھر ایک سال کی عدت تو آئیہ یہ تبصنت بالنفسہن اربعۃ الشہر وعشیرہ مسنوخ ہوئی جس میں یہ کی عدت چار ماہ و سی دن مقرر فرمائی گئی اور سال کا نفقہ آیت میراث سے منسون ہوئا (حاشیہ صدر الافق افضل)

مَعْرُوفٌ طَّوَّلَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَهُ طَلَقٌ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ طَّهْقًا

طور پر لکھا۔ اور اللہ بہت نبردست بڑا دانہ ہے۔ اور اسی طرح ہجہ کو طلاق دی گئی انکو خرچ دنیا چاہیے مناسب طور پر۔ یہ

عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ يَبْيَسُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَاهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا

واجب ہے پہنچ زکاروں پر لکھا۔ اسی طرح کھول کر بیان فرمائے اللہ تعالیٰ تھا سے یہ اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کیا ہیں

تَرَإِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ

دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے لکھا پسند کھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے ۱۳۳ تھے تو فرمایا

لَهُمُ اللَّهُ مَوْنَوْا تَمَّ أَحِيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذِلْ وَفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ

اخیل اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ پھر زندہ فرمایا اخیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہمارا ہے لوگوں پر

۱۳۳ یعنی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبوڑ ہیں کیا جائیگا۔

بشر طیکر وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا خلاص سے گرا ہوا ہو جس سے انہی ناموس انصار ہو یا ان کے فوت شدہ خاوند کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو ممن معروف کی قید رٹھا کر انہیں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ۱۳۵ شریعت نے مطلقاً عورت کے لیے عدت مقرر کی ہے اس کی ایک حجت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں۔ اس میں سراسر خاوند کے نسب کی خفاظت محفوظ ہے گویا عورت ابھی اسی کے حقوق کی تکمیل اشت کیے مجبوڑ ہے اس لیے اس کے اخراجات کی ذمہ داری خاوند کو سوچی گئی۔ اور یہی عین اضافت ہے۔

۱۳۶ کمی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا داقربیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کوئی قوم تھی۔ لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب تھے ناقابلِ عتماد ہیں آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گذشتہ قوم کے (جس کی

تعین مقصود ہیں) عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اخیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور اس طرح مارنے اور جلانے سے مدد عان کو یہ سمجھنا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ نہ تم اپنی سماں و کوشش سے اپنی موت کو طالب سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے اُمّت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا ملت کرنا۔ وہ کون تھے؟ کہاں سے بھاگے تھے؟ کیوں بھاگے تھے؟ یہ ایسی تفصیلات ہیں جن میں اُمّجھے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ۱۳۷ جبھوڑ کا قول یہ ہے کہ الْوَفْتُ بِمَعْ جمع ہے الْكُفُّ کی جس کامی بہزادہ ہے یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور بعض افراد میں تھے

لِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ^{۴۰} وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا

لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ۱۳۸ اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ مَنْ ذَالِكَنْ يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے والا سب کچھ جانتے والا ہے کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض سن ۱۳۹

(ابن زید) سے یہی منقول ہے کہ الوف، الافت، الافت کی جمع ہے۔ اب معنی ہو گا کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے بٹکے کہ وہ ایک دوسرا کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بس رکر رہے تھے۔ اس آئیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی انداز کیا ہے کہ اگر کہیں واپس پڑے تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ یونکہ الگ نتدرست بھاگ نکلے تو بیاروں کی تیارداری کوں کرے گا۔ نیز اس بھگڑے سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اگر متعدی مرض ہے تو نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراحتی صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور وہاں بیماری پھیل جاتے اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیتِ دین، اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سواد و سرے اسباب کو وہ فتحی و محبت سمجھنے لگیں گے جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقہ سے بھاگنے سے منع فرمایا اُسی طرح اُس میں داخل ہونے سے بھی روکا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ فمن سمع به بارض فلايق من علیہ ومن کان بارض وقع بھاڻا يخچ فرادا منه۔ (بخاری)

۱۳۸ یعنی خوب ذہن نہیں کرنے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں میں کوئی اپنے حیلہ سے موت کو طال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربندی کے لیے ہمادی تغییبی جاہزی ہے۔

۱۳۹ لفظِ عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں ہو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی اپنے پاس نہ ملتی اس لیے دوسرا سے اوضاع کے کوپری کر لیں یونکہ اللہ تعالیٰ جو غیرِ حمید ہے ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے بلکہ ان قرض

اسوکل مایلتمس علیہ الجزاء (قطبی) یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس اپنے زام اور بدله طلب کیا جاتے۔ اب کسی شتم کا خلجان پیدا ہی نہ ہو گا پہلے کیونکہ جماد کا حکم دیا گیا تھا اور جماد کے لیے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو

اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے یعنی یہ مت سمجھو کر یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تھیں کتنی گناہ معاوضہ دے گا۔ قرض اگر بمعنی معمول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہو گا کہ جو مال

اللہ کی راہ میں خرچ کر دو وہ حلال اور پاک ہو۔ اور اگر قرض اپنے مصدري معنی میں ہی استعمال ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہو گا کہ قرض دو تو خلوص سے دو۔ غوشی خوشی دو، منصوب علی المفعولیۃ ای مقرض حالاً لاطیباً و علی المصدریۃ

ای قرض امقورونا بالاخلاص و طیب النفس (نظمی)

فَيُضِعْفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تو بڑھاۓ اللہ اس فرض کو اس کے لیے کہتی گئی اور اللہ تعالیٰ تینگ کرتا ہے (رزق کو) اور فرخ کرتا ہے (لٹے) اور اسی

تِرْجَعُونَ ﴿٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

کی طرف تم لوٹا تے جاؤ گے کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو ۳۲۱ سے بنی اسرائیل سے (جو ہموں (علیہ السلام) کے بعد ہوا

لَذِقَ الْنَّبِيٌّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ

جب کہا انھوں نے اپنے بنی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک نیر ۳۲۲ سے تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں بنی نے کہا

۳۲۳ سے اور یہی نوب ذہن نشین کر لو کر رزق کی تنگی اور فراغی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خداوں کے منہ کھوں ڈے گا۔ اور اگر بھل کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جاتے اور تمھیں محتاج مغلس بنادے۔

۳۲۴ ملائے سے مراد قوم کے روسا اور شرفاء ہیں۔ ان آیات میں ہموں علیہ السلام کے تقبیاً تین سو سال بعد اور حضرت علیہ السلام کی ولادت سے ہزار گیارہ سو سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کا مختصراً جا یہ ہے کہ عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل رامہ کے علاقہ میں مخصوص ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت جو ان کے بنی اور حکمران تھے ان کا نام سمیول تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ عمالقہ کی ایذا رسانیاں اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ عمالقہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لیں۔ اس لیے انھوں نے بار بار اپنے بنی حضرت سمیول سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک ملک (سردار) کا سوال کریں۔ حضرت سمیول ان کی مدد و معاونت سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے بوڑھے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش برداشت جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موز جاؤ۔ کہنے لگے حضرت جی! انہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں حالانکہ ہمیں گھروں سے کلا لالگا اور اپنے بچوں سے جدرا کر دیا گیا۔ ہم تو صرف اذن ربیٰ کے منتظر ہیں لیکن جب انھیں اجازت مل گئی تو گفتگی کے چند آدمیوں کے سواب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔

۳۲۵ بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انھیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے۔ اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے۔ اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر فرقہ ریجن میں بضایا بھی ہیں، نے ابعت لئا ملکا کا معنی کیا ہے افتم لئا امیرانہض معہ للقتل پر بارما۔

هَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لَوْ أَطَّلُوا وَمَا

کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں

لَنَا إِنَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ

ہمارے بیان کے ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور

أَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا فَنَهَمُ طَ وَ

اپنے فرزندوں سے مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز پہنچنے ان میں سے اور

اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظُّلْمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ

اللہ تعالیٰ اخوب جانے والا ہے ظالموں کو اور کہا انہیں ان کے بنی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیا ہے

یعنی ہمیں ایک امیر اور فائد عطا فرما جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جگہ کا سارا انتظام اس کی

نگرانی میں ہو تو اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے اور عربی زبان میں لفظ ملک رہیں

اور امیر کے معنی میں عام متعلق ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی خور طلب ہے کہ مُوکتیت یا شاہی نظام حکومت کا مقہوم

یہ ہے کہ رہیں حکومت مطلق العنان بادشاہ ہو اکرتا ہے۔ قانون سازی، انتظام حکملت، حکومت کے سارے نزدے نہیں اس

کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے بیان

جواب دہ نہیں ہوتا۔ یہاں جب حضرت سمویل نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہو گا جو ان کی شریعت کا ہے۔ اقتدار اعلیٰ

انہیں کے پاس ہو گا ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقریر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان اور غیر ملکی

ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام مُوکتیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ اقہم

تو بھی اسرائیل کا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اُسے بیان کر دیا۔ اس سے یہ کہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے

ان کے اس مطالبہ کو پسند کیا۔ اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ باطل کے باب سمویل اول میں جو آیات

ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے اس مطالبہ کو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نہ اللہ کے بنی نے۔

لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَئِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَعْنَقُ

تمہارے یہ طالوت کو امیر سے بولے کیونکر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر حالانکہ ہم زیادہ تعداد ہیں

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوعَدْ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُ

حکومت کے اس سے اور نہیں دی کئی اسے فرانجی مال و دولت میں بنی نے فرمایا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھن لیا ہے

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ

اسے تمہارے مقابلہ میں اور زیادہ وی ہے لے گشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک

مَنْ يَشَاءُ طَوَّلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ تَبَّعُوهُمْ إِنَّ أَيَّهُمْ لَكُمْ

جسے پاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وُعْدَتْ والا سب کچھ چانے والے ہے اور کہا انھیں اُن کے بنی نے کہ اس کی بادشاہی کی شانی یہ ہے

أَنْ يَاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبِقِيَّةٍ مِمَّا تَرَكَ

کہ آئے گامہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی (کاسامان) ہو گا تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں مجھی ہر چیزیں ہوں گی

أَلْ مُوسَى وَالْهَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ

جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے ہے شکر میں بڑی نشانی ہے تمہارے یہے

۳۴۳۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سروار اور سپہ سالار مقرر فرمادیا تو لگے اعتراض

کرنے کے شخص نہ لادوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسل بعد نسل حلی آتی ہے اور نہ یودا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پُشت در پشت چلی آرہی ہے) تو یہ نادار اور فلاش کب سردار قوم اور سالار شکر بن سکتا ہے۔

امامت کے تھدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے حضرت سموئیل علیہ السلام نے انھیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں بلکہ اس کا صحیح معیار تو عمل و شجاعت ہے اور ان دونوں بالقویں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔

باعیل میں ہے کہ تیریں سالمہ نوجوان اپنے حصہ و جمال میں بے نظیر تھا۔ اُس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسروے لوگ مشکل سے

اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے اور یہیں یہیں کی نسل سے تھا حضرت سموئیل نے انھیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی اختیار نہیں بلکہ سب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے تھیں اس کی عطا و بخشش پر متعرض نہیں ہونا چاہیے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَلَئِنْفَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

أَكْرَمُ إِيمَانَ دَارِهِ ۖ ۳۲۵ پھر جب روانہ ہوا طالوت ۳۲۵ء اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ

مُبْتَدِئِكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ

آزمائے والا ہے تھیں ایک نہ سے سو جس نے پانی بنی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے اور جس نے نہ پیا

فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَ فَغُرْفَةٌ بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے پس سبھے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے

۳۲۴ ہنی اسرائیل بھلاکب آسمانی سے اپنی صدر سے باز آنے والے تھے فوراً مطالیہ کیا کہ آپ دلیل بیش کیجئے کہ طالوت کا انتقام واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے بنی نے انھیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تحریک تسلیکین و طباغیت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ وہاروں علیہما السلام کے تبرکات تھے اور جعل القلم سے چھین کرے گئے تھے وہ تھیں فرشتے والیں کر دیں گے۔ اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تھیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی جب فرشتے اس صندوق کو اٹھاتے ہوئے یا اس میں گاڑی کو ہانکھے ہوئے جس پرتا بوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انھیں طالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا۔ نیز انھیں ڈھارس بندھ گئی کہاب وہ یقیناً فتحیاب ہوں گے کیونکہ ابنیا کے کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور پارچات اور حضرت ہارون کا ہامد خدا انھیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعقیل اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے وہ عالمیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخ، بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی بھی جس میں حضور کرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک بال شریعت رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس محركیں میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی بکت سے مجھے کامیاب و کامرانی کرتا ہے۔

۳۲۵ جب طالوت عالم القمکی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک انبوہ کشیر تھا۔ راستے میں ایک نہ امکن ہے دریاۓ اردن ہی ہو، پر سے گزر ہوا تو انھیں حکم ملا کہ اب تحار امتحان لیا جاتے گا اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہ سے پانی پیش کی اجازت نہیں جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں یاں الگ پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کر بی لو اس سے زیادہ نہیں۔ اب کیا تھا سب ٹوٹ ٹوٹے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا یا سوائے چند مخلصین کے ہواں امتحان میں کامیاب رہے اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق ۳۲۱ تھی۔ باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انھوں نے شکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَوْزَةٌ هُوَ وَالَّذِينَ أَمْتُوا مَعَهُ لَقَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا

ان سے (نبیں پیا) پھر جب ۲۴۳ نے عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لاتے تھے، اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ قات

إِيُّوبَ رَبِّ الْجَاهْلَةِ وَجْنُودِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْنِيُونَ أَنَّهُمْ مُلْفُو

نبیں ہم میں آج جاولت اور اس کے شکر کا مقابلہ کرنے کی (مگر) کہا ان لوگوں نے جو تھیں رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں

اللَّهُ لَا كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ

اللہ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالباً آئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ

الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزَ وَالْجَاهْلَةِ وَجْنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب سامنے آگئے جاولت ۲۴۴ نے اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ والی میں عرض کرنے لگے آئے جارے رب!

صَابِرًا وَشَيْتَ أَقْدَ امْنًا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ

اندر ہم پر صبر اور جماعتے رکھتا ہے قزوں کو اور فتح نے ہمیں قوم کفار پر پس انہوں نے شکست دی جاولت کے شکر کو

۲۴۴ اب طالوت اپنے مٹھی بھر جانا زسپا ہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے لیکن جب انہوں نے جاولت کا شکر بھرا ویکھا تو سم سے گئے اور کہنے لگے کہ جاولت کے اتنے بڑے شکر کے ساتھ جگ کر لئے کی طاقت ہم میں کہاں لیکن انہیں کے چند تھیں تین سا تھیوں نے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات ہو گئے ہیں جب کہ اس کی نصرت اور ثبات سے چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شرکیں حال ہوتی ہے جو حق و صداقت کے لیے صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔

۲۴۵ جب وہ جانا زمیر تھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور زینے لیے صبر و استقامت کی دعا کی اور پھر وہ میں کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولیں ہیں جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ موثر تھی خیار دعا ہے جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہٹھوڑ کر گیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کی شنست طاہر و بھی یہی تھی۔

بِإِذْنِ اللَّهِ قُلْ وَقَتَلَ دَاوُدْ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَ

اللہ کے اذن سے ۳۲۸ میں اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو ۳۲۹ میں اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور

عَلَيْكَ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ يَبْغِضُ

سکھا دیا اس کو جو چاہا اور اگر نہ پھاڑ کر تا اللہ تعالیٰ میں بعض لوگوں کا بعض کے ذریعہ تو

لَفْسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعُلَمَيْنَ ۝

بر باد ہو جاتی زین اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سالے جہاںوں پر

تَلْكَ آيَتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

یہ آیتیں یہیں اللہ کی ہم پڑھتے ہیں انھیں آپ پر اے جلیب (ٹھیک ٹھیک) اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں

۳۲۸ میں مُسْتَحْمِی بھر جا دیں نے اللہ تعالیٰ کی تائید و صحت سے دشمن کے شکر جرار کو شکست فاش فرم دی۔

۳۲۹ عملاقہ کے سپہ سالار جالوت کو جوبڑا بھا در اور گھنہ مشق جریل تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ما رکر ہلاک کر دیا حالاً لکھ حضرت داؤد اُس وقت بالکل کم سن تھے۔ زرد رو اور لاغر و بیمار تھے۔

۳۳۰ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کربستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے نظام کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی محکمت اور قدرت سے طاقت کا تواریخ یوں قائم نہ کھے تو سرکش افراد اور قمیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو دیراں میں تبدیل کر دیں اور زین میں کسی گوشہ میں انسان کو امن کا سامنا لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ مُوسُلی پیدا فرمادیتا ہے۔

تلک الرسُّلُ فَضَّلَنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ

یہ رسول ، ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں سے) بعض کو بعض پر ۳۴۳ءے ان میں سے کسی سے

كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرْجَتٍ وَّاتَّبَعَنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے اور دیں ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو

الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ وَلَوْشَاءُ اللَّهِ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ

کھلی نشانیاں اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے ۳۳۷ءے اور اگر چاہتا ہے ۳۳۳ءے اللہ تعالیٰ تونہ لرتے (چھکڑتے) وہ لوگ

۳۴۳ءے اللہ تعالیٰ کے سب سوں نفس سالات میں اور جنم انبیاء نفس نبوت میں یا برہیں یکیں فضائل کمالات، مراتب مقامات ہمچوڑ کرتے میں ایک دوسرے رفضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا کسی کو دوسرا شرف مندرجہ فرمایا لیکن ایک ذات پاک صفتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ آم و ہم سے بوجملہ تم ہے تمام حمالات جلالیہ اور جالیہ کی یوم مرافت کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم نبی عطا فرمائے گئے اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت محبوسات بخششہ بن ہیں کوئی نبی کوئی رسول ہمسی توکی مغضض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کہ سکتا یہ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زینتی اور اسلامی کیلئے نبی بنا یا کما مخدود وقت کے نہیں بلکہ ابتدا کے لیے قرآن عصیٰ کتاب لئے ان فرمائی جماعتہ للغایمین کے خطاب سے نواز اخیر نبوت رسالت کا لائحہ زیست فرمایا کسی کو صرفی، کسی کو خلیل، کسی کو فلیم اور کسی کو روح فرمایا لیکن کائنات کے اس آخری سماء کے صفوتو، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ مجبوستی کی خلعت فاغرہ جنہی مفسروں کرام نے تصریح کی ہے کہ فتح بعضہم درجت سے حضور کریم خدا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں یعنی یہ بات ذہن شیش ہے کسی نبی کو دوسرے نبی پر پول فضیلت دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تھیہ یو قال الخناس بعضہم هناعی قول ابن عباس والشعی ومجاہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقریب غیرہ ۳۴۴ءے ہمارا حضرت علیہ السلام کے نام کی تصریح فرمادی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جبل القدر رسول اپنیوں اور بیگانوں کی فراط و نفرطی کا شاشابن کر رہ گیا تھا انصاریٰ نے انھیں خدا کا بیٹا بنارکھا تھا۔ اور یہود انجیں ایک شریعت انسان بھی ماننے کے لیے تیار رہتے اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم لعینہ مریم کا بیٹا کہ مرک ان کی اٹھیت کا بطلان کر دیا اور ایڈ ناہ بروغ القدس فرمایکر ہو یہ دی کی ایڈ ام تراشیوں کا لشکر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بیانات نبی ہے جس کی تائید کے لیے یہ روح القدس (جبریل ایم) کو مقرر کیا ہے۔

۳۴۵ءے اگر انسان اس آیت میں کما سخت مثال نہ کرے تو وہ انسان سے اس فقط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور مغضض ہے اس کے پیسے میں کچھ نہیں ایک غیر مرتی توت (اسے تقدیر کہ ریجیٹ) کے ہاتھ میں یہ ایک ھلوانا ہے اس کا کوئی اچھا یا بُرا فعل اس کی ہرشاستہ اور ناشاستہ حرکت اس کے پیسے ارادہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس سے جبراً کلئی جاتی ہے لیکن اگر اپنے ذائقہ و نکری نہ محت گوارا کیں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دو کر دیں گے۔ اختلافوار وہ آپس میں اختلاف کرنے گے، فنہم من آمن ران میں سے بعض نے

مِنْ بَعْدِ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ تَهْمُمُ الْبَيْتَنُ وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا

جو ان (رسولوں) کے پیچھے آتے بعد اس کے کہاں گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا

فِيمَنْهُمْ مِنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مِنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ مَا اقْتَلُوا

ان میں سے کوئی ایمان پر (ثابت) رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے (رجھٹتے)

وَلَكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا

لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اے ایمان والوں ۳۴۲ خرچ کر لو اس

(ایمان قبول کیا) ومنہم من کفر (اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا) یعنیوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے لیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضا سے ہے جن پر بھر کا قانون میں سکتا ہے بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی پھر انہیں کے فریمہ اس پر بدلیت کا راستہ روشن اور واضح کرو دیا لیکن اسے صرف سیدھے راستہ پہنچنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل بخکے یا مگر اسی کی راہ پر بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کرو دیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا سے یہ تباہ تقضوہ ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا سے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اختلاف کا خاتمه کیا جا سکتا ہے لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ خود باطل کی یہ آدیویش جاری رہے۔ شہحس اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہتے اختیار کرے۔

۳۴۲ سبق آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی اور اس جنگ میں حق کو مظفروں مصوّر کرنے کیلئے اہل حق کو حاضر قریبیوں کے ساتھ ساتھ ملکی قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی غربت دلی جاہری ہے لکھیں مال و دولت جو تمہیں تھمارے رب نے عطا فرمایا ہے اور اس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تھیں محدث مولیٰ ہے یاد رکھو یہ محدث صرف اس وقت تک لے ہے جب تک تھماری زندگی کا یہ حرا غمہ نہ ملدا رہا ہے جس نے یہ صحیح گیا جملت ختم جس نے اس اختیار اور حکمت سے فائدہ نہ اٹھایا قیامت کے دن وہ عمار اضیب کیا کرے گا اس روز نہ تو خرد و فروخت ہو سکے گی اور نہ وہاں کوئی دُنیاوی بجائی چارہ کا ہم آئے گا اور نہ کسی کی (الغیر اذن الہی) سفارش ہو گی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں صراحتہ موجود ہے۔ الخلاء

رَزَقْنَاكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْأَبْيَعِ فِيهِ وَالْأُخْلَةُ وَ

(مال) سے جو تم نے دیا ہے تم کو اس سے پہلے کہ آ جاتے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو گی اور نہ (کفار کے لیے)

لَا شَفاعةٌ طَّوَّافُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

دوستی بوجو گی اور نہ (ان کے لیے) شفاعت ہو گی اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں اللہ ۳۴۵ (فہرست کوئی عبادت کا لائسنس نہیں بغیر اس کے لیے)

الْحَسْنَ الْقَيْوْمَرَةُ لَا تَخُذُ الْسَّنَةَ وَلَا نُوَمَّلَةُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

زندہ ۳۴۶ سب کو زندہ رکھے والا ہے ۳۴۷ نہ اس کو اونکھے آتی ہے اور نہ نیند ۳۴۸ اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ۳۴۹

یومِ حساب ہم بعض عرض عد والا مرتقبین سب ۳۴۹ و مت اس دن ایک دسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقبی یعنی ان میان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم ہے کی اور کام آتے گی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کاشیف المذنبین ہوتا تو قرآن کی متعدد آیات اور کثیر احادیث صحیحہ تو ترقی شافت ہے اور عسی ان یعثث دبک مقام احمد مودا میں تو حجۃ للعلماء کو مقام محمود (یعنی شفاعت کرنی) پر فراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا فہم بیان کرنا جس سے دوسری آیتوں کی تعلیم ہوتی ہو کسی ایماندار کے شایان شان نہیں۔

۳۵۰ اسی آیت کو ایتہ الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اتنی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ الکریم و سلم نے فرمایا ان اعظم عجائی فی القرآن ایہ الکرسی قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت ایتہ الکرسی ہے احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک فزان سُن لیجیئ من قرائیۃ الکرسی فی درکل صلوٰۃ مکتبۃ لم یعنیہ من دخوال بجهة الاموت بخشہ فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھتا ہے اس کے بعد جنت میں مل ہونے سے کوئی رذک نہیں سکتا بل سعیم الشان آیت کی محضری تو پیغام بلا حظہ ہو:-

۳۵۱ اللہ الذات باری کا علم (نام) ہے اور یہ ناطق ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے صرف وہی معہود بحق ہے اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادات کیے جانے کے لائق ہو۔

۳۵۲ جو عجیشہ سے ہے اور عجیشہ ہمیشہ رہے گا موت اور فراق کے قص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔

۳۵۳ القیوم بہ بالعکس کا صیغہ ہے جو اس قیود و مہر تھا صرف فی تعلیل سے قیوم بن گیا اس کا مصدر رقیام ہے اس کا فہم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں لیکن حضرت فائدہ سے جو عبارت متفق ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے۔ القیوم: القائم بتبریز خلقہ من انشاءہ ابتداء دایصال اذاقه عالیهم یعنی وہ سبی جو کائنات کی ہر چیز کی تحقیق، نشوونما اور بغاٹ کی تبیر فرمائے والی ہے۔

۳۵۴ پہلاں کی صفات مکال کا بیان تھا اب جملہ نقاصل سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہفت ایک طرح کا ہے۔ یہ اونکھتہ نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جاتے وہ سو نہیں کہ یہ تعلق منقطع ہو جاتے۔

۳۵۵ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خالک تھیتی ہو یا تیرس ب کے لگلے میں بلا اشتنا اس کی بندگی کا طوق اپنیل ہے پھر کون ہے جو اس کی

وَمَا فِي الْأَرْضُ طَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ طَيْلَمَ

اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے جانتا ہے ۳۷۱

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

جو ان سے پہلے (ہو چکا) ہے اور جو ان کے بعد (ہونے والا) ہے اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ

علم سے مگر جتنا وہ چاہے سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو ۳۷۲ اور

لَا يَعُودُهَا حِفْظُهُمَا وَهُوَ عَلَى الْعَظِيمِ لَا إِكْرَاهَ فِي

نہیں تھکانی اُسے زمین و آسمان کی حفاظت اور وہی بے سب سے بلند عظمت والا کوئی نہ زبردستی نہیں ہے

ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا پرس شیال کرے فہی ایک اللہ ہے باقی سب اس کے بندے اس کے ملکوں اور تابع فرمان ہیں۔

۳۷۳ یہاں ایک قاعدہ بیان فرمادیا کہ ہر شخص کو بارگاہ و دُوالِ جلال میں اب کشانی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی۔ صرف وہی شفاعت کر سکتا ہے جس کو پیروزگار عالم نے اذن فرمایا بتایا ہے کہ اسے شرکین و کفار اپنی شفاعت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی اور ہمارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں پہنچانے سے یہ توقع عبیث کیوں لگاتے یہی نہ ہو اور الاباذنہ سے یہ واضح فرمایا کہ وہ محبوب و مقنول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت محنت فرمائی ہوگی۔ یہ سب پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب و عبیب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیۃ و اجل الشناہوں گے جو اس روز مقام محمود کے منصب رفع پہنچن ہوں گے۔ اے اللہ کریم! اہم کنگاہ کاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرماؤ اس کی پیکات و توجہات سے ہمیں دُنیا و آخرت میں سرفراز رکھ! (آئینِ خم آمین)

۳۷۴ مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقش کیے ہیں اور ان اقوال سے علامہ ابن حجر یعنی حضرت ابن عباس کا یہ

قول پسند کیا ہے۔ قال ابن عباس کو رسیہ علمہ در حجه الطبری قال منه الکراسۃ الی تضم المعلوم و قیل للعلماء الکراسی (قطبی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کو رسیہ سے مراد اس کا علم ہے ابن حجر طبری نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی

سے کہ است ناخوذ ہے جس کے معنی اس دفتر کے ہیں جس میں علم منضبط کیا جاتا ہے۔ اور عربی میں علم کو کہ اسی طبقی کہا جاتا ہے علامہ قطبی نے

اس کی سند کے طور پر ایک شعری نقش کیا ہے لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے یا ابادڑ ما السموات السبع مع

الکرسی الکھلقة ملقاء فی ارض فلادا۔ کہ کرسی کی وسعت و فراخی کے سامنے سات آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک پیسے

صحرا میں ایک ہندوی پڑی ہو بعض لوگ مخلوقات خداوندی کی وسعت و عظمت کا تصور جب اپنے ڈہنوں میں نہیں کرپاتے تو طبی

اللَّهُمَّ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ

دین میں ۳۲۳ بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے تو جو انکار کرے شیطان کا ۳۲۴

وَيَوْمَ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا نَفْصَالَمُ

اور ایمان لاتے اللہ کے ساتھ تو اُس نے پکڑ لیا مضبوط حلقة جو لوٹنے والا

جیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی چیز کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور اپنی قابلیت ان آیات کی بعید رکاوتو بیان کر دیتے ہیں۔

۳۲۴ اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا بوالoram لگا رکھا ہے قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا کہ دین کے معاملہ میں جبرا و اکراہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان اور ایمان کا تعلق ہے دل سے اور دل جبرا و اکراہ کے سامنے مستسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں۔ نیز اسلام سجیت دین، انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے لگلے میں اپنے جبرا چند اڑاں دین تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جاتے گی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا بچپی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہواں بتان کاظمی تحریزیہ اب آپ عملی پہلوں زگاہ ڈالیے پوچھ دھرمیان گزرنے کے بعد بھی آج ہندو پاک کے میدانوں میں، مرکش کے صحراءوں میں ہمال کی چوپاؤں اور بخاروقیانوس کے دورافتادہ جزیروں میں، یورپ کے ہنگامہ زا شہروں میں اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ہر روز پرانچ دفعہ اذان کی اوڑ گوئی رہی ہے کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے بول کیا گیا ہواں سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہوتا کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تو اسلام کے متواتوں کو ستایا گیا۔ ان پر ظلم قوت کے نہیں تختہ دار پر سرراہ لٹکایا گیا پر وہ گینڈے کے طوفان اُلد امداد کرتے لیکن اپنا سرخ شیخ کر رہ گئے ان اللہ کے بندوں کو جو عقیدت اپنے رب سے ملتی ہو، عشق اپنے محبوب اور پیارے رسول سے تھا، جو شفیقی اپنے اس دین برق سے ملتی اس میں کی نہ ہوئی لیکن ایک اور چیز بھی پیش نظر ہے اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبرا مسلمان بنایا جائے اسی طرح وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے مانے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برکشنا کرے یا جوشی سے اسلام کی برادری میں شرک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جاتے اور اگر نہیں ایسی صورت پیدا ہو جاتے تو اسلام اُس وقت اپنے مانے والوں کو دشمنان دین و ایمان کے بُر و فُرم کا تختہ مشق بننے کی اجازت نہیں دے گا۔

۳۲۵ طاغوت طیغیاں سے ہے جس کا معنی کرشی ہے قال الجوهري والطاغوت الماكاهن والشيطان وكل راس في الصدلال (قطبی) یعنی طاغوت کا ہنوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دام فربی میں پھنسایا کرتے ہیں اس کا اطلاق

لَهَا طَوْبَةٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ^(٢٤) أَللَّهُ وَلِيُّ الظَّالِمِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُمْ

نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُننے والا ہے اللہ مددگار ہے ۲۵۳ ایمان والوں کا بیکال لے جاتا ہے انہیں

مِنَ الظُّلْمِ إِلَى التُّورَةِ وَالذِّينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكُمُ الظَّاغُوتُ

اندھیوں سے لُور کی طرف اور جنگلوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ وَلَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

نکال لے جاتے ہیں اُنھیں نور سے اندر ہیروں کی طرف یہی لوگ دوزخی ہیں وہ

فِيهَا خَلْدٌ وَنَعْلَمُ تَرَاهُ إِلَى الدِّينِ حَاجَةً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ

اس میں ہمیشہ ہنسنے والے ہیں کیا نہ دیکھا آپ نے (آجھی بیٹی) اسے جس نے جھگٹ کیا یا ۲۷۴ بڑا میں سے ان کے بے بالے میں اس

أَتْهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُنْجِي وَيُمْبِي

وہ جسے کوئی بھی اسلام نے بنا دشائی جب کہ ہمارا اپنے ائمما (علیہ السلام) نے (اسے) کہ میراب وہی سے جو جلتا ہے اور مارتا ہے


شیطان پر بھی ہوتا ہے اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ اور مضرِ عمل کا بانی اور کرتا دھرم را ہو۔ لیکن قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھئے۔ یہیدون ان یتیحکموالی الطاغوت و قد امرو ان یکفر دا به۔ اس سے آپ کو طاغوت کی اور تم بھی معلوم ہو گی یعنی وہ بھی طاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف لپنے وضع کر دہ تو انہیں کے طالبین لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔

۳۸۵۔ قال الخطابی الی الناصرین صر عبادۃ المؤمنین یعنی الشیعیان ایمان والوں کا مد و کار ہے انھیں ہا اپنی توفیق اور مدد اسے تھہم کی گمراہی کے اندر یہ وہ سے نکال کر بہارت کی روشنی میں پہنچاتا ہے کیونکہ گمراہیاں طرح طرح کی ہیں اس لیے لفظ جمع خلماں سے تعصی کیا اور دامت کو نکھلے اماکنی سے اس لے وہاں واحد کا لفظ استعمال فرمائا۔

۲۷۶ دو شخص جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کا ملمہ ہوا وہ مزدود تھا جو عراق کا بادشاہ تھا اور جس کی حکومت دُور راز تک پھنسا ہوا تھا، حکومت و اقتدار کے نشانہ میں، اس نے اپنے مالک حقیقت کو مغلدا دیا اور خود خدا کا دعویٰ کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام

بیوی ہری کی دوست مددگار تھیں اس سے پہلے جیسی وہ دوسرے بیویوں کی طرح دیکھ رکھا گیا۔ ایک روز ایک میٹنگ میں اپنے بھائی کے خلاف بھروسہ کیا اور اس میٹنگ کے ناچیز نتیجے کو رب ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نفرزاد نے سر جلس آپ سے آئے کہ کم متعلقہ مدد افراحت کا اتنا زمانہ فراہم کرنے کے لئے کام لے لے گا۔

حضرت ابراہیم کا اُر سے کشان تک سفر



قَالَ أَنَا أَحْمَى وَأُمِيتُ طَّافَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّهْمِ

اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور ما سکتا ہوں ابرہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ

مشرق سے تو تو نکال لاسے مغرب سے (ریس کر) ہوش ڈگئے اس کافر کے

وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ^(۲۸) **أَوْ كَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ**

اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا خالم قوم کو یا ریانہ و کیما، اس شخص کو ^{۳۲۴} جو گزرا ایک بستی پر

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُمْحَى هُنَّ إِنَّ اللَّهَ بَعْدَ

در آں حال کہ وہ گردی پڑی بھتی اپنی چھتوں کے بل کہنے لگا کیونکہ زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک

ہے۔ مژرو دنے کما کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے دو آدمی بلاستے ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کرنے کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور اس واجب القتل کو رہا کر دیا۔ اور اس طرح حقیقت ناشناسوں کے سامنے اپنی بھجوئی خدا کی لاج رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھرپور ایکا یا حضرت صدر الافق مزاد آبادی کے الفاظ ہیاں بہت جامع ہیں۔ لیکن چو کہ مژرو دکے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظر انگرفت فرمائی کہ موت و حیات کا میدا اکننا تو تیرے مقدور میں نہیں آئے رہیست کے بھجوئے مدعا تو اس سے سهل کام ہی کر دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدلتا ہے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر رہبیت کا دعویٰ کس مذنب سے کرتا ہے۔

۳۲۴ وہ کون تھا جس کا قصہ اس آیت میں بیان ہوا ہے؟ اس کی تعریف نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث نے۔ اس لیے علماء مفسرین سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافر تھا جس سے قیامت پر ایمان نہ تھا۔ بعض نے ارمیانی کا اور اکثر نے حضرت عزریل علیہ السلام کا نام لیا۔ لیکن زیادہ بہتر ہی ہے کہ جس کو اللہ اور رسول نے معین نہیں فرمایا اُسے معین نہ کیا جاتے۔ اسی طرح اس قریب میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جس سے بخت نے لے لا شہق میں تباہ و برباد کیا تھا۔ اس کے اکثر باشندوں کو موت کے گھاٹ اُندازیا تھا اور لہا یا کو قید کر کے اپنے پائی تخت بابل میں لے گیا تھا۔ جب ابھرے ہوئے شرپر ان کا گزر ہوا تو ان کے ول میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور ابھرے ہوئے شر کو اللہ تعالیٰ کیونکہ انہر نہ آباد فرماتے گا۔

مَوْتَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيَسْتَ

ہونے کے بعد سو مرد رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک پھر زندہ کیا اُسے ۳۲۸ فرمایا کتنی مدت تو یہاں تھیں رہا

قَالَ لَيَسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَيَسْتَ مِائَةً عَامٍ

اُس نے عرض کی میں تھیں اُوں گا ایک دن یادوں کا پچھوڑ جسم اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تھیں رہا ہے تو سو سال

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَّهَ هُوَ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

آب (ذرا) دیکھ لپٹنے کھاتے اور اپنے پینے (کے سامان) کی طرف یہ باری نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدھے کو

وَلَا جَعْلَكَ أَيْلَهَ لِلْقَاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نُذِّلُهَا

اور یہ سب اس یہے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے یہے اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کسے جوڑتے ہیں انھیں

ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

چھر (کسی) ہم پہناتے ہیں انھیں گوشت پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے یہے (تو) اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ

شَيْءٌ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْتِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى

ہر چیز پر قادر رکھتا ہے اور یاد کرو جب ۳۲۹ عرض کی ابراہیم نے اے میرے پروار کا دکھا مجھے کہ تو ۳۴۵ یہ نہ فرماتا ہے مژدوں کو

۳۲۸ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا مثابہ کرنے کے لیے انھیں موت کی نیزہ سلا دیا اور اس حالت میں پورے سوال گزرنے۔ اس کے بعد انھیں زندہ کیا گما اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے تو انھوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس کا کچھوڑ جسم۔ انھیں تایا گیا کہ نہیں تم تو پوری ایک صدی ہیں رہے اور دیکھتے میری قدرت کہ آپ کا کھانا بوجام طور پر چند لمحنے گز رہانے کے بعد بدبوار ہو جاتا ہے جوں کا توں ہے اور گدھے کا گوشت پست گل ستر گیا ہے اور اس کی ہڈیاں بھری پڑی ہیں۔ آب دیکھنے یہ بھر ہوا دھانچہ کیسے ہجڑتا ہے اور گوشت پست کیسے آن واحد میں اس پر منودار ہو جاتا ہے جب ان تمام انور کا انھوں نے کچھ خود مشابہہ کر لیا تو کہنے لگے میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہو جا ہے کہ سکتا ہے علم یہاں بھی رویت کے معنی میں ہے۔

۳۴۵ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرماتے ہیں۔

۳۴۶ اس سوال سے یہ نہ سمجھو لیا جاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متعدد تھے۔ ہرگز نہیں کیونکہ یہاں سوال

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ طَقَالَ بَلِي وَلِكِنْ لِيَطَمِّنَ قَلْبِي طَقَالَ فَخُذْ

فرمایا راستہ براہم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے عرض کی امیان تو ہے اہس نہیں اسی وال اس سیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میاں اہل اہل فرمایا تو پڑھ لے

أَرْبَعَةَ هِنَّ الْكَلِيرُ فَصَرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ

چار پرندے ۳۵۳ پھر ماوس کر لے انھیں اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پھاڑ پر

مِنْهُنَّ جُزْءٌ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعِيًّا وَاعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اُن کا ایک ایک ایک مکڑا پھر ملا اُنھیں چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب

کیف سے ہو رہا ہے۔ اور کیف سے سوال اُس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ وذلك ان الاستفهام بکیف انسماهو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسئول (قرطبی) ۳۵۴ یہاں آپ کی زبان سے کہلوادیا بیکی مجھے پورا امیان ہے۔ یہ اس لیے تاکہ کسی کوشش کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔

۳۵۵ توجہ امیان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ تباہی کہ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے یکیں اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کر دے تو مجھے عین الیقین کامرتہ نصیب ہو جاتے گا۔ ای سالانک لیطمیں متلبی بحصوں الفرق بین المعلوم برهانا والمعلوم عیانا (قرطبی)، اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے اُستاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے۔

۳۵۶ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چار پرندے لیں لیں ذبح کر کے اُن کے مکڑے مکڑے کریں اور پھر اُنھیں اُپس میں ملا دیں۔ پھر ان ملی خلی بوٹیوں کے چار حصے کر لیں۔ اور ایک ایک حصہ ایک ایک پھاڑی پر رکھیں۔ پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بُلایاں اور اپنے رب کی قدرت کا ملکہ کا مشاہدہ کریں۔ جب حضرت خلیل نے ایسا کر کے ان کو بُلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بُلیاں اکٹھی ہوتیں پھر ہوتے پچھ ہوتے اور وہ پرندے پھر پھراتے ہوتے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فصرهن کے دو معنے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے مائل اور ماوس کرنا اور ترجمہ میں یہی معنی لیا گیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرے معنی قطعہن ہے لیعنی ان کو مکڑے مکڑے کرو۔ حضرت ابن عباس اور ابن الباری وغیرہ سے یہ منقول ہے۔ یقال صادر الشیعی یصوراً قطعہ (قرطبی) بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم چار پرندوں کو اپنے ساتھ ماوس کرلو۔ پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پھاڑیوں پر بُلاؤ وہ اپنی طرف بُلاؤ وہ فرما تھا ری طرف چلے آئیں گے۔ تو جیسے تم نے ان کو ماوس کیا اور وہ تھاری آواز پر دوڑے چلے آئے اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزا کو قیامت کے روز

حَكِيمٌ مَثَلُ الدَّيْنِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

بڑا دانا ہے مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں ۵۵۳ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں اسی ہے جیسے

حَبَّةٌ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْطَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

ایک دانہ ۵۵۴ جو اکاتا ہے سات بالیں (اور) ہر بال میں سو دانہ ہو۔

بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جاتیں گے لیکن یہ تاویل کچھ مُناسِب حال معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پر اگندہ اور منتشر اہم اکٹھے کیونکر ہوں گے اور ان میں رُوح کیونکر کچھ بھی جاتے ہیں۔ کم از کم جواب ایسا تو ہوتا چاہئے جو سوال کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تاویل کے مطابق نہ تو منتشر اجزاء کا اجماع ہے اور نہ ہی مُردہ کو از سر فوزِ نہ کرنے کا دفعہ ہے پھر اس میں کوئی اسی چیز سے جو قلب کے اطمینان کا باعث ہو۔

۵۵۴ اس آیت کرمیہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ قین ہو کہ یہاں ایک درجہ خرچ کرنے سے سات سو درجہ ملیں گے تو کوئی ناس عقل مند ایسا ہو گا جو بعد خوشی اپنا سارا اسرایاہ اس سودے میں نہیں لگادے گا۔ اللہ جو عنی وحید ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ دانتا یونی دیا کرتا ہے لیکن اللہ کیم کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا بھی جسے اپنے مالک کے بے پایاں خزانوں کا بھی علم ہے اور اُس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے جب یہ آیت نازل ہوتی تو عرض کرتا ہے ربِ زد اُمّتی۔ اے میرے پروگرامیری اُمّت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتو جواب ملائیں ذا اللذی یقرض اللہ فرضنا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافاً کثیرۃ جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے کسی نئی لئا زیادہ دیتا ہے۔ لبِ صطفیٰ کو پھر بخشش ہوئی اور عرض کی۔ ربِ زد اُمّتی۔ میرے کیم امیری اُمّت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتو جواب ملائیا یوں الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب ابزر دیا جاتے گا۔ (قطبی) ان گنت حمود شمار اُس مولائے کیم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اُس کے محبوب کریم پر۔

۵۵۵ علام قطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمائی کے ذرائع میں سے بہت باعترفت ذریعہ ہے۔ اور حضرت عالیہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ قآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتمسو الرزق فی خبای الارض اخرجه التمدی یعنی حضور نے فرمایا کہ زمین کی تنوں سے اپنی رزق تلاش کرو۔ اور زراعت فرض کفایہ سے ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتنی تو امام وقت کو چاہئے کہ لوگوں کو جرما کاشنکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے (علماءقطبی) نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا زیجڈ الاجاتے سات سو گناہک فضل برداشت کیا جاسکتے ہے۔

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ أَلَّذِينَ

او رالله تعالیٰ (اس سے بھی) بڑھاد تباہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ وسیع بخشش والا جانتے والا ہے جو لوگ

يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا آنفَقُوا

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر ۳۴۵ بوجرچ کیا اس کے لیے پچھے

مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ

نز احسان بتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں انھیں کے لیے ٹواب ہے، ان کا ان کے ب کے پاس نکوئی خوف ہے اُن پر

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ

اور نہ وہ غمگین ہوں گے اپنی بات کرنا ۳۴۶ اور (غلطی) معاف کر دینا بہتر ہے اس

صَدَقَةٌ يَتَبَعُهَا أَذَى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

صدقة سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جاتے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بڑے علم والا ہے اے ایمان والو!

دوسری قویں اس میدان میں گوتے سبقت لیے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ خلیفہ متصدی نے خوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی اور حضرت نے اُسے مسحہ پکڑا ایسا اور فرمایا خدا فانہا مفاتیح خزانہ ارض اسے پکڑا تو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔

۳۴۷ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستہ میں ہو اور اسی کے لیے ہوتا بھر کی توقع ہے۔ اور اگر خرچ کے بعد احسان بتانا یا ستدا شروع کر دیا تو اللہ کے زدیک اسے کوئی ٹواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقعہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھوپی میں ڈال دیتے رحمت دو عالم کی زبان پاک سے حضرت عثمان کے سوت میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان جتنا تاز کریں بجا ہے اور جتنا شکر کریں کم ہے حضور نے فرمایا۔ ماضر عثمان ماعمل بعد الیوم المھر لاتنس هذا الیوم لعثمان۔ اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقمان نہیں دے گا۔ اے اللہ اعلم عثمان کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا۔

۳۴۸ بعض کم ظرف لوگ اگرچہ کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر لیجھتے ہیں تو پھر احسان بتلاتے ہیں۔ طرح طرح سے ذمیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو ایسی کمیہ حرکت سے باز رہنے کی نیقین کی جا رہی ہے اور انھیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو

اَمْنُوا لَا تُبْطِلُو اَصَدَّقَتْكُمْ بِالْمَنْ وَالْاَذْى كَالَّذِي يُنْفِقُ

ست ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان بجلا کر اور دکھ پہنچا کر اُس آدمی کی طرح جو خرج

مَالَهُ رَعَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْيَوْمُ الْاخْرَطْ فَمَثَلُهُ

کرتا ہے اپنامال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن مقامت پر اس کی مثالیں ہیں،

كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابْلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

جیسے کوئی پچکنی پڑھان ہو جس پر منی پڑی ہو پھر برسے اُس پر زور کی بارش اور چھوڑ جاتے اسٹیلیں صاف شپر

لَا يَقُولُونَ عَلٰى شَيْءٍ قَبْلَ أَكْسِبَوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

(ریا کار) حامل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اُس سے جو انھوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار

الْكُفَّارُ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَابْتَغَاءَ هَرَبَاتٍ

کرنے والوں کو اور مثال اُن لوگوں کی جو خرج کرتے ہیں اپنے مال ۳۵۵ اللہ کی خوشنو دیاں حامل کرنے

خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگز کرنا بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تحریکی سیرت سنور جاتے اگرچہ مذکورے کرتم میں خوت پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح تو سیرت اور بحث گئی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطيبة صدقۃ وان من المعروف ان تلقی احلاک بوجه طلاق حضور نے فرمایا پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔

۳۵۸ یہ مُنافق اور ریا کار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پتھر چیل کا چیل رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مُنافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ یوں ناپید ہو جاتیں گے جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔

۳۵۹ اس آیت میں ہم من مُنافق کے اعمال کی مثال بیان فرمائی گے جس طرح بند خطرہ کی بہتری زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے خواہ بارش کم ہو۔ ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقۃ اور انفاق کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے لیکن اس خطرہ زمین کو کہتے ہیں جو سبدتہ دُوسرا زمین سے بلند ہو اور اس کی مٹی زیادہ زرخیز ہو۔ الربوۃ: المکان المرتفع ارتقاء ایسید رامعہ فی الْاَغْلَبِ كَثَافَةً تِرَابٍ (قرطبی)

اللَّهُ وَتَبَّعَيْتَ أَنْفُسَهُمْ كَمَشَلٍ جَنَّةً بِرَبُّوَةً أَصَابَهَا وَأَبْلَى

کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل میں ان کی مثال اُس باغ جیسی ہے جو ایک بلند ترین پتوہ رہا اس پر

فَاتَتْ أُكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبَهَا وَأَبْلَى فَطَلَّ عَلَيْهِمَا

زور کا مینہ تو لایا ہو دوہ باغ دو گنا بچل اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ جو تم

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِيمَادُهُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ

کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے ۳۴۱ کہ ہو اُس کا ایک باغ

تَخْيَلٌ وَّأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ

کھجوروں اور انگوروں کا بھتی ہوں اُس کے بیچے ندیاں (کھجور و انگور کے علاوہ) اس کے لیے اس میں

كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاءُ وَصَاحِبَاهَا

ہر قسم کے اور بچل بھی ہوں اور آکیا ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ بیچے اس کے باغ کو

۳۴۲ میں یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مغلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رجیم اُن پر اراضی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا غرض بیچھی ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ مال بڑی پیاری چیز ہے۔ اس کا خرچ کرنا ابتداء میں بے شک گران گزتا ہے لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا خواز اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے اور راہ خدا میں سب بچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا وہ اپنی جان عنزیت میں نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔

۳۴۳ میں اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک مثال ذکر کر کے یوں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں بر سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے۔ اُس کی شبانہ روز محنت اور رثیر روپیر خرچ کرنے کے بعد اس میں گوناگون چیزوں دردخت اگل آتے ہیں۔ بیٹھے اور شفات پانی کی ندیاں ان درختوں کی قطاروں میں بہ رہی ہیں۔ بڑھاپے نے اسے آیا ہے۔ اس کی وقت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہے۔ اس کے بیچے ابھی چھوٹے ہیں۔ دُوہ مطہن ہے کتاب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا مرکز گا اس کے پھل دار باغ کی آمدی سے اس کی پیری کے دن آرام سے کتنی گے اور اسے اپنے بال بیچے کی روزی کے لیے اب کوئی

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ طَكَنَ لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

بگولہ جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل بھن جاتے ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ المختار یہ رائی آئیں

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا أَنْفَقُوا مِمَّا فِي أَرْضِهِمْ

تاکہ تم غور و فکر کرو اے ایمان والو! خرج کیا کرو عمدہ پہنچوں سے

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَاكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْمَنُوا

جو تم نے کمائی ہیں ۴۲۳ اور اس سے جو نکلا لاہے ہم نے مٹھائے یہے زمین سے اور نہ ارادہ کرو ۴۲۴

الْحَيَاةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَدْيِلِ لَا أَنْ تَعْدِضُونَا

رَدِی چیز کا اپنی کمائی سے کرم اسے خرج کرو حالانکہ (الرتعیں کوئی ردی چیز نہیں تو تم نہ لے اسے بجز اس کے کھپشم پوشی کر لو

تردد نہیں ہو گا تم خود سوچو ایسا پوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ کو اکر سکتا ہے کہ کوئی اتنیں بگولہ آتے اور اس کی عمر بھر کی مکانی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ بس بالکل یونہی سمجھ لو اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو۔ قیامت کے دن جب تم خود پچھا نہیں سکتے، اور دوسرا تھاری کوئی امداد کرنہیں سکتا اس روز تھیں اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی لکنی شدید حاجت ہو گی۔ اگر ریا کاری کے بگولہ سے تم نے ان کو جلا کر خاک سیاہ کرو یا تو قیامت کے دن تھاری حسرت زندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہو گا۔ اگر تم اس اندوہنماں صورت حال سے دوچار ہونا نہیں چاہئے تو اپنے اعمال کو ریا اور دھلاوے سے بچاؤ۔ سبحان اللہ کیا اثر افرین اور دلنشیں ہے یہ مثال۔

۴۲۵ میں طبقات سے وہ چیزیں مزاد ہیں جو عمده بھی ہوں، حلال بھی ہوں اور حلال طریقہ سے کمائی بھی ہوں۔ کیونکہ اس طرح خرج کرنے کے تین مقاصد ہیں۔ غریب کافائدہ، اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور یہ مقاصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ عذر اور پاکیہ چیز خرچ کی جاتے۔ اگر رَدِی چیز خرچ کی تو نظریں کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ بخل کی آسودگی نفس کی صفائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تسویا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر افعالات کی قسم پر بارش فرمائی ہی ہے جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے ناکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی تو وہ یونہجہ تم سے راضی ہو گا۔

۴۲۶ کیونکہ جب رَدِی چیز تم اپنے یہے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ رَدِی چیزوں کو کب پسند فرمائے گا۔

فَيُرِطُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٤٧﴾ الْشَّيْطَنُ يَعِدُكُمْ

اس میں اور (خوب) جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے ہر تعریف کے لائق ہے شیطان سے ڈراٹا ہے

الْفَقْرَ وَيَا مَرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ

تینگ ستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے جانی کا اور اللہ تعالیٰ وعدہ ۳۴۵ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا

وَفَضْلًا طَوَالِهِ وَاسِعَ عَلِيهِ ﴿٤٨﴾ يَوْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ

اور فضل (وکرم) کا اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت والاسب کچھ جانے والا ہے عطا فرماتا ہے دانانی ۳۴۶ جسے چاہتا ہے

وَمَنْ يَوْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا

اور جسے عطا کی گئی دانانی تو یقیناً اُسے دے دی گئی بہت بھلانی اور نہیں ضیحت قبول کرتے مگر

۳۴۷ شیطان طرح طرح کے وسو سے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو یوں کیا کھاؤ گے: پھول کا پیٹ لیسے بھرو گے۔ درد کی بھیک ماننگئے کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور بخل کو کافیت شعاراتی دُولاندی شی وغیرہ کے رعنیں عنوانوں سے پیش کرتا ہے۔ یہ پھر یخور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشاء (سخت بے جانی) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے جانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اُسے بھی خیال ہی نہ آتا ہو۔

۳۴۸ یمن اللہ تعالیٰ المحبین نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف فرمایے جائیں گے اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

۳۴۹ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے جو اتنا نجۃ اور طاقت و رہنمہ وہ انسانی ارادہ کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کشی فرمایا ہے۔ اور دُنیا و ما فیہا کو متاع قبیل کہا ہے۔ اب الگوئی صاحب علم اُمراء و اغذیاء سے اپنے آپ کو مکتر اور کمتر سمجھے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے۔ ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا فرمائی گئی ہے اُس کے سامنے دولت قاروں اور جاہ فریدوں کی وقت ہی کیا ہے۔

أَوْلُوا الْكُلَابِ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

عقل من در اور جو تم خرچ کرتے ہو یا مانتے ہو ۳۴۷

نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ

تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار اگر

تَبْدِيلٌ وَالصَّدَقَاتِ فَتَعِمَّاهِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقرَاءَ

ظاہر کرو (لبنی) خیرات ۳۴۸ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو اُنھیں فیروں کو

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

تو یہ بہت بہتر ہے متحال کے لیے اور (صدقہ کی برکت سے) مٹادے گا تم سے تھا اسے بعض گناہ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو

۳۶۷ یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اور جیسی نذر ما انہو اور جس کے لیے مالو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور

تم حاری نہیں کے مطابق تمھیں ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ نذر کی تعریف یہ ہے ہوما او جبہ الملکف علی نفسہ من

عبدات ولو حری وجہہ لعیل زمہ (قطبی) نذر کسی ایسی عبادت کو اپنے اور پر لازم کر لینے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت

یہ خداونپسے اور پروا جب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوتی۔ حضرت صدر الفاضل حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں نذر خاص

اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فرقہ کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے

مثلاً کسی نے یہ کہا کہ باربیں نے نذر مانی کہ اگر تو میر افال مقصود پورا کردے یافلاں بیمار کو شفایے دے تو میں فلاں ولی کے

آستانہ کے فرقہ کو کھانا کھلاؤں یادوں یا ان کی مسجد کے لیے لیل یا بول یا حاضر کروں تو یہ نذر جائز ہے (رد المحتار)

۳۶۸ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرضی صدقات ظاہر کر کے دینے افضل ہیں اور نفی صدقات چھپا کر دینے افضل ہیں۔ قال

احسن اظہار الرکاۃ احسن و اخفاء التطوع افضل۔ اور یہ حکمت آموز قول ہے جو حضرت عباس بن عبدالمطلب سے

منقول ہے۔ لایتم المعرفۃ الابتلاۃ خصال تعجیله و تصعیدہ و سترة فاذا العجلتہ هناتھہ و اذا صغرتہ

عظمتھہ و اذا سترتھہ اندمتھہ۔ ترجمہ: نیکی تین حصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حیر

سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خشکوا بنا یا جب اسے تھیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا اور

جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔

خَيْرٌ^{۲۷۱} لِّمَنْ عَلَيْكَ هُدًى نَّهْمٌ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَطَ

خبردار ہے نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا ۳۶۹ء میں اہل اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسَكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ

اور جو کچھ تم خرچ کرو (اپنے) ماں سے تو (اس میں) تھا را اپنا فائدہ ہے اور تم تو غریج ہی نہیں کرتے ہوئے اللہ کی

وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ^{۲۷۲}

رضابلی کے اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے (اپنے) ماں سے پورا ادا کر دیا جائے گا تھیں اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا (خریات)

لِفُقَرَاءِ الدِّينِ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ

ان فقیروں کے لیے ہے جو ۳۴۹ء روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں فرست ملتی انہیں (روزی کمانے کے لیے)

۳۴۹ء الفصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لاتے تھے اور انصار اُن کی امداد کرتا چاہتے تھیں اس خیال سے نہ کرتے کہ وہ مسلمان نہیں اور سو و حنور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں اُن کے لفڑی و جہے اُن کو بخوبی کام تے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے۔ لیکن خیال رہے کہ یعنی صدقات و خیرات کا حکم ہے۔ فرض اور واجب صدقات مثلاً زکوٰۃ اور صدقۃ فطح صرف مسلمان فقراء کو ہی دیتے جا سکتے ہیں۔

۳۴۸ء پہلی آیت میں بتایا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی خرچ نہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں اور انہیں فرستہ ہی نہیں بلکہ کوہ وہ اپنی معاش کا بھی نکر کریں جنھوں کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہدہ تھا لوگوں میں تین چار سو کے قریب ایسے مهاجر تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل اور نہ سرچھپا تھے کے لیے جھوپڑا۔ وہ بارگاہ و رسالت میں حاضر رہتے اور جس کام کے لیے حکم ملت اس کی تعییں کرتے جب کہیں سرایا بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے تاہل حاضر ہوتے اور جب فارغ ہوتے تو قرآن یاد کرتے اور سُنت نبیؐ کو حفظ کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد میں ہی جنھوں نے ایک چھپر تزوادیا تھا۔ فقر و تمنگستی کے باوجود عترت نس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جاتے ہی نہ تھے جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں کی تو جہاں کی طرف مہذبوں کرامی یہیں یہی حکم انہیں کے ساتھ مخصوص نہیں اب بھی جو حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسی معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ان کے متعلق یہی حکم ہے۔

ضَرِبًا فِي الْأَرْضِ يُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُونَ أَغْنِيَاءٌ مِّنَ التَّعْقِفِ

چلنے پھرنے کی زمین میں خیال کرتا ہے اُنھیں ناواقف (کہ یہ) مالدار (ہیں) بوجان کے سوال نہ کرنے کے

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا

(اے حبیب!) آپ بچاتے ہیں اُنھیں ان کی صورت سے یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے پیٹ کر الله اور بوجہ تم خرچ کرو گے

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

(اپنے) مال سے پس لِيَقِنَ اللَّهُ تَعَالَى اسے خوب جانے والا ہے جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال

بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانية تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾ الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا

اور نہ اُنھیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ نمیگین ہوں گے جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود ۳۴۲

۳۴۳ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے بحضرت ابوہریرہ رض سے مردی ہے کہ حضور سرور عالم نے فرمایا۔ لان یعنی احمد کو فیح طب علی ظهرہ فیتصدق منه ویستغنى به عن الناس خيرله من ان يسال رجلا اعطاه او منعه۔ کہ اگر کوئی شخص ہر صبح کھڑیاں چن کر پیچھر پڑھلاتے اور اس کی قیمت سے جو بلے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگنا پھر کسی کا دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کرو یہ حضور علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے من سال الناس امواهم تکثرا فانما سال جمرا فیلسائق منه او یستکثر تمجہ۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کیلئے بھیک مانگتا ہے وہ انگلائے جمع کر رہا ہے تھوڑے انگلائے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی۔

۳۴۴ ۳۴۵ پہنچنے اور کرم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا جو حصن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بیکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو دو امداد ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی دلیسے امداد تو کچھ، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالیبہ پیدا کرتے ہیں۔ ان آیات میں رب اسود تو حرام کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھیں

لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ

وَهُنَّاکِنْ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ بے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے

الْمَسْ طَذْلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا مَوَأْحَدَ

چھو کر ۳۴۳ یہ حالت اس لیے ہو گی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سوداگری ماندہ ہے حالانکہ حلال فرمایا

لغت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا تھا جو کسی رقم کی ادائیگی میں دریکرنے بردا کی جاتی تھی۔ اس کی مردوجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی بھی کردی جاتی تو قیمتیں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مشلاً دس روپیہ کی کوئی چیز لی اور ایک ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جیتنا گزرنے کے بعد اگر اسے دس روپے میسٹر نہ آئے تو وہ ایک ماہ کی مزید تملک طلب کرتا اور دس کی بجائے بارہ روپیہ ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے سورپریز میلاً قرض لیا اور اسے یہ پایا کہ مقرض ہر سال سو کے ساتھ دس روپیہ ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلؤں کو اس وقت ربا کہا جاتا ہے ایک چیز اور تحقیق طلب ہے کیا اس وقت کے لوگ صرف بھی ضروریات کے لیے ہی سوداگری قرض لیا کرتے تھے یا کار و بار کرنے کے لیے بھی سوداگری قرض کا اس وقت عام رواج تھا۔ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور ستم درواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرستہ نہیں ملی، کہتے ہیں کہ اس وقت صدر ذاتی ضروریات کے لیے ہی قرض لیتے کہا اور کار و بار کے لیے قرض لینے کا اس تدبیر غیر تحدی معاشرہ میں کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جاتے گا کہ اس وقت جب کہ نہ سویز نہیں کھڈی تھی جب کہ بڑے بڑے بھری جماں معرض و جو دین نہیں آتے تھے مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی۔ اس وقت تجارتی کار و انوں کی راہ گزار جزیرہ عرب تھا۔ عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ تھوڑا تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ اور اس امر کا تذکرہ توندو قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی فنی سر دلوں میں میں وفارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا اور تاریخ اس پرائل شاہد ہے کہ جو قالہ شام سے ابوسفیان کی قیادت میں مکہ والیں جا رہا تھا جس کا سلماں نے مدیر طبیب سے نکل کر محاصرہ کرنے کا راہ دیا تھا اس میں تمام اہل مکہ کا سرایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہے۔ اور حصہ کی دونوں مختلف شکلیں راجح تھیں۔ یا تو سرمایہ دینے والا لفغ میں شرکیہ ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ تھیہ رہا کرتا تھا وہ قرض لینے والے کو نفع ہوایا لفظان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ قرض کر لینا کب روایت ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کار و بار کے لیے سوداگری قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا ہے اسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب ہر کتنی کرتا ہے۔ سے ۳۴۳ ان کلمات میں سودخوار کی کیست ایمان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے آسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب ہر کتنی کرتا ہے جنھیں دیکھ کر انسان تنہیں ضبط نہیں کر سکتا اسی طرح یہ سودخوار بائیں حشمت وجاہ دولت کی محبت میں یوں مارے مارے چھرتے ہیں۔

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو ۳۴۷ پس جس کے پاس آئی فصیحت اپنے رب کی طرف سے

اور ان سے ایسی نامقوں باتیں اور ناشائستہ حرمتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے سلطہ جما رکھا ہے۔ ان کی دُنیاوی زندگی بھی لوینی گزنسے کی اور قیامت کے روز بھی ان کا یونی حشر ہو گا۔

۳۴۷ سود کے بواڑ کے لیے جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے بعضی یہی استدلال پودہ صدیاں پیشیر غیر متحمن عرب کے سود خوار پیش کیا کرتے تھے یعنی جب دُسری اجناس کے لیے دین میں لفظ حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے اس کے لیے دین میں اگر لفظ دیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جائے۔ اس کا جواب فرقہ حکیم نے یہ دیا کہ دونوں میں بُرا فرق ہے یعنی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدہ کی وجہ سے حلال کر دیا ہے اور سود کو اس کے فضائل کی وجہ سے حرام کیا ہے اس لیے ان دو چیزوں کو میساں کیسے تصور کیا جاسکتا ہے سود کی حرمت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن جو فاضلانہ بحث صحبتہ الاسلام الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کا جواب نہیں بحث کی اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ غزالی کے کلام کا پورا ترجیح نقل کیا جائے لیکن مقام کی تنگ دامانی اس کی متحمل نہیں۔ اس لیے نہایت اختصار سے اس بحث کا ماحصل ہدایہ قارئین ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں :-

فرض کرو متحارے پاس زعفران ہے اور ایک دُسرے شخص کے پاس اونٹ ہے تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں۔ اب تم اونٹ کو نکر حاصل کر سکتے ہو۔ یا متحارے پاس کپڑے ہیں اور دُسرے شخص کے پاس کھانا ہے تھیں بھوک گلی ہے تھیں کھانا چاہتے لیکن لکھانے والے کو پکڑوں کی ضرورت نہیں۔ اب تم کھانا کیوں نکر خرد و گے اس لیے قدرت نے ایک ایسی ختنہ (رسونا چاندی) کی تخلیق فرمادی جس کے ذریعہ ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرد سکے۔ اگر آپ ذرا سا تائل فرما تیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانارب نے اسی مقصود کے لیے فرماتی ہے۔ اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کیا ہیں دوسرا ان میں وہ صلاحت اور سختی نہیں ہو لے ہے اور تائیہ وغیرہ میں ہے تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکیں۔ اب اگر روپیہ رپود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف نبادلہ اشیا کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کا سب اور لفظ نہیں جائے گی اور لوگ دُسرے سماں تجارت کی طرح اس کی ذنیہ اندوزی شروع کر دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ بازار میں سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رکھ جائے گی تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور دُسری اشیا کی قمتوں میں وہ اُن تاریخ طبا و شروع ہو گا جس سے سارا اقتصادی نظام دہمہ برہم ہو جائے گا۔ شریعتِ اسلامیہ نے ان مفاسد کے سدیاں باب کے لیے سود کو حرام کر دیا۔ (اختصار کلام غزالی)

افلاطون نے بھی اپنی کتاب "المیسیاسۃ" میں یہی لکھا ہے کہ روپیہ لوگ مرغی ہے جو اونٹ نے نہیں دیتی۔

سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے جس کی طرف

فَإِنْتَ أَهْمَى فَلَكَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

تو وہ (سودے) ملک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزیر کا اور اس کا معااملہ اللہ کے پرہیز ہے اور جو شخص بچھ سود کھانے لگے تو وہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي

دو زخمی ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں گے مثلاً ہے ۳۷۴ء اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے

الصَّدَقَاتِ طَوَّالَهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارٍ آثِبُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ افْنَوُا

نیرات کو ۳۷۵ء اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشر کے گھنگار کو بے شک جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ لَهُمْ

اور کرتے رہے اپنے عمل اور صحیح صیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو ان کے لیے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ان کا اجر ہے ان کے لب کے پاس نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ نعمتیں ہوں گے

قرآن نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے۔ بچھ مخت کرتا ہے۔ اپنی سادگی ہی نہیں قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے۔ اس کے باوجود لفظ لفظی نہیں۔ اسے لفغ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ لیکن سودخوار جو صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے نہ وقت، نہ مخت نہ کاؤٹش! اور یقینی لفغ کافنو اسندکار کیوں ہو۔ اسلام نے سفردار کے لیے دوہی راستے تجویز کیے ہیں یا تو اپنے بھانی کو اپنا زائد ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ دے ورنہ کار و بار میں شرکیاں ہو۔ جائے اور لفغ و نقصان میں حصہ دار بنے۔ اس کے لیے قیسراً کوئی راستہ نہیں۔

۳۷۶ء المحق محوالیتی والذہاب بہ کمحاق القمر کسی چیز کے مرٹ جاتے اور غائب ہونے کو محنت کہتے ہیں۔ چاند کی غریب دو ناریوں کو محاق کہا جاتا ہے کیونکہ چاند ان راتوں میں بالکل روپوش ہو جاتا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بر قاعدہ مقرر فوارکھا ہے کہ سودخوار کو برکت نہیں ہوگی اور مال سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نہ اس کی سوسائٹی میں کچھ عترت ہوگی نہ اس کو قلبی سکون ضیب ہوگا۔ یہ اس کی حالت دنیا میں ہوگی اور آخرت میں وہ ثواب و رضائے خداوندی سے محروم ہو گا۔

۳۷۷ء سودخوار کے بغیر صدقہ و نیرات کرنے والا دنیا میں بھی باعترفت زندگی بس کرے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ہو گا۔

يَا يَهُودَ إِنَّمَا أَنْتُمُ أَشَدُّ أَعْدَاءً لِلّٰهِ وَذَرُوهُ مَا بَقِيَّ مِنَ الْبَيْوَانِ

اے رایان والوں! ڈرواللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سُود سے اگر

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

تم (پچھے دل سے) ایمان دار ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو ۴۷۳ اللہ اور اُس کے

وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ کر لو تو تمھیں (مل جائیں گے) اصل مال نہ تم خلم کیا کرو

وَلَا تُظْلِمُونَ^(٢٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ

اور زخم پر خلیم کیا جائے اور اگر مقرّض منگ دست ہو تو ہمّلت دوام سے خوشحال ہونے تک

وَإِن تُصلِّ فَوْخِيرًا لِلَّهِ مَن لَكُمْ تَعْلَمُونَ^{١٦٥} وَاتَّقُوا يَوْمًا

اور بھت دنیا لے (فرض) بہت بہتر ہے مگر یہی اک مر جاتے ہو اور دوسرے ہواں دن سے

لِرَجْعَيْنِ وَمِنْهُ لِرَجْعَيْنِ مَا سَبَقَتْ وَلِرَجْعَيْنِ مَا تَرَكَتْ

۷۷۴ سود کے اخلاقی، معاشرہ، اور اقتصادی ناقابل تلاز نصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید رہا۔

میں بیان کیا گیا جس کی مثال نہیں۔ ارشاد ہے جو ان احکام کے بعد بھی سُود لینے کی جرأت کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور رسما صاحب ارشاد میں مذکور کلمات سے اس کا مقابلہ کرو۔

۸۷ مکاریم اخلاق کا ایک اور درس ہے جو قوم اسے ضالٹہ اخلاق کی بائیڈھو اس کے غریب و امیر افراد میں حسد و عناد کی رسوئی ایلہدیتی سی وہ دم و اعلان بجات ہے۔

اگل نہیں بھڑک سمجھتی۔ اور یہ خونی انقلاب رُوپ زدیر نہیں ہو سکتے جن سے آج ساری دنیا لرزہ برانداز ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرض کو بے اعتماد، اور ادا، اخلاق اوصولوا کو اتنا لک تکمیل کر دیں۔

هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ يَا يَهُؤَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا تَدَأَبْتُمْ بِدِينِ

ان پر زیادتی نہ کی جائے گی اے ایمان والو ! جب تم ایک دوسرا سے کو قرض دو۔^{۳۷۹}

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبَ بِمَا كُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے اور چاہئے کہ لکھنے تھا رئیس کو لکھنے والا ^{۳۸۰} عدل انصاف سے

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلِيمْلِ

اور نہ انکار کرے لکھنے والا ^{۳۸۱} لکھنے سے جیسے سمجھایا ہے اس کو اللہ نے بس دُہ بھی لکھ دے اور لکھوائے

الَّذِي عَلِيَّ الْحَقُّ وَلِيَتَقَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا

وہ شخص جس کے ذمہ حق (قرضہ) ہے اور ڈے اللہ سے جو اس کا پر درود کا ہے اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر

^{۳۷۹} قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شرح و سبسط سے بیان فرمادیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کالا یعنی دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرما تا ہے لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رخصیں پیدا ہو جاتی ہیں اور فوتبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچتی ہے اور اپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جاتے تو پھر ان مفاسد سے بچاتا ہے۔ فرنگی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جاتے لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں چھوڑ کر یہ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ہے گا اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو دُہ بھی قبول نہ ہو گی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ (احکام القرآن)

^{۳۸۰} یعنی بوضخت تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہئے جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطہ سے بہرہ ہو۔ ذمہ معنی لفاظ کے استعمال سے اختناب کرے اور ان تمام شرائط کا پورا الحاظ رکھے جو تحریریت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں اس لیے فتحانے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہئے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا پورا عالم ہوتا کہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔

^{۳۸۱} اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو اس شخص پر ضروری ہے کہ دُہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔

اور فہمہ کرام نے تصریح کی ہے کہ وثیقہ نویس کو اجرت لینے کی شرعاً اجازت ہے۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًَا أَوْ ضَعِيفًًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُهُ

پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو

أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلِيمِيلٌ وَلِيُؤْكِدَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُ فَا

کہ خود لکھا سکے تو لکھاتے اس کا ولی (سرپرست) الصاف سے اور بنایا کرو ۳۸۲

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

دو گواہ اپنے مردوں سے اور اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد

وَأَمْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ لِحَدِّهِمَا

اور دو عورتیں اُن لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تو تم (اپنے لیے) گواہ تاکہ اگر بھول جاتے ایک عورت

فَتَذَكَّرَ لِحَدِّهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَأْدُوا

تو یاد کراتے (وہ) ایک دوسری کو اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بُلاتے جائیں

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلِهِ ذَلِكُمْ

اور نہ اُلتیا کرو اسے لکھنے سے خواہ (رقم قرضہ) تھوڑی ہو یا زیادہ اس کی میعادتک یہ تحریر عدل قائم

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُّنِي أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا

کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو اور آسان طریقہ ہے تھین شکست پہنچانے کا مگر

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْرِي وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو (اس صورت میں) نہیں تم پر

۳۸۲ تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیتا کہ معاملہ میں کسی وقت بھی گڑ بڑ پیدا نہ ہو۔ شہادت کے تفصیل احکام

کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔

جَنَاحَ الْأَنْكَتُوْهَا وَأَشْهُدُ وَإِذَا تَبَيَّعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ

پچھے حرج اگر نہ بھی لکھو اسے اور گواہ ضرور بنایا کرو جب خرید فروخت کرو اور ضرر نہ پہنچایا جائے

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِنَّقُوا

لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو ۳۸۳ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہو گئی متحاری اور ڈرا کرو

اللهُ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ

اللہ سے اور سکھاتا ہے تھیں اللہ تعالیٰ (آداب معاشرت) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اور اگر تم

عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ وَإِكَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً طَفَانُ أَمَنَ

سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گردی رکھ لیا کرو اور اس کا ۳۸۲ قبضہ دے یا کرو پھر اگر اعتبار

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْذَ الدِّيْنِ أَوْ تُبْيَنَ آمَانَتَهُ وَلَيُبَيَّنَ اللَّهُ

کرے کوئی تم میں سے دوسرا پس چاہئے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو اور ضروری سے کہ دتا ہے

رَبَّهُ طَوَّلَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ طَوَّلَ مَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَشَمُّ قَلْبَهُ طَ

اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت پھپاڑ گواہی کو اور جو شخص پھپاتا ہے اسے تو یقیناً گھنگالا ہے اس کا ضمیر

۳۸۳ لایصار کی را اگر مفتون ہو یعنی مختار بمحبول (تو اس کا مطلب ہو گا کہ فریقین سے کوئی کاتب کو غلط لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے اور ان کا وقت بے کار ضائع نہ کرے۔ اور اگر لایصار ہو تو پھر مطلب یہ ہو گا کہ کاتب غلط لکھ کر ادا کر گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو ضرر نہ پہنچاتے اور حق تلقی نہ کرے۔

۳۸۲ اور اگر تم حالت سفر میں ہو۔ وہاں کوئی دشیقت نہیں بھی موجود نہیں اور تم ادھار پر کوئی لین دین کرنا چاہیتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیخہنے والے کے پاس گردی رکھ دے۔ جب قیمت ادا کرے تو اپنی گردی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گردی رکھنے کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے بغیر رہن رکھنا جائز نہیں بلکہ اغلب ای صورت کہ نہ دشیقت نہیں ہے اور نہ گواہ سفر میں ہی پیش آتی ہے اس لیے سفر کا ذکر کیا، ورنہ حضر میں بھی رہن رکھنا درست ہے لیکن گردی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا شرعاً ممنوع ہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

او راللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین

الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدِلُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفِوْهُ يَحْسِبُكُمْ لَكُمْ

میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو ۳۸۶ سے جو کچھ ممکنے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے ہو سایہ گاتم سے اس کا

اللَّهُ طَفِيقٌ فَلَمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى

اللہ تعالیٰ پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا اور اللہ تعالیٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۲۸۵} أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

ہر چیز پر قادر ہے ایمان لایا یہ رسول (کریم) اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے ب کی طرف سے

۳۸۵ جب یہ آیت کرمیہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے معموم و افسوس ہو کر بارگاہ و رسالت میں حاضر ہوتے

اور گھنٹوں نے بل کھڑے ہو کر عرض پرداز ہوتے کہ آسے اللہ کے پیاسے رسول اُج تک جا حکام (نمای، روزہ، حج، جہاد) نازل ہوئے اُن پر تم عمل کر سکتے تھے لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی تم میں حصہ رحمۃ للعلیمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ الرَّحْمَم

نے فراگرتے ہو تو کو سہارا دیا اور پھسلتے ہو تو کو تھام لیا۔ فرمایا تم یہود و نصاریٰ کی طرح یہ مت کو سمعنا و عصینا ہم نے حکم سن تو لیا لیکن ما نہیں بلکہ شیوه تسلیم و رضا غنیا کرتے ہوئے بارگاہ رب العزیز میں بے چون و بے عرض کرد و سمعنا

و اطعناع غفرانیک ربنا و الیک المصیدر۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سُنْ کر فوراً سرسلیم ختم کر دیا اور زبان پر باری ہو گیا سمعنا و اطعناع جب فلامان مصطفیٰ علیہ افضل التیریۃ و اجمل الشمار نے یہ عرض کی تو اس سبیح و قدس

نے آمن الرسول الخفا کران کے ایمان کی تصدیق فرمادی۔ سبحان اللہ العظیم والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔

۳۸۶ حضرت صدر الافق اصل قدس سر و نیاں خوب تحریر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:- انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں۔ ایک بطورو سوسہ کے اُن سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں اس پر موآخذہ نہیں۔ بیخاری و مسلم کی حدیث ہے سید عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اممت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن سے تجاوز فرماتا ہے۔ جب تک کہ وہ انھیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ڈوسرے وہ خیالات ہیں کو انسان

اپنے دل میں جگد دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے ان پر موآخذہ ہو گا اور انھیں کا بیان اس آیت میں ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ طَمَّلُ امَّنَ بِاللَّهِ وَمَلِكَتْهُ وَكُتُبْهُ وَرَسُولَهُ

اور (ایمان لاتے) مومن یہ سبیل ۸۳ سے مانتے ہیں اللہ کو اور اُس کے فرشتوں کو اور اُس کی کتابوں کو اور اُس کے رسولوں کو

لَا نَفِرَ قُبَيْدَنَ أَحَدٍ مِّنْ رَسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(انیزکٹنیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اُس کے رسولوں سے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی

غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

ہم طالب ہیں تیرجی بخش کے اے ہمارے رب! اور تیری طرف ہی ہیں کوئی ہے ذمہ داری نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر

وَسَعَهَا طَلَّاهَا مَا كَسِبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

عقلی طاقت ہو اس کی اس کو اجر ملے گا جو (نیک عمل) اس نے کیا اور اس پر بال ہو گا جو (بُر اعمال) اس نے کمایا اے ہمارے رب پر کم ۳۸۸

إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا

اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں لے ہمارے رب اے ڈال ہم پر بھاری بوجھ بیسے

حَمَدَتْكَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِيلْنَا مَا لَأَطَاقَةَ

تو نے ڈالا تھا اُن پر جو ہم سے پہنچ گئے ہیں اے ہمارے پروگار اے ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں قوت

۸۷۸۸ سے اس آیت میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدۃ الشرک ماننا، فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کی فرمادار مخلوق تسلیم کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو صحیح ماننا، تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا اور یوم قیامت پر یقین رکھنا یہ ہے ایمان۔

۸۸۸۸ سے یہ پیاسے پیاسے دلنشیں اور اثر آفرین کلمات دعا یہی بھلے ہیں۔ کریم و بنده پرور اور ذرہ نواز مولا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ ماں کا کرو اور یوں مانگا کرو۔ میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے اور جب کریم اور بہت کریم، سمحی اور نہایت سمحی گداتے ہے تو اس کو کہ کہ آمجھ سے مانگ توجہ وہ گداتے ہے تو اخلاص و دنیا ز اور سوژو و گداز سے عرض کرے گا تو ضرور وہ عرض قبول ہوگی۔ اس دعائیں جسمانی و روحانی، انفرادی اور اجتماعی، دینی و دنیاوی ہر ہستم کی سعادتوں، نعمتوں اور سر فرازیوں کے لیے التجاہ ہے اسی لیے تو حسنور بنی کریم روف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَإِنَّ مَوْلَانَا فَإِنْ شَرَّنَا

نہیں اور درگز رفرما ہم سے اور جسش دے ہم کو اور حرم فرمادیم پر تو ہی ہمارا دوست (اور مددگار) ہے تو ہمارا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَفَرِينَ ﴿٢٩﴾

ہماری، قوم کفار پر

وَعَلَىٰ أَكْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَمَنَ فَرِمَا يَا :-

اویتیت ہذہ الایات من آخر سورۃ البقرۃ من کنز نجت العرش لموئیتھن بنی قبلی۔
سورۃ بقرۃ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے ریچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔

تَعَارُفَ سُورَةِ آلِ عُمَرَانَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَامٌ۔ اس سورۃ پاک کا نام آل عمران ہے۔ یہ بالتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بینی رکوع ہیں دو سو ایتیں۔ ۳۵۷۲۔ الفاظ اور ۳۳۴۵ احراف ہیں۔

مضامین کی۔ اس سورۃ میں بڑے واضح انداز سے اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابط عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے دینِ اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بُنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف و تعدد کے باوجود دانلی و ابدی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کر دے چیزیں بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے اور حق ایک ہی ہوتا کرتا ہے ہر زمانہ میں ہر حال میں۔ اسلام کے نام سے بد کرنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم اپنے الگ الگ نذیبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو۔ اُن سب کا دین تو اسلام تھا۔ مختارے جد احمد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دینِ اسلام کے علمبردار تھے۔

اس طرح قرآن حکیم نے دین و ندہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے والے محکمات پر فخر کلائی لگائی اور وحدتِ انسانیت کے لیے ایک ایسی حکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گی تو وہ ایجاد و محبت کے رشتہ میں مسلک ہو جاتے گا۔

کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے۔ اس لیے ہر بھی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء و رسول کی تصدیق کی اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آئے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اسی سنت پر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء و رسول سابقین کی تصدیق کی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد گیونکہ کوئی اور بنی بیویوں کے ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا حاصل نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے۔

وَخَتَمَ الرَّسُولُ مَوْلَاتَهُ كُلُّ جِنْ كَيْ ذاتِ قُدُسِي صفاتِ كَوْمِيْتَتِ الْلَّهِ لَنِي انسانیت کے لکھنے سے ہوئے اور منتشرہ اور اق کی شیرازہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا اس کے متعلق تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت فتاویٰ کا پختہ و مکریں تاکہ ان کی امتوں

کو مجالِ انکار نہ رہے۔

اس سُورت میں ان تمام امور کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی ان برس پر کار حجامتوں کا احتاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمۃ اللہ علیہن ضمیلہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ لہ سُورۃ بقرہ میں یہ یہود کی اصلاح کی بھڑک پور کوشش کی گئی تھی کیونکہ یہود مدنیت کے باشندے سے ملت اور ہر صبح و شتم مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑتا تھا۔ اس سُورہ میں عیسیٰ یوں کے عقاید کی درستی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے اور ان کے عقیدہ مثبت کا ایسا بحث محسوب کیا گیا ہے جس کا جواب مسیح کے پرشادوں کے پاس تب تھا زادِ بے اس سُورۃ کا بہت سماحت اس وقت نازل ہوا جب سخران کے عیسیٰ یوں کے علماء و رؤسائے ایک دفتر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا۔

۴۔ سُورۃ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے بہما درکرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد کفر و اسلام کی جنگوں کا سامنہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ بد رکے میدان میں لڑائی گئی جس میں مٹھی پھر مسلمانوں نے اپنی بے سروسامانی کے باوجود کفار کو شکست فاش دی۔ لیکن اس شکست نے کفار کو تاش زیر پا کر دیا۔ انتقام کے شعلہ بھڑک اُٹھے یہود نے بھی اپنی سازشوں کو تیرتے کر دیا۔ ایک سال بھی گزرنے سے پایا تھا کہ پورے سازو سامان کے ساتھ مشرکین نکلنے مدنیت پر حرب طھائی کر دی۔ احمد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگتے پر مجبور کر دیا۔ لیکن چند لمحوں کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدال دیا۔ جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس سُورۃ میں دشمنوں (یہود اور منافقین) کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا اور مسلمانوں کو ان کی اپنی فروگز اشتوں پر تنبیہ فرمائے اُن سے آئندہ پیغمبئی کی تلقین کی گئی۔ اسی تبیتتِ الہی اور تادیبِ خداوندی کا تیجہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر ساختکر قیصر و کسری کی فوجوں کو رومن تباہ والارٹا ہوا گزگما۔

۵۔ اس سُورۃ میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلندا اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم خیر الاعم ہو اور بخواری خبرات و برکات صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کائنات کے لیے ساری نوع انسانی کے لیے ہیں لوز میں شب چتنی عظیم اور بلند سے اُٹنا ہی کھٹکن اور دشوار ہے۔ اس لیے تھیں باہمی اتفاق و محبت کی ضرورت ہے تھیں ہمارے جانے کے لیے حسد و عناد کے طوفان اُمَّۃ امداد کرائیں گے۔ الگرم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضمبوطی سے نمکڑے رکھا اور اخوتِ اسلامی کے جذبہ سے سرشار نہ رہے اور اپس میں سرچھوٹل شروع کر دی تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع کی ذمہ داریوں سے ہمہ برا نہ ہو سکو گے بلکہ بخواری اپنی ناموں اور بقا مختڑے میں پڑ جائے گی۔

۶۔ معاشری ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درہم برم کر دیتی ہیں۔ اور ان کی موجودگی میں کوئی پند و موعظت موثق ثابت نہیں ہوتی۔ اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ سُود غوری کاظملانہ نظام ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرا یا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے پچھی رہے جو اس کی صفوں میں انتشار اور زہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔

۷۔ آخر میں ایک اور امر جس کی طرف فاریت کی توجہ مبذُول کر ان انصار و ریس بمحبتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ

بن میر علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا تاہلث ملا شہ (تین خداوں سے ایک) کہا۔ اُن کی والدہ کو خدا کی بجروہ کہا۔ سراسر توحید و تشریع برائی کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے۔ اُس نے ان کے اس باطل عقیدہ کی تکذیب کی۔ اور اس کے بطلان کو آشنا کر دیا لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح کی تقدیص کر کے، کیا اُن کی شان گھٹا کر، کیا اُن کے معراج کا انکار کر کے، یا کیا احترام بیوتوں کو پس پشت ڈال کر؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اُن کے نقصان کا ذکر فرمایا۔ اُن کی خرق عادت پیدائش کو بیان کیا۔ اُن کے محترم العقول مجرموں سے پیش کیا کہ وہ باذن الٰہی مُردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کرتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ کہیں بیچ کر کھاتے ہیں انھیں اُن کا علم ہے بغرضیک توحید کے اثاث کے وقت بھی سمجھی کے منصبِ رفع کو گھٹایا ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو اپنے زعم باطل کے مطابق مسلمانوں کو تُوشک تصوّر کرتے ہوئے اُنھیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخرِ موجودات، مصادرِ کمالات، نورِ جسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ آمِ وسلم کی شانِ رفع میں بے باکیا کرتے ہیں اور تصوّر کی ذاتِ اقدس واطہر کے کمالاتِ علمی اور عملی لوگھٹانا اپنے فنِ خطابت کی میزبانی کرتے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہیں یا اس کے اسلوب سے سراسر اخراج کر رہے ہیں۔

سُورَةُ الْعِمَرَةِ وَهِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَدْعَىٰ لِتَعْشِيرِ دُونَ

سُورَةُ آلِ عِمَرٍ نَّبِيٍّ يَسِّرِيَّةٍ اللَّهُ كَنَامٌ سَيِّرُوكَرَتَاهُوْلُجَوْهَتَهُيْهَرَبَانَهِيْشِهَرَفَرَاهَلَهُيْ دُونَشُواُوْرَكُوْعَبِيْنَهُيْ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ

الْفَلَامِيمِ لِهِ اللَّهُوْهِبَهِ كَهِ كُوئِيْ عَبَادَتَكَهِ لَاقِتَهِنِغِإِرَكَهِ زِنْدَهِسَبَهِ كُوزَنَهِرَكَهِهِلَهِهِ لَهِ نَازِلَهُنَّاَيِّ اَسَنَهِ كَبِيرِيَّهِ كَتَابَ

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ

حق کے ساتھ سے تصدیق کرنے والی ہے ان (کتابوں) کی جو اس سے پہلے (اُتری) ہیں اور انماری اُس نے تورات اور انجیل

لَهِ يَرْجُوُ فِي مُقْطَعَاتٍ ہیں صاحب رُوحِ المَعْنَى لکھتے ہیں کہ لا یعنی فہ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الْاَكَلُوْلِيَّاعِیْنِی ان کا صحیح مفہوم حضور کریم علیہ الصَّلَوةُ وَالْتَّسْلِیْمُ کے بعد صرف اولیاتے اُمّت کو معلوم ہے مزید تفصیل کے لیے سُورَةُ بَقْرَهُ کا عاشیہ ۳ ملاحظہ ہو۔

۳ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آل عمران کی پہلی انسنی سے پچھلی زیادہ ایتیں اُس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سُورَة پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَوَحْدَهُ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی (مَبْعُودٌ) عبادت کے لائق نہیں اور الحَقُّ الْقَيْوُمُ اس کی دلیل ہے یعنی مَبْعُودٌ تَوْهُہ بُوْسَتَهُ ہے جو (الْحَقِّ) ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو جو القیوم ہو یعنی یہ حیثیت اپنے وجود، بقاء اور اپنی نشوونما نیں اس کی محتاج ہو۔ اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے صرف وہی مَبْعُودٌ ہے عیسائی حضرت علیسی علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی کہ جب حضرت علیسی علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقلمندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک و قوتوں کے عقیدہ کا بطلان بھی ہو گیا جو کسی مخلوق کو اللہ بنائے ہوتے ہیں۔

۳ حق سے کیا تمرد ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی الجملۃ لکھا ہے یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں بیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں لیکن حق کا چونھوںم علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے وہ بہت جامع اور طیف ہے لکھتے ہیں۔ الحق لل فعل والقول: الواقع بحسب ما يحب وقد ما يحب وفي الوقت الذي يحب (مفردات) یعنی کوئی قول او فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جاتے جیسے چاہئے اس اندازے سے پایا جاتے جتنا مناسب اور موذل ہو۔ اور اس وقت پایا جاتے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان بھتی۔ ایسے دلائل دبراہیں سے مریم ہو کر آیا جن کو عقل سلیمان نے

مِنْ قَبْلِ هُدًىٰ لِّلْقَاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ اللَّهَ الذِّينَ

اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اُنہا فرقان کرنے بے شک وہ لوگ جھوٹے

كَفَرُواۤ بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۤ وَاللَّهُ عَزِيزٌۤ ذُو

کفر کیا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بلکہ یعنی

إِنْتِقَامٍۤ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْكُمْ شَيْءًاۤ فِي الْأَرْضِ وَلَا

والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز نہ زین میں اور نہ

پچھوڑتی اور عین اُس وقت آیا جب ہر طرف گھوڑ اندھیرا چاہکا تھا اور انسانیت کا کارروائی دشمنی ہے جو مجبور تھی اور عین اُس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جب عقل انسانی اپنی طفویلیت کی سرحد مجبور کر کے فکر و فطر کی وادی میں قدم رکھ جیکی تھی اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے محجرات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات پیش نہیں کی صورت تھی۔ سبحان اللہ اکیا اعجاز ہے بالحق کے ایک لفظ میں معانی کا سمندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔

۷۷ لفظ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں جو لفظ "فرق" کا مفہوم ہے۔ بلکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے کوئی چیز مزاد ہے؟ علماء مسنت عدوں اقوال منقول ہیں لیکن امام ابن حجر ایشانی کے کہا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے۔ "الفصل بین الحق والباطل" یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ امام رازیؒ کے نزدیک وہ محجرات ہیں۔ اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے کیونکہ اس سے بھی حق و باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔

پہلی آیت میں تو حیدر کی دلیل تھی اس میں بیوت محمدؐ کی کاشتات ہے اور رُوئے سخن بخراں کے نصاریٰ کی طرف ہے کہ جب تم قوراۃ و انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ طہیرتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئیں وہ صاحب محجرات سمجھتے ہیں کے باعث تم ان کی صداقت کو تسلیم کرتے پر مجبور ہو گئے ہو تو قرآن کو کیوں کلام اللہ تلقین نہیں کرتے۔ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس نے تو وہ محجرات دکھائے ہیں جن کی مثال ہی نہیں۔

۷۸ عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل میں کیسے اب ہتھ دھروں کو عذاب الیم اور انعام شدید کی دلکشی جا رہی ہے۔ ۷۹ حضرت علیہ السلام کی الہمیت کے بطلان کی اور دلیل میں کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وابسیع اور مجھیت ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں اور اس کا علم ذاتی ہے کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اور علیہ السلام کا علم نہیں

محیط ہے اور نہ ان کا علم ذاتی۔ بلکہ بتنا ہے وہ اللہ جل جگہ کا عطا فرمایا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟

فِي السَّمَاءِ طَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْرَ فِي الْأَرْضَ كَيْفَ يَشَاءُ ط

آسمان میں وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے (ماول کے) رجموں میں جس طرح پاہتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

کوئی مبعود نہیں بغیر اس کے (وہی) غالب ہے حکمت والا ہے وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب

مِنْهُ أَيْتُ الْحُكْمَ ط هُنَّ أَمْرُ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَبِّهُ ط

اس کی کچھ آیتیں حکم ہیں کہ وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسرا آیتیں متشابہ ہیں

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

پس وہ لوگ جن کے دلوں میں بھی ہے سو وہ پیری دی کرتے ہیں (صرت) ان آیتوں کی جو متشابہیں قرآن

الْبُتْغَاءُ الْفِتْنَةُ وَالْبُتْغَاءُ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

سے (ان کا مقصد) فتنہ انگریزی اور (غلط) معنی کی تلاش ہے اور نہیں جانتا ہے اس کے صحیح معنی کو بغیر

کے محکم کی تعریف امام راغب نے یہی کی ہے۔ فالمحاکومالایعرض فیه شبہة من حیثاللفظ ولا من حیث المعنى
(مفروقات) محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہہ وار ہو سکتا ہو اور المتشابہہ ما الشکل تقسیہ اما من حیثاللفظ او من حیث المعنی لیعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پسپیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ اور یہی ساری کتاب کی اصل اور مردح ہیں۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے جن کے دل حق سے مخترف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن و اسلام کے مختلف طرح طرح کے شکوک اور دوسرے پیدا کر کے انھیں اپنے دین سے بذلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیئے تو یہاں متشابہات کی تاویل کرتے وقت محکم آیات کی پیدا ہی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا۔ لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچ در پیچ راہ اختیار کرتے ہیں۔

۸ بعض علماء نے دالراسنون کا عطف اللہ پر کیا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہو گا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ

اللَّهُمَّ وَالرَّسُولُ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْنَأْ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَوْرَدَ عِلْمَ وَالْإِيمَانَ فِي سَاحَةِ اسْتِدَارَاتِهِ إِذْ كَانَ

رَبِّنَا وَمَا يَنْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۷ رَبِّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ

پاسِ سے ہے اور نہیں نصیرت قبول کرتے مگر عقل مند اسے تکارے بِ اَنْتَ هُنْ طَرِيقَہ کرہا رہے بل بعادر اس کے

إِذْ هَدَىٰ يُتَّفَعَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

کہ تو نے پدایت ہیں اور عطا فرمائیں اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے

اور علمائے راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یکیں دوسروں سے علمائے اللَّهِ تَعَالَى کیا ہے اور الرَّسُولُ فِي الْعِلْمِ کو
مُسْتَقْلَ جَمِيعًا قرار دیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہو گا کہ مشاہدات کا علم صرف اللَّهِ تَعَالَى کو ہے اور علمائے راسخین
ز جانے کے باوجود ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللَّهِ تَعَالَیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے۔ کہ کیا
قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جب
ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان سے پدایت نہیں حاصل کی جاسکتی۔ مفسرین نے اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ جو عکسِ
اللَّهِ تَعَالَى پر وقفت کرتے ہیں وہ مشاہدات کا عام معنی مژاہ نہیں لیتے بلکہ ان کے زدیک مشاہدات سے مزادوہ اُمور ہیں۔ ما

استاثرة اللَّهِ تَعَالَى بعلمه كقيام الساعية والحروف المقطعة في أوائل السور۔ جن كاعلم اللَّهِ تَعَالَى نے اپنے لیے
خاص کیا ہوا ہے جسے قیامت کا وقت، سورتوں سے پہلے ہر وہ مقطوعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ پھر کھلکھلتی ہے کہ کیا ان امور
کا عالم اللَّهِ تَعَالَى نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو اس کا نہایت واضح جواب علام سید محمود اوسی بغدادی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-
لعل القائل بكون المشابه مما استاثر الله بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم بواسطة الوجه مثلا ولا القاءه في روع الولي الكامل مفصلا ولكن لا يصل الى درجة الاحاطة۔

کعلم اللَّهِ تَعَالَى۔ ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه
والله وسلم ورتبة أولياء امته الكاملين وانما الممن من الاحاطة ومن معرفته على سبيل النظر
والفكير ان روح المعانى اعني جن علماء کے زدیک مشاہدات سے مزادوہ اُمور ہیں جن کا عالم اللَّهِ تَعَالَى نے اپنے لیے مفترض
فرمایا ہے۔ وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللَّهِ تَعَالَى نے ان امور کا علم بندریعہ وحی اپنے رسول صلی اللَّهِ تَعَالَى علیہ وآلہ
وسلم کو دیا، یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے کیونکہ شخص حضور کے مقام رفیع اور حضور کی امت کا اولیاء کاملین
کے مرتبہ کو پہچانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فتح علم محیط کی ہے اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا يُرَبِّ فِيهِ طَانَ اللَّهُ لَا يُنَخْلِفُ

اے ہمارے پروگرام بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اُس دن کے لیے نہیں کوئی شبہ جس (کے آنے) میں بے شک اللہ تعالیٰ کے

الْمِيعَادَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ

نہیں پھرنا پہنچنے والے سے بے شک ووگ ۹ جہنوں نے کفر اختیار کیا نہ پھا سکیں گے انھیں اُن کے مال اور

لَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْعَاطُ وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۝

نہ اُن کی اولاد اللہ (کے عذاب) سے کچھ بھی اور وہی (بدبخت) اینہ صن ہیں آگ کا

كَلَّا أُبَّ الْفِرْعَوْنَ لَا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مُّكَذَّبُونَ بِوَايَاتِنَا

راہن کا طریقہ آں فرعون کے اور اُن لوگوں کے تھا جو اُن سے پہلے تھے انھوں نے جھٹپٹا یا ہماری آئتوں کو

فَأَخْذُهُمُ اللَّهُ بِذِنْبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

پس پکڑ لیا انھیں اللہ تعالیٰ نے اُن کے گناہوں کی وجہ سے نہ اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (آئیے سوں ۱۴ فرمادو

نہ اُس علم کی جو اللہ اپنے بنی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الامام عطا فرماتا ہے۔

۹۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک شم کا غرور اور خود سری پیدا کر دیتی ہے جو اُسے اس ملکی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کر دہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت اور اہل و عیال انھیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں سچا سکتے۔ اور اغلی آیت میں مثال فرمادے کہ واضح کیا گیا کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہ و شتمت پر نگاہ ڈالو۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انھیں بچانے سکی۔ اگر فرعون جیسا اُر برد فوال رواہ غداوندی کی تاب نہ لاسکا تو تمہاری کیا حقیقت ہے۔

۱۰۔ اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نازل نہیں ہوتا بلکہ اُن کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبع یتیجہ ہو اکرتی ہے۔ جو قوم اپنے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی اُسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ وَتُحَشِّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ

اُن لوگوں کو جھوٹوں نے کفر کیا کہ عنتیریب تم مغلوب یکے جاؤ گے اور ہائکے جاؤ گے جہنم کی طرف اے اور وہ بہت بُرا

الْمَيَادُ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيْةٌ فِي فِتْنَتِنَا فَعَلَّقْنَا عَلَيْكُمْ تِقَاتِلَ

ٹھکانا ہے بے شک تھا تھارے لیے (عربت کا) آشان اے (ان) دو گروہوں میں جو ملے تھے (میدان بدر میں) ایک گروہ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرِي كَافِرَةٍ يَرُونَهُمْ مُشْكِلِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ

لڑتاھا اللہ کی راہ میں ۱۳۰۰ اور دوسرا کافر تھا دیکھ رہے تھے (مسلمان) انہیں اپنے سے دوچند (ایپنی) آنکھوں سے ۱۴۰۰

۱۱ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں فتح یاں ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لاتے تو تھارا انعام بھی قریش نکلے کی طرح ہو گا۔ اس پر یہود غصہ سے لال پیلے ہو کر کھنے لگے کہ آپ نے چند ناخجہ بکار لوگوں کو شکست دی ہے اگر ہم سے مکملی تو پتہ چیز گا کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ وہ یہود کی شکست اور رسوائی کا اعلان فرمادیں۔

۱۲ یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد ۱۴۰۰ تھی جن میں صرف چھڑ زرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں دو گھوڑے، ستراؤنٹ اور آٹھ تلواریں بھیں۔ ان کے مقابلہ میں لفار کا شکر ۹۵۔ افراد پر مشتمل تھا جو ہر طرح کے اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس سو گھوڑے اور سات سواؤنٹ تھے۔ اور رسد کا بیحال تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے۔ اتنی کثیر التعداد فوج کا اتنی قبیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا اللہ تعالیٰ کی تدریت کی گھنی نشانی ہے۔

۱۳ یہاں ایک چیز غور طلب ہے۔ دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ وہ دو گروہ کون کون تھے تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا فیضہ تقاتل فی سبیلِ اللَّهِ اور دوسرا گروہ کا اخْرِي کافر تھے۔ یہ اسلوب بیان کیوں اختیار کیا اور یوں کیوں نہ فرمایا کہ فیضہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ میرے خیال میں تو غلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکال للہیت اور خلوص کا ذکر مقصود ہے کہ ان کی جنگ حضر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھتی۔ اور اس سے انفرادی یا اپنی جماعتی یا قومی بترتیب مقصود نہ ہتی۔

۱۴ کون کس کو اپنے سے دو گناہ نیکھر رہا تھا؟ اس میں مفسرین کے متعدد قول ہیں لیکن علامہ ابن حجر یعنی اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یہ دن کافاع مسلمان ہیں اور ہو ضمیر کا مرح لفار ہیں یعنی مسلمان لفار کو اپنے سے دو گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاش دی جس میں ان کے مقرردار مارے

وَاللَّهُ يُؤْكِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ طَافَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لَا وُلِي

الْأَبْصَارُ ۝ زُيِّنَ لِلّٰهِ اسْمُ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَا طِيرٌ مُّعْقَنْطَرٌ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّدَةُ

وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثَ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّذِي يَأْكُلُ وَاللَّهُ عَزَّلَهُ

حُسْنُ الْبَابٍ (۱۵) قُلْ أَعْبُدُ إِلَهًا مُخَالِقًا لِمَنْ ذَلِكُمْ بِهِ دُلُّكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

بَعْدَ رَبِّهِ حَدَّثَنِي تَحْمِيٌّ مِنْ تَوْتَهَا الْأَنْصَارِ خَلَدُّ بْنُ قَعْدَةَ

ان کے بہ کے ہاں باغات ہیں روائیں ہیں ان کے نیچے نہیں ہمیشہ رہیں گے (متنی) ان میں اور ان کے لیے
کہتے جن میں الہ الجمل بھی تھا اور ستر قیدی بناتے گئے۔

۱۵۔ یعنی فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر موقوف ہے۔
 ۱۶۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کے ساتھ طبعی لگاؤ اور رغبت پیدا فرمادی۔ اگر ایسا نہ ہو تو ناقلو شادی کی تعلیم ذمہ دار لوگوں کو کوئاں اٹھاتا۔ ناقلوں، اولاد کے لئے کوئاں بھروسہ راتیں رہ جائیں گے زنازاری اور ادا کی روش اپنے لئے

پنی راحت و آسانش کو ترک کرتا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل نسانی کی بقا کیسے ممکن ہوتی؟ اسی طرح سونے چاندی، ہندوگھوڑوں،
و لیشیوں اور کھنیتی بارڈی کے ساتھ میلان طبع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو کر وہ جاتیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ
نسوان، اولاد کے تحفہ حکرات، اور امام کے حادثت پر بُلوا گئی تھیں۔ اسکے خلاف اتنا کہ رہتا تھا، وہ اکتوبر ۱۹۴۷ء تک

بُلچندر روزہ زندگی کا سامان ہے۔ ان کو استعمال کرو لیکن اپنے مالک سے غافل نہ ہو جاؤ۔

أَرْوَاحُ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۱۵

پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حامل ہو گئی انھیں خوشنودی اللہ کی ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے اپنے بندوں کو

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْتَأْفَى غَفَرَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَاعَذَابَ

یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسے ہمارے بتایقیناً ہم ایمان لائے تو معاف فرمائے ہمارے لیے تارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ

الثَّارٌ الْصَّدِيرُينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ

کے غذاب سے (صیستیوں ہیں) صبر کرنے والے ہیں ۱۸ اور (ہجالت ہیں) سچ بولنے والے ہیں اور (عبدادیں) عاجزی کرنے والے ہیں اور (الله)

الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۱۷ **لَشَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**

کی اہیں خرج کرتے والے ہیں اور (اپنے گناہوں کی) معافی مانگنے والے ہیں سحری کو قت شہادتی اللہ تعالیٰ نے (اس تباہی کو) بیشکنہیں کو خدا تعالیٰ کی خداوار اس کے

کام کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے جس کی انسان آرزو بھی کر سکے حقیقت شناس دلوں کے لیے یہی حوالہ رہت ہے یہی مدعائے حیات ہے۔ انسانی ارتقایہ کا یہی وہ بلند ترین مقام ہے جس سے بلند تر کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۱۸ متفق لوگ جن کے لیے جنت اپنی تمام زیب و زیست اور دل آؤزیوں کے ساتھ چشم رہا ہے جن پر حناءٰتے الی ساری گلکن ہے۔ ان کے چند اوصاف کا ذکر ہوا رہا ہے تاکہ تقویٰ کا قرآنی مفہوم واضح ہو جائے۔ اور ساتھی یہ بھی علوم ہو جائے کہ ان پر یہ انعام و اکرام بلا وجہ نہیں۔

۱۹ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم شہادت توحید کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی معصوم مخلوق فرشتے اور اہل علم اس واضح سچائی کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید پر شہادت کے متعلق علامہ برضیاوی فرماتے ہیں۔ بیت وحدانیتہ بنصب الدلائل الدالة علیہا و انزال الایات الناطقة بها۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابت کی کتاب کے ہر صفحہ پر اپنی توحید کے ایسے روشن اور اطلیل ثابت فراہمیتے ہیں جن سے کوئی صاحب عقول سلیمان اکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کتابوں میں توحید کے مسئلہ کو یوں مددگار بیان فرمایا ہے کہ شک و شبہ کی بخاتش ہی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ہر مناسب موقع پر علم کی عظمت اور اہل علم کی شان بیان کر کے اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ یہاں بھی توحید کے گواہوں میں اہل علم کا شمار کر کے ان کی عزت افرادی فرمادی۔

وَالْمَلِكِ كَهْ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

اور (بھی کوہنی) فرتوں نے اور علم نے (انہیں بھی کوہنی کرو) قائم فرمان دالا ہے ستمان انصاف کو نہیں کوئی مجبو سوتے اس کے ہو عورت اللہ

الْحَكِيمُ طِ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَاسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

حکمت الہی ہے بے شکر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے ۲۱۷ اور نہیں جھکڑا کیا ۲۲۲ جن کو

أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَبُغَيَا بَيْنَهُمْ وَطِ

دی گئی ہتھی کتاب مگر بعد اس کے کامیاب تھا ان کے پاس صحیح علم (اور یہ جھکڑا^{۱۴}) باہمی حسد کی وجہ سے تھا

۲۱۸ قائمًا بالقسط کی ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ حال ہے اور لفظ اللہ ذوالحال اور دوسرا ترکیب یہ ہے کہ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ میں ہو ضمیر اس کا ذوالحال ہے اور یہ حال معنی اس کی صفت ہے۔ اس صورت میں میشود بہیں داخل ہو گا یعنی ان سب ہوں نے اس کی وحدانیت کی بھی کوہنی دی اور اس کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کی بھی شہادت دی۔ (بہضاوی) ترجمہ اسی دوسرا ترکیب کے مطابق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق، فطرت کے قواعد کلییہ، عقائد اور شریعت کے قوانین غرضیکہ ہو وہ چیز جس کو اس سے نسبت ہے وہ اس کے عدل و انصاف کی بھیتی جاگتی تصویر ہے۔ تاریخ اللہ احسن الخالقین۔

۲۱۹ علامہ ابن کثیر نے اسلام کے نعموم کو پڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے هو اتباع الرسل فيما يبعثهم الله به في كل حين حتى خته وابي محمد صلی الله تعالیٰ عليه وآلہ وسلم الذي سد جمیع الطريق اليه الامن جهة

محمد صلی الله علیہ وسلم ہر زمان کے بنی پراللہ تعالیٰ نے جوانzel فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جب بتوت کا سلسہ ختم ہو تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ اس ذات القدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا استہ اخذیا رکرے گا تو وہ گمراہ کا لاستہ ہو گا۔ اس آیت سے تاریخ ادبیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی اصلاحی ہوئی گردھوں دی۔ اس نے بتایا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آتے بلکہ سب نے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی۔ کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر ہتھے حق کی طرف بُلانے والے ہتھے حق کے گئے ہتھے اور حق ایک ہی ہے۔ اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آتے ہتھے اب غاصم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آتے ہیں۔ کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے اس لیے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے کا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں گا۔

۲۲۰ اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر یہ جو ان گنت فرقے موجود ہو گئے ہیں اور ان

وَمَنْ يَكْفُرُ بِأَيْتَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ فَإِنْ

اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر (اب بھی)

حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طَوْقُلْ

جھگڑا کریں آپ سے تو آپ ۲۲۳ کہ دیکھئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اسلام کے سامنے اور جھونوں نے میری پیرودی کی اور کہتے

لِلَّهِ يُنَّ أَوْتُوا الْكِتَبَ وَالآقِينَ عَاصِلَتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ

اُن لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لاتے پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو

اهْتَدَ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبُلْغَةُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِلَى الْعِبَادِ ۚ

ہدایت پاگئے ۲۲۴ اور اگر منہ پھریں تو اتنا ہی آپ کے ذمہ تھا کہ آپ غیار پہنچا دیں (جو آپ نے پہنچا دیا) اور اللہ حبوب دیکھنے والا ہے (اپنے) بندوں کو

کے باہمی اختلاف کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنائی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی تیکنیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں بلکہ اس کی وجہ حسد و عناد ہے۔ (اس کی تفصیل پہلے سورہ بقرہ، آیت ۲۱۷ میں گز رچکی ہے)

۲۲۵ اگر حق تمحجج لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں اٹھ جو کہ آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں۔ بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے حکم عقیدہ کا گھنے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پروفیسیاتی اثر پڑے گا کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں حیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرشاہزادوں کے پاؤں نہیں ڈکھاتے۔ بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرجوشی سرد پڑ جاتے گی۔

۲۲۶ یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تھاری سکنت سے اپنی تقویت کا صدر کر رہے ہیں۔ اور در پر وہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں بلکہ اسلام کی دعوت تھوڑی کر لیتے میں سرسر تھارا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ضد پر اڑتے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم تھارا کچھ نہیں بچا سکو گے بلکہ اپنی دُنیا و آخرت کا مستيانس کر دو گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاِيَّاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ

بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناجت ۲۵

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَا فَيَشْرُهُمْ

اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل انصاف کا لوگوں میں سے تو خوبی دو انھیں

بَعْدَ اِبْرَاهِيمَ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

دردناک عذاب کی یہ ہیں وہ (بدِ نصیب) اکارت گئے جن کے اعمال دُنیا میں

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرَىٰنَ اَمْ تَرَى الَّذِينَ اُوتُوا

اور آخرت میں اور نہیں ہے ان کے بیلے کوئی مددگار کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف بھیجنیں دیا گیا

نَصِيبًاٰ مِنَ الْكِتَابِ يُؤْلَى عَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمْ بِيَهُمْ ثُمَّ

پچھہ حصہ کتاب کا (جب) بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ تصفیہ کر دے ان کے بامیں بھیڑوں کا تو

يَتَوَلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا نَ

پیغام پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے رسم حکایتہ رُوگُرانی کرنے والے ہوتے ہیں اس (بیباکی) کی وجہ پیغام کردہ کہتے تھے کہ بالکل نہ

تَمَسَّكُنَا النَّارَ إِلَّا أَبَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ قَىٰ كَانُوا

چھوٹے گی ہیں وزخ کی آگ مگر چند دن گئے ہوتے اور فرمیں مغلزار کھا انھیں ان کے دین کے معاملہ ان باتوں نے خوبہ

۲۵ آیات ۲۶ میں یہودی بعنوایوں، کریمیوں اور حق سے واسیوں ایکارا اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی دیرینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس پر انھیں قیامت کے دن کی سختیوں کی بادلا کرتبیہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اس روشن سے باز آجاتیں۔ نیز ان کی اس غلط فہمی کار دھی کر دیا جس میں وہ بُری طرح بتلا نتھے کہ وہ خواہ کچھ بھی کرتے رہیں ان کو یا تو عذاب ہو گا ہی نہیں اور اگر بُراؤ بھی تو نتھی کے چند روز انھیں واضح طور پر بتا دیا کہ تم تھاری میں گھڑت ہاتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ تم سے تھاری ہر بد کاری کی سخت باز پرس ہو گی اور تھیں تھاری کارستانيوں کی پُری سزا دی جائے گی۔ تقریباً یہی ضموم پہلے سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

يَفْتَرُونَ^{۲۴} فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا مِنْ لِيَوْمٍ لَّا رَبَّ فِيهِ قُوَّةٌ وَّوْقِيتُ

خود گھٹ کرتے تھے سوکیا حال ہو گا اُن کا جب تم جمع کریں گے انھیں اُس تو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور پورا پورا

كُلُّ نَفْسٍ لِّا كَسْبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{۲۵} قُلِ اللَّهُمَّ مِلَكَ

بدل دیا جاتے گا ہر شخص کو جو اُس نے کمایا اور اُن پر ظلم نہیں کیا جاتے گا (اے جبیت ہیوں) عرض کرو اے اللہ اے ماں

الْمُلَكٌ تَوْتَى الْمُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلَكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ

سب ملکوں کے اتو بخش دیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور بچین دیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور

تَعْزِيزٌ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذْلِيلٌ مَنْ تَشَاءُ لِيَدِكَ الْخَيْرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بخلافی یہ شک تو ہر چیز پر

تَشَاءُ عَلَيْكَ دُرُّ^{۲۶} تَوْلِيهِ الْيَوْمَ فِي النَّهَارِ وَ تَوْلِيهِ النَّهَارَ فِي الْيَوْمِ

بت ادر ہے تو داخل کرتا ہے رات (کا حصہ) دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن (کا حصہ) رات میں

۲۶۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کرم علیہ التحیۃ والسلام کو اور حضور کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں نہیں
موز اور روکش اسلوب میں اس کی توجیہ اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا ہے حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چینے والا بھی غیری
وہی جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزت تو اس سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خوار و ذلیل کر دیتا ہے کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل
نہیں کر دے حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے۔ اور اس فریب میں بدلار ہے کہ اس کے اعمال لئے سیاہ ہیوں نہ ہوں
اس کا کردار کتنا پست اور اس کی سیرت لکنی داغدا بکیوں نہ ہون اس سے حکومت چینی جاسکتی ہے اور نہ اسے عزت سے محروم
کیا جاسکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں بلکہ سب پوچھ اس مالک حقیقی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ رہت قریبیں کی شان صمدیت و
قدوسیت اور جس کی صفت علم و حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی ساری قدریں تمام اور باقی ہیں۔ اس کی سُنّت یہ ہے کہ وہ
جب کسی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تفاضلے پورا کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و عزت سے سرفراز فرمادیتا ہے
اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نامہ ثابت کر دیتی ہے تو اسے ذلت و خواری کے گڑھے میں بھینک یا جاتا ہے
اس آیت میں بنی اسرائیل کی لاٹ زنیوں کا رد بھی کر دیا گیا۔ اور یہ بھی صفات صاف بتا دیا گیا کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث عزت و
کرامت کا تاج ان سے بھین کر اب عرب کے بادی شہنشہوں کے سر پر کھدیا جاتے گا جنھوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو

وَتَخْرِجُ الْحَمَّ مِنَ الْمَيْتَ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَمَّ وَتُرْزِقُهُنَّ

اور نکالتا ہے تو زندہ کو مُردہ سے اور زندہ سے اور رزق دیتا ہے

تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ أَكْفَارِينَ أَوْ لِيَأْءَ

بھے چاہتا ہے بے حساب ۴۷ نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَلِكَ فَلَكَسَ مِنَ اللَّهِ فِي

مومنوں کو پھوڑ کر ۴۸ نہ جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا (اس کا) اللہ سے کوئی

قبوں کر لیا ہے۔

۴۷ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدد کے دو اثربوت بیان فرماتے گئے ہیں۔ ان آیات کے ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا جھنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہجا و ریافت فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یوختابن باریا ہیودی کا کچھ قرض دینا تھا وہ میرے دروازہ پر تاڑ لگاتے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حرast میں لے لے اور جھنور کی خدمت میں حاضر ہوئے سے روک دے۔ اس لیے میں باہر نہ نکل سکا۔ اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا جھنور کیم نے فرمایا اے معاذ! کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمھارا قرض ادا فرمادے میں نے عرض کی۔ ہاں یا رسول اللہ تعالیٰ جھنور نے فرمایا ہر روز یہ پڑھا کرو۔ قل اللَّهُمَّ مالِكَ الْمَلَكَاتِ تَبَغِي حِسَابٍ۔ رَحْمَنَ اللَّهُ يُنِيبُ الظَّالِمَةَ قرض ہو گا تو اللہ تعالیٰ ادا فرمادے گا۔ (خرجہ ابو نعیم الحافظ)

۴۸ یہ آیت وہ ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ بالبسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کی پیش نظریہ بہت غور و تدبیر کی مستحق ہے۔ تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے لفظ اولیاً کا فہرست ذہنشیں کرنا چاہیے۔ اولیاً بجمع ہے ولی کی اور ولی مشتق ہے ولایۃ یا ولایۃ سے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔ الولایۃ النصرۃ والولایۃ تولی الامر و قیل الولایۃ والولایۃ واحدۃ۔ یعنی ولایۃ (جب کہ واؤ کے پنجے زیر ہو) کا معنی مدد و کرنے ہے۔ اور ولایۃ (جب کہ واؤ کے اپر زیر ہو) کا معنی کسی کام کا ذمہ دار اور اخراج بننا ہے اور بعض علمائے لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ذرا اور سُنیتے علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر اسی سورۃ کی آیت نمبر ۶۱ اسے کی ہے۔ لاستخذ وابطانۃ من دونکو اور اس آیت کا انھوں نے یعنی بیان کیا ہے کہ یفاوض و چھرف الاراء و سیندون الیہ رہم کا پیشے اہم امور کے متعلق انھیں کفار سے مشورہ کیا جاتے اور اپنے تمام کام انھیں کے پیو کر دیتے

شَيْءٌ لَاَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تِقْنَةً وَمِحْذَرٌ كُمُّ اللَّهُ نَقْسَلَاطٌ

تفقہ مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہیو ان سے اپنا پھاؤ ۲۹ اور درتا ہے تھیں لشتعالی اپنی ذات سے (یعنی غصبے) اور

جاہیں اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستہ ملزم کو انجینی اپنے سیاہ و پیسید کا لامک بنادیا جاتے اور ہر براہت میں انجینیں کے مشورہ پر اعتماد کیا جاتے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ایسا راویہ اختیار کرنا اکسی نازد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرہ نام ہے جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی۔ نیز اگر ایک اسلامی حملہ دوسری اسلامی حملہ کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے تو کیا تھی وحدت کا جائزہ نہ تخل جاتے گا، اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھار رہا ہے لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا قلع قلع کونے میں دریخت نہیں کر سکا اور اس وقت اسے یاد بھی نہ رہے گا کہ ہم اس کے وہ خلاص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تامل نہ کیا تھا جو لوگ اندلس کے زوال اور بر بادی کی خونچکاں داستان سے واقعہ ہیں یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے اختلاط کے دور میں بیگان اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے انجینی قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت میں گے۔ تفسیر المنار کی یہ عبارت بہت جامع ہے۔ فالممنوع منها ما یکون فیہ خذلان لدینا ک و ایذا نا لاهله اوضاعۃ لمصالحہم: یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسولی ہے۔

یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچ یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔

لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلرح و بہتوں کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی من و سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشاش کرنا یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکیٹ کرنا یا عام میل جوں اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ سُرخ سن سوک اور خنڈہ پیشانی سے پیش آنا قطعاً ممنوع نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن حکیم کی متعذلہ یقین

اور اُسوسہ حسنہ سے ملتا ہے۔ جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آتے گا۔

۲۹۔ یعنی الْمُسْلِمُونَ كُفَّارٌ كَرَّهُونَ آجاتَهُ اُرْأَسَ اپنے قتل ہو جانے، مال چھن جانے اور نامُوس لُٹ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس بے بی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہ ملے جس سے دُو کفار کے شر مسے محفوظ رہے۔ لیکن ہم اسے اہل سُنّت نے تصریح کی ہے کہ فاما ما یرجح ضررہ الی الغیر کا لقتل والزناد غصب الاموال والشهادة بالذور و قد ن المحسنات و اطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلک غير جائز البتة۔ (امام رازی)

یعنی اس عالم غوف و خطر میں اسے یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا اغفل کرے یا اسی بات کہے جس سے دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچے مثلاً اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے، زنا کرنے، مال غصب کرنے، جھوٹ کو اسی دینے، کسی پاک لامن عورت پر جھوٹا

إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدِّلُوهُ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الصُّدُورِ فَمَا يَعْلَمُ بِأَكْثَرِهِ إِلَّا مَنْ هُوَ أَنْشَأَ

يَعْلَمُ اللَّهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ

جَانِتَهُ أَسْعَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْ جَانِتَهُ بَعْضُ أَسْمَائِهِ أَوْ بَعْضُ نَزِيلِهِ أَسْعَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

أَوْ مِنْ شَرٍّ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ يُتَوَكَّلُ فَوْ أَكَّبَ يَدِنَاهَا وَبَيْنَكَمَا آمِدًا

أَپنے سامنے اور جو کچھ کی بھتی اس نے بُرائی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے زمیان اور اُس نے کے زمیان حوال

بَعِيدًا وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ قُلْ

ہوتی) مدت راز اور ڈرا تھے تھیں اللہ اپنے (عذاب) سے اور اللہ تعالیٰ بہت بہتان ہے اپنے بندل پر (آئے جوہ) آپ فرمائے (غینم)

بہتان لگانے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں تو اُس مسلمان کو اس امر کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے بجاوے کے

لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرے۔ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر لاتے اور اس کا دل مطہن ہو تو اسے ایسا کرنے کی خصوصت تو ہے لیکن

اُس کا ایمان پڑھ لے رہنا اور اپنی جان دے دینا بہت افضل ہے۔

اس چیز کو اُس تقییہ سے دُور کا واسطہ بھی نہیں جو مذہب شیعہ کا اصل عظیم ہے اور بڑا کارثواب ہے جس کی فضیلت

بیان کرتے ہوئے وہ یہاں تک کہ جاتے ہیں کہ اگرچہ خلفاء نے ثالثت نے قرآن کی تحریکت کر دی، احکام شریعت کو بدل ڈالا۔

سنت رسول کو مٹا دیا۔ لیکن حضرت علی نے تقییہ پر عمل کیا اور خاموش رہے بلکہ کاروبار حکومت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

ان کے مال غنیمت سے اپنا حصہ قبول کرتے رہے۔ ان کے چیخے نمازیں ادا کرتے رہے۔ استغفار اللہ شاہزادان

شیر نیزاد علیہ وآلہ افضل الثناء و اکمل الرضاویں کی ذات مقدس پر یہ لکھنا پاک بہتان ہے۔ ایسی بہتان تراشی پر یہم اللہ تعالیٰ

سے پناہ مانگتے ہیں۔

اَن كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتِّبِعُوْنِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اگر تم (و اتفق) مجست کرتے ہو اللہ سے نہیں تو میری پیروی کرو رتب مجست فرانے لگے کام سے اللہ اور جنیں دلکھا رے یہ تھا رے گناہ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱﴾ قُلْ أَطِيعُو اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّ

اولا اللہ تعالیٰ پڑا مجشنہ والارحم فرانے والا ہے آپ فرمائے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ پھر الگ رو منہ بچھیں تو یقیناً

۳۰۔ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہ کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی مجست الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاد لے فرزند ہیں یہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے بنی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں سابقہ آیات میں قرآن نے اُن کے بُرے اعمال اور دلیل عادات کا ذکر فرمایا۔ ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود دوہوہ حسد اکی دوستی کا دم بھرا کرتے ان آیات میں انہیں تنیہ فرمائی جا رہی ہے کہ مجست الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قبل البقات نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت دفر نابرداری کرو۔ الگم نے دل و جان سے اس رسول کو یہ کی اطاعت کی تو تھا رادعویٰ مجست یعنی درست تسلیم کر لیا جاتے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے یعنی تھیں محبوب الہی ہونے کا شرف بختا جاتے گا۔ اور تھا رے اعمال نامہ کی سیاہی کو حمت اور معرفت کے پانی سے صاف کر دیا جاتے گا۔ مصطفیٰ علیہ التحتیۃ والثنا کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کہا تھا۔ جس کی غلامی ہیود ایسی راندہ درگاہ اور ڈلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائیکی ہے۔ اور اس کے گھناؤنے کر تو توں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع عجیبِ حسد کو اپنا شعار بنالے اور سُنّتِ سرسود رکانت کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جاتے گی؟ جیسا کہ اس نہاد مامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی مجست کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول کو یہ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سُنّت سے اختلاف کیے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے لوکان جبار صادقاً طمعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔

یعنی اگر تیری مجست پھی ہوئی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا۔ کیونکہ مجست تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہو اکرتا ہے۔ اسے اس آیت میں بھی دعوتِ اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اسکے لیے بعض لوگ اس تحریک کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں کہ یہیں صرف قرآن کا اتباع کرنا چاہیے۔ سُنّتِ نبوی کی پیروی کی ضرورت نہیں سیرت ہوتی ہے کہ قرآن کے احکام کا اتباع کرنے کے دعویٰ کے ساتھ وہ انکار سُنّت کی کیسے جرأت کرتے ہیں۔ تیکا قرآن نے ہی بے شمار مقامات پر نہایت واضح اور زور دار انداز میں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول پر حق کی اطاعت کرو۔ اس کا حکم ہاں اور اس کے اُسوہ حسنہ کو اپناو۔ تو گویا حسنہ نبی کیم مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرماز واری قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں۔ بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی تعمیل ہے۔ اگر آپ سُنّتِ نبوی کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سُنّت

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ^۱ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى ادْمَ وَنُوحًا وَالْأَرْهَمَ وَالْعَمَّانَ^۲

اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو بے شک اللہ تعالیٰ نے چون لیا ۳۲ آدم اور نوح اور ابراہیم

إِرْهَمَ وَالْعَمَّانَ عَلَى الْعَلَمَيْنَ^۳ لَا يُحِبُّهُمْ بَعْضُهُمْ سَاءِمُ وَبَعْضُهُمْ طَ

کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے ہمان والوں پر یہ ایکشل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں

کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ نیا بھی صورتی ہے تاکہ کوئی لفظی ابھام راو راست سے مخفف کرنے کا باعث نہ بنے۔ امام ابوالحسن آمدی نے ”ایتابع“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ الایت فی الفعل هوالتأسی بعینته والتأسی ان تفعل مثل فعله على وجهه من اجله: کسی کے فعل کے اتباع کا معنی ہے کہ اس کے افعال کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے اور اس لیے کیا جاتے کیونکہ وہ کرتا ہے اور امام آمدی اطاعت کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں و من اني بمشى فعل الغير على قصد اعظماته فهو مطيع له: جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزّت و احترام کے باعث بعینہ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو وہ اس کا مطیع کہلاتا ہے۔ ایتابع و اطاعت رسالتکاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم متعلق جو حکم قرآن نے ہم کو دیا ہے (جس کی اطاعت وہ بھی فرض سمجھتے ہیں) اس کی تقلیل کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال کو بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے حضور نے ادا فرمانے اور صرف اس لیے ادا کریں کہ یہ افعال اس ذات اطہر و اقدس سے خلور پذیر ہوئے ہیں جو جمال و مکال کا وہ پیکر ہے جس سے حسین تر اوجیل ترقیز کا تصوّر تک ممکن نہیں۔ کاش! ہم قرآن کے الفاظ کو اپنی من گھڑت تاویلات کا اکھاڑہ بنانے سے باز رہیں اور اس آیت کے آخر میں ایتابع و اطاعت رسول سے روگردانی کرنے والوں کو جن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اس پر غور کریں (اس موضوع پر احقیقی تالیف ”سنّت خیر النّام“ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مطالعہ شاید مفید ثابت ہو)

۳۲۔ قرطبی نے زجاج سے اصطفار کا مفہوم نقل کیا ہے کہ انھیں نعمت نبوت کے لیے سارے جماں سے چون لیا۔ اس کے بعد قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام درجہ اصطفار سے بہت بلند ہے۔ حضور تو حبیب اور رحمت ہیں و رسول انبیا رحمت کے لیے پیدا کیے گئے اور سرور عالم کو سرپا رحمت پیدا کیا گیا اور حضور کی تشریف آوری سے خلقِ خدا کو امان مل گئی اسی لیے حضور نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے رحمت کا تھمہ ہوں۔ فاما محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد جازت مرتبته الاصطفاء لانہ حبیب و رحمۃ فالرسول خلقو اللرحمۃ و هو خلت بنفسہ رحمۃ فلن الاک صدارا مانا للخلق لذلک قال علیہ السلام انا رحمة مهدیۃ (القرطبی) آں عمران میں عمران سے مراد حضرت مريم کے والد محترم عمران بن ماتان ہیں جو حضرت میمان علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پدر بزرگوار کا نام بھی عمران تھا لیکن مفسرین نے اسی قول کو تریخ دی ہے کہ یہاں اول اللہ کر مراد ہیں۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ حَذَقَالَتِ امْرَأَتِ عِمَرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ

اور اللہ رب پچھے سئنے والا سب کچھ جانے والا ہے جب عرض کی ۳۴۳ عمران کی بیوی نے اسے میرے بے ابیں نذر اتنی

لَكَ مَا فِي بَطْنِي فَحَرَّا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ہوں تیرے بیلے جو میرے شکم میں ہے (سب کا ہوں سے) آزاد کر کے سو قبول فرمائے (ایندر انہوں سے لے شکن تھی (دعا یعنی) سئنے والا (غیتوں کو)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعُتْهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

جانے والا ہے پھر جب اس نے جانا اسے (تو یہیت و سرتی) بولی اے بے ابیں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو ۳۴۴ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے

بِمَا وَضَعَتْ طَوَّلَيْسَ اللَّذِكْرَ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيَّتْهَا مَرِيمَةً

جو اس نے جنا اور نبیین تھا لڑکا (جس کا وہ سوال کرتی تھی) مانند اس لڑکی کے ۳۵۵ اور (ماں نے کہا میں نے نام رکھا ہے اس کا میر اور

۳۴۶ یہ کہنے والی عمران کی زوجہ اور حضرت میریم کی والدہ ہیں۔ ہمارے مفسرین نے عملاء بنی اسرائیل کے حوالہ سے اون کا نام حُنَّہ بتایا ہے۔ اس پاکستان خاتون نے جب محل کی گرانی محسوس کی تو اپنی عبادتی اور نیازمندی کا اظہار کرنے کے لیے باڑگاہ اپنی میں عرض کرنے لگیں کہ اسے میرے خاتق (میرے شکم میں ہوچکھے ہے اس کے تعلق میں نذر امنتی ہوں) کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام کا جن نہیں لوں گی۔ وہ دُنیا کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو کر عمر بھتیرے گھر (بیت المقدس) کی جاڑ و بکشی اور خدمت میں لگا رہے گا۔ تو میری اس نیازمند انہوں نے اس کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول بخش۔ تو میرے دل کی پکار کو سئنے والا اور میرے بذبات نہماں کو جانے والا ہے۔

۳۴۷ اُنھیں تو یہ آمید تھی کہ لڑکا ہو گا۔ اور اسی امید پر انھوں نے اُسے بیت المقدس کی چاکری کے لیے وقت بھی کر دیا تھا۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو بصلحت ویاس کہنے لگیں۔ اے رب بے ابیں نے تو پچھی جنی ہے۔ اب میں اپنی نذر کیسے پوری کروں گی۔ کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہ تھی۔

۳۴۸ یہ ارشاد باری ہے جو بطور جملہ معترض حضرت حنہ کے کلام کے درمیان میں لا یا لگایا ہے مقصود یہ ہے کہ اس بھی کی دلادت مقام افسوس نہیں ہے۔ جس لڑکے کی آزو تم کیا کرتی تھیں وہ اس بھی کا کیا مقابہ بلکہ سکتا ہے جو ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے۔ اس کی ذات سے برکت و رحمت اور ہدایت کی جو کرنیں چھوٹیں گی وہ تو ایک عالم کو منور کر دیں گی۔ اس بحبلہ کے بعد پھر حضرت حنہ کا کلام ہے۔

إِنَّمَا أُعِيدُ هَذِهِكَ وَذُرْبَتْهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ فَتَقْبِلُهَا

یہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود (کے شر) سے پھر قبول لائے فرمایا اسے

رَبَّهَا يَقْبُولُ حَسَنٍ وَّأَنْبَتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا

اُس کے بے نے بڑی بھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا اور نگران بنادیا اس کا ذکر کیا کو

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمُحَرَّابَ لَا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ

جب بھی جاتے ہے میری کے پاس نکریا راس کی عبادت گاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں ۸۴ (ایک)

يَرَيْمَ أَنِّي لَكِ هَذِهِ أَطْقَالُتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِرَزْقٍ

بلے اسے مریم اکمال سے تھا لے یہ آتا ہے یہ (رزق) مریم بولیں نی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے

۸۴ حضرت حنفی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے حضرت مریم کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ فرقہ فرمادی کہ ان کی تربیت وقت کے بنی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرمادی۔ اگر کامل مرشد اور مرتبی مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اگر کوئی شیعہ آتے میسر شبانی سے کلینی دوست م ہے

۸۵ محراب کا الفوی معنی ہے اکرم موضع فی المجلس۔ مجلس میں جو سب سے باعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں عموماً اُس جھرے عبادت کو محراب کہا جاتا ہے۔ جو سچ نہیں سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے اور جن میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے میکل سیمانی کے اردوگر دیکل کے خادموں اور چلے گشوں کے لیے جو کمرے بننے ہوتے تھے انہی میں سے ایک میں حضرت مریم مشغول عبادت رہا کرتی تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ ان کے سر پرست تھے اس لیے اثر ان کی خبر گیری کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔

۸۶ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے ہاں طرح طرح کے پھل رکھے پاتے گئی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں۔ اس سے عملائے اہل سنت نے اولیاء رکام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا ہے کیونکہ حضرت مریم نبی نہ تھیں۔ بے موسم کے چھلوٹ کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ صرف معترضوں نے کملات اولیاً کا انکار کیا ہے۔ اور آج بھی کئی اُن کے ہم فواہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کرامات کا انکار کرنا اپنے علم کا مکالم سمجھتے ہیں۔

مَنْ يَشَاءُ لِغَيْرِ حَسَابٍ هُنَالِكَ دَعَازٌ كَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ

جسے پہاتا ہے بے حساب وہیں دعا مانگی ذکر یا نے اپنے رب سے وہ عرض کی ائے میرے بت!

هَبَّ لِي مَنْ لَدُنْكَ ذُرْسَيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّهِ عَلَىٰ فَنَادَهُ

عطافہ ما محظہ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد بے شک تو ہی شننے والا ہے دعا کا پھر وازادی ان کو

الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَارِئُ صَلَوةٍ فِي الْمَحْرَابِ لَا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ

فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو

بِيَحِيٍّ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا أَوْ حَصُورًا وَنَبِيًّا

یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور سدار ہوگا اور یہ عیشہ عورتوں سے پچھنے والا ہوگا اور نبی ہوگا

مِنَ الصَّلَاحِينَ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي

صالحین سے ذکر یا کہنے لگے اے رب! کیونکہ ہوگا میرے ہاں لٹکا حالانکہ آیا ہے مجھے

۳۹ حضرت ذکر یا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہ تھی حضرت مریم کے شب و روز بڑے اخلاص سے محو عبادات لہنے کے بعد انحدار میں بھی اولاد کی آرزو بدار ہو گئی اور عرض کرنے لگے۔ اے رب! الگچین بُرُّهَا ہو چکا ہوں اور میری بیوی یا بھجو ہو چکی ہے۔ اور اولاد پیدا ہونے کا عام وقت تُرچکا ہے لیکن تُرُوہ کیم اور قادر ہے جو اس مقفل جھرے میں مریم کو بے موسم کے پھیل عطا فرماتا ہے تیرے کرم سے کیا بعید ہے اگر تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرمادے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منظور فرمایا کرتا ہے۔

۴۰ فرشتوں کے ذریمے سے حضرت ذکر یا کو ان کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری دے دی گئی۔ پچھے کا نام اور اس کی عنزة پاکبازی کی اطلاع بھی دے دی اور ساختہ ہی یہ بھی ارشاد فرمادیا گیا کہ دُو بُنی ہو گا۔ کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی بن باب پیدائش ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات تراشے کا سبب بننے والی بھی اس لیے ان کی پاک امنی اور تقدیس کو بیان کرنے کے لیے قدرت نے پہلے ہی حضرت کیمی کو مقرر فرمادیا ہے جن کی بزرگی پاکبازی اور نبوت کا ساری قوم کو اعترافت تھا انجیل میں حضرت یحییٰ کو یونہا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں (JOHN)

الْكَبِيرُ وَأَمْرَاتِيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ

بڑھاپے نے اور میری بیوی باجھ ہے فرمایا بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی لیکن اللہ کرتا ہے جو پاہتا ہے عرض کی
رَبِّ اجْعَلْ لِيْ أَيْةً طَبَّقَ أَيْتَكَ أَلَا تَكْلِمَ الْئَاسَ ثَلَثَةَ آيَاتِمِ

اے میرے رب امقر فرمادے میرے لیے کوئی نشانی اللہ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے تین دن

إِلَّا رَمَّاً طَبَّقَ كَثِيرًا وَسِرْحَ بِالْعَشَىٰ وَالْأَبْكَارِ ﴿٤١﴾

مگر اشارہ سے اور یاد کرو پانے پر درگار کو بہت اور پاکی بیان کرو (اس کی) شام اور صبح

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِيْكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنِيْ وَطَهَّرَكِ

اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم! یہ شک اللہ تعالیٰ نے چون لیا ہے تھیں ۲۲۳ اور خوب پاک کر دیا ہے

وَاصْطَفَنِيْ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرِيْمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَ

تھیں اور پسند کیا ہے تھے سالے جہاں کی حورتوں سے اے مریم! اخلاص سے عبادت کرنی تو اپنے رب کی ۲۲۴ اور

۲۲۵ یہ گزارش کسی شک کی وجہ سے نہ کھی بلکہ لیتلقی تلاک النعمۃ بالشکر حیں حصولہا روح المعانی) اس لیے
تھی کہ جس وقت اس نعمت کا حصول ہوا سی وقت سر نیاز سجدہ شکراہ اکرنے لگا جائے۔ اور حمل قرار پانے کی علامت یہ مقرر
کی گئی کہ اس وقت ان کی زبان ذکر الہی اور یسیخ و تہمیل میں تومور ہے گی لیکن لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی استعداد
اس میں باقی نہ رہے گی۔

۲۲۶ یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے چین میں بھی مریم کو چون لیا کہ حضرت زکریا کی سرپرستی عطا فرمائی۔ دل میں اپنی یاد کی لگن
پیدا کر دی۔ غیب سے طرح طرح کے پھل نیا ہوتے لگے۔ اور فرشتے ان سے گفتگو کرنے لگے اور جب آپ سن شباب
کو پسچیں تو رحمتِ الہی نے حضرت علیسی علیہ السلام جیسے جلیل القدر بنی کی ماں بنانے کے لیے منتخب فرمالیا۔ اس لیے
اصطفاء کا ذکر و بارہ آیا اور نساء العالمین سے مراد ان کے اپنے زمانہ کی حورتیں ہیں۔

۲۲۷ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی غمتوں سے سرفراز فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان انعامات پر اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔
سجدہ کا حکم ہے اور کوئی بعد میں ہٹاؤ حالانکہ رکوع سجدہ سے پہلے ہٹا کر تا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ داد عاطفہ ترتیب پر دلالت
نہیں کرنی۔ یعنی اس سے معطوف علیہ کا معطوف پر مقدم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔

السُّجُودُ وَارْكَعْنَ مَعَ الرَّأْكِعِينَ ﴿٤﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ

سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں ۲۷۳

نُوحِيَ إِلَيْكَ طَرَفًا مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ إِيَّاهُمْ

ہم دھی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پہنچاں ہے تھے وہ (مجاور) اپنی قلمیں (فینصیل) کرنے کے لئے کہا

يَكْفُلُ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤﴾ إِذْ قَالَتْ

کون ان ہیں سے سر پستی کرے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں بھکڑ رہے تھے جب کہا

الْمَلِكُهُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ قَدْ مَنَّهُ اللَّهُ وَالْمَسِيَّهُ

فرشتوں نے آئے مریم ! اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تھے ایک حکم کی ۲۷۴ میسح سے اس کا نام

۲۷۴ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تباñے سے بنی غیب کے عوام کو جانتا ہے اور یہی اس کی نبوت کی قوی دلیل ہوتی ہے۔

۲۷۵ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کُنْ (یعنی ہو جا) کی جلوہ گردی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے دُوسرا اشیاء کو سبب اور مسبب، علت اور معلول کے رشتہ میں پروادیا ہے۔ اس لیے ان کے ظہور اور ان کی تخلیق میں عام نگاہیں سبب اور علت کے جواب میں انہک کرہ جاتی ہیں لیکن یہاں کیونکہ علیسی علیہ السلام کی ولادت کا سبب عادی (بابا پ) موجود نہیں اس لیے یہاں وہ جواب درمیان میں نہیں اور کلمہ کُنْ کی جلوہ گردی اور کشمہ افرینی بہت واضح اور نمایاں ہے۔ اس لیے حضرت علیسی علیہ السلام کو کلمۃِ مُنَّہ فرمادیا۔ امام فخر الدین رازیؒ لکھتے ہیں :-

انہ خلق بکلمۃ اللہ و هو قولہ کن من غیر واسطۃ الاب فلمما کان تکوینہ بمحض قول اللہ کن و بمحض تکوینہ و تخلیقہ من غیر واسطۃ الاب والبز راجرم سعی کلمۃ یسمی المخلوق خلقاً والمقدور قدراً والمرجو رجاء وهذا باب مشهور في اللغة۔

۲۷۶ اسم کا الفوی معنی ہے السمعہ والعلمۃ الممیزۃ یعنی وہ نشان اور علمت جو کسی چیز کو دوسروں سے ممتاز کر دے حضرت علیسی علیہ السلام کو ممتاز اور نمایاں کرنے کے لیے ان کا القب میسح، ان کا نام علم علیسی اور ان کی کنیت ابن مریم ذکر فرمادیں تماہ وہ اپنے تمام اوصاف اور صوری ایتیازات کے ساتھ ممتاز ہو جاتیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آپ کو میسح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بیمار پر ہاتھ پھیر کرتے تھے وہ بالکل صحت یاب ہو جاتا کرتا تھا اور میسح کا معنی مبارک بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سعی مسیح الانہ کان مسیح الارض یعنی آپ کو میسح کے لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا کہ آپ نے

عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمٍ وَجِهَتُهُ فِي اللَّهِ نِيَا وَالْأُخْرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ۴۵

عیسیٰ بن مریم علیہ ہوگا معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں ۲۸ اور (اللہ کے) مقربین سے ہوگا

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الدُّنْدِ وَكَهْلَلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ۴۶ قَالَتْ رَبِّ

اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ کواليے میں بھی اور پیش عمر میں بھی ۹۷ اور شیکو کاروں میں سے ہو گا۔ نہ مریم بولیں اسی سے پروردگارا

کہ میں مستقل رہائش اختیار نہیں فرمائی تھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں آج یہاں کل وہاں سفر پڑھتے۔ یار لوگ اتنی سی بات کو لے اڑتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیاح و ہمایا گشت تصور کر لیا۔ بلکہ قرآن کی تصریحات، احادیث نبویٰ کے واضح بیانات و تاریخی کے مسئلہ تھا تو کون ظانداز کرتے ہوئے انھیں اپنے توہم کے گھوڑے پر سوار کیا اور ملک ملک کی سیر اور شہر شہر کی سیاحت کرتے ہوئے انھیں کشمیر میں پہنچا کر دیا۔ اور صرف اسی پر اکتفا کرتے اُن کے دشمن، انھوں نے تو ناخن حقیق سے کشمیر کا چھپے چھپے کر دیا اور آخر کار سرپی نکر کے ایک محلہ میں اُن کی قبر کا سراغ بھی لگایا۔ اور پھر اپنے یہی نبوت کا قصرِ رفیع تیار کر لیا۔ کہاں کی لکڑی کہاں کار و ڈا، بھان متی نے گنہ جوڑا۔ جس نبوت کی بنیاد ایسے دُور از حق اور بعيد از عقل توہمات اور مفروضات پر ہو وہ کس قسم کی نبوت ہو گی۔ ذرا غور فرمائیے۔

۷۷ عیسیٰ عربی لفظ الشیوخ کا مترقب ہے اس کا معنی ہے سیداً و سردار۔ یہاں اس فرزند کا تعارف کسی غیرے نہیں کرایا جا رہا تاکہ اس کی ولدیت وغیرہ کا ذکر کر کے اسے دُور مدن سے ممتاز کرنا مقصود ہو۔ بلکہ ان کی ماں کو ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس کے لیے اگر اسمہ عیسیٰ کہہ دیا جاتا تو کافی تھا۔ لیکن المیسح عیسیٰ بن مریم فرمایا کہ اس امرکی طرف اشارہ کر دیا کہ بap نہ ہوتے کے باعث ان کی نسبت ان کی والدہ مکہمہ کی طرف کی جاتے گی اور قیامت تک اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔

۷۸ ملکن تقاضا کر حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ خدا شپیدا ہوتا کہ پچھے جو اس انوکھی طرح پیدا ہو گا تو لوگ اس پر طرح طرح کے امام لگائیں گے اور اُسے عزت کی نگاہ سے نہ دیھیں گے۔ اس کے متعلق پہلے انھیں اطیبان دلا دیا کہ ایسا نہیں ہو گا بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑا باعزت و باحترام ہو گا۔

۷۹ یعنی گواریے میں بھی وہ جو گفتگو کرے گا وہ بمعنی نہیں ہو گی بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی اس وقت بھی جو الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے وہ تھا تو سے بہریز ہوں گے۔ اس عصومیت کے زمانہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا ایسا زبردست اعلان کرے گا کہ کسی کو انکار کی مجال نہ رہے گی۔ (اس کا ذکر سورہ مریم میں تفصیل آتے گا) اور یہی دُمہ جزا نہ پہلو ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحت میں بچھپے پنکھوڑے میں باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن انصاف کے ساتھ یہ لکھا ستم بونکا گذپکوں کی غول غان اور ان کے بے جوڑ اور بے معنی الفاظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلامِ محجز نظام سے تشبیہ دی جاتے۔ امام رازیؒ نے یہاں سے ایک اور طیف ملکۃ نکالا ہے کہ

اَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ

کیونکر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ؟ اے حالانکہ ہاتھ کرنیں لگایا مجھے کسی انسان نے فرمایا بات یونہی ہے (جیسے تم کہتی ہو لیکن)

بِخَلْقٍ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(۱۷)

اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اے جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جاتو ہو فوراً ہو جاتا ہے

اس سے یہ بتانا بھی قصود ہے کہ حضرت علیہ السلام بابیں ہمہ کمالات و محیمات خدا ہیں۔ ورنہ زندگی کی مختلف منزلوں میں ہاں تبدیلیوں اور تغیرات سے دوچار نہ ہوتے۔

نہ پہلی آیت میں و من المقربین فرمایا۔ ان الفاظ سے ایک طرف الگ ہیوں کے طعنوں کا رد ہے تو دوسرا طرف انصارے کے اس خجال باطل کی تردید ہے کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے (تعوذ باللہ) بلکہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نقرب اور نیکو کار بندوں میں سے ایک بندے تھے۔

اے حضرت مریم علیہ السلام کو جب ایسے بچے کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں ششدہ رہو کر پوچھنے لگیں میرے رب! میرے ہاں بچہ کیسے ہو گا جب کہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نک نہیں لگایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علیہ السلام کی ولادت باپ کے بغیر ہوئی۔ کیونکہ یہاں تصرف پیشیں گوئی کی جا رہی ہے کہ تھا راجہ ہو گا یعنی شادی کے بعد۔ ان کی خدمت اقدس میں بصدایب صرف اتنی گزارش ہے کہ ال مقصدی ہی تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ تھی۔ لوگ شادی کیا کرتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو مناسب تھا کہ حضرت مریم اس بشارت پر کلمات شکر زبان پر لے آئیں لیکن آپ کا تصویر یحیت واستجواب بن کر اتنی یکون لی ولد الخ کہنے کا کوئی محل نہ تھا۔ اور الگ ریہ کہا جائے کہ حضرت مریم نے صحیح بات نہیں سمجھی تھی اُنھیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شادی ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حالانکہ ابھی تصرف اس کی ولادت کی اطلاع وی جاری تھی پیدا تو اسے شادی کے بعد ہونا تھا۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے استجواب کا جواب دیا وہ موزو نیت سے عاری نظر آتا ہے۔ سیدھا جواب یہ تھا کہ مریم گھبرا نہیں جب تم شادی کرو گی بچہ اس کے بعد پیدا ہو گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو صحیح صحیح بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا الفاظ اور اسلوب بیان کا کوئی وزن ہوتا ہے تو پھر یہ تاویل بلکہ تحریف لائن التفات نہیں۔

۲ اے ایک بچیر یہاں اور قابل غزر ہے حضرت ذکریا علیہ السلام کی حیرانی کے موقع پر فرمایا یعنی اللہ ما یشاء اور حضرت مریم کے تعجب کو دو رکرنے کے لیے فرمایا۔ یخلق ما یشاء۔ جواب میں یہ تفاوت کیوں؟ اس تفاوت کی وجہ سمجھنے کے لیے فعل اور خلق کا معنوی فتن ملحوظ رکھنا ایس ضروری ہے۔ لفظ الفعل یستعمل کثیر افیما یجری علی قانون الاصباب المعروفة و لفظ الخلق یستعمل فی الابداع والابیاد (المنار) یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پاتے جانے سے

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا^{۴۸}

اور اللہ تعالیٰ سکھاتے گاؤں کے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل اور (یحییے گاؤں) رسول بن اکرم

إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ هَذِهِ قُدُّسَةُ كُلِّهِ مَا يَأْتِي مِنْ رَبِّكُمْ لَا أَنْتَ

بنی اسرائیل کی طرف ۳۴ ہے (وہ انھیں اکر کئے گا کہ) میں آگیا ہوں تھارے پاس لیا مجھے دکر تھارے ب کی طرف ۳۵ ہے

أَخْلُقُكُمْ مِّنَ الظِّلِّينَ كَهْيَةُ الطَّلَيْرِ فَانْفَثِرْ فِيْكُوْنُونَ

(وہ مجھے یہے کہ) میں بنادیا ہوں تھارے لیے کچھ سے پندے کی سی صوت پھر ٹھوٹھا ہوں اس (رجاں سورت) میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے

وقوع پذیر ہوتے ہیں انھیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رومنا ہوتے ہیں ان کی تعبیر عالم طور پر لفظ غلق سے کی جاتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ ماں باپ دونوں کی وجہ سے بھی۔ اور یہی ولادت کا سبب عادی ہے اس لیے وہاں فرمایا فیصل اللہ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت صرف ماں سے ہوئی اور والد جو سبب عادی ہے نقوص دھا اس لیے لفظ غلق سے بیان کیا۔

۳۵ ہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ بھیجے گئے تھے۔ آپ کی رسالت مالیے عالم انسانیت کے لیے نہیں بھی۔ قرآن حکیم کے اس فرمان کی تصدیق خود انجیل کی متعدد تنبیوں سے ہوتی ہے۔ ان بارہ کوئی نوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سارے یوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیپھیں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یمنادی کرنا کہ اسماں کی بادشاہی نزدیک اگتی ہے متی باب ۱۰۔ آیات ۵ تا ۸۔ اسی ضموم کی تائید میں دوسرا حوالہ بڑا حظہ ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیپھیوں کے سوا اور کسی کے پس نہیں بھیجا گیا ممکنی باب ۱۵ : ۴۵۔

جس بیحی علیہ السلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ میری نبوت کا دائرہ بنی اسرائیل تک محدود ہے تو پھر عیسیٰ مبلغین کا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو دعوت عیسائیت دینا یسوع مسیح کی بولیت کی صریح تلاف و درزی ہے۔

۳۶ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معروف طریقہ پر ہوئی تھی جس سے معاذین کو اعترافات کے کافی موقع فرمائے گئے تھے اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کہ جتنی میں اپنی مثل آپ بھی اس لیے انھیں ایسے کھلے معجزات عطا فرمائے گئے جنہیں نیکر کسی علمائے کے لیے بخاک رئے کی گنجائش باقی نہیں ہتی۔ قرآن کریم ان محاجات کو بڑی وضاحت سے بیان فرماتا ہے اور ان کو لفظ ایت سے تعبیر کیا ہے۔ اور ایت کہتے ہیں "العلامة الظاهرة" بھوسی کو پہچانتے کی گھلی نشانی ہو جس کے بعد شک شہ کی گنجائش نہ ہے۔ یہ تجویزات پانچ شتموں مشتمل ہیں۔ رامہ میں سے پنڈے کی تصویر بنا کر اس میں ٹھوںک مار کر زندہ کر دیا کرتے۔

طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ

پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں تذریست کرتیا ہوں مادرزادا نہ کو اور لا علاج کوڑھی کو اور میں زندہ کرتیا ہوں مرد کو

بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبَسْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخُلُونَ فِي بِيُوتِكُمْ

اللہ کے حکم سے اور سبلا تا ہوں تھیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم بمح کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِمَا

بے شک ان ہمجزوں میں (مری صداقت کی) بڑی نشانی ہے تھا رے لیے گرتم ایمان دار ہو ہے اور میں تصدیق کرنے والے ہوں

(۴) مادرزادا نہ کو بینا کر دیتے (۵) کوڑھی کو تذریست کر دیتے (۶) اور مرد کو اذسر نوزندہ کر دیا کرتے۔ یہ چار ہیں عملی معجزات

کی تھیں اور پانچویں قسم علمی معجزہ کی بھی یعنی غیب کی خبری دینا۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ تم نے آج یہ یہ چیزیں کھاتی ہیں اور یہ یہ

چیزیں تم اپنے گھروں میں فخر کرائے ہو کیونکہ یہ تمام امور انسانی قدرت سے باہر تھے اس لیے قوی اندیشہ تھا کہ شاید لوگ

حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے گئیں اس لیے ساتھ ساتھ باذن اللہ کی قید الحادی کہ یہ سب کچھ اگرچہ جھٹ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے لیکن اس

کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ

اگر ایسے افعال کی سببت یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان کے ظاہری اسباب کی طرف کروی جاتے تو یہ باز

ہے شرک نہیں۔ جیسے حضرت امام اعظم حضور سرور رکاتیات علیہ الصلوٰۃ والتحیٰت کی جانب میں عرض کرتے ہیں میں سے

وَشَفَيْتُ ذَا العَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاصِهِمْ ۝ وَمَلَأْتُ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَدَوَاكَ

ترجمہ:- یا رسول اللہ آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے صحت عطا فرمادی ہے اور روئے زین کو اپنے جو دو کرم سے

لبزیکر دیا ہے۔

۵۵ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے،

اس نے اپنی حکمت کامل سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض اسباب

وہ ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال جن کی ہم

کوئی ظاہری توجیہ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ان کے ظہور پذیر ہوئے کا سبب کوئی ایسا امر ہو جیں تک ہماری عقل کی رسائی

ابھی تک نہ ہوئی ہو جب تک ہم تمام اسباب و عمل کا کامل احاطہ نہ کر لیں ہمیں یہ حق نہیں پہچانا کہ ہم ایسے واقعات کا صرف

اس وجہ سے انکا رکر دیں کہ عقل ان کے واقع ہونے کو جائز نہیں سمجھتی۔ اور اس سلسلہ اسباب و عمل کے احاطہ کا دعویٰ تو

آج تک کسی سائنسدان نے بھی نہیں کیا اس لیے محض اس وجہ سے کسی واقعہ کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری دانش کی کسوٹی پر

بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التُّورَةِ وَالْحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ

اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تاکہ میں حلال کر دوں تھا رے یعنی بعض وہ چیزیں جو (پہلے) ہرام کی کئی

عَلَيْكُمْ وَجِئْنَكُمْ بَأْيَتِ مِنْ رِبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ۝

تحیں تم پر ۶۵ اور لا یا ہوں تھا رے پاس ایک شانی تھا رے ب کی طرف سے سود و اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو

پورا نہیں اُترتا اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف سے نبوٹن کہتا ہے :-

"میری مثال اُس نچکی کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریز یا لکھنگام جاتا ہے لیکن ابھی حقیقت بحرِ خلاد کی طرح میرے سامنے ہے جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا۔"

HEROES OF CIVILIZATION BY JOSEPH AND HAYM

جب حقیقت یہ ہے تو قرآن کے بیان کردہ مجرمات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی ایسی تاویلیں کرنا جن کو عینی نبان اور قرآن کا فصح و بلخ اسلوب بیان قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہونے علم کی خدمت ہے نہ قرآن کی۔ اور اگر ایک لمجھ کے لیے یہاں بھی لیا جاتے کہ سلسلہ اساب و عمل کی ساری کڑیاں ہمارے علم کی گرفت میں آپکی ہیں اور ان کا ہم نے کلکتی احاطہ کر لیا ہے تو پھر بھی مجرمات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ یوں کہ قادر مطلق خلا جس نے اپنی حکمت کامل سے ایک چیز کو ایک علت سے فاسد سے کر دیا ہے۔ وہ اس پہچی قدرت رکھتا ہے کہ اس چیز کی تخلیق و آفرینش کو اس کے علاوہ کسی اور علت سے وابستہ کر دے اور مجرمات کے ظہور پذیر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاندین اور منکرین حق کے سامنے اپنے بنی کی صداقت کی ناقابل انکار دیں پیش کر دی جاتے اور ان پر یہ واضح کر دیا جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہے اسی لیے تو یہ محیر العقول اتفاق ان کے اشاروں پر واقع ہو رہے ہیں۔ اور عام طور پر ہر خنی کو اس کے زمانی ضروریات کے مطابق مجرمات عطا فرمائے جاتے ہیں۔

م مجرم و تقصیلی بحث سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔

۶۵ یہاں آپ اپنے منصب رسالت کی ذمہ دار یوں کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو پابندیاں اور قیود تھا رے علمائے اپنی طرف سے تم پر عائد کر رکھی ہیں اُن کا بوجھ ہذا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذَا حِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَلَمَّا

بَيْ شَرَكِ الْمُتَّبِّرِ سَكَالَ تَبَكَّبْ بَنْجَانَ زَوَالَ بَهِيَّ مَجْهَلَهُ وَمَرْتَبَهُ سَكَالَ تَبَقَّبْ بَنْجَانَ زَوَالَ بَهِيَّ تَعْبُدْ سَوْأَسَ كَيْ عَبَادَتْ كَرْدَيْ بَهِيَّ سَيْدَهَا رَاسَتْ بَهِيَّ تَهَهَّهَ پَهْرَ جَبَ

أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفَّارُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ

مُحْسُوسَ كِيَا عِيسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) نَهَى أُنْ سَكَرْ فَرَدَ كَفَرَ (وَإِنْكَارَ) (وَ) آپَ نَهَى كَمَا كَوْنَ بَيْنَ مِيرَسَ مَدَگَارَ اللَّهَ كَيْ رَاهَ بَيْنَ؟ (بَيْسُونَ كَرَ) كَمَا

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ نَخْنُ أَنْصَارِ اللَّهِ أَمْتَابِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ۝

حواریوں نے کہ ہم مذکور نے والے بیان اللہ کے دین (کی) ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور (کے بیتی) آپ کو اہ ہو جائی تو کہ (کرمِ الہی کے سامنے) ہر

رَبَّنَا أَمْتَابِ مَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ۝

جھکاتے ہوئے ہیں۔ آئے بھائے اہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے تابعِ اہلی کی رسول کی تو لکھئے ہمیں (حق پر) گواہی دینے والوں کے سامنے اہ

مَكْرُوْهَا وَمَكْرَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي

بَيْوَبِلُ نَجَّيْتُكَنْ ذَقْنَلَ كَرْنَے کَيْ خَيْرِتَبِيرَکِيْ اوْرَسَچَوْلَکَے کَيْ اللَّهُ نَجَّيْتُ خَيْرِتَبِيرَکِيْ ۝ هَهُ وَاللَّهُ بَسْ بَهْرَ (اوْرَنَزْ خَيْرِتَبِيرَکِيْ کَرْ زَوَالَ بَهِيَّ مَدَگَارَ مَلَكَيْنَ

۷۵۰ اُنْتَهِيَنَ کُنْ مُعْجَرَاتَ کَھَانَے کَے بَعْدَ آپَ صَرَاطَةَ اعلانَ فَرَالَبَهِيَّ ہیں کَہَ بَیْ شَكَّ تَمَنَّے مجھے مُرْدُوں کَوْزَدَ کَرتَے، اندھوں کَوْلَیَا کَرتَے اُورَ لَاعلاجِ مَرْضِیوں کَوْنَدَرُستَ کَرتَے دیکھا ہے یکین یادِ رکھوں میں خُدَانِہیں ہوں بلکہ اس کا بَنَدَهُوں جو میرا بھی پر دَگَارَہے اور دھکا را بھی۔ دُھی عبادت و پستش کے لائق ہے۔ اور کوئی صاحبِ کمال اس قابل نہیں کہ اسے معبوٰ بنایا جاتے۔ اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے رب العالمین کو اللہ وحدہ لا شریک یقین کرنا اور اسی کی عبادت کرنا یہی صراحت استقیم ہے۔ اور جو کوئی بھی اس شاہر و نشہدِ ہدایت سے سرِ مومخروف ہو اُوہ مگرہ ہو گیا۔

۷۵۱ تقریباً سِر زبان میں بلا استثناء ایسے مشترک الفاظ پڑتے جاتے ہیں اور اہلِ زبان ان الفاظ کو بلا تأمل ان کے مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں یکن جب وہی لفظ کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے اصل مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں مشورہ ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم اسے اس کی اصل زبان میں مستعمل ہوتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا وہی ایک معنی جو ہمارے ذہن نہیں ہو چکا ہوتا ہے چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ چیز نہیں ہوتا تو پر لشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لفظ تکرر ہے۔ اس کا معنی حیلہ سازی بھی ہے اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پہنچ سازش کو خوبی طریقہ سے ناکام بنا دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یکین اُردو میں ہم اس

مُتَوَفِّیکَ وَرَافِعُکَ إِلَیْسَ وَمُطَهَّرُکَ مِنَ الدِّینَ كَفَرُوا

اعلیٰ نبی ایضاً میں پوری عمر تک بخوبی کا تھیں ۹۶۱ ورنہ اپنے والدین کے طبق اور پاپ کے نزدیک بخوبی تھیں مگر ان لوگوں کی قاتمتوں بخوبی شے تبر ایسا کارکیا اور

لفظ "مکر" کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور جب اس فعل کی نسبت ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کی آنماجناہ بین جاتا ہے حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، بُرْقُض، اور نازیبا غفل سے پاک ہے تو ہم لفظ "مکر" کا معنی صرف تدبیر یا وہ خفیہ طریقہ ہے جس سے دشمنان حق کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانا قصود ہوتا ہے کریں گے۔ اب کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا۔ قال المفضل ودبر واود بر الله والمسکون لطف التد بید (بحیری)

اور اگر ان لغوی تحقیقات کے لیے انسان کے پاس وقت نہ ہو تو کم از کم علم بدیع کے قاعدہ مشاکلت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ وہ یہ ہے کہ عربی میں کسی بُرے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزادی جاتی ہے اسے اسی لفظ سے تعمیر کر دیتے ہیں الگ چڑھہ نہ رکھنے مناسب اور قرین انصاف کیوں نہ ہو۔ مثلاً جزاء سیئۃ مثلاً هالیعنی بُرائی کا بلہ بُرائی ہے اسی طرح حالانکہ بُرائی کی سزا فُرائی نہیں ہوتی بلکہ میں انصاف ہو اکرتی ہے یا مثلاً فُمن اعتدی علیکو فاعتد واعدیہ لیعنی جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ حالانکہ زیادتی اور تعدی کی روک تھام کرنا زیادتی اور ظلم نہیں بلکہ دین اور اخلاق کے تمام ضابطے اس کے درست ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت میسح علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو مکارانہ سازش ان یہودیوں نے کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ناکام بنانے کی جو تدبیری کتنی اُسے مکر سے تعمیر فرمادی اور اس میں کوئی نقص نہیں۔

۹۶۱ علم معانی کا میسلکہ قاعدہ ہے کہ الگ کسی لفظ کا ایک تحقیقی معنی ہو اور دوسرا جائزی تو تحقیقی معنی کو مجازی معنی پر تزییں دی جاتے گی۔ یا اس الگ کوئی ایسا قرینہ پایا جاتے جس کے ہوتے ہوئے تحقیقی معنی متعدد ہو تو اس وقت معنی تحقیقی کو ترک کر کے مجازی مژاولیا جائے گا لیکن الگ ایسے قوی قرآن موجود ہوں جو تحقیقی معنی مراد لیتے کہی موتید ہوں تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیتے پر اصرار کرنا تو اُنٹی لگنا بھانے کے مترادف ہے۔ اب آپ لفظ "توفی" کے معنی پر غور فرازیتے۔ تاج العروس میں لفظ "توفی" کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں د توفی ای لوحید ع منه شیئاً لیعنی پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی۔ امام ابن عبد اللہ الفرضی الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں۔ توفیت مالی من فلاں ای قبضتہ لیعنی میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا یہ تو ہے لفظ توفی کا تحقیقی معنی۔ یاں یہوت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے جیسے صاحب تاج العروس نے لکھا ہے۔ ومن الْجَازِ اذْكُرَتِ الْوَفَاةَ ای الموت والمنیة و توفی فلاں اذ مات و توفی اللہ عزوجل اذاقبض دو وحہ۔ اب آپ خود فیصلہ فرمالیں کہ ایک لفظ کا تحقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینہ کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا اس لفظ کے ساتھ کتنی بے جانیادی تی ہے۔ اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں بلکہ ایسے قوی قرآن موجود ہیں جو اس لفظ کے تحقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب پوچھیں گے۔ کہ وہ

جَاعِلُ الدِّينَ اتَّبَعْوُكَ فَوْقَ الدِّينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بنائے الالہوں ان کو جنمیں نے تیری بیروی کی اللہ غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک ۴۲

ثُمَّ إِنَّ رَبَّهُ مَرِجَعُكُمْ فَأَحْكِمُ وَبَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گا تمہارے دمیان (ان انور کا ہمین میں تم اختلاف کرتے ہے تھے

کون سے ایسے قرآن ہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق و سبق اس امر کا قوی قریئت ہے یہاں لفظ بخراج کے عیسیٰ یوں ہے جو بی بے و حضرت مسیح کی الہیت کے قائل تھے مقصود کلام ہے اثبات تو جید باری اور بطلان الہیت مسیح۔ اگر حضرت علیٰ السلام عکس جو وہ تو کتنی صاف بات ہتھی کہ بخراج کے عیسیٰ یوں سے کہ دیا جانا کہ جن کو تم خدا نہیں ہو وہ تو مر جائے ہیں۔ اور جو مر جائے کیا وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے، لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس اندزا کو اپنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعی حضرت علیٰ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔ دوسرًا واضح قریئہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ قال الحسن قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیلہ یہود ان عیسیٰ لمحیت وانہ راجع الیکو قبل یوم القیامۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ مرنے نہیں اور قیامت سے بدلے وہ تمہاری طوف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی ہزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو ہر فرسنگ اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں :-

متوفیک ای مستوفی اجلک و موخرک الی اجلک المسمی عاصماً یا ک عن قتلہم (بیضاوی) ترجمہ العرشی
تھیں اپنی مقرہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تھیں قتل سے بچا تے گا۔

متوفیک ای مستوفی اجلک معناہ ای عاصماً من ان یقتلک المفارکشات (امام ابن حجر ریکھتے ہیں) ۵
اوی الاقوال بالصحة عند ناقول من قال معنی ذلك انى قابضك من الأرض ورافعك الى لتو انت الاخبار من رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ آئے عیسیٰ میں تھجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں کیونکہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ نہ سماں یہ اٹھا یا گیا۔ (رمدید و ضاحت کے لیے سورہ نسا کی آیت ۶۵ کا حاششہ ملاحظہ تو)
۶۰ یہود حضرت علیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے اور منزدیں آپ پر اور آپ کی والدہ باحدہ حضرت مریم علیہما السلام وگذنے الازمات اور بہتان لگایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ علیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ تیرا دامن ان الزمات سے صاف کر دیا جاتے گا تیری پاکیزگی اور معاندین کی بد باطنی کا ساری دنیا مشاہد کرے کی۔ اللہ جو آپ کی بیوت اور رسالت کے قائل ہوں۔ ۶۱ جو آپ کی بیوت کے مندر ہیں اور اپنے والوں میں آپ کی علاوہ رکھتے ہیں یعنی یہود۔ اور اس وقت اور بتی سے مُراد سیاسی بتی بھی ہے اور دلالت کی بتی بھی۔

فَإِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا قَاعِدُونَ بِهِمْ عَذَابٌ أَبَدًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا

تو وہ جھنوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں

وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرَىٰٖ ^{۵۷} **وَأَهَمُّ الَّذِينَ اهْتَمُوا وَعَمِلُوا**

اور آخرت میں آور نہیں ہو گا ان کے لیے کوئی مددگار اور وہ ہو ایمان لائے آور کیسے نیک

الصَّلَاحَتِ فَيُوَقِّيْهُمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ^{۵۸}

کام تو اللہ پورے پورے دے گا انہیں ان کے اجر اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّهُ أَكْرَمُ الْحَكِيمُ ^{۵۹} **إِنَّمَّا مَثَلُ عِيسَىٰ**

یہ جو ہم پڑھ کر سنا تے ہیں آپ کو آئتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی

عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلُ اَدَمَ طَلَقَةٌ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ^{۶۰}

اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم (علیہ السلام) کی مانند ہے ۳۴ نے بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا

الْحُكْمُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ^{۶۱} **فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ**

رائے منتہی فالہی حقیقت کا عیسیٰ انسان ہیں تیریزے بکی طرف (بیان کی گئی) ہے لیں تو نہ ہو جا شک کرنے اول سے ۴۷ پھر وحش حجج کارے آپسے اس بارے میں

۳۴ نے عیسائی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بن بات کی دلیل بناتے تھے کہ آپ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم ان کی واضح تردید فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ (علیہ السلام) کے خدا ہونے کی بھی دلیل ہے تو پھر آدم (علیہ السلام) کے متعلق تھمارا کیا خیال ہے۔ ان کا تو نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں۔ آگر ان کو تم انسان مانتے ہو تو عیسیٰ (علیہ السلام) کو یوں خدا یا خدا کا بیٹا بنا کر لھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے آدم اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی پیدائش کیسیاں ہے وہ بھی اس کی قدرت کی جلوہ گئی ہے اور یہ بھی اس کی مشیت کی کرشمہ ملائی نہ خدا فی کام پھر نے کاسے حق پہنچتا ہے نہ اسے سب اس کے بندہ ہونے پر اور اسے اپنارب پھجنے پر نکر کرنا ہیں عساکریوں میں بھی کئی ایسے فرقے گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یقین کرتے تھے۔ اور ان کو نہ خدا مانتے تھے فتنہ کا بیٹا۔

۴۷ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی حقیقت یہ ہو کی افراد اباً یوں، بہتان تراشیوں اور لنصاری کی مبارکۃ آرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ قرآن نے یہ سارے پر دے ہٹادیتے۔ ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ

اس کے بعد کہ آگیا آپ کے پاس (یقینی) علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آدھے ۴۵ ملائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور بخارات بیٹوں کو بھی

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَفَنْجَعَلْ

ابنی ہورتوں کو بھی اور بخاراتی ہورتوں کو بھی ۴۶ اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی ۴۷ پھر طبی عاجزی (اللہ کے صہور) انجاکریں پھر بھیجیں

اُن کے ہیران کئی محررات بھی بیان کردیتے اور ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اب اس پر یہ کہ کوئہ تصدیقی ثبت کردی کہ الحق من ربک یہ وہ بھی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گناہ نہیں فلاں کوں میں خطاب یا توقر آن کے ہر طبق سُنْدَنے والے کو ہے یا خطاب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور مراد حضور مکمل مت ہے کیونکہ حضور کی اپنی ذات شک و شبہ سے بالاتر بھی الخطاب البنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والمراد امته اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو یک امر عیسیٰ علیہ السلام۔ (الفقطی)

۴۷ بنی بشر جان کے وفد کے تمام شکوں اور شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دے دیا اور ایسے واضح اور روشن دلائل میں فرماتے جن کے بعد کسی طالب حق کے لیے انکار کی گناہ نہ رہی لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ تبلیغ پڑا لے رہے تو ان معاذین پوجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے مبالغہ کرنے کا حکم دیا۔ مبالغہ کرنے میں کفر قین نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے عجھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسینؑ کو اُخت تھے حضرت حسنؑ کو اُنگلی سے پکڑتے تشریف لائے اور حضور کے پیچھے پیچھے خالوں جنت اور ان کے تیج پیچے حیدر کڑا اُر ہے تھے۔ اور حضور نے دف بشر جان کو مبالغہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی پہرے دیئے تو ان کے اسقف (لات پادری) نے کہا کہ اگر قم نے ان سے مبالغہ کیا تو یاد رکھو تھارا نام و شان تک مرت جاتے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح مشورہ کے لیے ہمکلت طلب کی اور دوسرے روز مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور بزرگی ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ ۴۸ وہ سامنے ہیں ہوا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسیٰ یوں کے عقیدہ تبلیغ کے بطلان کی ناقابل تردید دیل ہے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنیٰ سماجی شک ہو تو بذات خود ان بزرگ اور عرب یہ سیتوں کی محیت میں مبالغہ کے میدان میں کیوں تشریف فرمائے۔ اور اگر نصانیوں کو اپنے عقیدہ کی سچائی کا لیکن ہوتا تو وہ بھی مبالغہ کرنے سے بازدہ آتے۔

۴۸ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں۔ ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مبالغہ میں شرکت کرتیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے۔ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں (ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ) میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار

لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ بَيْنَ۝ إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ

الله تعالیٰ کی لعنت بھجوٹوں پر یہ شک یہی ہے واقعہ سچا ۴۸ اور

مَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۝ فَإِنْ تَوَلُّوا۝

نہیں کوئی معبود سواتے اللہ کے اور یہ شک اللہ ہی غالب ہے (اور) حکمت والا ہے پھر اگر وہ منہ پھیریں

فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى

تو انہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا ہے فاد بر پا کرنے والوں کو (میرے نبی) آپ کہتے آے اہل کتاب آؤ ۴۹ اس

صحابہ رضیاں تھیں اور اس روز خالوں جنت کا کیلئے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبو رضیاں انتقال فرمائیں تھیں حضرت قیروانؓ ۵۰ ہیں، حضرت زینبؓ نے شہد ہیں اور حضرت ام کلثومؓ نے شہر ہیں انتقال فرمایا علی ابھن و عدھن افضل الصالوات و اطيب التسلیمات۔ اور یہ واقعہ سننا ہے کہ ہے۔

۵۱ اس لفظ سے بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ و جمہ الکریم کی خلافت ملاضی پر استدلال کیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ افسنا سے مزاد حضرت علی کرم اللہ و جمہ ہیں جس سے ثابت ہوا کہ آپ نفس رسول ہیں۔ گویا آپ رسول جیسے ہیں۔ توجب آپ حضور کرم کے مساوی ہو گئے تو پھر آپ سے زیادہ خلافت کا تھدا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق اعتماد ہے کہ حضرت علی کاشمار ابن ابنا میں ہے کیونکہ آپ بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ اور داما کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور اگر انفسنا میں ہی شمار کریں تو یعنیت اور مساوات کمال سے ثابت ہوتی کیونکہ یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو قوشی رشتہ دار یادیں اور قومی بھاجی ہوں جیسے یخرون افسوس کو من دیا رہو رہا اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو ان کے دشمن سے نکال رہے ہیں) ولا خرجنون افسوس کو من دیا رکھو (اپنے دشمن سے اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو نہ کمالا) شرعاً تو ہو لا عدالتون

النفسکو۔ ان سب آیات میں ان کے علاوہ متعدد دیگر آیات میں افس کا لفظ دینی اور قومی بھائیوں کے لیے انتقال ہوا ہے۔

۵۲ ان حکایات اور تفصیلات کے بعد اس آیت میں ان سب کا تحلیل بیان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا اور معبود نہیں جو کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا بیٹا تسلیم کرتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔

۵۳ گلہر سے مزاد ہیاں لفظ مفرد نہیں بلکہ جملہ مفید ہے یعنی الا تعبد الا اللہ الخ اور یہ استعمال عام ہے۔ والكلمة تطلق على الجملة المفيدة (ابن کثیر) اس معلوم ہے کہ حضور سر اپنے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی دعوت، کوئی زال الدین لے کر نہیں آتے تھے بلکہ حضور مجھی اسی توحید کے داعی بن کرت شریف لاتے تھے جس کی دعوت ہر ہنسی نے دی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانیت جو آج مختلف اور مختلف گروہوں میں بٹ کر ہے گئی ہے جس کے باعث گلشن سستی ہجوم زار بن گیا ہے اس کے اتحاد کی

كَلِمَةٌ سَوَّاَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ

بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تم خارے دہمیان (وہ یہ کہ ہم نعمادت کرنیں رکسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک ہیں اپنیں اس کے

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوْلُوا

ساختہ کسی چیز کو اور نہ بنالے کوئی تم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوانح پھر اگر وہ رُوگردانی کریں

فَقُولُوا الشَّهَدُ وَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَحْاجُونَ

(اس سے) تو تم کہہ دو گواہ رہنا راستہ اہل کتاب (کہ ہم مسلمان ہیں اکے آئے اہل کتاب) کیوں جھگڑتے ہو تم

فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلْتَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بُعْدِهِ

ابراهیم کے بارے میں حالاتکہ نہیں اُنٹاری گئی تورات اور انجلیل مگر ان کے بعد ۲۷ کے

حقیقی اور حکم بنیاد عقیدہ تو یہی ہے جو دنیا کی ساری حقیقوں سے واضح تر اور روشن ترین حقیقت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی پلیٹ فارم پر صحیح ہونے کے لیے اہل کتاب کو دعوت دی۔

نکاح امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہؐ ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے ہیں حلال کر دیتے اور تم ان کے ہر حکم کی پردوی کیا کرتے میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہو ذا کی عین اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال حرام کرنے کے لئے اختیارات سوچ دیتا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب بنانا ہے اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کر دہ چیزوں کو حرام کر دہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی توجیح کا مستحق ہے۔

اکے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی آنکھوں سے تقصیب کا پردہ اٹھاتے کی ایک عجیب اور لطیف اسلوب میں کوشش کی گئی ہے انسان جب کسی دوسرے کو حق و صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدر تا اس کے اندر بھی بیمار ہونے لگتا ہے کہب اور لوگ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حق کی طرف بے تاباذ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہیں مسلمانوں کے اس اعلان سے یہود و نصاریٰ کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔

۱۴۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مکالات کے سب معرفت تھے اور سب اس متفق تھے کہ آپ کادین ہی سجادوں سے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اس لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی یہودی کیا کرتے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور

أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(٤٥) هَآنُتُمْ هُوَ لِإِحْاجَةٍ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمَّا

کیا راتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے سختے ہو اتم وہ لوگ ہو جھگڑتے رہے ہو (اب تک) ان بالوں میں جن کا تھیں کچھ نہ کچھ علم تھا پس (اب)

تَحْاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^(٤٦)

کیوں جھگڑتے ہوں جو ان بالوں میں نہیں ہے تھیں جن کا کچھ علم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَزِينًا

نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہرگز ابھی سے الگ رہنے والے

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٤٧) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

مسلمان تھے ۳۴۷ اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے بے شک نزدیک تو لوگ ۳۴۸ کے ابراہیم (علیہ السلام) سے

عیسائی دعویٰ کیا کرتے کہ آپ عیسائی تھے ان کے اس غلط دعویٰ کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت بعد کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے کا ہے جب یہودیت و نصرانیت کا وجود ہی نہ تھا۔ اس لیے ان کو یہودی یا عیسائی کہنا کہاں کی داشتندی ہے۔

۳۴۸ کے گمراہی سے ممنونہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحجفت کہتے ہیں اور حق سے روگوانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو الجھفت کہتے ہیں (مفردات) توضیف کامی بخواہ براہیل گمراہی سے ممنونہ موڑ کر ہمہ حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو صرف اللہ تعالیٰ کی اُبُوریت کے قائل تھے اور اُسی ایک کی عبادات میں سرگرم تھے۔ زوہ غُریر کو خدا کا بیٹا اور نہ میسح کو اس کا فرزند کہتے تھے۔ وہ صلیب کے پرستا تھے اور مشرکین عرب کی طرح کسی پتھر کی موڑتی کے پھاری تھے۔ اُن کی توحید خاص سے تھا رہی اس شرک آؤ دیہودیت و نصرانیت کو کیا بہبیت ہو سکتی ہے۔

۳۴۹ کے اہل حق سے تعلق اور تقرب کا اختصار اس پہنیں کہ آپ ان سے اپنی دا بستگی کے طویل و غرض دعوے کریں۔ بلکہ اس کا اور مدار ان کی سچی پیروی پر ہے جس نے ان کے سیغام کو دل سے قبول کیا اور زندگی بھرا اس پر کاربنڈہ ہادیہ ان سے قریب ہے۔ وہی ان کا دوست ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے تصریح کر دی کہ حضرت ابراہیم سے تقرب کا ثافت یا ان لوگوں کو حاصل ہے جو ان پر ایمان لاتے۔ اور ان کی پیروی کی یا اس بنی امی (فداہ بنی امی) کو جس نے دین ابراہیم کو نئی زندگی اور تازہ قوت بخشی اور یا اس کے جانباڑ غلاموں کو جو ابراہیم میش کو سر بنڈ کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ میں تھیں کیا واسطہ اللہ کے خلیل سے ہو دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوں میں یوں کھوئے ہوئے ہوئے ہوچا تھے ہوئے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔

لَّذِينَ اتَّبَعُواهُ وَهُنَّا الظَّفَّارُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيٌّ

وہ تھے جنہوں نے ان کی پیغمبری کی نیز یہ بنی (کریم) اور جو (اس بنی پر) ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَذَٰلِكَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوَيُضْلُلُنَّكُمْ

مومنوں کا دل سے چاہتا ہے ایک گروہ کے اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تھیں

وَمَا يُضْلُلُنَّ إِلَّاٰنفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

اور نہیں گراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور وہ (اس حقیقت کو) نہیں سمجھتے اسے اہل کتاب!

لَمْ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشَهَّدُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حال انکہ تم خود گواہ ہو گئے اسے اہل کتاب!

لَمْ تَلِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

کیوں ملا تے ہو حق کو باطل کے ساتھ گئے اور کیوں پھیلاتے ہو حق کو حال انکہ تم

ھے چاہتے تو یہ تھا کہ اہل کتاب ہصور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے لیکن ایمان لانے تو جو ان کی ضد اور عناد کی یہاں ہے کہ جو رواہ راست پر چل رہے ہیں ان کے متعلق بھی ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ بھٹک جائیں۔ اگر وہ ان کا نہ ہب قبول نہیں کرتے تو کم از کم مسلمان تو نہ رہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلام سے بظن اور برگشته کرنے کے لیے سارے جتن کرتے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے شہمات پیش کرتے گوں اگلی اذمات تراشتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس ناپاک مقصدیں تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے البتہ وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں اور بے خبری میں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں و مایضلوں کا معنی و مایہلکوں ہے۔

۶۔ اسلام کی صداقت و تھانیت کے دلائل اس قدر واضح اور روشن ہیں گویا وہ اسلام کی صداقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن لویں عیاں دیکھ لیتے کے باوجود بھی ان کا اسلام کو قبول نہ کرنا لائق بحیب بات ہے۔

۷۔ لبس کا معنی ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو دوسرا سری چیز کے ساتھ خلط مل کر دینا ہے یعنی بنی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و علامات جوان کی آسمان کتابوں کے صفحے پر ثابت تھے ان کو چھا دیا کرتے یا اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔

جن پر عمل کرنا ان کی طبع نازک پر گلائی ہوتا۔

تَعْلَمُونَ^{۶۷} وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمِنُوا بِالَّذِي

جانتے ہو کہا ایک گروہ نے ایں کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس (کتاب) پر

أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمْنَوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكَعَ فِرْوَا أَخْرَهُ

جو اندری کئی ایمان والوں پر صحیح کے وقت اور انکار کر دو اس کا سر شام شاید (اس طرح) وہ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ^{۶۸} وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ

(اسلام سے) برگشہ ہو جائیں (ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں) ۶۸ کہت اس کی بات ہے ان لوگوں کے خوبی کی کرتے ہیں کہ مخابرے دین کی فرمائیے

۶۸ دلائل کے میان میں شکست کھانے کے بعد یہود کے مذہبی روسانے لوگوں کو دین حق سے برگشہ کرنے کے لیے ایک گھری سازش سے کام لینا چاہا۔ اُنھوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کا گرفتار نہیں ہوتی اب یوں کریں کہ اپنے چند خاص چیزوں کے متعلق مسلمانوں کے پاس بھیجیں جو دہاں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مردم ہو جائیں اور اس کا خوب جھاکریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام اور غیر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور ان کے ایسے عیوب اور کوہیاں ہم پر آٹک رہے ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کوڑک کرنے پر مجبوڑ ہوئے ہیں کوہم نے کچھ عرصہ پہلے بڑے شوق اور بڑی محبت سے قبول کا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آج دھڑادھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ٹھٹک کر رہے ہیں گے۔ اور وہ ایک بار پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ سچا دین نہیں۔ یہود کی یہ سازش بڑی خطرناک تھی۔ اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا اثر تیجہ تکھلتا۔ لیکن دانا و دینا خدا نے ان کے اس دام ہمہ ناگ زین کو پہلے ہی نایاں کر کے مسلمانوں کو ہشیار کر دیا اور اس طرح یہود کی یہ گھری چال ناکام ہو کر رہ گئی۔

۶۹ نفسرین کرام نے اس آیت کو مشکل ترین آیت شمار کیا ہے۔ اور اس میں جو متعدد وجملے ہیں ان کے باہمی تعلق رپڑی طیں یعنی کی ہیں لیکن خدا رحم فرمادے امام ابو عبد اللہ القطبی پرچھوں نے اس آیت کو بالکل آسان بنادیا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں قلن ان المدی هدی اللہ جملہ معصرضہ ہے اور دوسرے سب جملوں کا تعلق لا تو منوا سے ہے اس صورت میں اس کا معنی مفہوم یوں ہو گا:-

المعنی دلاؤه منوا الالہ من تبع دینکو دلاؤه منوا ان یوئی احد مثل ما او تیتم ولا قصد قوان یجا بوجوکو لاقبیہ قطبی) یعنی روساہ یہود اپنے ان چیزوں کو جھین کھوئوں نے اس سازش کے لیے تیار کیا تھا یہ ہیں باہیں بڑی مبارات سے ذہن شیش کرتے تھے پہلی بات تو یقینی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت نہیں۔ دوسری یقین کرنا کہ جن الفعماۃ خداوندی سے تھیں سفر از کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے۔ تیسرا یہ کہ بالکل مطہن رہو۔ قیامت کے دن بھی تم پر کوئی بحث قائم کر کے تھیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ یہ ہیں ان کے ذہن شیش کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پار تکمیل تک پہنچانے کا ہم فرضیہ سونپا جاتا۔

إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهُ أَن يُوعِّظَ أَحَدٌ قُتْلًا مَا أُوتِيَتْمُ

بدایت توہینی بے جو اللہ کی ہدایت ہوا اور یہ بھی نہ ماننا کر) دیا جاسکتا ہے کسی کو جیسے تھیں دیا گیا

أَوْ إِيمَانًا جَوَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوَعِّظُهُ

یا کوئی جنت لاسکتا ہے تم پر تھارے رب کے پاس (ائے سبیت) فرمادیجی کے فضل (وکرم) تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھیں ہے دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ طَوَّالَهُ وَاسِعَ عَلِيهِ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ طَوَّ

جسے چاہتا ہے نہ اور اللہ تعالیٰ وسعت الا سب کوچھ جانے والا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابُ مَنْ إِنْ

اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے اور اہل کتاب سے بعض ایسے (دیانتدار) ہیں کہ اگر تو

علم فیات کے ماہر ان کی وسعت نظر کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہود کو یہ اندیشہ تھا اور وہ بے جا بھی نہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کے پاس جا کر انھیں کے بن کر رہ جائیں جیسے ان کا بارہ کام مشاہدہ تھا۔ اور دوسروں کو اسلام سے پرگشتمان کرتے کرتے کہیں انہوں نے ہی باقاعدہ ہونے پڑیں۔ اس اندیشہ کی پیش بندی انکوں نے بڑی سوچھ بوجھ سے کی۔ اور ان کے دل و دماغ کو ایسے قالب میں ڈھانلنے کی ماہر نہ سی کی جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انھیں یہ زمانوں نہ مانوں کا بستی از بر کر دیا۔ اس کے بعد ان کی قومی سخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا وی کئی کو غذا کی ساری ملحوظ میں تھیں اس کے پیارے اور لادے ہو جو اغوات قم پر کیے گئے ہیں کسی دوسرا قوم پر نہیں کیے گئے۔ اس لیے جب تمام اقوام عالم سے افضل و اعلیٰ ہو تو تم کیوں کسی دوسرا قوم کی دعوت قبول کر دو جنم سے فرد تریں۔ اب بھی ایک گوشہ باقی تھا جس طرف سے ان کی بہت دھرمی اور تعصیب پر یورپ ہو سکتی تھی اور وہ روز قیامت کی باز پڑیں کاغوف۔ اس کو یہ کہ کو محظوظ کر دیا کہ یقین ماؤ قیامت کے دن بھی تم ہی شرخ رو ہو گے اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے باعث تھیں قیامت کے دن شرمند ہونا پڑے۔ اس طرح انھیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی اسلام کے خلاف اس گھناد نے جرم کے ارتکاب کے لیے مستعد کر دیا۔ علامہ قرقیز کی اس تفسیر کے بعد آیت کا مفہوم اتنا واضح ہے کہ ان پر یہ تاوقیلات کی صورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔

۸- نبوت کسی کی ذاتی حاگر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ حکیم و علیم جس کو اس بارہماںت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے اس کو اس سے مرزا فرماتا ہے۔ اس سے یقود کے اس دعوے کی بر دید ہے کہ نبوت اولاً و اعلیٰ علیہ السلام کی میراث ہے بی اعلیٰ سے کوئی نبی نہیں آسکتا۔

تَامَّةٌ بِقُنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمُنْهُ بِدِينَارٍ

امانت کھاں کے پاس ایک ڈھیر سونے جلدی کافرا دا کردی اسے تھاری طرف اور انہیں سے بچنے وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھاں کے پاس ایک شتر فی

لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَامَدْهَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِآنَهُمْ قَالُوا

تو وہیں نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف مُرجب تھا تو اس کے سر پر کھڑا رہے اس (بیدیانی) کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ

کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملہ میں کوئی گرفت اٹھ اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلِّي مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ

حالاں کوہ وہ جانتے ہیں ہاں کیوں نہیں جس نے پُورا کیا اپنا وعدہ اور پڑھنے کا رکھا بنا تو یہ شک اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْهُدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِمْ

مجبت کرتا ہے پڑھنے کا روں سے یہ شک جو لوگ ۸۲ خریدتے ہیں اللہ کے عهد اور اپنی قسموں کے عوض

۸۱ سبیل کا معنی راستہ ہے اور کبھی کبھی بیحیت اور طیل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ویبعربہ عن الحجۃ (مفہودات) یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہودی آپس میں جب لین دین، عہد و پیمان اور خرید و فروخت کرتے تو اس وقت احکام خداوندی پر کم و بیش عمل کرتے لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا بہترتا و عجیب قسم کا تھا۔ ان سے خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ کرتے وعدہ کر کے پھر جاتے۔ انہوں میں خیانت سے بازنہ آتے غرضیکہ ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطہ کی پابندی نہ کرتے اور اگر انہیں اس خیانت، عہد شکنی اور بد معاملگی پر بلامت کی جاتی تو بجائے نادم ہونے کے یہ جواب دیتے کہ ہمیں اپنی کتاب نے عرب کے ان بے علموں کے مال خرید و بُر کرنے کی اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا قورات اور حضرت کلیم ری پہنچان عظیم ہے۔ خداوند کیم تو انہیں لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری، ایسا یاۓ عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ ہم جس کسی سے معاملہ کریں خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بگانہ، اس سے دیانت داری اور راست بازی کا معاملہ کریں کسی کافر یا فشق اس کے ساتھ فریب دھوکہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وہ جواز نہیں ۔

۸۲ کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ

ثُبَّنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكِلُّهُمْ

ختوڑی سی قیمت یہ وہ (بدلصیب) ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں اور بات تک نہ کرے گا ان سے

اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزِيقُهُمْ وَلَهُمْ

اللہ تعالیٰ اور دیکھے کاغذی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز اور نہ پاک کرے گا انھیں اور ان کے لیے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَأْلُوْنَ السَّتَّةِ بِالْكِتَابِ

دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مرد تے ہیں اللہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ

کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہدشکنی کے لیے پانچ سزاوں کا یہاں ذکر ہے۔ (۱) وہ آخرت کی نعمتوں سے بسیر معرفہ مکروہ یا جائے کا (۲) رحمٰن و رحیم خدا اُس سے بات تک نہ فرمائے گا (۳) اُس کی نظر لطف و حجت سے بھی وہ محروم رہے گا (۴) گناہ کی آلاتشوں سے بھی اُسے پاک نہیں کیا جائے گا اور (۵) اُس کے علاوہ اُسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔

کوئی ہے ایسا دل گرودے والا جو ان سزاوں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے والی قوم اگر اس پریسیت و پُر بعلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدہ کی پابند نہیں بننے کی تو کب بننے کی جھنوکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ کرامی بھی سُن لیجئے:-

آیہ المافق تلاٹ و ان صامر و صلی و ذرعانہ مسلم اذ احدث كذب و اذ اعدل خلف و اذ اؤتن من خان۔

ترجمہ: متفاق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب وعدہ کرے تو ایسا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آیت میں دو وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ وعدہ جو بنہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرمابذاری کے متعلق کرتا ہے اور وہ سراوہ جلوگ آپس میں ایک دوسرا کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں کی خلاف ورزی پرید و عید ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے یعنی اس کی قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا شراب پیے گا یا مال باپ کو اذیت پہنچائے گا تو اُس وقت اس قسم کا تو زمانہ لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریعت میں ہے کیونکہ اللہ کا نام پاک نیکی پر پرانی چیز کرنے کے لیے ہے نہ کہ بُرائی اور گناہ پر اگسانے کے لیے۔

۲۸۷ یہ دو دن کا اصل ایسے جس کا معنی ہے جو کافی مامل کرنا۔ کہ ما جاتا ہے لوی بید کا اس نے اپنا ہاتھ جھکایا۔ لوی برا سہ آں نے اپنا سر جھکایا یعنی اُس کی اصلی اور فطری وضع میں تبدیل کر دی۔ اس لیے اب اس کا استعمال کسی کلام کے الفاظ یا اعراب میں ایسا رہ و بدل کر دینا جس سے اس کلام کا اصلی مفہوم بدل جاتے یا اس کی ایسی من گھڑت تشریح کرنا جس کا اس کلام سے دُور کا واسطہ بھی نہ ہو کے معنی میں ہونے لگا ہے لوی لسانہ بکن اکنایہ عن المذب و تخرص الحدیث (مفادات) عربی محاورہ میں جھوٹ

لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ

تاکہ تم خیال کرنے لگو (ان کی) اس (اُنکھ پھیر) کو بھی اصل کتاب سے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

اللہ کی طرف سے (اُتھر) ہے حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے اور وہ کہتے ہیں اللہ پر

الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ^{۱۷۴} مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَبَ

مجھوٹ جان بوجھ کر نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ (جب) عطا فرمادے اسے اللہ تعالیٰ کتاب

وَالْحُكْمُ وَالنِّبَوَةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلثَّالِثِينَ كُوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ

اور حکومت اور نبوت ۸۷ توجہ رہ کئے گے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو

دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبَّاً نِّيَنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَبَ

چھوڑ کر (وہ تو یہ کے گما کر) بن جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی

بولنے اور من گھرت بات بنانے کو "لوی لسانہ یکذ" کہتے ہیں۔ علامہ قطبی نے لکھا ہے دامعنی چھروفون الکلم و یعنی لون بہ عن القصد بعض علماء یہود کا یہ شیوه تھا کہ تواریخ کی جن آیات میں حشر بنی اسرائیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا یا تو ایسے لب ولہجہ سے لھیں پڑھتے کہ مطلب بگر جاتا یا الفاظ و اعراب میں رد و بدل کر دیتے یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ اس آیت میں انہیں اس مذہب و محرکت کا بیان ہے۔

۸۷ یعنی جسے ان الفاظ سے سفر فرازی کیا جاتا ہے وہ کسی کو اپنی پرستش اور عبادت کی دعوت نہیں دے گا بلکہ وہ توبہ کوئی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ دیانتیں جمع ہے ربیانی کی جو رب کی طرف مسُوْب ہے اس انسُبت کی وجہ سے اسے رَبِّیٌّ ہونا چاہیے لیکن بسا اوقات مبالغہ کے لیے الف نون کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں مثلًا جس کی بڑی گھنی طاڑھی ہو اُسے باضافہ الف نون لحیانی اور جس کی گردان بہت فربہ ہو اُسے باضافہ الف نون رقبانی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہو گا بالکل اللہ والہ بہر نے اس کا ایک دوسرا ماحض بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ربیان کی جمع ہے جو ربه یہ ربه فہریبان سے ماغذہ ہے۔ اس کا معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور تدبیر امور کرنے والا۔ اب ربیانوں کا معنی ہو گا نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والے۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علیہ السلام تو بھی تھے۔ وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیونکر کہہ سکتے تھے۔

وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ^{٧٩} وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلِكَةَ

اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے ۵۵ اور وہ مقبول نہ ہے نہیں حکم دے گا تھیں اس بات کا کہ بنالو فرشتوں

وَالْتَّبِينَ أَرْبَابًا أَيَّامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا نَهَمُ مُسْلِمُونَ^{٨٠}

اور پیغمبر ﷺ کو خدا تم خود سوچ کیا وہ حکم دے سکتا ہے تھیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ التَّبِينَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةٍ

اور یاد کرو جب یا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ ۸۶ کہ تم ہے تھیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے

مُخنوں نے تو تھیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے۔

^{٨٥} مقصدریہ ہے کہ اے اہل کتاب تھیں تو بطریق اولیٰ ربیٰ بننا چاہئے کیونکہ تمہارے پاس تو رشد وہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے جس کے معانی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو۔ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو اور اگر تم نے خود اُس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص تعمیت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آتا یوں سے کیا حاصل؟

^{٨٦} حضرت سید ناضل اور ابن عجیس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بُنی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سر و عالم و عالمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریعت فرمائوں تو اُس بُنی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر امیان لا کر آپ کی امّت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور کے دین کی تائید و نصرت کرے اور تمام انبیاء نے یہی عمد اپنی اپنی امّتوں سے لیا۔ السید الحق مُحَمَّدُ الْأَوَّلِ صاحب رُوح المعانی تحریر فرماتے ہیں۔ وَمِنْ هَذَا ذَهَبُ الْعَارِفُونَ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالرَّسُولُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمُشْرِعُ الْاِسْتَقْدَلِيُّ وَإِنَّ مِنْ سَوَادِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الْمُصْلَوَةُ وَالسَّلَامُ فِي حُكْمِ الْتَّبَعِيَّةِ لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْنِي اسی لیے عارفین نے فرمایا ہے کہ بُنی مطلقاً رسول حقیقی اور مُستقل شریعت کے لانے والے حضور بُنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اور جملہ دیگر انبیاء حضور علیہ السلام کے تابع ہیں (روح المعانی)

شبِ بیراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں مجمع ہو کر حضور فخر کائنات کی امامت میں حضور کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق ہے۔ اور امام الانبیاء و المُسلِّمین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہو گا جب ساری مخلوقی خدا خوت خدا سے لرزہ برانداز ہو گی اور مصطفیٰ علیہ التحیر و الشفاعة لوارحمد ہاتھیں لیے مقام مُحُمَّد پر فائز ہوں گے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَيْبَكَ وَصَفِيفَكَ صَاحِبِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمُحْمَدِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَاحْشِرْنَا

ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُتَصْرِنَّ

پھر تشریف لائے تھارے پاس وہ رسول جو تصدق کرتے والا ہوان رکتابوں کی جو تھارے پاس بیس تو تم ضرور ایمان لانا اس پر

قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخْذُ ثُمَّ عَلَى ذَلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا

اور ضرور مد کرنا اس کی (اس کے بعد) فرمایا کیا تم نے اقر اکر دیا اور اٹھایا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب سے عرض کی ہم نے اقر اکیا

قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِيدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ

(اللہ نے) فرمایا تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تھارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پھر جو کوئی پھر سے اس

بَعْدَ ذَلِكَ فَإِلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ

(پختہ عمد) کے بعد تو دُہی لوگ فاسق ہیں کیا اللہ کے دین کے سوار کوئی اور دین (تلاش

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَّاعًا كَرْهًا وَإِلَيْهِ

کرتے ہیں (ما الگا اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے) ہر چیز نے جو سماں اور زمین میں ہے خوشی سے یا مجبوری سے اور اسی کی طرف ہے

يُرْجَعُونَ قُلْ إِنَّمَا بِاللَّهِ وَمَا آنِزَلَ عَلَيْنَا وَمَا آنِزَلَ

(سب) لوٹاے جائیں گے آپ فرمائیے تم ایمان لائے اللہ پر ۸۸ اور اس پر ہوتا را گیا ہم پر اور جو اُنمرا گیا

فی زمرتہ و دخت لواشہ و اڑ ذلتا شفاعتہ و ادخلنا معہ فی الجنة اند سمیع الدعا -

۸۸ جس مالک ارض و سماں کے حکم کے سامنے کائنات کی ہر چیز را فلکند ہے خوشی یا ناخوشی سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے ہر تکوینی فرمان کی تعمیل کر دی ہے۔ اور جس کی طرف ہر چیز مل پڑ کر جانے والی ہے کیا اس قادر تو انداز کیں کے بغیر وہ کسی اور دین، کسی دوسرے ضابطہ حیات کے مثلاشی ہیں۔ وہ کتنے غلط کارہیں اور فریبِ نفس کے لئے مہماں مرض میں وہ مبتلا رہیں۔

۸۸ اپنے عبیدیں مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الحی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء و رسول اپنے اپنے زمانہ میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ من کر آیا ہوں اس یہے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہِ الہی سے ثبوت کا شرف بخشتا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں میں اور میرے مانے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

ابراهیم ، اسماعیل ، اسحق ، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر

وَمَا أَوْتَيْتَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ

اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ ، عیسیٰ اور (دوسرا) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہیں

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ^{۸۴} وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَهُ

کسی کے درمیان ان میں سے اور ہم اللہ کے فذ انبدار ہیں اور جو تلاش کرے گا

الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

اسلام کے بغیر کوئی (اور) دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے^{۸۵} اور وہ قیامت کو زیاد کاروں

الْخَسِيرُونَ^{۸۶} كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

میں سے ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنمول نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے لئے کے بعد

والے اُن سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوه نہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ یہ ہے دینِ محمدی کی وہ وسعت اور گیرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹنے کوئے ہے۔ جہاں کسی تو قی، وطنی اور انسانی عصوبیت کی لگناش نہیں۔ اس دینِ قیم کی روشن تمام اُن عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ سی خاندان یا سلسلہ کے خدا کا دین نہیں بلکہ بـ العالمین کا دین ہے۔ اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوتی ہوئی بھیڑوں کو مجھ کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے جو سارے عالم انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے مطلع و جود پر جلوہ مذاہتو۔ اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے ساسیں ملکم ثابت ہو سکتا ہے۔

^{۸۷} دینِ اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اوس کو لے کر اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پریوی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہر دو دیہے۔ نف وہ مگر اب جہالت کی وجہ سے قبول حق سے الکار کرتے ہیں لان کے ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پڑہ اٹھ جاتے گا اور حقیقت کا روشن پیرہ انہیں دھکائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے لیکن بوجت کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص جنمول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ شفی پر کربستہ ہیں۔ ان کے

وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ وَاللَّهُ أَلَا

أُورُوهُ رَبِيلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول پہنچا ہے اور آجکی تھیں ان کے پاس گھنی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے
يَهُدِّي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^{۷۷} اُولَئِكَ جَزَاؤهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ

ہدایت نہیں دیتا خالم لوگوں کو آیسوں کی سزا یہ ہے اور کہ اُن پر
لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ^{۷۸} خُلَدِيْنَ فِيهَا

پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی ہیشہ رہیں اسی پھٹکار میں
لَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ^{۷۹} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

نہ ہلاک کیا جاتے گا اُن سے عذاب اور نہ انھیں ہملت دی جاتے گی مگر وہ لوگ جنہوں نے رستے دل سے قوبہ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا قَوْنَاتِهِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{۸۰} إِنَّ

کری اس کے بعد^{۹۱} اور پہنچ اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (انھیں بخش دے گا) یقیناً
الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَّرًا لَّنْ تُقْبَلَ

وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے پڑے گئے کفر میں ہرگز نہ قبول کی جاتے گی
تَوْبَةُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّاغُونَ^{۹۲} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تَوَأَدُوا

ان کی توبہ اور یہی لوگ ہیں جو مگراہ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی

لاد پائی کی توقع عبث ہے۔

۹۳ یعنی وہ بداصیب جنہوں نے اپنی فطرت سلیمانیہ کو بگاڑ دیا اور خدا دا صلاحیتوں کو مسخ کر دیا۔

۹۴ اسلام نے رحمتِ الٰہی سے مالیوس ہو جانے کی سخت مذمت کی ہے اور سب گمراہوں کو واضح طور پر تباہ یا پس کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نامہ ہوں تو آئیں اور اس کے درمیان پردشک دیں۔ ان کے گناہ بخش دیتے جائیں گے اور انہیں ایک اور نریں موقع میں جاتے گا کہ وہ ایک پاکیرہ زندگی کا اذسر نہ آغاز کر سکیں۔

هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَ لَوْ

کی حالت میں ۹۳ نے تو ہرگز نہ قبول کیا جاتے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگرچہ وہ (ابنی بجات بھیلے)

۹۴ افْتَلَىٰ بِهٗ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَكِيدُمْ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ

عوضانہ دے اتنا سونا ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دروناک اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار

۹۳۔ الہمّ وَهُوَ لُوگ جو زندگی بھر کفر و طفیان کے راستہ پر گامزن رہے اور باز آتے اور نادم ہونے کے لیے جو مہلت انھیں دی گئی تھی اُس سے انھوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ موت کے مجنون نکلنے اُن کی زندگی کا چارخ غلی کر دیا۔ ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اگر وہ بے انداز سونا بھی فریم کے طور ادا کرنا چاہیں گے تو وہ کر دیا جاتے گا۔ اور کوئی ان کی شفاعت بھی نہ کرے گا کیونکہ شفاعت انہیگار مومن کے لیے ہو اکرتی ہے اور کافر اور مشرک شفاعت کا مستحق نہیں ہو اکرتا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوهُ أَمَّا تُحِبُّونَ هٰذَا مَا تُنْفِقُوا

برگزند پاسکوئے تم ۹۲ کامل نیکی (کارتبہ) جب تک نخراج کرو راہ خدا میں، ان چیزوں سے جن کو تم عزیز لکھتے ہو اور جو کچھ تم نخراج کرتے

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ كُلُّ الظَّاعَامِ كَانَ حِلًا

ہو ۹۴ بلاشہ اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے سب کھانے کی چیزوں ۹۶ حلال تھیں

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ رَسُولُنَا عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ

بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس

۹۲ علامہ ضیاوی فرماتے ہیں۔ لِنْ تَبْلُغُوا حِقْيَةَ الْبَرِّ الَّذِي هُو كَمَالُ الْخَيْرِ لِعِنْيِ ابْنِي مُحَمَّدٍ أَوْ عَزِيزِ بَرِّوْلِ كُو رَاہ خُدا میں خراج کیے بغیر تم نیکی کی تحقیقت تک جو نیکی و احسان کا درجہ کمال ہے رسانی حاصل نہیں کر سکتے۔ البرّ سے مراد بِرَّ اللہ ہے لیعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مشتق نہیں بن سکتے۔ محبوب اشیاء میں مال و محتاج بجسم و جان اور رجاہ و منصب سے با غل میں۔ ان میں سے جو پیاری چیز ہو اُسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی میں درجہ کمال حاصل ہو سکتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہؓ خاضر ہوئے اور عرض کی اُسے اللہ کے پیارے رسولؐؓ مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنا لاع غ برخاد رہے فضیل حادیث ازادِ اللہ حضور جہاں مناسب خیال فرماتے ہیں اسے خراج فرمائیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ٹھی خوشنوئی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو دے دو۔ ایسی متعدد مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔

۹۵ نیکی میں درجہ کمال تو یہ کاغزِ عزیز تین چیز خراج کرنے سے لیکن اگر اس کے علاوہ اس سے کم تو کوئی چیز خراج کرو گے تو بھی اکارت نہیں جائے گی بلکہ اس کے مناسب تھیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ نیز اس آیت کے پہنچ میں راہ خدا میں اچھی اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر فرمایا۔ پچھے حصہ میں اخلاص تیت کی طرف توجہ دلاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ محارمی میتوں کو جانے والا ہے لگرم نے ریا اور نمود کے لیے خراج کیا تو وہ اکارت جائے گا۔

۹۴ یہود نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ دعویٰ توکتے ہیں ملت ابراہیمی کا حلال کم اونٹ کا گوشت اور دودھ جو شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں۔ نہیں بلکہ انھیں تھیں۔ اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ محال ایک نا غلط ہے کہ یہ چیزوں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں۔ نہیں بلکہ انھیں تھیں۔ حضرت اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے بعض طبیبوں کے مشورہ سے استعمال کرنا ترک کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ اس لیے بطور پہر اُخوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جوڑ دیا تھا۔ لگرم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو قرأت لے اور اس سے حقیقت حال روشن ہو جائے گی لیکن انھیں بہت نہ ہوئی کہ کتاب لاتے۔

قُلْ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ قَاتُوا بِالْتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ

سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات آپ فرماؤ لاؤ تورات پھر پڑھو اسے اگر

كُونْتُمْ صَدِّيقِينَ ۝ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ

تم پسچے ہو پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اس کے

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا

بعد تو وہی خلام ہیں آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ نے ۹۶ پس پیر دی کرو

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ

تم ملت ابراہیم کی جو ہر راست سے الگ تھلاک تھے اور (بالکل) نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے بے شک

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضْعَ لِلنَّاسِ لَكَذِبَةَ مُبَرِّكًا وَهُنَّ

پہلا (عبادت) خانہ ۹۵ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے ۹۹ برابر کثیر الالت اہلیت (کامر حشیہ) ہے

۹۷ يَعْنِي اللَّهُ كَفَرَ مَنْ تَحْرِيَنَ سَچَابَهُ تَحْمَارِي تَحْرِيَنَ كَاسِكَهُ نَهِيَنَ عَلَى سَكَنَ

۹۸ حَرَثَتُ الْبُؤْرُ غَفَارِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمَّاَتِي ہیں کہیں نے صُورَبَنِی کَرِیم علیہ الصلوٰۃ والتسیلِم سے دریافت کیا کہ زین پر اس سے پہلے کوئی مسجد بنائی گئی تو حنفیوں نے فرمایا ہسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد، تو فرمایا مسجدِ اقصیٰ۔ میں نے پھر لوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا۔ تو فرمایا چالیس سال۔ اس سے علوم ہناؤ کا سبیح حرام کے پہلے معاشر حضرت آدم اور مسجدِ اقصیٰ کے پہلے معاشر آپ کے کوئی فرزند تھے۔ طوفانِ نوح کے بعد جب یہ عمارت ہنندم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور حضرت میماں علیہ السلام نے مسجدِ اقصیٰ کی۔ بیت سے مراد مطلق گھر نہیں بلکہ خانہ عبادت ہے۔

۹۹ بَعْضُ عَلَمَانَ فَلَهَا بَهِيَّةَ كَمْ مِنْ اِيكَ لُغْتَ بَكْ بَهِيَّ آتَيَ ہے۔ مجاہد نے کہا کہ مکہ اور بکہ ایک شہر کے ہی دونام ہیں۔ امام مالک نے فرمایا خانہ کعبہ کی جگہ کوبکہ اور سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ محمد ابن شہاب سے مردی ہے کہ صرف خانہ کعبہ تو نہیں بلکہ ساری مسجدِ حرام کو بکہ کہا جاتا ہے اور دوسرا سے سارے شہر کو مکہ۔

۱۰۰ اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ اس میں ایک ناز پڑھی جائے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ختم قرآن کیا جاتے تو لاکھ ختم کا

لِلْعَلَمِيْنَ ۝ فِيْلَهُ الْيَتُ بَيْنَ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ

سب اے جہانوں کے لیے اس میں روشن نشانیاں گئیں ران میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا

كَانَ أَمْنًا طَوَّلَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ

ہے (ہر خط روپے محفوظ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا گھٹے بھوقاً ترکتا ہو وہاں

الْيَتُ سَبِيلًا طَوَّلَ اللَّهُ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۝

تک پہنچنے کی اور جو شخص (اس کے باوجود) انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیا نہ سارے جہان سے

قُلْ يَا هُلَّ الْكِتَابِ لَمَ تَكُفُّرُونَ يَا يَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ

آپ فرماتے آئے اہل کتاب! کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آئیوں کا گھٹے اور اللہ دیکھ رہا ہے

ثواب ملتا ہے نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔

۱۴۱ اے کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں ہیں مثلاً آج ہنک جس خالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا قدر المی نے اُسے نیت ہے اور اس سے جو بیان و نیکی کو سُنایا گیا اس میں سب کے لیے رُشد و ہدایت کی روشنی ہے۔

۱۴۲ اے کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں ہیں مثلاً آج ہنک جس خالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا قدر المی نے اُسے نیت ہے اور چند سال پیش ازہر کا جو ہونا ان انجام تزویہ احمد و عرب کے بچپنی کو معلوم تھا۔ وہ بھالت میں جب ہر طرف کشت و غون کا بازار گرم تھا اور کسی کو کمیں کو شہزادی میسر نہیں تھا اُس وقت بھی حرم کعبہ کی حدود میں جو داخل ہو جاتا ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا۔ ایک اور نشانی وہ مقدس پتھر تھا جس پر حرم ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پاپتھ تھے۔

۱۴۳ اے حج کی فرشتت کے متعلق سورہ بقرہ میں حاشیہ لزرا کا ہے۔ استطاعت سبیل سے مراد یہ ہے کہ زادِ سفر بھی ہو یا بھی پُمان ہو اور صحت سفر کی مشقیں بھی برداشت کر سکتی ہو۔

۱۴۴ اے آیات سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت اور حضور رحمۃ اللعلیمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جکی تھی (بیضانوی) اس میں حضور کے محاجات، قرآن حکیم، عقل، عظیم اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری اور ان کے علاوہ تورات و انجیل کی محلی تصریحات سب داخل ہیں۔ ازرا و تجوب اہل کتاب سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ کیا تھیں یہ نیب دیتا ہے کہ تم ان روشن دلائل کو جانتے پہچانتے ہوئے ان کا انکار کر دو تم اپنی تحریف اور عیاری سے چند لوگوں کو تو فریب دے

عَلٰى مَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ يٰاَهُلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّوْنَ عَنْ

جو بچھے تم کرتے ہو آپ فرمائیے اے اہل کتاب! تم کیوں روکتے ہو ہنے اللہ

سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ أَهَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ

کی راہ سے اُسے جو ایمان لا چکا۔ تم چاہتے ہو کہ اس راہ (راستہ) کو ٹیڑھا بنا دو حالانکہ تم خود (اس کی راستی کے)

مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ يٰيٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا

گواہ ہوئے اور نہیں سے اللہ بے خبران (کرو توں) سے جو تم کرتے ہو اے ایمان والوں! ۱۴۷۸ء اگر تم کہا مانو گے

سکتے ہو۔ یہیں دانا و بینا خدا کو یا حباب دو گے۔ وہ تو تمہارے ظاہر و باطن کو یہاں دیکھ رہا ہے۔

۱۴۷۹ء اہل کتاب نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کرنے سے ممنہ موڑے ہوئے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس دین حق سے برگشته کرنے کے لیے سارے پاڑ پبلیکر تھے۔ ان کی اس مذموم اور ذلیل حرمت پر بلامت کرنے کے لیے ان کو دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تبعونہا عوجایں یہاں ضمیر کامزج سبیل ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے یہ تباہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو لیکن کر اسلام سے متنفر کیا کرتے تھے یعنی یا تو وہ اس راہ حق میں طرح طرح کے عیوب نکالتے یا اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ سُنْنَةٍ وَالْإِيمَانَ كر نے لگتا کہ یہ شاہراہ مہدیت نہیں بلکہ کہا ہی کا راستہ ہے۔

۱۴۸۰ء شہدار کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور حضور سرور عالم کی صداقت کے قم خود گواہ ہو۔ یہیں علامہ قطبیؒ نے شہدار کا معنی عقلاء بھی کیا ہے یعنی تم تو بڑے داشتمند ہو۔ بھلا کوئی تمہارے جیسا زیرک و دانابھی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے جن کا انجام دنیا میں ڈلت اور آخرت میں رُسوانی و شرمباری ہو۔

۱۴۸۱ء یثرب کے دو قبیلوں اوس اور خزر ج میں عرصہ قدیم سے دُشمنی حلی آئی تھی۔ بارہا یہ ایک دُوسرے سے جنگ کر کچکے تھے جن میں وہ ایک دُوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے۔ حضور سراپا اور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب یثرب کی سر زمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو حضورؐ کی تعلیم کی بُرکت سے ان کی دو یہ عادات اور خاندانی دُشمنی اخوت و محبت میں بدل کئی۔ وہ چاک جن کے رفہونے کا امکان نہ تھا۔ وہ گھرے زخم جن کے مندل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی حضورؐ کی محبت کی اکسیر نے ان سب کا درمان کر دیا اوس و خزر ج کی بابی مصالحت اور دوستی یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز شناس بن قیس یہودی کا گزر ایک ایسی مجلس رپیو اجس میں اوس و خزر ج محبت و پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر مصروف گئنکو تھے۔ وہ تو بھل بھن کر رہ گیا۔ اس کی آنکھت پر ایک دُوسری یہودی اس مجلس میں گیا اور اسیے اشارہ پڑھنے شروع کر دیئے جن میں ان کی پُرانی بنتگوں کا ذکر تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب ثابت ہوئی اور اوس و خزر ج میں تُوش کلامی شروع ہو گئی جس نے بڑھتے بڑھتے

فَرَيْقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرْدُونَ كُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

ایک گروہ کا اہل کتاب سے (تو نیچہ یہ ہو گا کہ) لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تھا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد

كُفَّارٍ يَنَّ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهُ وَ

کافروں میں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم راب پھر کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آئین اور

فِيهِمْ رَسُولٌ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ

تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرمائے اور جو ضبوطی سے پکرتا ہے اللہ (کہ ان) کو تو ضرر پہنچایا جاتا ہے اُسے سیدھی

مُسْتَقِيمٌ يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْتِيلِهِ وَلَا

راہ تک اسے ایمان والو! ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اُس سے ڈرنے کا ہے اور (خبردار)

جنگ کی شکل اختیار کر لی تلواریں سوتنتی گئیں نیزے سنجھاں بیے گئے اور صیفیں درست کر لی گئیں۔ اسی اثناء میں اس کی اطلاع بنی کرم علیہ الصلوٰۃ والتسیل کو پہنچی۔ حضور اپنے صحابہ کی معیت میں اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا۔ اسے اوس دختر رج تھیں کیا ہو گیا۔ میری موجودگی میں تم عمد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو۔ وہ عزادت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بھا دیا۔ کیا تم پھر اُنھیں بھڑکانا چاہتے ہو۔ یہ شیطان کی دسوسماندرازی ہے اور تھمارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں لکھ گئیں۔ یکدم انکھوں نے ہتھیار زمین پر چھینک دیتے اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحہ میلے غصہ و غصب کے انگارے برس رہے تھے اب انکبار رکھیں۔ اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے کارہے تھے۔ اس موقع پر یہ ایت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ ابدی حقیقت پیش کی گئی ہے جس پر زمانہ کی ہر کڑوٹ نے مُهْلِقِیت ثابت کی ہے۔ انسیوں صدی پر یہ نگاہِ ڈالیئے۔ خیمہ اعظم پاک ہند میں ملت اسلامیہ پر کیا گزری۔ یورپ کے عسیائیوں نے مسلمان ہزاروں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف اُسکا کراسلامی ملکت کی اینیٹ سے اینیٹ بجا دی۔ شرق اور سط کے مسلمان فرمازوں نے کس کی انتیخت پر خلافت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اور اس طرح اپنے وقار کا جائزہ نکالا۔ مسلمانوں نے جب بھی اغیار پر یوں انہا اعتماد کیا اُنھیں ان روح فساحات سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام نے کسی کے ساتھ کاربیخیں تعادن سے منع نہیں کیا یہیں اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکا کھانے سے ضرور روکا ہے۔

۸۰۸۔ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود نے رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باہی الفاظ اُنقل کی ہے ان بیطاع فلا یعصی و ان یہ ذکر فلا ینسی و ان یشکر فلا یکفر یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جاتے کہ اس میں نافرمانی کا شائیبہ نہ ہو۔

تَمُوْتَنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

نہ مزا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فائدے اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی نالہ سب مل کر

وَلَا تَغْرِقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

اور بجدا جدرا نہ ہونا اللہ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت (جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں) دشمن

اُس کو ایسا یاد کیا جائے کہ خفخت طاری نہ ہو۔ اور اس کا یوں شکریہ ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آئینش نہ ہو۔ دوسرا آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا فاتحہ اللہ ما استطعہم کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسرناہ مختار کھو۔ ۹۱ء تھیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ہو۔ اور کیونکہ موت کا مقرر و وقت ہیں معلوم نہیں اس لیے ہمیں ہر محسوس کے لیے مستعد ہہنا چاہیے کیسی لمحہ میں بھی نافذانی کی جہالت نہ کی جاتے مباہم اسی موت کے لیے یہی محمد مقرر ہو۔

الله جبل کا لغوی معنی ہے السبب الذی یوصل به الی البغیة (المقطبی) لعنى وہ چیز یوں مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ وہ پچھہ جو گردان کو کندھوں سے ملاتا ہے اسے بھی جبل کہتے ہیں۔ والجبل الرسن والجبل العمد جبل کا معنی رسمی بھی ہے اور عہد بھی۔ حضرات سیدنا علیؑ وابن مسعودؓ وابو سعید الخدريؓ فتنے رسول کریم علیہ السلام الصلوٰۃ والتسلیم سے روایت فرمائی ہے جبل اللہ القرآن۔ اللہ کی رسمی سے مراد قرآن ہے۔ اسلاف سے جبل اللہ کی تفسیر میں ہج متعدد اوقال منقول ہیں ان میں تصادم نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے موئید اور موافق ہیں۔

الله زندگی کی اس رزم کا ہے میں ہماری شکست و رنجیت، تعمیر و تخریب اور فنا و یقان کا ایک نہ ختم ہونے والا جکڑ جعل رہا ہے کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو۔ اور کوئی اتحاد پا سکنے و پاندار نہیں ہو سکتا جب تک حکم اور حقیقتی بنیادوں پر اس کی عمارات نہ تعمیر کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو کہ دولت رُشد و بدایت کی ایں اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے۔ جسے ہر باطل سے مکرانا ہے اور طخوا کو اسے پاش پاش کرنا ہے۔ جسے قلب و نظر کے سارے صنم کدے سما کرنے ہیں۔ جسے ہر دل کو بہت اللہ اور ہر تنگا کو اُس کا شناسا بانا نہ ہے۔ اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ سی اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے تاکہ اُس کی آواز سُنی جاتے اور مانی جاتے۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اور وہ اتحاد و اتفاق سطحی نہ ہو جسے کوئی تقدیر تیز لہر بہا کر لے جاسکے بلکہ حقیقی اور پامار ہو۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی جس سے مکمل تکوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یعنی کہ لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کی صحیح سمجھہ اس ذات اقدس واطھر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے جسے قرآن ناذل

فَالْكَفَّارُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

پس اُس نے اُلفت پیدا کر دی تھار سے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی ﷺ اور تم (کھڑے) تھے

کرنے والے نہ رہے بھائی قرآن کو صحیح صحیح سمجھا لے کے لیے تھا۔ علامہ قطبی نے فرمایا اور غوب فرمایا۔ امرنا اللہ تعالیٰ بالاجتماع علی الاعتصام بالكتاب والسنۃ اعتقاداً و عملاً و ذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتاۃ الذی یتکبہ مصالحہ الدنیا والدین یعنی اللہ تعالیٰ نے ہیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً و عملاً کتاب و سنت کی رسی مضمبوطی سے پکڑ لیں۔ ہمارے استخاد کا صرف یہی سبب ہے اور صرف اسی طرح اتفاق و استخاد کی نعمت بیسرا سکتی ہے جس سے ہمارے دین و دُنیا کے حالات سنور سکتے ہیں۔

۱۲ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم و سلم کی تشریف اوری سے قبل عرب کے جزویہ نما کی کیا حالت تھی۔ وہ آپس میں اُنس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا بلکہ ایک کوہ آتش فشان تھا جس سے ہر چیز فیض و فداء کی آگ برستی رہتی تھی اور دُور دُوز نک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برس پکار تھا۔ ہر علاقہ دوسرے علاقہ سے جنگ آزاد تھا جذبات اتنے مشتعل اور بے قاولو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں۔ ایک بار اگر جنگ کی آگ ملک اپنی تھی تو صدیوں تک اُس کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ اوس وغیرہ میں لڑائی کا سلسلہ ایک سو بین ۱۳ سال تک جاری رہا کرسی کی جان کرسی کا مال محفوظ تھا۔ یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا اور رحمت خداوندی بن کر بسا حضور سریا نور و سرور کاظم اور ہوا تو عرب کے اجڑے دیار میں بھارا گئی۔ عادوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ اُنس نے، انعام کی جگہ عفونے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و اشیار نے اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکسار نے لے لی۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی کاپیلیٹ دی۔ جس کی بُکت سے عرب کے صحرائشینوں نے تاریخ عالم کا رُخ مولڈیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی احسان عظیم کی یاد نازہ کر رہا ہے کہ کیس طرح اُس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم و سلم کی بُکت اور فیض مگاہ سے تھار سے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتے اور مخفیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور ذلت و رُسوائی کی سپتیوں سے نکال کر ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے بس آنکھ بند کرنے کی دیکھی اور تم اس گڑھے میں گر پڑتے۔ لیکن رحمت الہی نے تھاری و سنگیری کی اور مخفیں آتش بھیمن میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو۔ اور اسلام کی رسی کو مضمبوطی سے پکڑے رہو۔ اور اپنی صفووں میں انشتار کو جگہ نہ دو۔ اس آئیت کے اولین مخاطب صاحبہ کرام ہیں۔ اور ان کے متعلق سی خداتے بصیر و خیر فرمادا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیتے۔ اُنھیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اُن کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب جو لوگ ان نفسوں قدر سی پر طرح طرح کے اختراضات کرتے ہیں۔ ان کو دائرۃ الاسلام سے خارج سمجھتے ہیں وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم و سلم نے شیر و شکر کیا تھا۔ وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے بٹا کر جنت میں پہنچا یا تھا۔ حقیقت میں صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ان پر اعتراض نہیں بلکہ قرآن پر، اسلام پر اور غیرہ اسلام پر براہ راست

علی شفای حُفرۃٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَ کُمْ مِنْ هَاطِکَ لَکَ یُبَینُ

دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچا لیا تھیں اس (میں گرنے) سے یونہی بیان کرتا ہے

اللَّهُ لَکُمْ اِیتَهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُنْ مِنْ کُمْ أَمَّةٌ

اللہ تعالیٰ متحالے یہی اپنی آئینی تاکہ تم بدایت پر ثابت رہو ضرور ہونی چاہیے ۱۱۳۰ء میں ایک جماعت

اعتراف ہے۔ اور جن کے ذہن فتنہ زانے ان شکوک کو جنم دیا تھا ان کے پیش نظر صحابہ کو مطعون کرنا ہمیں تھا بلکہ چاہک دستی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت کو داغدار کرنا تھا کہ یہیں تھا رے اس نبی کے اولین شاگرد ہیں کی قصیدہ خوانی سے تم راتِ دن اسمان سر پر آٹھا تھے رکھتے ہو۔ ان اعترافات کرنے والوں پر تو ہمیں حیرت نہیں، افسوس ہمیں ان مسلمانوں پر ہے جو دشمن کے اس دام فرب میں ہجھس جاتے ہیں اور ان مقدس سنتوں کے متعلق بے باکی کی جراحت کرتے ہیں جن کے دفتر حیات کی ہر سڑ آفتا ب و مہتاب سے تابندہ تر ہے۔

عاشقان اوز خوبیاں خوب تر خوش تروزیں اتر دمحوب تر (اقبال)

۱۱۳۰ء یہ دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فرائض ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغامِ رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وفات کر دیں تو یہ عالم گیر پیغام بدایت چند ملکوں میں مدد و ہبہ کر رہ جاتے گا۔ اور یہ اس پیغام سے بھی ناراضانی ہو گی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہو گا جو جھپٹ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن حراج کے لیے توں رہی ہے۔ نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے اُس کے آئندیہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے۔ اُن کی کرمی عمل بھی مستحبتی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ارادگرد کے مگرہ کئی تاثرات سے بھی وہ مبتاثر ہون سکتے ہیں۔ اگر ایسی سیاستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ اندماز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبي تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی مگر اہمیاں خود اس قوم میں راہ پاسکتی ہیں جو اس دین کی علمیہ دار ہے۔ یہ دلوں کام لعینی ملت اسلامیہ کو شاہراہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر اسلامی قوام ہاں یہ پیغامِ رُشد و بدایت پہنچانا جتنے ہم اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور چیزیں ہیں اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فرائض ہے جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منظر کاں ہوں ان میں علوم اسلامیہ میں ہمارت تاہم کے ساتھ سماحت سیرت کی پائیزگی کردار کی پیشگی، اور ظاہر و باطن کی کیسا نی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے جس طبی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، تلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فرائض کو ادا نہ کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی اس کوتاہی کے لیے جواب دے ہوگی۔ تاریخ شاہد ہے جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے گلشنِ اسلام میں فصل بھاری

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايَةُ عَنِ

جو بولا یا کرے یعنی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلانی کا اور روکا کرے بدی

الْمُنَكَرُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالظَّالِمِينَ

سے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو

لَهُمْ عَنِّا بَعْدَ عَظِيمٍ^{١٥} لَا يَوْمَ تَبِعَضُ وَجْهَةٌ وَسُودٌ وَجْهَةٌ

کے لیے خذاب ہے بہت بڑا ۱۵ اس دن ہجہ کم روشن ہوں گے کئی پھرے اور کالے ہوں گے کئی موند ۱۶ جب تک مداریں نہ سلامیہ زرالی، رازی، سعدی اور بیضاوی اور خانقاہیں رومی، ہجوری، اجمیری، ذکریالمسلمانی، شیخ سرہندی رضی اللہ عنہم و عن مشائخہم و خلفائہم ایسی فخر روز کا سنتیاں تیار کرنی تھیں۔ کفر کے ظلمت کدے اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ قوت باطل کے قلعوں کو مستحکم کرنی تھی لیکن اب؟ رویم بیں حالم پرس۔ میراچہرہ دلکھرو۔ اس پر میری حرم انصبیوں کی داستان کا ہر حرف کندہ ہے۔ میرا حال لوچھو نہیں۔ یہ اتنا درد انگیز ہے کہ نفحہ میں بیان کرنے کی محنت اور نہ قم من سننے کی تاب۔ آے اللہ! ہم یرحمن فرماء۔ آے گندخضراء کے لیکن چارہ سازی کرو!

۷۸۔ مسلمانوں کو گردہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے! اب ان کے سامنے گردہ بندی اور اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کی خونپکال داستان اور عبر تناک کہانی بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسے سُنیں اور نصیحت کر لیں یہ یودھ نصاریٰ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انھیں کی وجہ سے کفر کے فتوے لگاتے جاتے اور ملکت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے پارہ پارہ کر دیا جاتا۔ آج ہم یہی اسی مقام پر کھڑے ہیں ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں باشٹ رکھا ہے اور علماء رسول نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب ان کے آپس میں بیٹھنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ذات پاک مصنفے علیہ التحیۃ والثنا کے فضائل و مکالات پر جب بحث ہونے لگی اور مناظروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو اب وہ کوئی پیغزیز ہے جو ہمیں اکھار کھستی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر قادر و قوی ہے۔ وہ چاہے تو پیغمبر زدن میں ہماری آنکھوں سے پر دے ہٹادے۔

۵۔ اولئے لهم عذاب عظیم۔ اس عذاب عظیم کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ الحاد و دھرتی کے طوفانوں چڑھتے ہوئے اخراجِ رسمی ہے، یعنی المدعی برا فادر و نوی ہے۔ وہ چاہے و پیغم زدن یعنی ہماری اکھوں سے پردے ہے ہمادے۔

فَمَا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

تو وہ بو سیاہ رہوں گے (انھیں کہا جاتے گا) کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ

تو اب پکھو عذاب (کی اذیتیں) بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے اور وہ (خوش نصیب) لوگ

أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغَنِيَ رَحْمَةَ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ۱۷۰

روشنی ہوں گے جن کے چھر سے تو وہ رحمت الہی (کے ساتے) میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

تِلْكَ آيَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ بِإِرْيَانٍ فِي ظُلْمِهَا

یہ اللہ کی آذیتیں ہیں ہم پڑھ کر سنا تے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا

نے ہمارے بُنیادی عقائد کے قلعوں میں شکاف ڈال دیتے ہیں اخلاصی انحطاط اور ایجادیت نے ہمارے معاشرہ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اشتراکیت و شیعیت کا سیلا باملا اچلا آرہا ہے تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان اسلام و شمن تحریکوں کے مہماں اڑات کا جھی ہمیں بخوبی علم ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہ سکتے۔ بے حصی اور بے لبی نے ہماری تعمیری صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دیا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ اسلامی مرکز کا روسی مکیونزم نے کیا حشر کیا۔ عظیم مساجد، اسلامی جامعات اور خانقاہیں دیران کر دی گئیں۔ وہاں کی مسجدیں بجدوں کے لیے، فلک بوس عیناً سے صدائے اذان کے لیے، مدارس قرآن و سنت کے لیے اور خانقاہوں کے درود دیوار ذکرِ الہی کے لیے ترس رہے ہیں۔ سارے چوڑے گل ہو گئے۔ سارے حشی خشک ہو گئے اشتراکیت کے گماشہ یہاں بھی اسی المید کو دوہرائے کے لیے شب دروز مصر و ف کارہیں۔ لیکن ہمیں اپنے گرد ہی نظریات اور مفادات اتنے عزیز ہیں کہ ہم اسلام کے بُنیادی عقائد اور اصولی نظریات کا ہم انجرات اڑا کر کھو سکتے ہیں۔ یہی عذاب عظیم ہے کسی قوم کے لیے بے حصی اور بے لبی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم نے ذات پاک بھیب کہ بایلیہ الصلوٰۃ والثناۃ کو توبہ ف ترقید نہ بنایا ہوتا۔ کاش یار لوگوں کی زبانیں بارگاہ رسالت میں گستاخی سے تو باز رہتیں ہے

وَأَنَّ نَاكِمِي مُسْتَاعِنَ كارداں جاتا رہا

کارداں کے دل سے إحسان زیاد جاتا رہا

۱۷۶ قیامت کے روز دل کی کیفیت چہوں پر عیاں ہو گی۔ جن کے دل نور سے منور ہیں قیامت کے دن ان کے چھرے آنفاب کی طرح روشن ہوں گے۔ اور جن کے باطن میں مگر اسی کی تاریکی جمی ہوئی ہے اُس روزان کے چھرے سیاہ ہوں گے

لِلْعَالَمِينَ وَإِلَهُكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

دُنیا والوں پر ۱۸۰۰ء اور اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ۱۸۰۰ء اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی

تُرْجِعُ الْأُمُورَ ^(١٩) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلْتَّائِسِ تَأْمُرُونَ

لٹاۓ جائیں گے سارے کام ہوتم بہترین امت ۱۱۹ پونڈاہر کی گئی ہے لوگوں (کی پدراست ہلالی) کے لیے تم حکم

بعض علماء فرمادیا ہے کہ کامیابی اور نجات پر فرجت و سرور کی کیفیت بوجہروں پر نمایاں ہوگی اس کو بیاض و جرعیتی چہرہ کی سفیدی سے اور کفار و فساق رحمت اللہ سے محرومی کے باعث جس اندوہ والم کاشکار ہوں گے اور جس کے اثرات بھروس پر بالکل واضح ہوں گے اسے سواد و جرم سے تبییر کیا گیا ہے۔ بہرحال مون و کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل سے پہچانا جاتے گا۔ اب حضور گیرم علیہ التحیۃ والتسیلہ کے متعلق یہ مکان کرنا کہ حصہ بعض کافزوں کو نہیں پہچان سکیں گے کیونکہ درست ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقبولوں کی محبت اور رفاقت نصیب فرمادے ہیں کے چہروں کی درختانیوں کے سامنے مہنگی و زیشنزندہ ہو گا۔ آئین شم آئین

۷۱۴۔ یعنی قیامت کے دن بعض پر انعام والوں کی بارش اور بعض بغض و ناراضی کی بیچکار بلا وجہ نہیں ہو گی بلکہ ہر ایک کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بلند اور پاک ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے یا کسی کے اعمال کو ضائع کر دے وہ تو کسی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں لوگ خود جان بوجھ کر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے اعمال بد سے اپنے نامہ عمل کی سیاہی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔

۱۸۔ اے آیت پہلی آیت کے ضمون کی دلیل بھی ہے کہ یونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے زین و آسمان کی ہر چیز کا۔ اس کو کیا ضرور ہے کہ کسی رظلوم کرے اور کسی کی حق تلفی کرے۔ نیز سابقہ تمام آیات کا یہ حاصل اور نتیجہ ہی ہے۔

۱۹۱۹) رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ کہ جتنی بھی اُمتیں آج تک صفحہ پرستی پر طاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو۔ کیونکہ تھاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ، بہت بلند ہے۔ تم اس لینے نہ ہو اور اس لیے کوشش ہو کر حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے۔ مگر ہی کی ظلمت کافور ہو۔ باطل کاظم ٹوٹے اور اخلاقی حصہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ جیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتوز کو ظالم اور پیرہ دست اور مکر و رکو ظلموم دفاعہ مست بنا رکھا ہے مرت جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت (یعنی توحید) پر قم خود بھی ایمان لاچکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگرچہ پہلی اُمتیں بھی امر بالمعروف، نهى عن المنکر اور ایمان باللہ مسے مشرف تھیں۔ لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے۔ جو جلال تھارے نہیں عن المنکر میں ہے اور جو گرانی، گیرانی اور مکالم تھارے ایمان باللہ میں ہے وہ تم سے پہلے کسی امانت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز جس ہمہت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بارہ امانت کو اٹھایا ہے یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا۔ اس لیے تم اس کے جائز تھیں ہو کہ افعام عالم کی بھری محفل میں تھارے سر پر اپنیت کا تاج رکھا جاتے! فوجہات

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعْمَلُونَ بِاللَّهِ وَلَا مَنْ

دیستے ہو یعنی کا اور روتے ہو بُرانی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر نے اور اگر ایمان لاتے

أَهْلُ الْكِتَابَ لَكُمْ خَيْرًا لِهُمْ مِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ

اہل کتاب نے تو یہ بہتر ہوتا ان کے یہے بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے

کے علاوہ جھوڑ علیہ الصلاوة والسلام کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اس آیت میں ہی ذکور ہے یعنی دوسرا قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقرہ وقت تک مخصوص ہو سکتی تھی۔ لیکن تمھارا ابر کرم بخوبی، نشیب و فراز، سیاہ و سپید، تزویز دیک دو وہ خطرہ پر برسے گا۔ اور ہر خطرہ کے پاسوں کی پیاسن جھاتے گا۔ تمھاری بکتنی صرف اپنے یہے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں۔ اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا یہ وہ بخود و سخا ہے جس سے پہلے دُنیا متعارف نہیں تاختیت للناس۔“ میں اسی امرکی طرف اشارہ ہے۔

۱۲۰ نما معصوموں کے اموال ضبط کرنا ان کا دستور تھا۔ اور جو غاصب نہیں تھے بلکہ دوسروں کے جہر و تشدد کا شکار تھے وہ جرأت و شجاعت سے محروم تھے۔ وہ یوں سمجھے سمجھے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیات قرآن بدل دیں بلکہ اپنی طرف سے آئیں بن کر قرآن میں بڑھا دی گئیں۔ احکام شرعی میں مانی تبدیلیاں کردی گئیں لیکن یہ حضرات لش مسند ہوئے۔ کیا ایسی امت جن کا ایک طبقہ غاصب اور جاہل ہوا اور دوسرا طبقہ ڈرپوک اور بے حس ہو کیا وہ امت اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف قوم بھی کہا جاتے۔ جچ جائیکہ اُسے خیر الامم کے منصب پر فائز کیا جاتے۔ اس صورت میں یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کو ان کے باطن کا یا ان کے مستقبل کا علم نہ تھا اور بے علمی کی وجہ سے ان کو یہ اعز و بشاشت جو اس کے قطعاً اہل نہ تھے۔ اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ جانتا تو تھا لیکن ان کی خوشامد کر کے کام نکالنا چاہتا تھا (اغوڑ بالمد) اور اگر یہ دلوں احتمال غلط ہیں اور یقیناً غلط ہیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف جو ہر زہ سرائی کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے اور اسلام کے دعمنوں کی اسلام کے خلاف ایک گھری سازش ہے۔

۱۲۱ یہود و نصاریٰ کو یہ خدا شنا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور پودھر اہل ختم ہو جاتے گی اور نالی الحافظ سے بھی انھیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے جانش پہنچنے کے باوجود دھنی وہ انکار پر مصروف تھے اللہ جل مجده فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط اندازیاں ہیں۔ ان کی بہتری اور سعادت داریں تو اس میں تھی کہ وہ حق کو قبول کر لیتے۔ دُنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہر ااجر پاتے۔ لیکن اس روشن تحقیقت کو بجز قلیل تعداد کے کسی نے نہ سمجھا کہ سچی اور ادائی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔

الْقَسْقُونَ ۝ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذْيَ طَ وَإِنْ يَقَاتُلُوكُمْ يُولُوْكُمْ

نا فرمان ہیں (چھپا) نہ بکار سکیں گے متحار اسواتے ستانے کے ۱۴۲ اور اگر طبیں گئے تھارے سانہ تو پھر دیں گئے تھاری طرف اپنی پیشیں

الْأَدْبَارِ قَتْلَهُ لَا يُنْصَرُونَ ۝ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ أَيْنَ مَا نَقْفَوْا

(اور بیگ جائیں گے) بچران کی امداد نہ کی جائے گی مسلط کردی گئی ہے اُن پر ذلت (روسوائی) ۱۴۳ جہاں کہیں بی پاتے کئے

الْأَمْجَلٌ مِنَ اللَّهِ وَحَبِيلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ

بجز اس کے کہ اللہ کے عمد سے ۱۴۲ یا لوگوں کے عمد سے (کہیں پناہ مل جائے) اور یہ مسخر ہو گئے ہیں غضب الہی کے

۱۴۲ یہ شرب کے یہودی بڑے اثر نفوذ کے مالک تھے۔ ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی۔ ان میں بڑے جنگ آنے ما

بہادر بھی تھے۔ انھوں نے یہ شرب اور اس کے اردو گرد دُور دُوز تک قلعے اور گڑھیاں بھی بنارکھی تھیں۔ یہاں تک کہ خبر کی دُور دُراز آبادی میں بھی ان کے مستحکم قلعے تھے۔ نیزان کی زندگی کی سب سے بڑی آزاد بھی یہ تھی کہ دُوہ غزیب الوطن، بے سر و سامان،

مشی پھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجبوہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر تیار ہے ہیں کہ یہود بایں ہمہ قوت و سلطوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ طازی اور بہتان آشی

سے متحارے دول کو دکھ پھنسا لیا کریں۔ اور اگر انھوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آئے کہ بھی ہمت کی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر کھکھ جائیں گے۔ دنیا نے دکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموقوف تھے۔ لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ پوری ہو کریں

۱۴۳ اس پھیل حاشیہ سورۃ بقرہ کی آیت ساٹ میں گزر چکا ہے۔ یہاں ذلت اور مسکنت کے الفاظ کی ذرا تو پیغم مقصود ہے۔ بسا اوقات انسان اس قدر شکستہ خاطر اور افسرہ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور فرو تر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اُس کی عزت نفس دم توڑ دیتی ہے۔ وہ دولت کی کشت کے باوجود اپنے کو فقیر اور جاه و منصب کے

ہوتے ہوئے اپنے کو تھیر سمجھتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں۔ ان المسکنة حالت للشخص

مشیوہها استصغر النفسہ حتى لا يدع له حقا۔ اور اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذیل و رُسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ والذلة حالت اعتزى الشخص من سلب غيره لحقه (المنار) یہود

کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دو قسم کی سزا میں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اُن کو عزت نفس سے محروم کر دیا گیا۔ وہ کوڑپتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پانی کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ اور ایسی رذیل و تھیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں جن کو

کوئی باخیر و باحمیت انسان دیکھنا نکاں گوارا نہیں کر سکتا۔ اور جہاں بھی رہے بھیتیت قوم ذیل و مقور ہو کر رہے۔

۱۴۲ علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔ فی الكلام اختصار المعنى الا ان یعتصموا بمحبل من الله الخ يعني اس کلام میں ان

اللَّهُ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

اور مسلط کردی گئی ہے ان پر محتاجی یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ۱۲۵

بِإِيمَانِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ آتَوْا إِيمَانَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ

اللَّهُ كَمْ آتَيْتُكُمْ سَعْيَكُمْ فَلَا يُؤْتُوا نَافَرْمَانِي کرتے

كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ لَيْسُوا سَوَاءً طَمِّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِلَةٌ

تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے سب یکساں نہیں ۱۲۶ اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے

يَتَلَوُنَ إِيمَانَ اللَّهِ أَنَّهُمْ أَلَّا يَعْلَمُونَ وَهُمْ لَيَسْجُلُونَ ۝ يُوْمَ الْقِيَامَةِ بِاللَّهِ

تیلاؤت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر

یعنی صموحاً مخدود ہے۔ اب آیت کا معنی واضح ہو گیا۔ کہ یہ تو ان کے مقدار کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہنگادی گئی ہے ہاں دو صورتوں میں اٹھیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عمدہ میں داخل ہو جائیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پر امن شری بن جائز۔ پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جاتے گی اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور جب من الناس سے یہ مرادی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پیڑی کرے تو ان کے سہارے انھیں طاقت خاطر نصیب ہو سکتی ہے اہل نظر سے مخفی نہیں کہ قلب اسلام میں اسرائیلی حکومت کا قیام یہود کا اپنا کارنامہ نہیں بلکہ مغربی سیاست کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف کی گئی ہے اسرائیلی حکومت کی بقارہ کا انصاریو پ دامر کیہ کی امداد پر ہے۔ اگر وہ دست کش ہو جائیں تو یہ ریاست اپنی موت آپ مر جاتے۔ یہ ایک غم انگیز اور ہوش رُبِّا حقیقت ہے کہ الگ شرق اوسط کے مسلمان فرماں رو باہمی رقبات کا شکار ہوتے اور جاہین اسلام سے غدر نہ کرتے تو یہ ریاست دُنیا کے نقشہ پر موجود ہی نہ ہوتی لیکن اب شرق اوسط کے سیاسی مطلع پر ایسے مردان کا رُونما ہو چکے ہیں جن سے بھاٹوڑ پر تو فتح کی جاسکتی ہے کہ وہ بُو فیض تعالیٰ اس زخم کے درخت کو ایک روز بڑسے اُکھیر ہپنکیں گے۔

۱۲۵ اس حقیقت کو پھر دُہرایا جا رہا ہے کہ یہ پھٹکا رُونما پر بلا وجہ نہیں پڑی بلکہ ان کے یہ یہ جنم تھے جن کی یہ سزا ہے۔

۱۲۶ یعنی سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور نافرمان کثیر تعداد میں تھے۔

وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَيَا مَرْوُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

اور روز آختر پر اور حکم دیتے ہیں بھلانی کا اور منع کرتے ہیں بڑائی سے اور

يُسَارِعُونَ فِي التَّحْسِيرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوا

جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں اور جو یہ کہل گے

مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفِرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ بِالْمُتَقِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جاتے گا اس کا رجیم کا اور اللہ جانے والا ہے پر ہر یہ کاروں کو بے شک جن لوگوں نے

كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے اُبھیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد (اللہ کے عذاب) سے

شَيْءًا طَوْأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝ مَثَلُ مَا

ذرہ بھر اور دُوہ دوزجی ہیں دُوہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مثال اس کی جو دُوہ

يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْأُنْيَا كَمَثَلِ رِتَّابِهِ فِيهَا حِرْرَاصَاتٌ

خرچ کرتے ہیں ۱۲۴ اس دُنیوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت مٹنڈک ہو (اور لگئے دُوہ

حَرَثَ قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَ

ایک قوم کے کھیت کو جھوول نہ غلم کیا ہوا پس نہ سلوں پر پھر فا کردے اس کھیت کو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے -

**۱۲۵ الْأَصْرَ الْبَرْدُ الشَّدِيدُ - جَلَادِيَنَے وَالِ سُخْتَ مَطْنَدَ كُو صَرَكَتَهُ ہیں - ایمان لاتے بغیر یا وِمُودَ کے لیے پانی کی طرح روپیہ
بھانے والوں کے حسرت ناک انجام کی کتنی بہترین اور اثر آفرین مثال ہے -**

لَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ^(۴۴) يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ امْتُوا لَا تَتَخَذُوا

لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر خلم کرتے ہیں اے ایمان والو! نہ بناؤ

بِطَانَةً مِّنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلوُنَكُمْ خَبَالًا وَدُوَّا مَا عَنْتُمْ قَدْ

اپنا رازدار غیروں کو وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تھیں خرابی بہنجانے میں وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تھیں ضروریے۔

بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

خاہر ہو چکا ہے بعض ان کے مُونوں (الیعنی زبانوں) سے اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی ڈرا

قَدْ بَيِّنَ لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ^(۱۱۸) هَانُتُمْ أَوْلَاءُ نَجْوَانَمْ

ہے ہم نے صاف بیان کر دیں تھا لیے اپنی آئینی الگرم سمجھدار ہو شُواظم تو وہ (ایک دل ہو) ^{۱۱۹} کم جبکہ کرتے ہو ان سے

۱۱۸ اس آیت کے چنانچا طفاط و ضاحت طلب ہیں۔ کپڑے کا وہ طرف جواندہ کی جانب ہوتا ہے اور سبھ سے ملا ہوتا ہے۔ اس کو

بطانۃ الثوب کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانۃ کہتے ہیں جس پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ اور ہمارا ہو۔ ہو

الذی یعرفہ الرجُل اسرارہ ثقہتہ بہ (بیضاوی) الایالوی الامر قصر دابطاً کامعنی ہے کسی امر میں کسر اٹھا رکھنا، کوتاہی

کرنا عملی بھائی اور عقلی خرابی اور فساد کو خجال اور خبل کہتے ہیں (وقطبی) اب آیت کے فہروم پر غور فرمائیے۔ اسلام سے پہلے شیر کے

یہودیوں کے ساتھ اوس دختر رج کے بڑے گھر سے مراسم و تعلقات تھے۔ افراد کی اپیں میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی اپیں

میں معاهدے تھے۔ ہر کام میں ایک دوسرے میں مشورہ کیا کرتے تھے کبھی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس و

خزردج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں بھیر انقلاب آگیا۔ اس بات کا احتمال نہ کامنہ مسلمان اپنی صاف ولی کی نشانہ اسلام

کے بھید بھی ساتھ کہیں ہیو دے نہ کہہ دیا کریں جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اس لیے اللہ تعالیٰ

نَلَسْ مَنْعِ فِرَادِيَكُهُ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا راز دار بنا دیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہو تو ایکن اس

کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ ہر راز

کی بات ان سے کہہ دی جائے کہاں کی داشتمانی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوحی سے منع فرمایا ہے مسلمانوں کے غیر مسلم

کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہتیں؟ اس تفصیلی بحث اسی سورۃ کی آیت نمبر اٹھائیں کے ضمن میں گز چکی ہے۔

۱۱۹ ہاتینیکہ لیے ہے ان تمدن اور اولادہ بخیر ہے (کشاث) اسلام کو نفرت و عداوت کا دین کہتے والے اگر اس آیت

کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی اشکارا ہو جاتے مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں

وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ وَإِذَا قُوْلَمْ قَالُوا

أُور وہ (دڑا) مجت نہیں کرتے تم سے اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں

أَمَّنَا حِلٌّ وَإِذَا أَخَلُوا عَضْوًا عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظَاطِ قُلْ

هم امیان لئے ہیں اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چراتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے (کے جیسے!) آپ فرمائیے

مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصَّدْوَرِ ۚ إِنْ

مرخاؤ اپنے غصہ (کی آگ میں جل کر) ملے یقیناً اللہ خوب جانے والا ہے دلوں کی بالوں کا (ان کا حال تو یہ ہے کہ) اگر

تَسْسِكُمْ حَسَنَةٍ لِّتُسْوِهُمْ وَإِنْ تُصِيبُكُمْ سَيْئَةٍ فَإِنَّهُمْ

پہنچے تھیں کوئی بھلانی تو بُری لگتی ہے انجیں اور اگر پہنچے تھیں کوئی تسلیف تو (بڑے) خوش ہوتے ہیں اس سے

وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَقَوَّلَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

اور اگر تم صبر کرو اسلام اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نقصان پہنچاتے گا تھیں ان کا فریب پچھلی بے شک اللہ تعالیٰ جو پچھلے

مجت و رحمت کے جذبات ہو جن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماتنے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں کیا اس دن کو نفترت و علاوات کا دین کہنا قرینِ انصاف ہے؟ اس آیت میں مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراض کرتے ہوئے انجیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محاط اور پوکنارہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہیں۔ اور تم ان کی مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے امیان رکھتے ہو لیکن ان کی حالت یہ نہیں۔ وہ تمہارے زُورُ تو امیان کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو مارے حسد کے انگلیاں چراتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روزافروں کا میاں ان کے لیے سوہانِ رُوح بنی ہوئی ہے۔

شیخ سعدیؒ نے شاید اسی آیت کی ترجیحی اپنے اس شعر میں فرمائی ہے۔
بیرتا برہی آے حسود کیں رنجیست کہ امشقت اور بُریگ تو ای رُست

یعنی حاسد کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ دُوہ حسد کی آگ میں جل کر خاکستر سو جاتے۔

اساہ زندگی کی اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ اُمیں مصائب کے سیاہ باجل گھر کرنے آئیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا لیکن ایسے حادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ

يَعْمَلُونَ حَيْثَا وَأَذْغَلُونَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ

وَهُوَ كُرْتَهِيْ بِهِنِ (اس کا) احاطہ کیوں ہوتے ہے اور یاد کرو (آے محبوب) اسلام میں سچ سویرے خصت ہے اسے آپ نے گھوٹے راوی میلان اجھیں (بخاری) مخفون کے

کے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکروہ فرنیب تھیں کوئی گزندھیں پہنچا سکے گا کویا اس زمگاہ حیات میں کامیابی کا سر اُسی کے سر بازدھا جاتا ہے جو صابر اور منتفق ہو مشکلات سے ہر اسال ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بھی فلاخ نہیں پاسکتا۔

۱۳۳۴ ابوسفیان بدر کے محتولوں کا بدل لینے اور اپنی شکست کا بد نماداع مٹانے کے لیے تین ہزار مسلح جنگ آزماؤں کا شکر جرار کے کردار میں طبیبہ پر جڑھائی کرنے کے لیے زوانہ ہوا۔ اس دفعہ انتقام کو جڑھائی کو تیز تر کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساختہ لاتے تھے جوں کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہندہ کرہی تھی۔ وہ اشعار کا کرد، دف بجا کر ان کو اشتغال دلاتی تھی۔ جب وہ احمد کے میدان میں بھیز زدن ہو گئے تو حضور کیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجلس مشاورت طلب فرمائی حضور کی اور اکابر صحابہ کی راستے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جاتے۔ عبد اللہ بن ابی جعفر بار مشورہ کے لیے پہلی بار مشورہ کے لیے دعوت دی گئی تھی اُس نے بھی اس کی تائید کی۔ لیکن نوجوان طبقہ جوشوق شہادت سے بے تاب ہو رہا تھا اس بات پر مصرا خدا کمیدان میں نہ کل کر مقابلہ کیا جاتے۔ چنانچہ کثرت راستے کے پیش نظر حضور نے یہی فیصلہ فرمادیا۔ اور خود زرہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لاتے۔ اور ایک ہزار کی جمیعت کے ساتھ رے شوال بروز سینچر سلاہ مدینہ طبیبہ سے احمد کی طرف روانہ ہوتے۔ راستے میں ہی عبد اللہ بن ابی اپنے تین سو ہمراہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد افارکی تعداد سے چوختائی سے بھی کم ہو گئی۔ پھاڑکی جانب پشت کر کے صفیں آزادستہ کی گئیں۔ پھاڑکی وہ گھاٹی جہاں سے دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کا خدا شہ تھا وہاں عبد اللہ بن جبڑہ کو پھاس سپاہیوں کے ساتھ منتھنی فرمایا۔ اور انھیں تاکیدی حکم دیا کہ یہیں خواہ فتح ہو یا شکست تھیں ہر حالت میں یہاں ٹھیڑے رہنا ہو گا۔ مصعب بن عمير کو پرچم محنت ہوا۔ شکر کے ایک بازو پر حضرت ابیر کو اور دوسرا پر حضرت منذر بن عمر کو مقفرہ فرمایا۔ اور اپنی نوار خوش نصیب بڑھتا کو عنایت فرمائی۔ پھلے ہمیں سی لکفار کے قدم اٹھا گئے اور انھوں نے مسلمانوں کے حملہ کی تاب نہ لا کل پسپا ہونا شفرع کر دیا گھاٹی پر متعینہ دستہ نے جب دیکھا کہ اب کفار کو شکست ہو چکی ہے تو مال فیمت حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے دوڑے حضرت عبد اللہ بن جبڑہ نے بہت سمجھایا لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت منشکین کے رسالہ کے کماندار تھے جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا تو ہماڑا کا چلک کاٹ کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اب کیا تھا انشکر اسلام میں انتشار پڑ گیا نظم و ضبط قائم ترہ سکا۔ عبد اللہ بن قمہ اور عقبہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور سردار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله وسلم رحلہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہاں مبارک شہید ہو گئے۔ پیشانی اقدس اور رُوفَتِ الورزخی ہو گیا۔ اور یہ افواہ بھی اڑک کی کہ حضور شہید ہو گئے جس نے صحابہ کے رہے سے ہوش بھی اڑا دیتے لیکن یہاں شارفلاموں کا ایک گروہ اُس وقت بھی پڑا۔ اور شارہوں رہا تھا حضرت مصعب بن علی پر اسے حضور کے سامنے شہادت پائی۔ ان کے بعد پرچم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے لے لیا حضرت

مَقَاءِدُ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ لَا ذَهَبَتْ طَائِفَاتٍ

مورچوں پر جنگ کے ریسے اور اللہ سب کچھ سنبھالے والا جانے والا ہے جب الادہ کیا دو جماعتوں نے ۳۳۳

مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا طَوْلَةٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتُوَكِّلَ

تم میں سے کہ بہت ہار دیں حالاکمل اللہ تعالیٰ دو فوک مذکور تھا اسیلے اس لغرض سے پھالیا اور ۳۳۴ صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے

ابودجاذب نے اپنے آپ کو حضور پر ڈھال بنا رکھا تھا۔ ہر تراپنی پشت پر ورنے کے حضرت طلحہ بن اور کاہر وار اپنے بازو پر پوکتے۔ حضرات ابو جعفر صدیق، علی مرتضی، ابو عیینہ، ماکر بن سنان وغیرہم نے دشمن کے زبردست ریلے کو تیکھے ہٹایا۔ جب ادھر ادھر میدان جنگ میں کفار سے مصروف پر کار مسلمانوں کو حضور کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کر حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کفار پھر سے اونٹوں پر سواز ہو کر مکمل طرف روانہ ہو گئے۔ یہ درست ہے کہ اس کو کفار مکمل کی فتح نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں بھی شاک نہیں کہ مسلمانوں کو سخت لفظان انھانی پڑا۔ اور تقریباً زیادہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوتے جن میں حضرت سیدنا حمزہ اسد اللہ رسول بھی تھے جن کو حصہ نے پیچھے سے نیزہ مارا تھا مسلمانوں کو جو یہ زک المحتالی پڑی۔ اس کی ایک بھی بڑی وجہ حقیقت کا انھوں نے اپنے رسول اور قائد کے حکم کی اطاعت میں تسالی کیا۔ اگر وہ دستہ گھانی پر جمارہ تھا تو یہ المنک حالات رومناہ ہوتے۔

۳۳۵ جب عین وقت پر عبد اللہ بن ابی اپنے تین سو سیاسیوں کے ساتھ الگ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد میں مزید کمی ہو گئی تو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور خزر ج کے بنی سلمہ کے دل میں بھی میدان جنگ سے واپسی کا نیا پیدا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنگیری فرمائی اور اس لغرض کے ارتکاب سے انھیں بچا لیا۔ حضرت جابر فرمایا کہ تو یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں۔ کیونکہ اگر ایک طرف ہمارے خپل جانے کے خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ”واللہ وَلِيَهُمَا“ کی نوید جان پرور بھی ہے۔ سچے مومن سے اگر کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی ہے تو رحمت اللہ اُسے سنبھال لیتی ہے۔ شان کریمی یہ گوارا نہ کر سکی کہ اس کے جمیوب کے سچے غلام ایسی لغرض کو بیٹھیں۔

۳۳۶ کے توکل کیا ہے؟ محققین صوفیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ ان الموقن علی اللہ هوالثقة بالله والایقان بان قضاء ما صرخ و انتیاب سنه نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السعی فیما لا بد منه من الاسباب (القربی) اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین حکم کہ اس کا حکم اٹل ہے۔ اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر ضروری اسباب کے مہیا کرنے میں بھی پوری جد و جهد کرنے کو توکل کرنے ہیں۔ حضرت سهل فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سُنّت پر اعتراض کرتا ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا

مُؤْمِنُونَ كُوٰٓ اور بے شک مدد کی بھی تھاری ۱۳۷۵ء اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں ۱۳۷۶ء عالمگیر تم بالکل مدد و رہنے پس دلتے

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿٢﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَكُفِيَكُمْ

رہا کرو اللہ سے تاک تم راسی وقت امداد کا شکرا دا کرسکو (عجیب میں گھٹی بھی) اب جب پر فرمائے تھے مہمنوں کے لئے کیا تھیں یہ کافی نہیں

أَنْ يُبْدِلَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ الْأَفِّ مِنَ الْمَلِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿٣﴾

کہ تھاری مدد فرمائے تھارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے جو آثارے گئے ہیں

۱۳۷۵ء لشکرِ اسلام کی بوصاصہ افرادی اور تسلیم کے لیے احمد کے بنا نکاہ حادثہ کے بعد بدرا کی فتح تھیں کافی کفر مایا اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح تھاری قلبیں اور بے سر و سامان سی جمیعت کو دشمن کے مسلح شکری چار پر فتح عطا فرائی۔ اس لیے احمد کے نقصانات سے غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی امداد تھارے ساختھے ہے۔ ہاں جو غلطی تم سے ہوئی اور جس کی وجہ سے تھیں یہ زک اٹھانی پڑی اس سے احتساب نہ رہا۔

۱۳۷۶ء میرہ طیب سے تقریباً بیس میل کے فاصلہ پر ایک کنوں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی ہیلی ٹکریوںی بھرت کا دوسرا سال تھا جمعہ کا دلن اور رمضان المبارک کی ستودہ تاریخ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو دس سے کچھ اور پختی۔ اور کفار کا شکر ہزار

کے قریب تھا جب شکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہِ اللہی میں ہاتھ پھیلاتے اور عرض کی۔ اللہ ہابخی مادعا دتنی اللہ ہوات تھلک هڈا العصابة من اہل الاسلام

لاتعبد فی الارض۔ (آے اللہ اپنا وعدہ پورا فرمًا۔ اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو رُوئے زین پر تیری عبادت نہیں کی جاتے گی) جمیعت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی حضرت صدیقؓ نے پیچھے سے اپنے آقا کو لے گا لیا اور عرض کی۔

یا رسول اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ چند سر بکفت مجاهدوں نے بدر کے میدان میں کفر کوایسی شکست دی جس کے بعد وہ سن بھل نہ سکا۔

۱۳۷۶ء اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجو مسلمان بڑی بے جگہی سے بڑھی سے بڑھی سے میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ اسی شام میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کوڑزن جابر المغاربی مک کے کرفار کی مدد کو آرہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ نشویش ہوئی۔ اس وقت حضور مسیح عالم نے فرمایا کہ کیا ہو اگر کوڑزن اپنی جمیعت لے کر آرہا ہے۔ تھاری امداد کے لیے بھی تین ہزار فرشتے آسمان سے اُٹر رہے ہیں۔ اور اگر تم نے صبر اور تقویٰ اغذیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر پانچ ہزار کرداری جاتے گی جس کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے فرشتوں کی آمد سے مغلی غرض کے لیے تھی؛ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالغ بنگ میں حصہ لیا۔ اور بعض کی راتے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت حاصل ہو گئی۔ اُن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جم کر لڑا شروع کر دیا۔ اتنا حاضر واللہ دعاء

بَلْ لَا إِنْ تَصْبِرُوْا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا إِيمَانُكُمْ

ہاں کافی ہے بشرطیکہ تم صبر کرو اور قومی اختیار کرو اور راگر آدھکیں کفار قوم پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تھاری

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ صِنْ الْمَلِكَةِ مُسَوِّمِينَ^{۱۵} وَمَا جَعَلَهُ

تمحاراب پائچہ ہزار فرشتوں سے بو نشان والے ہیں اور نہیں بنایا فرشتوں سے

اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ يَهُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

کے اترے کو اللہ نے مگر خوش خبری تھا کسے یہی اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمھارے دل اس سے اور (حقیقت تو یہ ہے) کہ نہیں ہے

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ^{۱۶} لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الظِّنْ

فتح و فصیرت مگر اللہ کی طرف سے جو سبیل غالب (اور) حکمت والا ہے (یہ مدارس یہی تھی) تاکہ کافی دے ایک حصہ کافروں

كَفَرُوا أَوْ يَكْتُبُهُمْ فِي نُقْلِبِهِمْ خَابِيْنَ^{۱۷} لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ

سے یا ذلیل کرنے ان کو پس لوٹ جائیں نامُراد ہو کر نہیں ہے آپ کا اس معاملہ میں کوئی

شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ^{۱۸} وَ

دخل ۱۳۹ کے چاہے تو اللہ اُن کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو عذاب دے اُنجیں پس بے شک وہ ظالم ہیں اور

بالتبیہت الاول اکثر (قطبی) اس کی مفصل بحث سورۃ الفاتحہ میں آتے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۳۸ امیں یعنی ملائکہ کافرزوں کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے حقیقت میں فتح و کامرانی بخششہ والا رب الطیبین ہے اس

آیت میں یہیق دیگریا کام اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیئے۔ وہی فاعل حقیقی ہے۔ ہر چیز اُسی کے سات قدرت میں ہے

۱۳۹ احمد کے دل جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنمان مبارک شہید کیے کئے۔ رُخ اور زخمی کیا گیا تو حضور نے فرمایا وہ قوم

کیونکر بجات پاسکتی ہے جس نے اپنے اُس بنی کے سرکو محروم کیا اور دامت شہید کیے جو اُنجیں اللہ تعالیٰ کی طرف بُلاتا ہے اس وقت

یہ آیت نازل ہوئی۔ دقیل استاذن فی ان یہی عوی استعمالهم فلما نزلت هذہ الآیۃ علمان منہم من

سیسلمو و قد آمن کثیر منهو خالد بن ولید (قطبی) یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بدُعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کتنی لوگ مسلمان ہوں گے

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ

اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَا يَاهَا الْزَّيْنَ

سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے آئے إيمان والوا

أَنْوَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَوْ أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

نہ کھاؤ سُود دوگنا پچوئنا کر کے ملے اور ڈرتے رہو اللہ سے تماکہ تم

جیسا نہیں اک کشہ تعداد اسلام الہ۔ انھر میں حضرت خالدؑ کے کلمات کتنے حقیقت افسہ و زاور

بيان يوم القيمة - بيان انت وامي يا رسول الله لقد دعاني حالي قومه فقال رب لا تذر علی الارض من الكافر

دیارا ولود عوت علینا مثلها الهدکنا من عند آخرنا فلقد وطئ ظهرک وادمی وجهاک وکسرت ریاعیدتک

فابيت ان تقول الاخيرا فقلت رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون (القرطبي)

ترجمہ۔ "اے اللہ کے پیارے رسول! میرے ماں باپ حضور یقربان ہوں لوح علیہ السلام نے ایشی قوم کے لیے بدُّ عالکی۔ کہ

کے رب زمین پر کسی کا ذر کو سلامت نہ رہنے دے۔ اگر حصہ بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن

اے سر اپا کرم، آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے۔ رُخ پُر نورِ زخمی کیا گیا۔ دنداں مبارک توڑے گئے۔ باسِ ہمہ آپ نے دعا تے خیر

ی فرمائی۔ اور یہی عرض کی کامے ربِ امیری قوم بے علی سے یہ کوہی ہے تو اس کو معاف فرمادے ॥

اس آیت کریمہ کا یہ مدعای نہیں کہ حضور کی دعا یا بد دعا کا اللہ کی جناب میں کوئی وزن نہیں۔ اس میں رہ بھر بھی شک نہیں کہ کہ کہ

لہجہ دوستی کے قابل اس سب کچھ میں استاد المذاق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی طرح اس

بیں بھی ذرہ بھر شک نہیں کو مضطہ کا بخواہتھے تو اجھے دیار میں ہمار آجائی ہے۔ انگلی کا اشارہ ہو تو چاند و ملنٹرے سے ہو جاتا ہے

در اس کی نظر کرم ہو لو افروز ترک اور فتن و جوگر کی تاریخیں جو مکانے لختی ہیں۔ ولسوٹ یعطیاً رباً فرضی اللہ کا وعدہ ہے

در اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے۔ اور تھاہ لسی کی جبین پر پل پیں وہ پورا کر کے رہتا ہے م

وہی ہے طور جہاں پُر لئی نگاہ تری وہی چن ہے جہاں مسکرا دیا لوئے

۲۰۷ سود اور سودی حرمت پر مصلحت سورہ بقرہ میں لزیچی ہے۔ بودل کے اعتبار سے یہ ایت سورہ بقرہ کی ایات سے معلوم

تَغْلِيْهُونَ ﴿١﴾ وَاتْقُوَا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكُفَّارِينَ ﴿٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

فلح پا جاؤ ۱۲۳ اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور اطاعت کر دل اللہ کی

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحِّمُونَ ﴿٣﴾ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ

اور رسول (کریم) کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑو ۱۲۴ بخشش کی طرف جو تھا رے رب کی طرف سے ہے

وَجَنَّتٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ

اور زوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زین جتنی ہے ۱۲۵ جو تیار کی گئی ہے پہنیزگاروں کے لیے وہ (پہنیزگار)

یہ سلسلہ تک جاری رہتا ہے ان تک کہ اصل رقم کسی گناہ پڑھ جاتی۔ جسے سودا سودا سودا سودا کہا جاتا ہے۔ اس خالماذ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تن آسانی، حرام خوری، عرض و بخل کے جذبات پر ورش پاتے ہیں تو قوم کے وسرے طبقہ میں حسد و عناد اور منافٹ کی ختم ریزی ہوتی ہے۔ وہ امّت جسے دنیا میں تبلیغِ توحید و برایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دیتا ہو اُس میں ایسے عناصر کو کب بروادشت کیا جاسکتا ہے جو حقیقی وحدت کو پارہ پارہ کر دیں۔ اس لیے انکی آئیوں میں یہاں تک فراوایا کہ اگر تم نے اس سودا کار و بار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

۱۲۵ بیشتر افراد اور قومیں اپنی فلاح و کامرانی کو دولت کی فراوانی میں مضر بھختی ہیں اور اس کے حصوں کے لیے جائز ناجائز، حلال و حرام کی تیزی کے بغیر کوشش لہتی ہیں میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دُور فرول کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا ہو جانا۔ حقیقی فلاح متفقین بننے سے نصیب ہوئی ہے۔

۱۲۶ یعنی ان اعمال کی بجا آوری میں تیزی کر و جو مفترض کے حصوں کے اسباب ہیں۔ ان میں سابقہ گناہوں سے توبہ، آئندگانہ ہوں سے اعتناب کا عزم، ہر قسم کے نیک کاموں کا بجا لانا سب داخل ہیں۔

۱۲۷ بعض کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی فی الواقع اتنی ہے جتنا آسمانوں اور زین کا مجموعی رقبہ ہے۔ اور چوڑائی کی فراخی اور وسعت کا یہ عالم ہے تو اس کی لمبائی کا کیا کہنا۔ لیکن علمائے لغت و ادب کی راستے ہے کہ لمع تقصد الایہ تحدید العرض و لکن ارادہ بن لک انہا و سع شیئی رای تموہ۔ یعنی یہاں جنت کے عرض کی مساحت کو آسمانوں اور زینوں کی مساحت کے برابر ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ بطرقہ استعارہ یہ بیان مقصود ہے کہ بتئی مساحت کا تم تصور کر سکتے ہو جنت اس سے بھی وسیع تر ہے۔

يُنِفِّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ

جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں ۱۸۲ء اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو ۱۸۵ء اور درگز کرنے والے ہیں

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا

لوگوں سے ۱۸۶ء اور اللہ تعالیٰ مجتہ کرتا ہے احسان کرنے والوں سے ۱۸۷ء اور یہود لوگ ہیں کہ جب کمزیخیں کوئی

فَارِحَشَةً أَوْ ظَلَمَوْا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذِنْبِهِمْ قَتْ

بُرَا کام یا نکلم کریں اپنے آپ پر (توفیر) ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معانی مالکی لگتے ہیں اپنے گناہوں کی ۱۸۸ء

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِفْ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ

اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوتا اس حال میں کہ

۱۸۲ء یہاں تسلیم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے جنت کی بھاریں پیش برآہیں۔ ان کی بھلی صفت یہ ہے کہ وہ خوش حالی میں اور تنگ دستی و افلاس میں اپنا عز و بزرگی مال اللہ تعالیٰ کی رضا بھونی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کون کمال تقویٰ کی واضح علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ کیونکہ اس سے پہلے سواد کا ذکر تھا جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کے کھایا جاتا ہے اور اس میں صدقہ کا ذکر ہے جس میں اپنا مال بغیر کسی ظاہری استحقاق کے غیر کو دیا جاتا ہے۔

۱۸۵ء کاظم غیظان کی دوسری صفت ہے غیظ شدت عذب کو اور کظم بھری ہوئی مشک کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں بعض اقویٰ ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر سان امور رومنا ہوتے ہیں جن سے انسان برا فر و ختنہ ہو جاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اُس کا دل برلنی ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصہ کوئی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔

۱۸۶ء اس کی تیسرا صفت عفو ہے عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر سان پر صرف خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ هو التجانی عن ذنب المذنب مع القدرۃ علیہ۔ یہ چیز کاظم غیظ سے اعلیٰ ہے۔

۱۸۷ء ان کی چوپتی صفت احسان ہے۔ پرمتر نام پہلے مرتب سے بلند تر ہے کہ انسان و نمیں سے انتقام بھی نہ لے۔ اسے دل سے معاف بھی کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کرے۔ اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کنم بدلت دیا۔ اور یہ بھی بتاویا کہ ان کو مجموعتیت کا شرف بخشتا جاتا ہے۔

۱۸۸ء ان کی پانچویں صفت طلب معرفت ہے۔ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے لیکن ان سے جو مسخر ہو جاتے تو فرما جس نہ ملت اُنھیں آیتا ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اُس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں

هُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَاحُ

وہ جانتے ہیں یہ وہ (نیک بخت) ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے اور جنت کے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدٌ يَوْمَ فِيهَا وَرَبِطٌ وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

روں ہیں جن کے پیچے نہ یاں ہمیشہ رہیں گے ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا

قُدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنٌ لَا فِسْرِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

گزر چکے ہیں تم سے پہلے (قوموں کے عرب و زوال کے) قاعدے نہ لے پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا بَيَانٌ لِلْكَافِرِ وَهُدًى

کیسا انجام ہوا (دعوت حق کو) جھٹلانے والوں کا یہ ایک بیان ہے لوگوں (کے سمجھانے) کے لیے اور بدایت

کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اُن کی یہ تو بحقیقی توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفار اللہ کے وردیں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے اس استغفار کا تفسیر اڑا رہے ہوں۔ فاحشۃ سے مُراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دُسروں تک پہنچے۔ اور ظلموں سے مُراد وہ گناہ ہے جن کا اثر ان کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ (بیضادی)

۱۲۹ آپ خود ادازہ لگاتے کہ جس شخص میں یہ خصال حمیدہ ہوں کیا وہ اپنے شر، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے باعث ہزار خرو بركت نہیں ہوتا بلکہ یوں کہیے کہ وہ سارے نوع انسانی کے لیے رحمتِ الہی ثابت ہوتا ہے اور وہ اس کا جائز مستحق ہے کاسے ادیشک الخ کا مژده سنبھال جاتے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ کامل معیار جس مسلمان کو پورا اُترنا چاہیتے۔ آخر وہ رحمۃ للعلیمین کا غلام اور اُمرتی ہے وہ کیوں نہ اپنے افکار کی رحمت کا آئینہ ہو۔ لیکن یہ

وائے محرومی مسٹار کارروں جاتا رہا کارروں کے لئے احساسِ زیاد جاتا رہا

۱۳۰ مِنْ سُنْنِ جَمِيعِ الْمُنْذَكِرَاتِ کی۔ اور سُنْنَتُ وَهُدَىٰ سُنْنَتُ ہے جو شاہراہِ عالم ہو۔ وہ طرزِ زندگی ہے جس کا ہمیشہ الاسترام اور پابندی کی جائے غزوہ اُحد کی تبلکفات، بدر کی فتحِ میان، سُودِ خوری کے فقصانِ عظیم اور مرومن کی صفات کا ذکر فرمائنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اس تھلکے ہونے صفحہِ پرتم سے پہلے گزری ہوئی اوقام کے حالات جلی قلم سے مرقوم ہیں۔ تم انہیں پڑھو فتح و قرخوئی کی عزت اُنھیں دی گئی جو ان صفات کے مالک تھے اور ناکامی و ذلت اُنھیں کے حصہ میں آئی جو ان سے محروم تھے۔ قدرت کے قوہیں بکیاں اور اُنہیں کسی کے لیے اُنھیں توڑا نہیں جاتا۔

وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرُجُوا وَآتُوهُمْ

اُور بصیرت ہے پرہیزگاروں کے واسطے اور نہ رحم کرو اہم اور مجھیں

الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ إِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ

سر بلند ہو گے اگر تم پتھے مومن ہو (اعمیں) اگر لگی ہے مجھیں پوٹ تو (بداریں)

مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَأْلِمْ بَيْنَ النَّاسِ

لگ پکی ہے (تحاری دشمن) قوم کو بھی پوٹ ایسی ہی اور یہ (باجیت کے) دن ہم پھر اتے رہتے ہیں انھیں لوگوں میں

اہم عمل اور راستے میں کمزوری کو وہیں کھتھیں۔ اور کسی عزمی اور سیاری چیز سے محرومی پر چوڑل میں الم پیدا ہوتا ہے اسے عُزُن کہا جاتا ہے۔ احمد بن پیش آنے والے ہوش زرباحداثات میں تھا کہ مسلمانوں کی کمزورت توڑ دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھراً اونہیں تمی غالب و منصور ہو گے اگر تم سچے ایمان دار ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد جب بھی باطل سے صحابہ کرام کی جنگ ہوئی صحابہ ہی فتح یا بہترے جتنی کہ ہر وہ شکر جس میں یا کسی صحابی بھی شامل ہوا اس نے کبھی شکست نہیں کھاتا۔ اور یہ صحابہ کرام کے مومن کامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بنی مولانا تبارک نے انھیں ایسے الفاظ سے خطاب فرمایا جن سے انبیاء کو مخاطب فرمایا۔ مولیٰ حلیۃ الاسلام کو ارشاد ہوا اُنک انت الاعلیٰ اور علامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا کو مژده دیا اُنکو الاعلون سُبحان اللہ اکیا شان سے غلامین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام کی۔

نیز اس سے یہی معلوم ہو گیا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ تو انہیں جس قوم کے افراد کے لوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے دنیا کو کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ مادی وسائل بھی اسی وقت کا رکن ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصود حیات پر حکم لئیں رکھتا ہو۔

حضرت بلاں نے دیکھتے انکاروں پر پیٹ کر، خبار ٹنے پھاشی کے تختے پر پسکرا کر، سیمیٹر نے نیڑہ سے اپنا جسم گھاٹل کر اکر اور یاڑنے داؤٹوں سے اپنا بدنا چوڑا کر جو عظیم فتح حاصل کی وہ فقط ان کے لئے ایمان اور ان کی قوت یقین کافی ضبان تھا۔ جب تک امانت مسلمه ایمان و ایقان سے بہرہ و رہی ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر اس کے قدم پوچھتی رہی۔ ہم مرکز نے اس ارشاد باری پر یہ تصدیقی ثبت کی و انتکو الاعلون ان کن تو مؤمنین۔ بذر، خندق، ہمنین کے غزوات، یامام، قادسیہ اور نہادنڈ کے معز کے، محمد بن قاسم، طارق، غزنوی اور بخاری کی فتوحات اور اولیاء کرام کی تبلیغی سرگرمیاں اور مجید العقول کامیابیاں عالم واقعہ میں وانتکو الاعلون ان کن تو مؤمنین کی کتنی حسین اور دلنش قسیریں ہیں۔

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا

اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جوابیان لاتے ہے اور بنائے تم میں سے پچھے شید ۱۵۲ اور اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلِيُمَحِّضَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَمْكُحَ

دوسٹ نہیں رکھتا تالمولوں کو اور اس لیے کہ بخوار دے اللہ تعالیٰ انھیں جوابیان لاتے اور مٹا دے

الْكُفَّارِينَ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ

کافروں کو کیا تم گمان رکھتے ہو کہ (ایونی) داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ الحی ویکھا ہی نہیں اللہ نے

الَّذِينَ جَاهَدُوا إِنَّمَا يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَقَدْ نَسِيتُمْ تَمْكُنَ

ان لوگوں کو جھنوں نے جہاد کیا تم میں سے اور دیکھا ہی نہیں (آن ماش میں) صبر کرنے والوں کو اور تم تو آرزو کرتے تھے

الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ ۝

موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو سو اب یکھلیتم نے اس کو اور تم (انھوں سے) مشاہدہ کر رہے ہو

۱۵۲ اے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا شہرخ کے ظاہر و باطن کا تفصیلی اور لقینی علم اذل سے حاصل ہے تو پھر ہیاں دیکھ لانے (ما کہ اللہ جان لے) سے کیا مراد ہے؟ علمائے کرام نے بڑی شرح وسط سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے بعض نے یہ فرمایا کہ یہاں مضات مخدوف ہے مقصد ہے دیکھو اولیاء اللہ عینی تاکہ اللہ کے دوست ہوں اور کافر کو جان لیں بعض نے کہا کہ یہ علم بعینی سیمیز دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو جہاد سے لیکن جھوک کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم و مطرح کا ہے۔ ایک تویر کہ مستقبل میں یوں واقع ہو گا۔ یہ علم تو اذل سے حاصل ہے۔ اس علم پر کوئی حرج نہیں مدد یاد مرتب نہیں ہوتی۔ لیکن حب کوئی معلوم چیز علم باری کے مطابق خالج میں موجود ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اب یہ چیز عدم سے وجود میں آئتی اور اسی علم پر جبرا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ یہاں آیت میں علم کا یہی معنی مراد ہے جسے علم ظہور کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قول الجسمہ و ران المراد بالعلم علم الظهور (المنار)

۱۵۳ اے شہداء سے مراد شہید ان جماد ہیں انھیں کے خون سے قوم و ملت کی تاریخ کو رنگی اور رعنائی نصیب ہوتی ہے اور شہداء سے وہ کاملین امت بھی مراد ہیے جاسکتے ہیں جن کامل اور سیرت اس دنیا میں اسلام کی حقانیت پر شاہد عدل ہے اور جن کا علم اور بصیرت قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر کوہ ہو گا جن کا ذکر لٹکونا شہدا علی الناس میں گزر چکا ہے۔

وَمَا هُمْ بِالْأَرَسُوْنِ قُدُّ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَيْنُ نَّكَاتَ

اور نہیں محمد مصطفیٰ مگر اللہ کے رسول ۱۵۲ میں گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کتنی رسول ہے ا تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں

أَوْ قُتِلَ اْنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقِبَيْكُهُ

پا شہید کر دیتے چاہیں پھر جاؤ گے تم اُلٹے پاؤں (دینِ اسلام سے) اور جو پھرتا ہے اُلٹے پاؤں

۱۵۸ جنگِ احمد میں جب خالد نے درہ کو خالی پاکر مسلمانوں پر تیجھے سے حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملہ سے خوف و ہراس کی لہڑوڑ گئی۔ ابن قمیت نے پھر ماں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شدید رنجی کر دیا تو یہ افواہِ اٹگی کہ حضور شمید کر دتے گئے۔ بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوس ان خطا ہو گئے بعض نے درہ مسلموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش عبد اللہ بن ابی ہماسے لیے اُوسفیان سے امان طلب کرے بعض منافقوں نے یہ پوپنگڈ اشرفت کر دیا کہ محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نبی ہوتے تو شمید کیسے کیے جاتے آؤ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن بعض ایسے جانیاز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن نضر لکارہ ہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آفانے جان دی اسی کے لیے ہم بھی اپنا سر قربان کر دیں حضور کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف؟ اگر رسول اللہ شمید ہو گئے تو کیا ہو ان کا رب قوزندہ ہے۔ یہ کہ کوئفار پر حملہ کر دیا۔ اور اُنھیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد صطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نے مسلموں نے حضور کی شہادت کی خبر سن کر جو کہ دوری و لکھانی اُس پر لڑتے لڑتے جام شہادت تو شکایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نے مسلموں نے حضور کی شہادت کی خبر سن کر جو کہ دوری و لکھانی اُس پر سے ہے۔ جب وہ فانی دُنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائیں تو یہ قائم ان کا دین چھوڑ دو گے۔ اور اسلام کی خاطر مرنابند کر دو گے۔ انسا کیا تو خود ہی نقصان، اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دن کو مجھے اسے کوئی ضرر نہیں رکھنے گا۔

۵۵۵- اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی توشیش کی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے فوت ہو چکے ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں۔ لیکن ان کا مدعاقوت ثابت ہوتا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے۔ قد مات من قبله الرسل یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ وفات پا چکے۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں قد خلت من قبله الرسل اور خلاف خلوکا معنی الگ ہو جانا علیحدہ ہو جانا ہے نہ کہ مر جانا۔ ابھی ایک آیت گزری ہے جس میں مُنَافِقِین ہیود کا ذکر ہے واذا خلوا عضوا علیکم الاذان مل اس میں خلوکا یہ معنی نہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں بلکہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو عصمه سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ کے واضح معنوں کی ایسی تحریف سے خدا بچاتے۔

فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْغًا وَسَيَجُزِيَ اللَّهُ الشَّكِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ

تو نہیں بکار سکے گا اللہ کا کچھ بھی اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ۱۵۶ء اور نہیں ممکن کہ

لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ كِتْبًا مَوْجَلًا وَمَنْ يُرِدُ

کوئی شخص مرے ۱۵۷ء بغیر اللہ کی اجازت کے لکھا ہوتا ہے (موت کا) مقر و قت اور جو شخص چاہتا ہے

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ

دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس سے

مِنْهَا طَوَّسَنْجُزِي الشَّكِرِينَ ۝ وَكَائِنُ مِنْ تَبِي قَتْلَ مَعَهُ

اس میں سے اور ہم جلدی اجر دیں گے (این شکر گزار بندوں کو اور رکنے ہی ۱۵۸ء بنی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ

رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا

بہت سے اللہ والوں نے سونہ ہمت ہاری اُنھوں نے بوجوں تکلیفوں کے جو پیغمبیر اُنھیں اللہ کی راہ میں اور نہ

ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا طَوَّسَنْجُزِي الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا

کمزور ہوتے اور نہ اُنھوں نے ہار مانی اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے (تکلیفوں میں) صبر کرنے والوں سے اور نہیں

۱۵۸ء یہی شکر گزار بندے ہیں جنھوں نے نعمتِ اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی اور اس کے لیے اپنی جان فر کر اس بے مثل نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔

۱۵۹ء یعنی موت کا ایک دن معین ہے۔ بُزُولی سے زندگی بڑھنیں سکتی اور شجاعت و دلیری سے گھٹ نہیں سکتی پھر جہاد سے جی چڑانے سے کیا حاصل؟

۱۵۸ء ”کائین“ کم خیریہ کے معنی میں ہے۔ اصل میں اسی تھا۔ اس پر کاف نشید کا داخل کر کے نوں تنویں کو نوں کی شکل میں لکھ دیا۔

”کائین“ اس میں مشہور لغت کائن بھی ہے۔ ربیوں کی رام پرتبیوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ زختری نے تو اس کا معنی رب والے ہی کیا ہے۔ وال ربیوں، الربانیوں (کشاف) لیکن علامہ قطبی نے اس کا دوسرا معنی ابوہ کثیر بھی لکھا ہے الربیوں

الجماعۃ الکثیرۃ۔ اس صورت میں اس کا واحد ربی ہے اور ربۃ بمعنی جماعت کی طرف منسوب ہے۔ اس آیت میں

كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

بختی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہاں گھوں نے اے ہمارے رب ابخش دے ہمارے گناہ ۹۵۶ اور جو زیادتیاں کیں ہیں

فِيْ أَمْرِنَا وَشِبْثَ أَقْدَ أَمَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ۴۴

پہنچے کام میں ۱۶۰ اور ثابت قدم رکھے ہیں اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر

بھی ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احمدیں ڈال گئے گئے کہ پہلے بھی انہیاں کے کرام اپنے صاحبہ سمیت کفر سے جنگ آ کر ماہر ہوتے نیکن دُوہ مصائب و شدائد میں گھرتے نہیں۔ اور تم تو خیر الامم ہو اور سید الرانبیاء کے غلام ہو۔ کیا تھیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبیت کے لحوں میں ثابت قدم نہ ہو۔

۹۵۷ کتنی پاکیزہ دعا ہے۔ اور اس کے سارے جو جگہ کتنے معنی خیز، دلکش اور یوں انتاشیر ہیں۔ ایجاد میں ان انور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنتے ہیں۔ قوم اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ دشمن جب اس پر پلہ بولتا ہے تو تائید رہیاں اس کی سیست پناہی نہیں کرتی اور وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ الہی اہم سے جو گناہ اور قصور سرد ہوتے ہیں وہ معاف فرمادے اور ہم پر راضی ہو جا نیز بسا اوقات دشمن سے بردآذنا ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ فوج کی عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے۔ جدید اسلام کی ساخت اور فراہمی کا بندوبست نہیں ہو پاتا۔ جنگ کا منصوبہ پوری، محنت اور ہوشمندی سے تیار نہیں کیا جاتا۔ یہ چیزوں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ ان کو تاہیوں اور غفلتوں سے بھی عفو و درگذر کی التجاکی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے۔ یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی جس امانت کے پاس ایسی کتاب ہو جو نہ خود حقائق سے انعامض کرتی ہو اور نہ اپنے مانسے والوں کو اس غلط راستہ پر چلنے کی اجازت دیتی ہو۔ وہ امانت اگر طفیل تسلیوں میں مبتلا رہے اور جھوٹی امیدوں کی بُنیادوں پر ہوائی قلعے تعمیر کرنی رہے تو اس سے زیادہ المذاک ساختہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

۹۵۸ و اس افنا فی امرنا سے یہ قصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مضم کے لیے تیار ہونے میں بخلفت اور تسلیم ہو گیا جس کی وجہ سے فتح و کامرانی کے ظاہری اسباب کی تکمیل میں کمی رہ گئی اس سے عفو و درگذر کی التجاکی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہیں تو کل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب میتا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ طَوَ اللَّهُ

تو نے دیا ان کو ۱۴۱۔ اللہ تعالیٰ نے دُنیا کا ثواب (یعنی کامیابی) اور عدُوں کا ثواب خرت کا (یعنی یقین جنت اور لذتِ صل) اور اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ

محبت کرتا ہے نیکو کاروں سے آئے ایمان والوں ۱۴۲۔ اگر پیر وی کرو کے تم

كُفَّرُ وَ اِيْرَادُ وَ كُرْ عَلَى آعُقَلِكُمْ فَتَنْقِلِبُوا خَسِرِينَ ۝ بِكَلِ اللَّهِ

کافروں کی توڑہ پیشہ دیں گے تھیں اُسٹے پاؤں (کفر کی طرف) تو تم لوڑ کے نقصان اٹھاتے ہوئے بلکہ اللہ

مَوْلَكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ الْبَصَرِينَ ۝ سَنْلُقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

حاجی ہے تھا را اور وہ سب سے بہتر مدد فرمائے والا ہے ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں

كُفَّرُ وَ الرُّعْبُ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ

یہ ۱۴۳۔ رُعب اس یہے کہ انہوں نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ کوہیں کے یعنی تاری اللہ کوئی دیں اور

۱۴۴۔ ثواب دُنیا سے مراد فتح و فخر، رُعب و بدبرہ اور تحسین و آفرین ہے۔ اور ثواب آخرت سے مقصود جنت، ضائقے الہی اور لذتِ صل ہے۔

۱۴۵۔ پہلی آیت میں انہیاً تے سابقین کے الصار و اعون کی اقتدا کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا گیا۔ یونکہ ان کی اطاعت کا تیجہ یہ ہو گا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتے گا۔ یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی پڑ جاتے گی۔

۱۴۶۔ اس کا مظاہر و جنگ احمد میں ہی ہو گیا۔ کفار نے پٹ کر عقب سے حملہ کر مُسْلِمَانوں کو سراسرید کر دیا تھا ان کی صفائی رہم برہم ہو گئی تھیں۔ ان کی بکثیر تعداد شہید اور فوج کا بشیر حصہ بُری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اگر وہ اُس وقت مدینہ پر یلیخا کرتے تو ظاہری

حالات ایسے تھے کہ شاید انہیں کسی قابل ذکر مراجحت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا منزوب اور خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے وہ محض کوپا تیر تک پہنچانے کے لیے وہ پورے طمافق سے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لاتے تھے اس کو نامکمل چھوڑ کر واپس ہونے میں ہی اپنی عافت سمجھی۔ راستے میں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ وہ اپنے کام کو ادھوڑا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کا قصد بھی کیا لیکن نہست نے جواب دے دیا۔

مَا وَهُمُ الظَّارِفُ وَبِئْسَ مَتْوَى الظَّالِمِينَ^(۱۵) وَلَقَدْ صَدَ قَكْمُ

اُن کا ٹھکانہ آش (جہنم) ہے اور بہت بُری جگہ ہے خالموں کی اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے

اللَّهُ وَعَلَهُ أَذْتِقُونَهُمْ بِمَا ذَنَبُوا حَتَّىٰ إِذَا فَسَلَّمُوا وَ

اللہ نے اپنا وعدہ ۱۴۲ کے جب کہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم بُرول ہو گئے اور

تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَكْمُتُمْ قَاتِلُوْنَ

بھکر لئے لگے رسول کے حکم کے بالے میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے کھادیا تھا تمھیں جو تم پسند کرتے تھے

اُمّا زَنْمُ خُرُودُ مُسْلِمَانُوْنَ نے اپنے بُنی کی قیادت میں مدینہ سے سَهْلِ مِيلِ دُورِ حِرَمَةِ الْاسْتِكَ اُن کا تعاقب کیا۔ رُعَبْ بھی فتحیانی کا بہت بڑا سبب ہے۔ بسا اوقات دُشمن لڑے بغیر تھیارِ داں دیتا ہے۔ اور حضور بُنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیت میں سے یہی ہے کہ دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہر اسال رہتا تھا۔

۱۴۲ امام بخاری نے براہین عاذب سے جنگ اُحد کا چشم دید حال روایت کیا ہے جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ ہو:-

بِرَاثِبِنِ عَازِبٍ فَرِمَاتَهُ مِنْ - اُحد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور نے تیر اندازوں کے ایک دستہ کو عبد اللہ بن جبیر کی امارت میں درہ پر مستعین فرمایا اور انھیں حکم دیا کہ جا ہے ہم فتح ہو یا شکست تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑو۔ نہ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے فقار کو بھاگنے پر جموکر دیا ہم نے اُن کی گورنوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر خواس خختہ ہو کر بھاگ رہی ہیں۔ انھوں نے پانچے اور چھڑھاتے ہوئے ہیں۔ اُن کی پنڈلیاں بڑھنے ہو رہی ہیں اور اُن کی پانیبیں نظر اڑ رہی ہیں۔ جنگ کی ریخالت تھی اور مسلمانوں نے غنیمت کھانا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے دستہ نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شرکیک ہوتا چاہا۔ عبد اللہ بن جبیر نے انھیں کہا کہ ٹھیہ و اکیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمھیں حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سے ہر گز نہ ہٹلنا۔ لیکن وہاں نہ ٹھیہ رہے۔ کفار نے بیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے۔ براہین فرماتے ہیں کہ ابوسفیان نے اُوچی جگہ کھڑے ہو کر حضور مصطفیٰ کا نام پاک لے کر پوچھا۔ کیا تم میں محمد (فداہ اُتی وابی) ہیں؟ حضور نے جواب دینے سے منع فرمادیا اس نے یہ سوال تین بار دہرا یہ پھر اس نے تین بار پوچھا کیا تم میں اُن ابی تھا فر (ابو بکر) ہیں؟ پھر بھی جواب دینے سے حضور نے روک دیا۔ پھر اس نے تین بار پوچھا۔ کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر بھی جواب کی اجازت نہ ملی۔ ابوسفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر (خوشی سے) کہا کہ یہ تینوں تو قتل ہو گئے۔ اب حضرت مصطفیٰ سے ضبط نہ ہو سکا آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ پکتے ہو شجھے ذلیل و رسول اکرئے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں باقی رکھا ہے۔ پھر اس نے نعمہ مارا اعلیٰ ہبل۔ ہبل کی جسے احضور نے فرمایا۔ تم کو

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ

بعض تم میں سے ۱۶۵ طبلگار ہیں دُنیا کے اور بعض تم میں سے طبلگار ہیں آخرت کے پھر

حَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَّ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو

پیچھے بٹا دیا تھیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تھیں اور بے شک اُس نے معاف فرمادیا تم کو ۱۶۶ اور اللہ تعالیٰ بت

فَضْلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۶۷ اذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى

فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر یاد کرو جب تم دُور بھاگے جا رہے تھے ۱۶۴ اور مُرط کر دیجئے جی

أَحَدٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِكُمْ فَإِذَا كُمْ غَمَّا بِغَمٍ

نہ تھے کسی کو اور رسول کریم ۱۶۸ مُلا رہے تھے تھیں پیچھے سے پس اللہ نے پہنچایا تھیں غم کے بدیع غم ۱۶۹

اللہ اعلیٰ واجل اللہ بلند اور بزرگ ہے۔ پھر ابوسفیان نے ازراہ غور کہ الملاعنى دلاعنى لکو ہمارا عزی ہے اور تھارا کوئی عزی نہیں جھوٹو علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم کہو اللہ مولا نا ولا مولا لاکر امدادگار ہے اور تھارا کوئی مددگار نہیں ۱۶۰ اب یہ آیت مزید کسی تشریح کی محتاج نہیں۔

۱۶۵ اس سے مراد وہ تیرانداز ہیں جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ گئے اور منکم من یوں اخیرت سے مراد حضرت عبد اللہ بن جبیر اور اُن کے وہ دس ساختی ہیں جو اپنی جگہ پر جے رہے اور شہید ہوتے۔

۱۶۶ ام زبردست سرزنش کرنے کے بعد اب اُن کو یہ مژده مُسایا جا رہا ہے کہ تھاری اس خطا کو تھارے مولا کریم نے معاف فرمادیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن سے یہ لغزش ہوتی وہ مومن تھے اب جب اللہ تعالیٰ اُنھیں مومن کہے اور اُن کی لغزش کو معاف کر دے تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہو کہ ان نقویں قُوسیہ کے امیان میں شک کرے یا اُن پر زبان طعن و راز کرے۔

۱۶۷ زین میں دُور تک دُورے چلے جانے کو اسعاد کہتے ہیں۔ الاصعاد الذ هاب والابعاد في الأرض (بیضاوی) ابو حاتم نے کما کہ بلندی پر چڑھنے کو صعود اور ہوا زین اور وادیوں میں چلنے کو اسعاد کہتے ہیں (قرطبی) اُحدیم مسلمانوں کی افراد فرقی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔

۱۶۸ وہ سبھیں کے ناگہانی و مطر فحمد سے بودھشت اور خوف پھیل گیا تھا اس میں بڑے بڑے بھادروں کی کمیت لٹٹ گئی۔ پاؤں ٹکڑا گئے۔ اور جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے یہکن اللہ کا پیارا محبوب اور سچا رسول پھاڑ کی طرح

لَكِيلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ

تکہ تم نہ علیگین ہوتے اس چیز پر جو کوئی ہے تم سے اور نہ اس صیبتو پر جو یقینی ہے تھیں اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ تُرَأَنُّ لَعْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةٌ

جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اماری اللہ تعالیٰ نے تم پر اکاں غم و اندوہ کے بعد راحت (یعنی)

نَعَسًا يَعْشِي طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهْمَتُهُمْ


عنودگی جو پھارہی بھتی ایک گروہ پر تم میں سے اور ایک جماعت ایسی بھتی جسے فکر پڑا ہوا تھا (صرت)

انی جگہ پر جارہا نہ دل میں ہراس، نہ پھرہ پر ما یوسی، نہ زبان پر شکوہ اور نہ حرکات میں بے ضابطی۔ شجاعت رسالت اور وقارِ نبوت کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا صرف بارہ جان شمار پاس میں اور دشمن کا مددی دل شکر چاروں طرف سے امدا جلا آ رہا ہے لیکن یہاں پیشانی پر تک نہیں۔ اس وقت بھی زبان پاک سے الی عباد اللہ الی عباد اللہ آسے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اسے اللہ کے بندو میری طرف آؤ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔

۱۶۹ یعنی تم نے حکم نبوی سے سرتباں کر کے حضورؐ کو رنج پہنچایا۔ اس کے بعد تھیں بھی غم سے دوچار ہونا پڑا جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ تعداد کثیر شہید ہو گئی اور حضورؐ کی شہادت کی خبر و حشت اثر نے دنیا ہی تاریک کر دی۔

۱۷۰ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یعنی پر غم، رنج پر رنج اس لیے دیا کہ تم ان کے خوکر ہو جاؤ اور آئندہ کبھی ایسی صورت پیش آئے تو صبر و استقامت سے کام لو۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ لقد عفاف عنکم سے متعلق ہے یعنی اس لغرض کے باوجود تھیں معاف اس لیے کہ دیا کہ غلطی کا احساس تھیں ہمیشہ حزین و غمگین نہ بناتے رکھے۔ احسان خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے عفو و کرم کا مردم لگادیا۔ علامہ قرطی نے اسی کو پسند کیا ہے۔

۱۷۱ احمدیں جب جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے۔ تھکن سے جوڑ جوڑ ٹوٹ رہا تھا۔ عزمی احباب کے لاشے خاک خون میں ٹوپ رہے تھے۔ ہر طرف خوف و ہر اس پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلص موندوں پر غنوڈگی طاری کر دی جس سے پھر یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ ہم اونگھنے لگے۔ یہاں تک کہ تی بالتو امیر سے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے بینجا لال۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا واقعی ایک بڑی نعمت ہے۔



أَنفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ

پنچاںوں کا ۱۴۲ءے بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ عدم جاہلیت کی بدگمانی کرتے

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ طَ

کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دش ہے آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے

يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبَدِّلُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ

پچھاتے ہوتے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر کہتے ہیں (اپنے دلوں میں) اگر ہوتا

لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ عَمَّا قَاتَلَنَا هَنَّا طَقْلُ لَوْكَانَ فِي

ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں (اس بے ردی سے) آپ فرمائیے کہ اگر تم (بیٹھے) ہوتے تو ۱۴۳ءے

بُوْتَكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

پنچھوڑیوں میں تو ضرور نکل آتے (وہاں سے) وہ لوگ لکھا جاچکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف (یہ سارے

وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

مصطفیٰ بس لیے تھے) تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمھارے سینیوں میں (چھپا) تھا اور صاف کر دے جو (میل کجیں) تمھارے دلوں میں تھا

۱۴۴ءے منافقین کی تین سوکی نفری تو این ابی کے ساتھ راستہ سے ہی لوٹ گئی تھی۔ لیکن ایک مختصر سی جماعت (معنی بن قشیر اور اس کی پارٹی) ساتھ تھی۔ انھیں نیزد کے لطف سے ہجروم رکھا گیا۔ کیونکہ انھیں نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سلامتی کا فکر تھا اور نہ کامیابی کا خیال۔ انھیں صرف اپنی پڑی بھی کہ وہ کیس زندہ و سلامت گھر پہنچیں۔ لیکن جب جنگ کا پانسہ پٹ گیا تو ان کا چھپا ہوا الفاق اور اسلام ٹہنی ان کی زبان سے ظاہر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جو کچھ بے سر و پا تھیں انھوں نے لیکیں۔ ان کو قرآن نے وضاحت سے ڈکر دیا۔

۱۴۵ءے یعنی جب موت کا وقت ہیجین آ جاتا ہے تو انسان اپنی قتل گاہ کی طرف خود بخود کچھ چلا آتا ہے۔ وہ لاکھ کتراتے لیکن تقدیر اسے پا جو لال لے ہی آتی ہے۔

وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ

اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے سینوں کے رازوں کا کام بے شک وہ لوگ جو پیغمبر پھیر گئے تھے تم سے ہے

يَوْمَ الْتَّقْيَىِ الْجَمِيعُ لَا يَمْأُلُونَ إِنَّمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضْ مَا كَسَبُوا

اُس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں شکر تو پھر ادا دیا تھا انھیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے

وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

او بے شک (اب) معاف فرمادیا ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں یقیناً اللہ بہت سچنے والا نہایت علم والا ہے آے ایمان والو!

۱۴۷ اب پھر خطابِ مومنین صادقین سے ہے کہ ان مصیبتوں کی بھی میں تھیں اس لیے ڈالا گیا کہ کھوٹا کھرا لگا لگا ہو جائے اور لغزش کا میں کچل دھل جائے۔

۱۴۸ اس افترفی میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے انھیں پہلے مژده سنا یا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاون فرمادی۔ ان کی مزید تسلیم خاطر کے لیے اسی خوشخبری کو دہرا بجا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی۔ توحضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ تھیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے برا بھلا کہو۔ کیونکہ میں بدرا میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے میں نے بیعتِ رضوان کی اور آپ نے نہیں کی۔ اور میں اُحد میں ثابت قدم رہا اور تم نہ رہے۔ توحضرت عثمان نے جواب میں فرمایا کہ غزوہ بدرا میں میری غیر حاضری کی خاص وجہ تھی۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاحبزادی (ان کی زوجہ محترمہ) بیمار تھیں اور میں ان کی تیار داری اور خدمتِ گزاری میں زہا اور حضور کریم نے مجھے مجاہدین بدرا کے سے احر کی خوشخبری بھی دی اور مال فتحیت سے مجھے ان کے برابر حصہ ملی دیا بیعتِ رضوان کے وقت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سفیر کفار کا کے پاس گیا ہوا تھا اور جب تم لوگ بیعت کر لے تو حضور نے اپنا دیاں ہاتھ اپنے باشیں ہاتھ پر کھڑکر فرمایا ہذ کا عثمان کی طرف سے ہے فیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شملہ خیری من یعنی دشمنی۔ میرے دامیں اور باشیں ہاتھ سے سر و بعل کا دیاں دیاں ہاتھ میرے لیے ہزار درجہ بتر ہے۔ باقی رہا غزوہ اُحد کا حادثہ تو اس کے متعلق خود اللہ کریم نے فرمایا لق عفالتہ عنہم کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں سخشن دیا۔ یہ سکت جواب سُن کر حضرت عبد الرحمن کو خاموش ہونا پڑا۔

أَمْنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِلَّا خُوَانِهِمْ إِذَا أَضْرَبُوا

۱۶۷ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنمول نے کفر اغتیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے

فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا أَغْرَى لَوْكَانُوا عِنْدَ نَامَاءِ مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

کسی علاقہ میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذِلِّكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمِدِّتْ

تاکہ بنائے ۱۶۸ اللہ تعالیٰ اس (خیال باطل) کو حسرہ کا باعث، ان کے لوگوں میں اور (درحقیقت) اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور یا نہ سے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ ۱۶۸ اے راہ خدا میں

۱۶۹ مَنْافِقِينَ جُواپِنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چاہے کا دعویٰ کیا کرتے وہ اپنی بُزدی اور نامردی کو جرم و احتیاط اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق سرفوشی کو دیوانی سمجھا کرتے۔ اور جب کوئی مسلمان جہاد میں جام شہادت نوش کرتا تو روشنی صورت بننا کر شیرخواہی کے انداز میں کہا کرتے کہ کاش یہ ہمارے بھائی جو جنمولوں میں کٹ کٹ کمر رہے ہیں ہماری طرح اڑام سے گھروں میں پھیرتے تو کاہے کو میں صیبت آتی۔ بچے قیم ہوتے بیکم کا سماگ اُجڑا۔ ماں کی دُنیا تاریک ہو گئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار فرمان رہے ہیں کہ ان مکاروں کے فریب میں نہ انا۔ موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں ہیں ہیں چاہوں تو ٹھہر میں رُوح قبض کرلوں اور چاہوں تو ٹھہسان کے رن میں جہاں گولیاں برس لہی ہوئی ہیں۔ تو پیں دھاڑ لہی ہوتی ہیں اور دشیار کے بھوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں بچاکوں۔

۱۷۰ حضرت یہ بھی کہ مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ باب شہید ہو چکا ہے اور بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رُخ کر رہا ہے۔ بھائی سر کٹا چکا ہے اور دُوسرا بھائی خون شہادت سے سرخ ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ماں اپنے ایک شہید بیٹے کو سپر دھاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دُو دھکی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پخود اور ہاتھ میں تنوار دے رہی ہے۔ ان منافقین کے لیے اس سے زیادہ حضرت آمیز اور الم انگریز کیا پیغمبر موسیٰ تھی ہے۔

۱۷۱ پلے تو یہ ضروری نہیں کہ جو گھر پر ہے گا وہ مرے گا نہیں اور جو جہاد کے لیے جاتے گا وہ ضرور مرے گا۔ اور اگر اسلامیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ سودا بڑا سودا مند ہے۔ اس حیاتِ فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آجائے تو پھر اور کیا چاہیے۔

أَوْ مُتَّهِمٌ لِمَغْفِرَةٍ وَّمِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ هُمَا يَجْمِعُونَ^(۱۷)

یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت (جو تھیں نصیب ہو گئی) بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور

لَكِنْ مُتَّهِمٌ أَوْ قُتِلُتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُخْشِرُونَ^(۱۸) فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ

اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع یکے جاؤ گے^(۱۹) ام پس (صرف) اللہ کی رحمت سے اے

اللَّهِ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا

آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے اور اگر ہوتے آپ تنہ مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءُرُهُمْ فِي

آپ کے آس پاس سے تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیئے ان کے لیے اے اصلاح مشورو کیجیے ان سے اس

۱۷ ان اس کا یہ طلب نہیں کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں دو رہیں اور قیامت کے روز ہمیں اس میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ جہاں ہم خدا کے رُدِیو ہوں گے ہم تو اب بھی اس سے دو رہیں۔ اور وہ اب بھی ہماری شرک سے قریب تر ہے لیکن آج ہم طرح طرح کی مشغولیتوں میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس قرب کا احساس نہیں رہا۔ اس طرح ہم اس سے کو یا بہت دو رہیں لیکن قیامت کے روز سارے مشاغل ختم ہو جائیں گے۔ اور قربِ اللہ کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے اور ہم اعتراف کریں گے کہ اب ہم اس کے رُدِیو کھڑے کر دیتے گئے ہیں۔

۱۸ اے ما موصولہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے اسی لیے میں میں "صرف" کا الفاظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان قصور و اروان کو ہمن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی سزا تو کجا سرزنش تباہ بھی نہ کرنا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الفاظ محبت سے پیش آئنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصرف فرمایا تھا۔ اگر حضورؐ کا حوصلہ اتنا ویسیع، رحمت اتنی عام اور حضور مسلم اتنا بے پایاں نہ ہوتا تو حق کے ملابشوں کا اتنا جھٹکا کیسے ہوتا۔ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے دو رہا گا جاتے۔

۱۹ اے حق تعالیٰ نے نہایت عجیب و غریب پیرا یہیں ان کی سفارش کی: "رشیح المند" فاعف عنہم و استغفر لهم میں اپنے رسول کو فرمایا کہ ان سے بونظر ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف کر دیجئے اور میری جانب میں بھی شفاعت کیجیئے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ سچان اللہ کیا شان ہے صحابہ کرام کی اور کتنا بلند مقام ہے ان کے بھی مکررہ کا۔ اور کیا کہنے مولائے کرم کی رحمت کے جو اس نے اپنے محبوب اور اس کے ذریعہ اپنی سب مخلوق پر کی۔ اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کہنگا وہ

الْأَمْرُ فَإِذَا أَعْزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^(٦)

کامیں ۱۸۶ء اور جب آپ ادا کر لیں ۱۸۳ء (کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے

إِنْ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَمْنَعْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

اگر مدفرماتے تھاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر اور اگر وہ (سامنہ) چھوڑ دے تھارا تو کون ہے جو

يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوْكِلِ الْمُؤْمِنُونَ^(٧) وَمَا

مدد کرے گا تھاری اس کے بعد اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتے ایمان والوں کو اور نہیں ہے

کے گناہ بخششے کے لیے ہمارے دھکر درد دو رکنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا حضور کو وسیلہ سمجھنا اور حضورؐ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجاکرنا شرک نہیں عین اسلام ہے اور قرآن کی تعلیم ہے۔

۱۸۲ء امام ابی عبد اللہ القاطریؑ نے اس قوام پر خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔ قال ابن عطیہ والشودی من فتواعد الشریعة و عزائیز الاحكام و من لا یستشیر اهل العلم والدين فعزله واجب مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے۔ اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رانی سے کام لیتا ہے اسے معزول کر دینا لازمی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ علماً اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماً سے ہمچنین امور میں قائمین لشکر اور ماہرین حرب سے، عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سردار ان قبائل سے اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقلمند وزراء اور تحریکار عہدہ داروں سے مشورہ کریں۔ اور بنی اکرم کو مشورہ کرنے کے حکم کی سمجحت بیان کرتے ہوئے علامہ قطبی ذرا تھے ہیں ما امر اللہ بنیہ بالمشاورۃ لالجاجة منه الی رائیهم و انما ارادات ان یعلم لهم ما فی المشاورۃ من الفضل ولتقدي

بہ امتنہ من بعد لا یعنی اللہ تعالیٰ لئے اپنے بنی کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضورؐ کو ان کے مشورہ کی ضرورت بتتی بلکہ اس میں سمجحت یہ تھی کہ انھیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جاتے۔ نیز یہ کہ مشورہ سنت بنوی بن جاتے اور امانت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی بھی تھی ہے کہ تطییبۃ النفوس و هد رفع العقاد را دھم صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و متریلت کو بڑھانا بھی قصود تھا۔

۱۸۳ء خوب غور و فکر، بحث و تجھیس کے بعد جو فیصلہ کیا جاتے اس کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عدم کہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی کام کے کرنے میں لگ جاناعزم نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علمائے لغت نے لکھا ہے العزم والحزم واحد توکل کا اسلامی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے مقصودیہ ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد پھر تذبذب کا شکار ہو جانا پیغمبرؐ کی شایان شان نہیں اور نہ مومن کو ایسا کرنا زیبا ہے کیونکہ اس سے دل میں کمزوری اور مزاج میں تلوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔

کَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمَ طَوْمَ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

کسی بھی کی یہ شان کہ خیانت کرے ۱۸۴ء اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اے آتے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت دن

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسْبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ أَفَمَنِ

پھر پورا پورا بدلمہ دیا جاتے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر غلام نہ کیا جاتے گا تو کیا جس نے

اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ حَمَنٌ وَطَ

پیر وی کی رضاۓ الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو سیدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا اور اس کاٹھ کا ہبنم ہے

وَبَئْسَ الْمَحْسِيرُ ۝ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

اور یہ بہت بُری پلٹنے کی جگہ ہے لوگ درجہ درجہ بین اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ

۱۸۴ء احمد کے دڑہ پر تین تن اندزوں نے جب دوسرا مسماں اول کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ

کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور فرمادیں من اخذ شنبی افہولہ جس نے جو چیز لے لی اُسی کی ہو گئی اور ہم بالکل محروم رہیں۔ یہ خیال کر کے اپنی بچگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے حضور علیہ السلام نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس وقت بُنی کریم نے ان کے دل کی بات کہ دی اظنت حداں نافل ولا نفسو لکھ کیا تم یہ خیال کرتے تھکر

ہم خیانت کریں گے اور تھیں کچھ نہ دیں گے اور اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ علٰی کہتے ہیں مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی

چیز چھپا کر لے لینا۔ اس آیت میں اس چرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کرے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے جب شیر پر حضور کریم نے حملہ کیا تو ان دونوں میں ایک شخص جس کا نام نہیں لیا گیا، وقت ہو گیا حضور کی خدمت میں حمازہ کے لیے عرض کی گئی۔

تو رحمت عالم نے فرمایا صلوٰ علی صاحبِ جم، جاؤ تم اس کی مازِ حمازہ پڑھ دو صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت بدل گئی تو حضور نے

فرمایا ان صاحبِ کو عمل فی اللہ کھوارے اس ہماری نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہم ہیران ہو گئے۔ اور جب اس کے مال کی تلاشی لی فوج دلخراز من خرز یہود لا یسادی درہمیں تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند منکے ملے جن کی قیمت دو درہم سے بھی کم تھی (اوہ داؤد) اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں معنوی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور

جسے رحم دل بھی نہ بھی اس کی مازِ حمازہ نہیں پڑھی۔ نیز یہ بھی بتہ چلا کہ نگاہ بُنوت سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ نہ تھی۔

يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

کرتے ہیں یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مونوں پر ۱۸۵ جب اس نے بھیان میں ایک رسول

مَنْ أَنْفَسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَبْيَهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ

انھیں میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آئیں اور پاک کرتا ہے انھیں اور سکھاتا ہے انھیں قرآن

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَغْيٍ ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٤٢﴾ أَوْلَئِنَّا

اور سُنّت اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں تھے یا جب

أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتُمْ مُّشَكِّلَةً أَقْلَمُ أَنْهَا قُلْمَانِيْهِنَّا هَذَا قُلْمَانِيْهِنَّا

پہنچی تھیں ۱۸۶ پھر مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو (دشمن کو) اس سے دُکنی تو تم کہ اُنھے کہاں سے اپنی مصیبت؟ فرمائیے

هُوَ مَنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا

یہ تھاری طرف سے ہی آئی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مصیبت

۱۸۵ مان درندہ صفت انسان کیونکر فرشتہ سیرت بن گے جھیں کوئی اپنا غلام بنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ آئین جہان بانی ہیں دنیا بھر کے اُستاد ہو گئے جن کی لھٹی میں شراب بھی خلم و ستم جن کا شعار تھا۔ اور فروشک اور فرش و خور کے گھاؤپ انہیوں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب کیونکر آیا۔ جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور کیا ہے فیسی اس نبی معلم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ ترقیت نفس اور تربیت صاحب سے یہ مبارک انقلاب روپیزیر ہوا۔ ان الفاظ پر حاشیہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

۱۸۶ اداً عطف کے لیے ہے اور ہمہ استفهام کے لیے۔ اُحد کے میدان میں مسلمان ازاہ تعجب کرنے لگے عجب بات ہے ہم حق پر ہیں۔ راہ غُرامیں جہاد کرنے نکلے ہیں اور رسول غُرامی ہم میں موجود ہیں۔ اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزمیت اُھانا پڑی جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم اگر تھیں آج تخلیف پھی۔ اس سے پہلے تم ان پر دُکنی ضرب لگا چکے ہو۔ تم نے بدیں ان کے ستر سردار قتل کیے اور ستر کو قیری بنا لیا تھا۔ اور اس پسپانی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھیں۔ تم میں بعض نے ہمارے رسول کے حکم سے ستری کی اور تم سب کو اس کامرا چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبیر سے کام لینے میں سُستی کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح کہ ہم اہل حق ہیں اپنی کامیابی

أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقْرِيرِ الْجَمِيعُنْ فَيَرَدُنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ^(۴۷)

جو پہنچی بھی تھیں اُس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں شکرتوہ اللہ کے حکم سے ۱۸۷ءے پہنچی تھی اور مقصیدہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مونوں کو

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَافَرُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوَا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ

اللَّهُ أَوْدُفُوا طَالُو الْوَنْعَلَمُ قَتَالًا لَا اتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلَّهِ كُفَّارٌ

میں یا پھاڑ کرو (ایسے شہ کا) بولے ۱۸۸ءے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہو گئی تو ہم ضرر تھا ری بیڑی کرتے۔ وہ کفر سے

يَوْمَئِنْ أَقْرَبُ هِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ يَا فَوَاهِمْ مَا لَيْسَ

اُس روز زیادہ قریب تھے بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے (ایسی باتیں) جو نہیں ہیں

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ^(۴۸) **الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانَهُمْ**

اُن کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ خوب ۱۹۱ءے جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جخوں نے ۱۹۲ءے کہا اپنے بھائیوں کے باہر ہیں

کا لیکھن کر لیتے ہیں اور ظاہری قاعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اُنھیں اس آیت پر مکر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے ٹھوکی سی فروگزاری شدت ہو گئی تو انجام کیا ہوا بلکہ اہل حق کو توبہت محظاۃ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی ہی نہیں بلکہ حق کی کامیابی بھی ہے اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے ۱۸۷ءے اذن سے مُرَادِ بقضائے و قد رہ "قرطبی، اللہ تعالیٰ کی فضلا و قادر ہے۔

۱۸۸ءے علم کا مفہوم ہے تینیز کرنا یا جنادینا یا ظاہریں واقع ہونا۔ اس کی وضاحت ابھی گزوری ہے۔

۱۸۹ءے جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے سے چار گناہ مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس شکر کے ساتھ کھلے میلان میں نکل کر طوکر لینا لڑائی نہیں بلکہ خود کشی ہے جنگ میں تو تھا راس اسکتھی نے کے لیے آمادہ ہیں لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو بلاکت کے گڑھ میں گرانے کے لیے تیار نہیں۔ ولکن ما انتم علیہ لیس بمقابلہ مل القاء بالنفس الی المثلکة۔ (بینا وی)

۱۹۰ءے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت سے پہلوتی کی اصلی وجہ ان کا نفاق تھا جسے وہ اپنے ول میں چھپاتے ہوئے تھے دُوری باتیں تو ملکع سازی کے لیے تھیں۔

۱۹۱ءے اُن کے نفاق کی دُوری ملکی علامت اُن کا یہ قول ہے۔

وَقَدْ فَلَوْا أَطْعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرُءُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ

حال انکروہ خود (لگھ) بیٹھے تھے کہ انکروہ ہمارا کہما منتے تو زندہ جاتے آپ فرمائیے ذرا دوڑ تو کر دکھاؤ ۱۹۲ اپنے آپ سے

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِّيقِينَ ۝ وَلَا تَحْسِبُنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي

موت کو اگر تم سچے ہو اور ہرگز یہ خیال نہ کرو ۱۹۳ کروہ جو قتل کیجئے گئے ہیں اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا طَلَبَ آحِيَاءً عِنْدَ رَبِّ الْمِرْءَاتِ ۝ فِرَحِينَ ۝

کی راہ میں ۱۹۴ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ۱۹۵ اپنے رب کے پاس را اور رزق دیتے جاتے ہیں شاد ہیں

۱۹۶ یعنی اگر تم اتنے زیریک اور دانہ ہو کہ اپنے ناوک تدبیر سے عقاب تقدیر کو گھائیں کر سکتے ہو تو ذرا خود کو موت کے آہنی پنجہ سے چھپڑا کر دکھاؤ۔

۱۹۷ ولا تحسین الحسورة البقرہ کی آیت ۱۹۸ میں تو یہ فرمایا کہ زبان سے مت کو کوکہ شید مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ گمان نہ گزرے کہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذر ان پیش کرنے والے مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اور انھیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی اطف و احسان سے انھیں نوازا ہے اس پر وہ خوشی سے چھپو لئے ہیں سماتے۔

البتہ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے باورہ ہے۔ اور کسی چیز کا ہمارے فہم کی رسائی سے بالآخر ہونا اس کے نہ ہوتے کی دلیل نہیں۔ رُوح کی ماہیت آج تک سرگمتوں ہے۔ اس کو رُوح بیجوہ سکنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم شہدار کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہم ان کو مردہ نہیں کہتے ہم انھیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انھیں مردہ کہنے اور انھیں مردہ خیال کرنے سے تاکید امنغ کیا ہے ہمارے رب کا ہمارا شاد حق ہے اور اس کا ہر فرمان سچا ہے اور واجب الاذعان ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں کہ عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مان لیں اور جس کو تسلیم نہ کرے اس کا انکار کر دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں اور اس پر نازل ہونے والی وحی کی صداقت پر امیان رکھتے ہیں۔

۱۹۸ حضرت ابن حبیس رضی مسیحی محدث اسلامی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احمد میں شید بُوئے اللہ تعالیٰ نے اُن کی ارواح کو سبز پنڈوں کے قالب عطا فرماتے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں جنتی میوے کھاتے ہیں طلاقی قندیلیں پوزیر عرش متعلق ہیں اُن میں رہتے ہیں جب انھوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پاتے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھنے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوْا

ان (النَّاسُوں) سے جو عنایت فرمائی ہیں لُخْمِ اللَّهِ نَزَّا پر فضل کرم ۱۹۵ کے اور خوش ہو رہے ہیں ۱۹۷ میں بسیں ان لوگوں کے بھی تھیں ایک

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۱۷

ان سے ان کے پیشجیہ جانے والوں سے کہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمین ہوں گے

لَيَسْتَبِشُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ

خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اُس کے فضل پر اور (اس پر) کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا

أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۸ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا إِلَلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

اجر ایمان والوں کا جھنوں نے لیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر ۱۹۸ اس کے بعد کہ

اُنھیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ (خواہنِعرفان) اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی چیز ہے جتنے میں رہتے ہوئے شہداء کی روحیں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر سال شہداء اُنہوں کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انھیں اپنی دعاوں اور رسیمات سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افراد کے دیدار سے بھی انھیں شاداً یام فرمایا کرتے۔

۱۹۵ علامہ قرطیؒ کہتے ہیں کہ حیات الشہداء حقیقت شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ وان الارض لا تأكل اجساد الانبياء والشهداء والعلماء والمؤذنین المحتسبيين وحملة الفرقان يعني زمین انبیاء مکرام، شہیدوں، علمائے ربانیین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے سبھی نہیں کھاتی۔

۱۹۶ لیعنی شہادت کا شرف، ابدی زندگی، قربِ الہی اور تعمیم جنت سے اُنطف اندوزی۔ (بیضاوی)

۱۹۷ شہداء بحسب اللہ تعالیٰ کی شان بندہ پروری اور ذرۃ فوازی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے جن مسلمانوں کو وہ چھوڑ آتے ہیں وہ بھی راہ خدا میں جان دینے کے بعد انہی عنایات اور فوازشات سے بہرہ ورکیے جاتیں کہ (حیات شہداء کے متعلق تفصیلی بحث سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ آیت ۱۵۲)

۱۹۸ جب ابوسفیان لپیٹ شکر سمیت روحانی کے مقام پر پہنچا تو اپنی موم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت نہامت ہوئی اور انھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے مانندے رنجوں سے چوڑ مسلمانوں پر چل کر کے اُن کا قسم پاک کو دیں جب یہ بھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملی تو حضورؐ نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس موم میں صرف وہی لوگ ہمالے

أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا ^(۱۷۷)

لگ پڑ کا تھا انھیں رگہ، زخم ان کے یہ جھوٹ نے نیکی کی ان میں سے اور تقویٰ اختیار کیا ابھر عظیم ہے

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہما انھیں لوگوں نے کہ بلاشبہ کافروں نے ۱۹۹ جمع کر رکھا ہے تھا رئیس (رسالہ) سودران سے

فَرَادَهُمْ إِيمَانًا قَاطِعًا وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا إِنْعَمَةً ^(۱۷۸)

تو اس ہمکی نے بڑھا دیا اُن کے (جو شہزادیں کو اور انھوں نے کہا کافی ہے) میں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کار سان ہے (ان کے عزم توکل کا تجربہ نہ کیا کہ)

مَنْ أَنْتُمْ وَفَضْلِيْلَ لَمْ يَسْتَهِمُ سُوءٌ وَّاَتَبْعُو رِضْوَانَ اللَّهِ

والپس آئے یہ لوگ اللہ کا انعام اور فضل کے ساتھ ۲۰۰ نہ چھو اُن کو کسی بُرا نی نے اور پیر دی کرتے رہے رضاۓ الہی کی

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ

اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضل عظیم ہے یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے (تمھیں ہے)

ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احمد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے حصہ اور کیم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجرموں جسموں کے ساتھ لشیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ اُن کی اس اطاعت کاملہ پر اُن کی توصیف فرمادا ہے۔

۱۹۹ **إِلَيْسَيْفَيَانُ أَعْدَدَ لَهُ طَرْفَ رَوَانَهُ ۖ** وقت مسلمانوں کو چیخ دے گیا تھا کہ آب آئندہ سال میدان بد رہیں ہم تمہارے ساتھ جگ کریں گے اور حکم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے اس چیخ کو قبل فرما لیا تھا جب وقت مقرر کیا تو ابوسفیان دوہزار پیڈیل اور پچاس ہزار سیمت بد رکے میدان کی طرف روانہ ہوا لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی تہمت نہ ہوتی۔ اور نعیم نققی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا اُس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے دس اونٹ انعام دے گا جب بغیر مدنیہ پہنچا تو اُس نے پر زور پر پیٹیڈا شروع کر دیا کہ ابوسفیان نے بڑے کرد فر سے اس دفعہ بد رکی طرف کوچ کیا سے الگ قدم نے بد رکارچ کیا تو یاد رکھو تھاری خیر نہیں۔ تم سے زندہ نجگھ کر گھر کوئی نہیں کہے گا لیکن مسلمانوں نے اُس کے اس ظسلم کو یہ کہ کر توڑ دیا کہ حسیننا اللہ و نعم الوکیل۔

۲۰۰ **جَبْ مُسْلِمَانَ اَسْبَقَ رَبْ بِبِرْ وَسَرْ كَرْ كَرْ** اپنے رسول مکی قیادت میں بد رکی طرف روانہ ہوئے تو دشمن اُن کی روائی کی خبر سُن کر راستہ سے ہی والپس مکہ لوٹ لیا مسلمان چند روز تک بد رہیں بھیڑے رہے۔ تجارت سے خوب نفع کیا ایسا اور شاداں د

أَوْلِيَاءُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَلَا خَافُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۷۰

ایپسے دوستوں سے پس نہ ڈرو ان سے اے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَنَ يَضْرُوا

اور (اے جان عالم) نہ غمزدہ کریں آپ کو جلدی سے ۳۰۲ کفیرین داخل ہوئے ہیں بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے

اللَّهُ شَيْءًا طَيْرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ

اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے ۳۰۳ اور ان کے لیے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۷۱ **إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفُرَ بِالإِيمَانِ لَنْ**

عذاب عظیم ہے بے شک بخنوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں ۳۰۴ ہرگز

فرجان صحیح وسلامت مدینہ طیبہ کو مر جمعت فنا ہوتے۔

۳۰۵ اے مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم وہیں سے نہ ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر انداز رہتی ہے جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا اُس وقت سے مسلمانوں کے دتم پیچہ ہٹنے شروع ہو گئے ہیں۔

۳۰۶ اے جنگِ احمد مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے کئی متناقض ٹھکنے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے اور اسلام کا خاتمہ نہیں۔ بخنوں نے اپنے عقیدہ پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا۔ نیز حضور کی دعاوں، انتہائی کوشش اور جان سوزنی کے باوجود لفارار اپنے کفر سے چھٹے رہنے پر مصروف تھے جس سے بنی روت ریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کا دل بہت ہزین رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے جیبیت کو تستی دے رہے ہیں کہ آپ غناک کیوں ہوں۔ آپ نے تو سمجھا نے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں پھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال اور بدیضی ہے۔ یہ لاکھ جتن کریں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

۳۰۷ اے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ انھیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے اُنھوں نے اس کے مجموعت کو بے حد ستایا ہے۔ اُنھوں نے جان بوجھ کر جن کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اس لائق ہی نہیں کہ انھیں نور ایمان سے بہرہ رکیا جائے۔

۳۰۸ اُنھیں دولت ایمان سے بہرہ رکیا گیا تھا لیکن مسلمانوں کو احمدیں جو زک پہنچی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا مستقبل محفوظ ہے۔ اس کا سورج آن کی آن میں ڈوبا چاہتا ہے۔ اب سلامتی اسی میں ہے کہ کتفی طرف لوٹ چلیں اور کفار سے اپنے دیرینہ تعلقات

يَخْرُوُ اللَّهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَكِيدُمْ^{۱۷۷} وَلَا يُحْسَبَنَ الظَّالِمُونَ

نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کوچھ بھی اور ان کے بیٹے در دنک عذاب ہے اور نہ خیال کریں شے جو کفہر

كَفَرُوا أَنَّمَا نَمِلُ لَهُمْ خَيْرٌ لَا نَفْسٍ هُمْ إِلَامَانٌ مُلِمُ لَهُمْ لِيَزِدُّ أَدَمُ

کر رہے ہیں کہ تم چوہ مہلت دے رہے ہیں انھیں یہ بتہ رہے ان کے بیٹے صرف اس بیت ہم تو انھیں ہملت دے رہے ہیں کہ وہ

إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ^{۱۷۸} مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الرُّؤْمَ مِنْ دِينٍ

اور زیادہ کر لیں گناہ اور ان کے بیٹے عذاب ہے ذلیل خوار کرنے والا نہیں ہے اللہ کی شان، کوچھ تو رکھے مومنوں کو

کو ازسر فوجاں کریں جن کو جلد بازی سے انھوں نے توڑ دیتا ہے۔ اس طرح ان دوں ہست اور کوتا نظر لوگوں نے نقد ایمان دے کر کفر کا دوبارہ سودا کر لیا۔ وہ یقین رکھیں اُن کی یہ حکمت ان کو تو عذاب الیم میں بنتا کرنے کا باعث ضرور بنے گی لیکن اللہ کے دین کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہ بن سکے گی۔

۲۰۵ الاملاع طول العمر و رعد العیش۔ درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بس کرنے کی ہملت کو اصلاح کرنے ہیں۔ لیکن کفار اس پیغمرو نہ ہوں۔ انھیں حقیقتی دھیل وی جاہی ہے لگا ہوں کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم سے دریافت کیا گیا کوئی شخص اچھا ہے فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا بدترین کون ہے فرمایا تسلیم کی عمر دراز اور عمل خراب۔ (خران العرفان)

۲۰۶ ابتداء میں کتنی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مشتمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مشتمان اُن سے بالکل اپنے بھائیوں کا ساسلوں کرتے لیکن ہر ناگزیر مصلحہ پر میسلماں نوں کے دلوں میں خوف و هراس، ان کی صفوتوں میں اننشا اور ان کے رازوں کو افشا کر کے انتہائی اذیت و تکلیف پہنچاتے۔ اس بیتے زیادہ دیر تک اُن کا مشتمانوں میں ملے جنکے رہنمانا سب نہ تھا۔ اس بیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت اُنی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و مُعناف آپس میں ملے جنکے رہیں بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیونکر الگ الگ کیا گیا۔ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرگوٹ کرنے کے سے یا بذریعہ وحی اپنے بنی تمثیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم کو مُنافقوں کا علم عطا فرمائے سے۔ چنانچہ علماء بھیادی نے یہ وایت نقی کی ہے۔ انه عليه السلام قال عرضت على امتي واعلمت من يؤمن بي و من يكفر فقال المناافقون انه يزنعونه يعرف من يومن ومن يكفر و من معه ولا يعرف فنا فنزلت (بھیادی) حضور نے فرمایا کہ میری امّت (دعوت) میرے سامنے پیش کی گئی۔ اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لاتے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا بلکہ مُناافقین نے ازراء مذاق کما کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں اور عالت

عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْكُو حَتَّىٰ يَبِيزَ الْخَيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ

اس حال پر جس پر تم اب ہو جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے اور نہیں ہے

اللَّهُ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلَىَ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا فِي رَسُولِهِ

اللہ کی شان، کہ آگاہ کرے تھیں غیب پر ۲۰۴ؑ البشارة اللہ (غیب کے علم کے لیے) جن لیتیا ہے اپنے رسولوں سے

یہ ہے کہ تم ہر وقت آٹھوں پیران کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوتی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا۔ نیز یہ بھی بتے چاہا کہ علم کا خاتمہ نہ ہوتے کہ نا علم کے نہ ہوتے کی دلیل نہیں اور صحابہ کو امام تو اپنے بنی پاک کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اللہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے اور چین بھیں ہو کر اعتراض کرتے۔

تفسیر خازن اور معاجم التنسیل میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے مندرجہ عبارت کے بعد لکھتے ہیں :- فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله تعالى وادثنى عليه ثم قال مباباً اقوام طعنوا في علم النسلوني عن شيء فيما يبني و بين الساعة الانبات تكريه فقام عبد الله بن حذافه فقال من أبي يارسول الله فقال حذافة فقام عمر فقال يا رسول الله رضيتنا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبالقرآن اهاماً وبك نبياً فاعف عن عفالة الله عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل انتم من هؤن فهل انتم من هؤن شرنزل عن المنبر فنزل الله هذلا الآية -

ترجمہ مُنافقین کا یہ قول حضور کو پہنچا تو حضور منبر پر تشریف فرمائے ہوئے تھے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ اس قوم کا کیا حال ہو گا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو میں ہیاں کھڑے ہٹھے تھے تھیں اس کا جواب دوں کا۔ عبد اللہ بن حذافہ اٹھے (ان کی نسب پر طعن کیا جاتا تھا) یا رسول اللہ میرے پاپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ حضرت عمر بن معدودت طلب کی حضور نے دوبار فرمایا کہ کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سے اُترے رے اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۰۴ؑ کیونکہ مُناافقین کی پہچان بذریعہ حقیقی حضور اکرم کو ہی کرانی کی تھی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں اور نہ سر ایک میں اس کی صلاحیت پانی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلالیں اور ظاہری علامات ہیں اور غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پانی جاتی ہے۔ اور اولیائے کرام کو یغمت حضور فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلماً سے میسر ہوتی ہے اور حضور کے رسیلہ کے بغیر یہ پیغام حاصل نہیں ہو سکتی۔ (روح المعانی) اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے اور اس ذات کیم نے اپنے عبید کیم علیہفضل الصلوٰۃ والسلام کو جتنا چاہا دیا۔ یہ جتنا "اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا بعض ہے،

مَنْ يَشَاءُ فَإِمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقْوَى فَلَكُمْ

جسے چاہتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لیے

أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَكْفُلُونَ بِهَا أَثْمًا مِّنَ اللَّهِ

اجر عظیم ہے اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں ہم اس میں موجودے رکھا ہے انھیں

مَنْ فَضَلَهُ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ سِيَطُوقُونَ

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہا بخیل بہتر ہے ان کے لیے بلکہ بخیل بہت بڑا ہے ان کے لیے - طوق پہنا یا جائے کا انھیں

مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ مال جس میں انھوں نے بخیل کیا قیامت کے دن اور اللہ کے لیے ہے میراث آسماؤں اور زمین کی

لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بکریاں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس "جتنا" کو یہاں تک سنگ کر دیتے ہیں کہ حضور کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جاتے گا۔ ان کی اپنی سنگ ولی اوزنگ نظری مستحق ہزار تاسف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا و بخشش رکیم معطی۔ وہاب) کے انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا اضافہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے قلب میور کو علوم غیریہ سے بھر پور فرمایا لیکن حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر تمنا ہی۔ بلکہ وہ محض عطا تھے الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محيط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحراء، فطرہ اور دیریا کی بھی نہیں۔ لیکن علوم غلافت کے مقابلہ میں وہ بھر جذار ہے جس کی گمراہی کو کوئی خواص آج تک نہ پاسکا اور جس کے کنارہ تک کوئی شادوار آج تک نہ پہنچ سکا۔

۲۰۸ نعمت میں بخیل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو۔ والبخل فِ الْلُّغَةِ ان يمنع الاَنْسَانُ الْحَقِّ الواجب عليه (القرطبی) اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخیل کرتے ہیں۔ حدیث صحیح میں اس آیت کی تفسیر بیک لگتی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح پیٹے گا اور یہ کہ کہ کو ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ (خرمان القرآن)

وَاللَّهُ يُعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^{١٨٠} لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا

اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بخدا رہے ہے۔ بے شکنا و مدد نے قول ان (گستاخوں) کا جھنوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ نَاوِمٌ أَغْنِنَاهُمْ سَنَكْنُتُهُ مَا قَالُوا وَقَاتَلُهُمْ

کہ اللہ مغلس ہے حالانکہ ہم عنی بیں ہم لکھ لیں گے نا ہو انہوں نے کہا نیز قتل کرنا ان کا

الآنِيَّةُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقًا عَذَابَ الْحَرِيقِ (١٨) ذَلِكَ

انہیں کو ناچت (بھوکھ لہا جائے گا) اور تم کہیں گے کہ (اپنے) آگ کے عذاب (کامزہ)

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ

بعلہ سے اس کا جو آگے بھجا ہے تھا لے ہاتھوں نے ۱۱۴ اور لفظِ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا ایسے پندوں پر

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُهُ لِمَا أَنْوَهُ مِنْ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامکِ حقیقت اللہ نے اقرار لیا ہے ہم سے کہ ۴۱۲ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر پہاں تک کہ وہ

۲۰۹ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؑ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکثوب گرامی دے کر بخوبی احسان نہیں کیا، بلکہ اسلام میں گئے تھے، فہر اُنہوں کو کہا تھا کہ کم غایب تر اکابرؑ اسی ساتھ اُنہوں کو اسلام میں آنے کا اعلان کیا تھا۔

کوپرداشت نہ کر سکے اور اس کے مبنی بر طبقہ رسید کیا۔ اور فرمایا اگر تھارے تھارے دہمیان معایبہ نہ ہوتا تو تھارے اس قلم کر دیا اس نے

حضرت صدیق کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکرگیا۔ اُس وقت رب العزت نے یہ کہتی نازل فرمائی۔

اللهم لعنني يهود کو یہ عذاب شدید ملا و جهہ نہیں دیا گی بلکہ ان کی بد کرداریوں کا طبعی شر اور عادلانہ سزا ہے۔

۱۱۲۔ یہودی جو فن حیلہ سازی کے امام تھے حنفیٰ پر امیان نہ لانے کا ایک اور مذکور تراشانہ کرنے لگے کہ ہم تو آپ کو بنی یهودی مان سکتے۔ کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے یہ سخنہ وعدہ لہا سے کہ کسی ای شخص کو بنی یہودی نہ مانا جو تھیں، مجھے نہ دکھاتے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی

آگ اکر اُسے جلا کر راکھ کر دے۔ اور آپ نے تو میرجہ دھایا نہیں اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں۔ قرآن نے

يَا أُتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قُدْ جَاءَ كُمْ رُسُلٌ مِّنْ

لاسے ہمالے پاس ایک قربانی کھا لے اس کو آگ آپ فرمائے آپ کے تھارے پاس رسول مجھ سے

قَبْلِيٌّ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كَفُوتُمْ

پھے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس مجرم کے ساتھ بھی جو تم کہ رہے ہو تو کیوں قتل کیا تھام نے انھیں اگر تم

صَدِّقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

پسچھے ہو اگر یہ جھٹلاتے ہیں ۲۱۳ آپ کو تو یہ کوئی تی بات نہیں (بے شک جھٹلاتے گئے رسول آپ سے پہلے

جَاءَهُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْعَنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ

جو لائے تھے مجرمات اور صحیفے اور روشن کتاب ہر نفس چکھنے والا ہے

الْمَوْتُ وَإِلَيْهَا تَوْفُونَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِزَ عَنْ

موت کو ۲۱۴ آور پوری مل کر رہے گی تھیں تھاری مژدوری قیامت کے دن پس جو شخص پہاڑیا گیا آتش

آن کے اس غدر کو بھی باطل کر دیا تھاری مقدس کتابوں میں یہ تو ہے کہ بعض انبیاء نے یہ مجرم دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اُتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی یعنی یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو بھی یہ مجرم نہ دکھاتے اس پر ایمان نہ لانا۔ اگرچہ اس کی صداقت کی اور واضح دلیلیں موجود ہوں۔ اور اگر ایک لمکھ کے لیے یہ فرض بھی کر دیا جاتے تو تم نے اس کا پہلے کب پاس رکھا۔ وہ انبیاء جن سے یہ مجرم ظاہر ہوا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا۔ اور صرف زبانی کفر پر بھی اس نہیں کی بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تھیں جن کا دامن محظوم انبیاء کے پاک خون سے داغدار ہے ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہوئے جیا نہیں آتی۔

۲۱۵ یعنی اس سے مرا جو مجرمات اور عشقیں دلائل ہیں۔ زبر جمع ہے نپوری کی۔ اس کا معنی وعظ و نصیحت ہے اور کتاب سے عزاد وہ صحیفہ ہے جس میں شریعت کے احکام درج ہوں مولانا تعالیٰ اپنے جبیک کو تسلی دے رہا ہے کہ منکریں حق کا یہ پر انسیوہ ہے کہ اخنوں نے ہر اس نبی کو جھٹلا دیا جو اپنی سچائی کی روشن اور ناقابل تروید دلیلیں لے کر آیا۔

۲۱۶ اس میں یہود اور منکریں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آئے والا ہے جب تھیں موت کا پماں اپنا پڑے گا اور اپنے کیے کی مزرا بھگتني پڑے گی۔ اور اس میں اُن مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو قبولِ اسلام کے بعد انہوں اور بیکانوں کے مظلوم کا ہدف نہ ہوئے تھے کہ گھبرا دینیں حق کے لیے اپنی زندگی کے چار روز جیسے گزرتے ہیں کزاں لو۔ اور وہ دن آئے والا ہے جب تھیں اس کا

الثَّارِ وَادْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعٌ

(دوزخ) سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا اور نہیں یہ دُنیوی زندگی مگر ساز و سامان

الغَرُورٌ لَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ

دھوکہ میں ڈالنے والا۔ یقیناً ۲۱۵ قم آزمائے جاؤ گے اپنے ماں سے اور اپنی جانوں سے اور یقیناً تم سنو گے ان سے

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنِي

تجھیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جھوٹوں نے شرک کیا اذیت دینے والی

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

بہت باتیں اور اگر تم راں دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِبْشَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتَبَيِّنَنَّكُلِّ النَّاسِ

اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ۲۱۶ ان لوگوں سے تجھیں کتاب دی گئی کہ تم ضرر کھوں کر بیان کرنا اسے لوگوں سے

وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنِيلَ وَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرِوا بِهِ ثِنَّا

اور نچھپیانا اس کو تو را (اللہ) انھوں نے پھینکت یا اس وعدہ کو اپنی پیشوں کے پیچھے اور انھوں نے خوبی اس کے عوض خوطری

اکابر عظیم عطا فرمایا جاتے گا۔

۲۱۷ هَلْكَ اللَّهُ تَعَالَى مُسْلِمَاهُوْنَ كُو ہے ہی بتا ہے ہیں کہ مدینہ کی غم سُلْمَ آبادی، ہُشْرُکُ او راہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو وہ تھا کے

مال و جان کو گزندز پہنچائیں گے تجھیں کو سماج اسے کام تھا اسے خلاف پر پیگنڈا کی خطا ناک مکحہ پلانی جاتے گی تجھیں طرح طرح سے مطعون کی جائے گا اور تھا اسے محبوب رسول کی شان میں زبان درازی کی جائے گی ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ زبان اور ہاتھ پر قافو

نہیں رہتا اور انسان ہر طرح کی جوانی کا روانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو محبوب اور ہر جائز اور ناجائز خبر بر استعمال کرنے کے لیے معذور پیدا

ہے اگر ایسے نااک حالات میں ہی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر مجھے رہے تو تھاری عظمت و رفتہ پرانسیسات

فرز کرے گی اور ایسا کرنا ہر ایک کے لیس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہبت کا کام ہے۔

۲۱۸ اس میں ہمراہاں کتاب کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے اور عقدہ یہ ہے کہ علماء اسلام ان کے ویسے

قَلِيلًاٌ فَيُئْسَرُ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۷﴾ لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ

سی قیمت سوبھت بُری ہے دُھیز خود خرید رہے ہیں ہرگز آپ کے ۲۱۶ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں

بِمَا أَتَوْا وَمَنْ يُحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ مَوْلَدُكُو وَإِبْمَالُمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِنَهُمْ

اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جاتے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں تو ان کے متعلق یہیں

بِمَفَازَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ

نکرو کہ وہ امن میں ہیں ہیں عذاب سے ان کے لیے ہی تو دروناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے باشدابی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي

آسمانوں اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بے شک

عبت حاصل کریں۔

۲۱۶ مُنَافِقِینَ ہر دفعہ بہادِ میں شرکت نہ کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہو اکتنی بلکہ اسے اپنی عقلمندی کا کوشش سمجھتے اور خوش ہوتے۔ نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، اشیاء، اخلاق، اخلاص اور تقویٰ کے کارناٹوں سے بیکسر خالی بھی یکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے کہ انہیں شجاع، اشیاء پیشہ، مخصوص اور ترقی کی ماجاتے۔ ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مرض جس کی وقت عملیہ غلوٹ ہو چکی ہو۔ اور جس کا ذہن خودستائی اور خود پسندی کی بیماری میں بدلنا ہو اس کے تدریست ہونے کی بہت کم توقع ہو اکرنی ہے۔ وہ اپنی ان نو تاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور مُنَافِقِینَ کی کمزوریوں کو اشکار اکرنے کے لیے نازل ہوئی یہیں یہ سمجھ لیا جاتے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں۔ میری ان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سُننے کی خواہش دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرمادیا۔ لکھنے علم دعرفان کے غاؤادوں کے چشم و چراغ اور ثروت میں سطوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلام کی عظمت کو خاک میں ملا جائے ہیں۔ کیونکہ ان کو بڑی انسانی سے ایک بنانا یا حلقو دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کو تاہیوں کے باوجود ان کو جمع صفاتِ مکال سمجھتا یا کہتا ہے۔ ہر براپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اسٹاد اپنے شاگردوں کو اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو اس گرداب بلاکت سے بچانے کی ہر تکمیل کو شیش کرے۔ ان کی ایسی تربیت کی جاتے کہ وہ حقیقت پسند ہوں اور اپنی محنت کو شی سے تخلی زندگانی کو تجھیں بنانے میں لذت محسوس کریں۔

خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِتْلَافُ الْيَلِ وَالنَّهَارُ لَائِتٍ

آسمانوں ہلکا اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں (بڑی) نشانیاں ہیں

لَوْلِ الْأَكْبَابِ ﷺ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَقَوْدًا

اہل عقل کے لیے وہ عقل مند ہو یاد کرتے رہتے ہیں ۲۱۹ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور

عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

پہلوؤں پر بیٹھے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں ۲۲۰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور شیلیم کرتے ہیں) ۲۲۱

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَبِّحْنَاكَ فَقَنَاعَنَّا بَأَبَّ النَّارِ

آنے تکارے مالک انہیں پیدا فرمایا تو نے یہ (کار خانہ حیات) بے کار۔ پاک ہے تو (ہر عیسیے) پنجاہے ہمیں آگ کے عذاب سے

۲۱۸ اس سورہ پاک کا اختتام ان آیات کیا اور اب اعلیٰ کو ان میں فکر و نظر کی دعوت دی۔ کیونکہ کار خانہ قدرت کی نیزگوں میں وہ جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کا ملم پر ان کا ایمان سچتا ہو گا۔ اور یہ سچتی تقديری نہیں ہو گی بلکہ تحقیقی ہو گی۔

۲۱۹ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ منحصراً نہیں۔ کھڑے، بیٹھے، ہر حالت میں بندہ اپنے خانق کی یاد میں محو رہے۔

۲۲۰ علامہ بھیادی فرماتے ہیں دھوافضل العبادات کما قال عليه الصلاة والسلام لا العبادة كالتقرب مظاہل کائنات میں غور و تذہب کرتے رہنا سب عبادات کو افضل ہے۔ کیونکہ بنی اسرام کا ارشاد گرامی ہے کہ تقریر تدبیر ہے پاکی عبادت نہیں لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیتے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بھلا کھاہے مجتنج بیان نہیں۔ ۲۲۱ آج الکریچ کائنات کے ہر پیور غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور دُسُحت کا یہ عالم ہے کہ ہر مظہر فطرت کے لیے ایک مستقبل فن کی بنیاد پڑھکی ہے لیکن مومن اور غیر مومن کی تحقیق تشخص میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مومن جب کائنات کی کسی چھوٹی بیٹھی چیز پر غور کرتا ہے اور اس کی حیران کن تاثیرات اور اس میں ہضم ایک بدیع نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کی حیران کن تاثیرات اور بدیع تخترات میں کھو رہیں رہ جاتا بلکہ اسی وقت اس کی نگاہ اس کے بناء و اس کی طرف بے تابان وارد ہو رہتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں دینا مخلقت هذا باطلانہ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان مشہرات کی چک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بناء و اس کی عظمت و جلالت، علم و قدرت، هشیت و حکمت کی طرف

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُؤْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

آئے ہمارے رب اپنے شکر تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوایہ دیا تو نے اُسے اور نہیں ہے خالموں کا

مَنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْدَدِي لِلْأَيْمَانِ أَنْ

کوئی مددگار آئے ہمارے باب اپنے شکر سنا ہم نے مُنادی کرنے والے کو کہ بلند آزاد سے پُلہتا تھا ایمان کی طرف

أَمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَإِمَّا كَفَرَ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرُ عَنَّا سَيِّلَتْنَا

(اور کتنا نفع) کہ ایمان لاوائیں رب پر تو ہم ایمان لے آئے اسے ہمارے مالک اپنے بخش دے ہمارے لگناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری بُرا ایمان

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَذْرَارِ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ

اور (ایپنے کرم سے) موت ویسے بیس نینک لوگوں کے ساتھ ۲۴۷ آئے ہمارے باب اس طبقہ ماہیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعہ اور

لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ

رسوایہ کرنے کے دل بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تو قبول ۲۴۸ فرمائی

لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضْيِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَنْ كُرِّمْتُ مِنْ ذَكَرْ أَوْ

اُن کی انجام کے پروگرام نے (اور فرمایا) کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے خواہ مرد ہو یا

اُس کی توجہ مبتدول نہیں ہوتی۔ بے شک وہ اُن کی تفسیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے لیکن لیکن کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ اور اُس کے دل کی دُنیا چھر بھی تاریک کی تاریک ہی رہتی ہے۔ کاشش مسلمان طلبہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سائنس اور طبیعت کے علم کا مطابعہ کریں تاکہ اگر ان کی کاؤشوں سے ان کی ملت کا ظاہر شکر ثابت بن جائے تو اُس کا باطن رشک صداقت ہو جائے۔

۲۴۹ جب غور و فکر اور پیغمبر عبادت و ذکر سے ان کا آئینہ دل جگھانے لگتا ہے تو وہ اپنے مولانا کو و تعالیٰ کی جناب پاک میں دان پھیلا کر یوں گزارش کرتے ہیں۔ دعا کے یہ جملے اپنے اندر جو مظاہر اور تاثیر رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔

۲۵۰ العمامات خداوندی کے وہ طبلہ ارجمندوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا ہے جب وہ ادب و نیاز سے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔

أُنْثَىٰ بِعَضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ

عورت بعض تمہارا جزہ ہے بعض کی تو وہ جھنوں نے ہجرت کی ۲۲۲ اور نکالے گئے اپنے

دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّلٍ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كِفْرَنَّ عَنْهُمْ

وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور (دین کے لیے) لڑے اور مارے گئے تو ضرور میں مژادوں کا ان (کے

سَيِّلَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَتْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ

نامہ عمل) سے ان کے گناہ اور ضرر داعل کروں گا انھیں باغوں میں بستی میں جن کے بیچے نہیں

ثَوَابًا مِنْ عِتْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَتْدُهُ حُسْنُ الشَّوَّابِ ⑤

(یہ) جزا ہے ران کے اعمال حسن کی اللہ کے ہاں اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے

لَا يَغْرِنَكَ تَقْلِبُ الدَّنَّيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ⑥ متألم قلیل

(کے سنبھالے) نہ ہو کیمیں ڈالے تجھے چلنا پھر ان کا جھنوں نے کفر کیا ملکوں میں ۲۲۵ یہ لطفہ نہ زی تھوڑی درست ہے

ثُمَّ مَا وَهْمُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَهَادِ ⑦ لیکن الَّذِينَ اتَّقُوا

پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ بت بُری ٹھیکرنے کی جگہ ہے لیکن وہ جو ۲۲۶ ڈرتے رہے

۲۲۷ اب اُن پاکبازوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے۔ اور اگر ان سے مقتضاۓ بشیرت کرنی غلطی سرزد ہو جی جائے تو ان کی خوبیوں اور نیکیوں کے باعث معاف کردی جاتی ہے لَا لِفَرْنَ عَنْهُمْ کا معنی علامہ بضیاویؒ نے لاحونہما، گیا ہے یعنی مژادوں گا محکوم کروں گا میں ان کے گناہ۔

۲۲۸ کفار کی ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزوروں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے تو کیا وہ یوں شان و شوکت سے زندگی سبز کرتے۔ اس خیال کا بھی ازالہ کر دیا کہ یہ ساری دھوم دھام عارضی ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانا جہنم ہے اس لیے تم ان کی اس چیز روزہ کرو قرکوان کے حق پہنچنے کی دلیل مت بھجو۔ ان کے انجام پر یخور کر کریم کتنا ہونا ک ہے۔

۲۲۹ ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس علیش و عشرت کا سامان نہیں لیکن ان کا دل تقویٰ کے نور سے منور ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا بڑا بلند مقام ہے جنت الفردوس میں یہ مہماں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا میریاں ہو گا۔

رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا

اپنے رب سے اُن کے پیسے باغ ہوں گے رواں ہوں گی ان کے یونچے ندیاں (وہ مقی) ہیشہ بیں گے ان میں

نَزَّلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا مَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَإِنَّ

یہ تو ہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو ابھی نعمتیں) اللہ کے پاس ہیں وہ بہت ہتر بیں نیکوں کے لیے اور بے شک

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا آنْزَلَ إِلَيْكُمْ

بعض اہل کتاب ایسے ہیں ۲۲۶ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اُس پر جو اُنہاں ایسا تھاری طرف

وَمَا آنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَيْرٌ مُّخْشِعٍ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

اور جو اُنہاں ایسا کی طرف عاجزی (اور نیازمندی) کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سو دا کرتے اللہ کی ایتوں کا

ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَّا أَنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

حقیر قیمت پر یہ وہ ہیں جن کا ثواب اُن کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد

الْحَسَابُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

حساب لینے والا ہے اے ایمان والو! ۲۲۸ صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کہہتے رہو (خدمت میں کیلئے)

۲۲۷ قبل اذیں اہل کتاب اور اُن کے علماء کے عیوب و فتاویں بیان کیے گئے تھے جس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید سب اہل کتاب اور اُن کے سارے علماء ایک ہی مقاش کے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس غلط فہمی کو بھی دُور فرمادیا کہ سب ایک جیسے نہیں۔ ان میں سے کئی ایک بڑے پاک دل، نیک فطرت اور ایکم الطیع ہیں۔

۲۲۸ یہ اس جلیل القدر اور عظیم المرتب سُورۃ کی آخری آیت ہے۔ اور اس میں نہایت مختصر اور بہت ہی جامع الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان چار باتوں میں دینیوی اور اخروی فلک و کامیابی کا راز پوچھیا ہے۔ صبر، مصابرہ، رباط اور تقویٰ۔ صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے اور بُرے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا۔ مصابرہ کا معنی ہے مصاہراتہ الاعداء یعنی دشمن کے پر در پے حملوں کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا اور رباط کا معنی ہے الرباط حمل النفس علی النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة و من اعظمها ارتباط الخيل في سبيل الله و ارتباط النفس على الصلاة۔ یعنی

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾

اور (بیشہ اللہ سے درتے رہو تاکہ (پسندیدہ مقصد میں) کامیاب ہو جاؤ۔

رباط کھتے ہیں نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھنا اور جسم کو عبادت پر کار بند رکھنا۔ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کرتے رہے اور گھوڑا تیار رکھے اور نفس کو نماز کا خونگر بناتے۔ اور تقویٰ کی تفسیر جا بجا گزر جکی ہے جب کسی فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو رحمتِ الہی اور نصرتِ خداوندی اس کی پاسان ہوتی ہے مشکلات کے پھر ان خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزتِ نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سُرخُوفتی۔

لِعَرْفٍ سُورَةُ النِّسَاءِ

لِسْمُ عَالِمٍ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

WWW.NAFSEISLAM.COM

اس سُورَة پاک کا نام النِّسَاءِ ہے۔ باتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیتوں کی تعداد ۴۷ ہے۔ الفاظ تین ہزار سنتیں اور حروف ۱۴۰۳۰ ہیں۔ اور ۳۲۷ کوئی ہیں۔ اور یہ سُورَة پاک بڑی اہم اور دُور رس اصلاحات پر مشتمل ہے جنہیں اگر دینِ اسلام کا طرہ امتیاز کیا جائے تو قطعاً مبالغہ نہ ہو گا۔

کھر ملیو زندگی۔ اس سُورَۃ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھر ملیو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے کیونکہ گھر ہی قوم کی خیشیت اول ہے۔ گھر ہی وہ گھوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے محارب پرورش پاتے ہیں۔ گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق و کردار کی جو قدریں اچھی یا بُری، بلند یا پست لوح قلب پر لکھ دی جاتی ہیں ان کے نقش کبھی مقدم نہیں پڑتے۔ صرف جذبات کتنے پاکیزہ اور مخصوص کیوں نہ ہوں حقائق کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاسکتے۔ قرآن حقائق کو حقائق کی خیشیت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ تمصریتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے واضح اور غیر نیم قاعدے اور ضابطہ متعین فرمادیتے۔

۱- تعمیم نہیں۔ جس گھر میں تعمیم بچوں پر زیادتیاں کی جائیں اور ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد بُرد کرنے کے لیے سازشو فریب کر کے جاں بُنتے رہیں اس کھر کی فضایا بھی صحت منہ نہیں ہو سکتی اور اس خاندان کے افراد کبھی سچی مسٹر کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن یحیم نے اپنے ماننے والوں کو صفات الفاظ میں حکم فرمایا کہ وہ تعمیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اپنچھا سلوک کریں۔ ان کے حقوق کی لہجہ بانی اور ان کے اموال کی حفاظت کریں بلکہ ان کے احسانات تک کا پاس رکھیں۔ اور جو بھی ان بکیوں کے دراثت میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ آتش جہنم سے اپنے پیٹ کو بچ رہا ہے۔

۲- عورت کا مقام۔ عرصہ ہائے دراز سے یہ صفت نازک خلم و ستم کا نشانہ تھی ہوئی تھی مقدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی رُوح اور ذی شعور بنایا تھا لیکن اس کے ساتھ بتاؤ مٹی کی بے جان مُورتیوں کا ساکلیا جاتا تھا جو ایں دُو پر اسے لگایا جا سکتا تھا۔ خاوند کی لاش کے ساتھ قانوناً سے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں اسے تمام بُرا ایتوں کی جڑ اور انسان کی ساری بد بختیوں کا سر پیشہ یقین کیا جاتا تھا اور کہیں چوتھی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک

نکا ہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق عاصل نہ تھے۔ اسے ازدواجی بندھوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی راستے لینے کا تصور تک نہ تھا۔ یہ بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جن میں اسلام سے پہلے یہ صفت نازک گرفتار تھی۔ جہاں کتبہ کے صفت افادہ کی بے بسی کا یہ عالم ہوا ہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہاں؟ قرآن نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی ہر دوپہر ہیں۔ اس کی راستے ہے اور قانون اس کی راستے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا۔ اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے۔

کیونکہ مرد اور عورت کا اولین رشتہ ازدواج کا رشتہ ہے اس لیے اس میں جو بے راہ رویاں پائی جاتی تھیں ان کی اصلاح کی۔ تعدد ازدواج پر پابندیاں لگائیں۔ اور اس کی اجازت دی تو بڑی شروع و قیود کے ساتھ۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اگر اس کی کوئی چیز پسند خاطر نہ ہو تو اس پر صبر کرنے کی ہدایت کی۔ اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح حال کی تدبیر تباہی پیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سداری و نشق کی ذمہ داری مرد کو سونپی۔ کیونکہ اسی کی فطری صلاحیتیں اس بارگراں کو اٹھا سکتی ہیں اور یہی حقایق کی نجہداری اور ہربات میں میانہ روی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے کیونکہ اس میں تفریط کا گزرنہ نہیں تو افاط کا بھی نشان نہیں۔

ج۔ تسری چیزوں گھر کے ماحول کو خوشکوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ مالی حقوق کی تنصیفانہ تقسیم ہے۔ اس میں معمولی سی کوتاہی بجاہی کو جھانی سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے قسمیں میراث کا فضل قانون نازل فرمایا۔ اسلام کے نظام میراث کی جواہیاری خصوصیات ہیں ان کا جائزہ تو اپنے اپنے مقام پر لیا جائے گا لیکن ایک بے مثل تبدیلی یہ کی کہ عورت (ماں۔ بیوی) کو بھی مرد کی طرح وارث ترقار دیا۔

۴۔ حق و باطل کی جگہ جن کا آغاز بذر سے ہوا تھا بھی جاری تھی۔ احمد بن مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کے باعث منافق یہودی اور مشرک قبائل کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس سورۃ میں بھی مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا اور منافقوں کے مختلف کروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال روایہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔

۵۔ افدادی کردار کی تحریر کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی ہے اور اُن قوموں کی اقدام سے روکا گیا ہے جو عمل سے جی چڑھتی ہیں حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو انعامات خداوندی کا واحد حقدار سمجھتی ہیں۔ امت مصطفیٰ کو صفات صفات بتا دیا گیا کہ اس رزم کا ہی حیات میں جیت اسی کی ہوگی جو اپنے پیغم اور نتیجہ خیز عمل سے اپنی فوکیت اور برتری ثابت کر دے۔ خیالی پلاو پکانے اور ہوانی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ عاصل نہ ہو گا۔ نیز بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے باہمی بیناؤ کا دار و مدار احسان اور حمایتی پر ہونا چاہیئے جتنی قربت زیادہ ہو گی اتنی ہی اس کے ساتھ حمایتی اور احسان زیادہ ہونا چاہیئے۔

۴۔ اطاعت رسول: اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے اور فلا و دیل (رأى محبوب تیرے رب کی قسم) کے پر جلال الفاظ سے قسم اشکار بتایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے رسول کے ہر فحیلہ کو خواہ وہ اس کے خلاف بھی ہو دیں و جان سے بخوبی قبول نہ کرے۔

۵۔ زمانہ نزول: علماء محققین کی رائے میں اس سورہ کے نزول کا آغاز جنگ اُحد (شوال سنه) کے بعد ہوا جب کہ سترہ ممالک کی شہادت کے بعد تمیوں کی کفالت اور ورنہ کی تقسیم کے مسئلہ نے بڑی اہمیت اختیار کر لی تھی فماز خوف غزوہ ذات الرقاب میں پڑھی گئی اور یہ غزوہ سنه ہیں ہوا۔ اور یہم کی اجازت غزوہ بنی صطلمی میں دی گئی اور یہ غزوہ شہر میں پیش آیا۔ ان واقعات اور سنین سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس سورہ کا آغاز اُحد کے بعد ہوا تو اس کا سلسلہ نزول شہر کے ادائی تک جاری رہا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سورة النساء مدنی - ۴۷۱ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہمت ہی مہماں ہوئیشہ کچھ فرماؤاللہ آسمیں رکوع ۶۲

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ كُمْ مِنْ تَنْفِسٍ

اے لوگو! اے ڈرو اپنے رُت سے جس نے پیدا فرمایا تھیں

وَاحِدٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِحَالًا كَثِيرًا وَ

وَاتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَءُ لَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
جَانِ سے اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑاں کالئے اور پھیلا دیتے ان دونوں سے مرد کشیر تعداد میں اور

اے معاشرہ زندگی کی مرسٹوں سے تب لطف ان ذریعوں سکتا ہے جب ہر خاندان کے فرادیں باہمی محبت و پیار ہو اس کے لیے صلہ رحمی، روازداری اور حُسن سلوک کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اسی کے متعلق اس سورۃ میں واضح احکام اور ورشن، بہایات دی گئیں لیکن ان احکام و بہایات کے ذکر سے پہلے دباتوں کی طرف خصوصی توجہ دلانی ایک تو یہ کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا یک ہی خدا ہے دُوسرے یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے ہر ٹکم کی تعلیم اور اس کی نافذیتی سے اختزاں کرنا چاہیے۔ اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو انہیں آپس میں محبت و پیار کرنا چاہیے نیز اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا اور انسانی برواری میں طرح طرح کے امتیازات پر ضرب کاری لگانی تھیں کہ باعثت انسان اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

لے اب مسلم اصفہانی وغیرہ نے یہاں مضافِ مخدوٰف مانا ہے ان کے نزدیک اصل عبارت یوں ہے خلق من جنسها زوجها
معنی سے ام کو حسپ سے اس کا حق تھا کہ کامک، آئسٹ کے الفاظ اس کا تائید نہ کر تے مضافِ مخدوٰف بانٹا تکلف سے خالا نہیں بخڑ

تمام بني نوع انسان کافس و واحد سے پیدا کیا جانا تب ہی درست ہو سکتا ہے جب تمام افراد کا اصل الاصول ایک آدمی ہوں۔

لرخواںی عین ادم سے یہ یعنی جائے و پھر افراد بُسری کی علیین دو مسالوں ادم و خواستہ ہوئی نہ لایا اس سے بُسیلار فران کریم کا مشاہدہ ہے۔ لوگانت حوا مخلوقۃ ابتداء لکان الناس مخلوقین من نفسین لامن نفس واحدۃ (بِسْمِ رَحْمَةِ نَبِيِّنَ وَسَلَامٌ عَلَىٰهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ)

لئے تقویٰ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دوبارہ حکم دیا گیا لیکن یہی دفعہ وہ یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہارا خالق ہے اور دوبارہ تقویٰ

ہم دیے ہوئے راستے پر اپنے نام کی قسم اٹھا کر تم اپنے عہد و پیمان کو قابلِ اعتماد بناتے ہو جب اس کے نام کے بغیر تھاری نزدیکی کا کاروان لرتے ہو اسی کے نام سے ہم دیے ہوئے راستے پر اپنے عہد و پیمان کو قابلِ اعتماد بناتے ہو جب اس کے نام اپنے موسوں کا طلبہ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاٖ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

تم پر ہر وقت نیکران ہے اور دے دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ پدلو

الْخَيْثَ بِالصَّلَبِ وَلَا تُكُوِّنُ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ

(لپیٹی) روتی چیز کو (ان کی) عجھا چیز سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے ماں سے ملا کرہے واقعی یہ

وَهُوَ بِكَبِيرٍ^{۲۰} وَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فَانْكُحُوهُمْ

بہت بڑا گناہ ہے اور اگر ڈروٹم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گئے تمیم بچوں کے معاملہ میں تے (لوان سے) حکم دکو اور بکاح کرو ایک قدم بھی نہیں جل سکتا تو یہ کیا تھیں نیپ دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو۔

۳۔ میں بھی اور اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے۔ رحمہم قرآن کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ الرحمن سول کافہ الاقارب (قرطی) آیت کے اس حصے میں صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی سے منع فرمایا گیا ہے اسلام نے اپنے قربی رشتہ داروں سے سُنْنَةِ مُحَمَّدٍ کا بار بار حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے حضور کے ارشادات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تاویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایک فرمان گرامی میں لیجئے۔ الرحمن معلقة بالعرش تقول الامن وصلنی وصله اللہ و من قطعی قطعه اللہ یعنی رحم عرش الحی سے اویال ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار جس نے مجھے جوڑا خدا اُسے ہوڑے رکھے اور جس نے مجھے قطع کیا اُسے اللہ یارہ بارہ کرے۔

ہے و اتوالیٹ ملٹی المز تیمیوں پر طرح طرح کے فلم کیجے جاتے جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور قیمت بچے چھوڑ جانا تو اس کے قیچی یا بڑے بھائی سائے مال پر قبضہ کر لیتے اور قیمت کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال اُسے واپس نہ کرتے یا قیمت کے اعلیٰ نسل کے فربہ جانور خود رکھ لیتے اور لگنی لوڑی کرنے کے لیے اُس کو رُدّی نسل کے دُبّلے اور لا غر جانور دے دیتے اور وہیں بری الدمہ ہو جاتے قیسیری صورت یہ ہوتی کہ تیمیوں کے اموال کو اپنے اموال میں خلط ملطکر دیتے اور حفاظت کے بہانے سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ ان تمام صورتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا اور ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا اور متادا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ **الحصہ : الام گناہ۔**

بے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تین یہ مچھلیاں جو اپنے سر پتوں کی تنگرانی میں ہو اکرنی تھیں ان کے سر پست ان کے ماں اور بھائی کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے۔ اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا حفاظ اور ان کے دُکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا اس لئے عام طور پر نہ تو ان شیم بچوں کے ساتھ لکھ کرتے وقت ان کو ان کی جنتیت کے مطابق مدد دیا جاتا اور نہ زخماں کے بعد ان

مَآطَابَ لِكُمْ مِّنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ

جو پسند آئیں تھیں (ان کے علاوہ دوسری) عورتوں سے دو دو تین تین اور چار چار تھے اور اگر تھیں یہ بیشتر ہے تو کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلم نازل فرمایا کہ جب تھیں انہیں یہ ہو کہ تم ان پر سہارا پیچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تھیں پسند ہوں چاہتاں نکاح کر سکتے ہو۔

کلم اسلام کے ناقیں خصوصاً اہل مغرب نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر بڑی لے دے کی ہے اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں جن کے ذیکر خیر و شر اور حسن و فحش کا صرف وہی معيار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مرتباً ہوں نے تقریباً رکھا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند حقائق پیش کرنا فائدہ سے خالی نہ ہو گا:-
ایہ کلم نہیں جس کی پابندی پیر وان اسلام پر لازمی ہو بلکہ یہ ایک رخصت ہے۔

۱۔ رخصت بھی بے قید و شرط نہیں بلکہ سخت قیود سے مقید اور سیکھن شرائط سے مشروط۔

۲۔ طبقہ جدید و قدیم اس متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے جدا گاہ ہے۔

۳۔ مرد میں خوبی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے جس کی ظاہر و جسمی ہے کہ خوبی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک سے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ استقرارِ محل، وضع محل، رضاعت اور نہنچے پچھے کی ترسیت یہ سے مرحلے اُسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم ہی رُونما ہوتی ہے لیکن مردانہ تمام ذمہ داریوں سے ازاد ہوتا ہے۔

۴۔ اکثر حمالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ آざماقوں کے مرد ہی نہ راوی لالہوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نذر ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

۵۔ تاریخ انسانی جب سے مرتب کی گئی ہے اس کے ہر اس قانونی نظام میں جس میں تعدد ازواج قائم نہ مانوں ع ہے زنا کی حلی ایجاد ہے اور یہ غسل شنیع اپنی ان گنت خرابیوں کے باوجود جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا۔

۶۔ کیا بیوی اور اس کے پیوں کے لیے اس کے خاوند کی دوسری بیوی قابل برداشت ہے یا اس کی داشتہ ذہنی بُخانی، مادی اور جسمانی صحت کے جملہ پہلوؤں پر غور فرمائیے۔

۷۔ کیا کسی باحمیت و باغیرت عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر کی مالکہ بن کے رہے اس کا خاوند اس کے آرام کا ذمہ دار، اس کی ناموس کا محافظ ہو۔ اس کی اولاد جائز اولاد مقصود ہو اور سوسائٹی میں اسے باعزت مقام حاصل ہو یا ایسی عورت بن کر رہے جس کا حسن و شباب ہو سنک رکھا ہوں کا حکلنا بنار ہے لیکن نہ کوئی اس کی اولاد کا باپ بننا گوارا کرے اور نہ کوئی دوسری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔

اَلَا تَعْدُ لِوَافَّاً حَدَّةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ طَذِلَكَ اَدْنَى اَلَّا

کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہے ہی یا کہ نہیں جن کے مالک ہوں تمہارے دامن ہاتھ یہ نیادہ قریب ہے، اس کے کم ایک

تَعْوِلَةٌ وَ اَتُوا النِّسَاءَ صَدُّ قِتْهِنَ مِنْ حَلَةٍ طَفَانٌ طَبِنَ لَكُمْ

طف ہی نہ بھک جاؤ گے اور دیا کرو (ایپنی) عورتوں کو ان کے مہر نامہ خوشی خوشی پھر اگر دُہ بخش دین تھیں

۹۔ کیا پورپ اور امرکیہ اپنی تمام سائنسی ترقی کے باوجود حرارتی بحجوں اور کنواری ماوں کی تعداد میں ہوش رہا اضافہ کے عبث پریشان نہیں۔ (لُو۔ این اوکی روپرٹ کے مطابق بعض یوپین ممالک میں ناجائز ولادتوں کا او سط ساٹھ فیصلی تک پہنچ لیا ہے۔

یہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرتے ہوئے یہی مشکلات ہیں جن کا حل پیش کرتے ہوئے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ضرورت کے وقت ایک سے زائد بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے خود مغرب کے کمی مفکرہ پسند معاشرہ کی اخلاقی پستی اور اس میں ایسی عورتوں اور ناجائز بحجوں کی زیبوں حالی کو دیکھ کر پیغام اُنھی میں اور بر ملا کرنے لگے ہیں کہ قرآن کے قانون پر عمل کیے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں۔

۸۔ میکن اگر ہم ذرا حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس رخصت کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں گنتی کے چند افراد کے سوابو لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہیں ہوش رانی اور لذت طلبی کے بغیر ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہوتی نیز نئی نویلی دامن کے حصوں میں یوں متار ہوش لٹادی جاتی ہے کہ پہلی بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیتے جاتے ہیں۔ شریعت اذنا برتاؤ تک کیا جاتا۔ اُس کے شکم سے بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے ہوش باختہ باپ کی شفقت سے بیکسر خروم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو ذرا اضافت کریں کہ کیا خدا نے بزرگ و برتر کا، اس کے رسول معظم کا ہمیں یہی حکم ہے دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ وہاں تو یہ تصریح ہے کہ اگر تم دونوں بیویوں میں عدل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو ایک صرف ایک بیوی کی اجازت ہے۔ کاش مسلمان اپنی باغیلوں سے اپنے پاکیزہ دین کو داغدار نہ کریں اور اپنے حسن عمل سے اسلام کی تعلیمات کی صداقت کو نمایاں کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باعث طالبان حق اور ملاشیاں ہدایت کو اس دین بحق سے منتفہ کرنے کا سبب نہیں۔

۹۔ لفظ تعولوا کی تحقیق کرتے ہوئے علام قطبی حضرت ابن عباس اور مجاهد سے نقل کرتے ہیں یقال عال الوجل یعول اذا اجار و مال و منه قوله عال السهو عن الهدف اذا امثال عنده بیني عال کامعنی ہے ظلم کرنا ایک طرف بھک جانا جس تیرنشا سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں عال السهو لیکن اس کا ایک اور معنی امام شافعی میں نقول ہے الا تعولوا ای لانتکروا عیال کو کہ تمہارے بال پچھے نیادہ نہ ہو جائیں یعنی اگر تم ایک بیوی پر اکتفا کرو گے تو کشت اولاد تھیں پریشان نہیں کرے گی۔

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئْ إِمْرِئًا ۚ وَلَا تُؤْتُوا

پھر اس سے خوشی دلی سے تو کھاؤ اُسے لذت حاصل کرتے ہوئے خوشکوار سمجھتے ہوئے اور نہ دے دو لہ

السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْضُ فَوْهُمْ

نادلؤں کو اپنے مال کا جھیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری (زندگی کے) لیے ہمارا اور کھلاؤ اخیں

نام اس آیت سے مرکا دھوپ ثابت ہوتا ہے۔ اور جب تک عورت خوشی سے سارا ہمارا اس کا کوئی بجز معاف نہ کر دے وہ مرد کے ذمہ واجب الادارہ تھا ہے۔ مخلة اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خوشی خوشی کسی معاوضہ کے لائچ کے سوا دیجا تے۔ مخلة عطیہ اذا اعطاه ایاہ عن طیب نفس بلا توقع عوض (بیضاوی)

اللہ تعالیٰ بچوں اور بچیوں کے مال صفات ہونے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کے اموال اس وقت ان کے سپرد کر دیتے جائیں جب کہ مال کے صحیح انتظام، اسے فرع بخش کار و باریں لگانے کی قابلیت ان میں مفقود ہو۔ اس حالت میں ان کے سر برست ان کے مال اگر ان کے سپرد کر دیں گے تو وہ چند دنوں میں اسے اڑاکے رکھ دیں گے۔ اور جب ان کی چشم ہوش و اہوگی تو وہ اپنے آپ کو فرقہ والاس کی زنجیروں میں بندھا ہو پاپتیں گے۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ باشمور نہیں تو ان کا مال حفاظت سے اپنے پاس رکھو اور ان کے خورد و نوش اور لباس کا استمام کرو اور ان کو خوش اسلوبی سے بتاتے رہو کریں مال و متاع تمہارا ہی ہے اور ہم نے تمہاری بہتری کے لیے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اور جب قم بڑے ہو جاؤ گے تو ہر چیز تمہارے حوالہ کر دی جائے گی۔

اللہ اس آیت میں دولفظ آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ اموالہم (ان کے مال) کی بجائے اموالکو فرمایا کہ تیبیوں کا مال اگرچہ اخیں کا ہے لیکن کیونکہ وہ اور تم سب ایک ملت کے فروہو اس لیے گویا وہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی حفاظت اور نگہداشت بالکل یوں کرو جیسے لپٹے مال کی کرتے ہو۔ دحدت میں اوزن کافل اجتماعی کا یہ ذہ محبت آفرین بنت ہے جس کی طرف قرآن ہر مناسب موقع پر تمہاری توجہ مبذول کرتا ہے۔ دوسرا امر جو غور طلب ہے وہ آیت کا یہ حصہ ہے الیت جعل اللہ لکو قیاماً یعنی مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ ان الفاظ سے مال کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار مقصود ہے لیعنی مال فضول اور قابل نفتر چیزوں نہیں بلکہ یہ تو تمہاری معاشی خوشحالی اور ترقی کا استون ہے لگو تم اس کو بے جا غریج کر دیا کرو گے تو تمہیں معاشی اور اقتصادی فارغ البالی تفصیل نہیں ہو سکے گی۔ اسے سنبھال کر رکھو اور سمجھ کر خرچ کرو۔

فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَابْتُلُوا إِلَيْتُمْ

اس مال سے اور پہناؤ اخیں اور کبو ان سے بھلانی کی بات اور آذان تے رہو سلام تیمیوں کو

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَارَ ۗ فَإِنْ أَنْسَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفِعُوا

یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو پس اگر مسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا ۗ أَنْ يَكْبِرُوا

اخیں ان کے مال اور نہ کھاؤ اخیں فضول خپچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہہ بڑے ہو جائیں گے

وَمَنْ كَانَ عَنِيَّاً فَلَيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأْكُلْ

اور جو سرپست غنی ہوتوا سے چاہئے کہ (تیمیوں کے مال سے) پرہیز کرے اور جو سرپست فقیر ہو گلے تو وہ کھا لے

۳۴۔ سابقہ آیت میں حکم فرمایا کہ تیمیوں کے مال اخیں واپس کر دو۔ اس آیت میں مال کی واپسی کا وقت اور اس کی شرط اُن کا ذکر ہے جب یہ دو ہیزیں بلوغ اور رُشد ان میں پائی جائیں تو ان کے اموال ان کے عوالہ کر دو۔ رُشد سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سُو جھ بوجھ ہے تیمیوں کی صلاحیت اور قابلیت کو آزمائنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ابتداء میں اخیں ان کے مال کی قیمت سی مقدار دے دی جائے۔ اگر اس میں تصرف سے ان کی ہونہاری کے آثار نمایاں ہوں تو سارے امال ان کے پسروں کر دو اور دُوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً کاروبار اور نظم و نسق کے سلسلہ میں مشورہ طلب کیا جائے اور ان کی رائے میں سمجھدی اور عتمدندی پائی جائے تو ان کی چیز ان کے عوالہ کر دو۔ کورٹ آف وارڈز (COURT OF WARDS) کا قانون اخیں آیات سے مانوذہ ہے۔

ان آیات سے یقینت واضح ہو گئی کہ اسلام اگرچہ انقدر ای ملکیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت کو یوں خرچ کرنا شروع کر دے جس سے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندر لیش ہو اور قوم کا نظام اخلاق اس کی بے راہ روی سے داغدار ہو رہا ہو تو حکومت کو حق پختا ہے بلکہ حکومت پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی مُطلقاً العناوی کو تھیڈ کر دے۔

۳۵۔ تیم کا سرپست جو اس کی تربیت اور اس کے مال کا نظم و نسق کرتا ہے کیا وہ کسی اُجھت کا مستحق ہے؟ اس کے متعلق بتایا کہ سرپست اگر غنی ہے تو اسے تیم کے مال سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہئے اور یہ سب خدمت حبیۃ اللہ کرنی چاہئے اور اگر وہ تنگدست ہے پھر اسے اپنی جائز ضروریات (کھانا، پیڑا وغیرہ) مناسب طریق سے پوری کرنے کی اجازت ہے لیکن اکثر

بِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا دَفَعْتُمُ الْيَهُمَّا مُوَالَهُمْ فَأَشْهُدُ فَا

مناسب مقدار سے پھر جب لوٹا تو تم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو

عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ

ان پر ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب بینے والا ۱۶ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے ہو چھوڑ کے

الْوَالِدَنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِتَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ

ماں باپ اور قریبی رشتہ دار کے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے ہو چھوڑ گئے ماں باپ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبٌ مَفْرُوضًا ۚ وَإِذَا

اور قریبی رشتہ دار اس ترکہ سے خواہ ہٹوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مقرر ہے اور جب

علماء نے بطور اختیاط یہ کلمہ دیا ہے کہ اس حالت میں بھی قرضہ حسنة کی نیت سے لے اور یہ ارادہ کرے کہ جب مولیٰ تعالیٰ نے اسے خوشحال کیا تو وہ یہ قرض ادا کر دے گا حضرت فاروق اعظم کا یہی مسلک تھا۔ بالمعروف کا یعنی ہے کہ اگر اس خرچ کو کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے میش کیا جائے تو وہ اسے ناجائز قرار نہ دے۔

ہم ایک واضح ارتضاد فرمایا کہ جب مال نیکم کو واپس کرنے لگو تو چکے چکے پوشیدہ طور پر واپس نہ کرو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں ایک ایک چیز را نہیں کوٹا دو۔ اس طرح کسی قسم کی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور آئندہ کسی بھگڑتے کا خدشہ بھی ختم ہو جاتے گا۔

لئے آخر میں تنبیہ فرمادی کہ تم لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تمحارا کوئی فعل پوشیدہ نہیں اگر تم نے ان کے مال میں خیانت کی تو یاد رکھو اس کے حضور پانی پانی کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

ملکہ عرب میں میراث کی تقسیم کا یہ قاعدہ تھا کہ عورتیں اور چھوٹے بچے اپنے مر نے والے باپ اور خاوند وغیرہ کی وراشت سے سیکھ محروم کردیتے جاتے تھے اور اس کی وجہ بیان کی جاتی کہ جو میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے قابل نہیں وہ میراث پانی کا بھی حقدار نہیں۔ بھارت میں بھی عورت وارث شمار نہیں کی جاتی تھی۔ اور یورپ میں تو نگناہی اُٹھی بہہ رہی تھی صرف بڑا بڑا کا وارث بنتا دوسرا سے لڑکے بھی محروم رہ جاتے۔ یہ حالت تھی جب قرآن کی یہ انقلاب آفرین آیت نازل ہوئی جس نے عورتوں کو مردوں کی طرح وارث قرار دیا۔ بڑے لڑکے کی تخصیص ختم کر کے سب بڑکوں کو اپنے متوفی باپ کی وراشت میں برابر کا شرکیہ بنایا۔ چھوٹی اور بڑی تمام جائیدادوں میں وثائق کو حسب حصہ حقدار استیم کیا۔

حضرَ القُسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسِكِينُ فَارْزُقُهُمْ

حاضر ہوں (وزیر کی تقسیم کے وقت) غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین ہے تو دو انھیں بھی

مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلِيَخُشَّ الَّذِينَ لَوْتَرُكُوا

اس سے اور کو ان سے اچھی بات اور حاضر ہے کہ ڈریں جو (تینوں کے سرپرست یا اسرائیلیوں) کا لکھا ہے

مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةٌ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا اللَّهُ

جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ۱۹ تھے فکر مند ہوتے ان کے متعلق پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے

وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ

اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال

ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۝ وَسَيَصُلُونَ سَعِيرًا ۝ ۲۰

ظللم سے وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیشوں میں آگ اور وہ عذیرت بھونکے جاتیں گے جہاں تک آں جیں

يُوصِّيَكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِمَذَكُورٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

حکم دیتا ہے تھیں ملے اللہ تھماری اولاد کی میراث کے بارے میں ایک (لوڑ کے) کا حصہ برابر ہے اسے دعورتوں (لڑکیوں) کے حصہ کے

نصیباً مفروضاً کے الفاظ سے واضح کر دیا کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے مقر کردہ ہے اس میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں۔

۲۱ مقانون میراث کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک اخلاقی صاباطہ کا ذکر بھی کر دیا کہ متزوہ کہ جائیداد کے وارث تو وہی

ہیں جن کا ذکر تفصیلاً آگے آرہا ہے لیکن اگر تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، حملہ کے یتیم بچے بستی کے غریب لوگ جمع ہو

جاتیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور تو انہیں اس سے گفتگونہ کرو جس سے ان کی دل شکنی ہو۔

۲۲ تھا تو اور لنشیں انداز نصیحت ہے۔

ملے اسلام نے صحیت منہ معاشرہ کو محض وجود میں لانے کے لیے کلبہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے افراد کے مقاد کو یوں

ایک دوسرے سے والبستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی لوٹنے نہ پاتے۔ اس کے لیے وجود مثال انقلیار کیے

ہیں انھیں میں سے ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کوئی فردا فلاس وغیرہ کاشکار ہو جاتے تو دوسرے افراد پر

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ شُكْرًا مَا تَرَكَ وَارَتْ

پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے دو تھائی ہے جو میت نہ چھوڑا اور اگر ہو

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوِيدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا

ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو

اس کے نفقہ کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح موت کے بعد متوفی کے قربی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت میں لکھنے کا مقادیر یا باہم پوستہ رہے کہ جلدی کا خیال ہی ان میں راہ نہ پاسکے لکھنے کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام اور ارشت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دُوری کو بہت بڑا افضل ہے۔ وہ سراسر اصول ضرورت ہے یعنی قربی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی پیشی کا مدارضورت کو قرار دیا جتنی کسی کی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلاً متوفی کے والدین اور اس کی اولاد کی قرابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا اب آغاز کر رہی ہے اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ جائے ہیں۔ نیز والدین کے پاس تو زندگی بھر کا کچھ نہ کچھ اندھتہ ہوتا ہی ہے اور اولاد بالکل غالی ہاتھ ہے۔ یہی فرق لڑکی اور لڑکے میں ہے۔ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں۔ شادی سے پہلے اس کے والدین اس کی تمام ضروریات کے بھیل میں اور شادی کے بعد اس کی رہائش، لباس، خوردن و نوش کی تمام ذمہ داری خاوند پر ہے۔ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جملہ مصارف بھی اس کے خاوند کے ذمہ ہیں۔ مندرجہ ایام عملی زندگی کی سرگرمیاں جس سرمایہ کی محتاج ہیں اس کا جیتنا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ تھائی ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں میں فرق کیا ہے اور یہ فرق ہی صحن عدل ہے ان امتیازات کی موجودگی میں ان کے حصوں کو مساوی رکھنا مساوات تو ہو گئی لیکن کھوٹھلی اور ظالمانہ، اور اسلام صرف اس مساوات کا عالم بدر ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ تقسیم اصول تقسیم دولت ہے اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چڑھا جاؤ گے اور ارشت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو محفوظ رکھا۔ اس یہی صرف لڑکے یا صرف لڑکوں کو ہی وارث تسلیم نہیں کیا بلکہ تمام اولاد لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کتنی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو۔ یہ وہ تین اصول ہیں (قرابت، ضرورت، تقسیم دولت) جن پر اسلام کا یہ بے نظیر نظام و راست قائم ہے۔ (ان سطوრ میں میں نے پہنچ اس اور مصر کے شہرہ آفاق عالم شیخ محمد ابو زہرہ کے مقالہ ”شریعة القرآن“ کا حاصل پیش کیا ہے جو ماہنامہ ”المسلمون“ رجب ۱۴۳۷ھ میں شائع ہوا تھا۔ اب حضرت الاستاذ کاشتقال ہو گیا ہے اللہ کریم اُنہیں جنت الفردوس میں بکدے۔ آئین۔

۱۱۶۔ اولاد کے وارث ہونے کی چار صورتیں ہیں : (۱) لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی اس صورت میں لڑکے کو دو حصے اور

السُّدُّسُ مِنَاتِرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

چھٹا حصہ ملے گا ۲۲ اس سے جو میت نے چھوڑا بشرطیکہ میت کی اولاد ہو اور اگر نہ ہو اس کی اولاد

وَوَرَثَةُ أَبُوهُ فَلَامِشُ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَةٌ فَلَامِشُ

اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا تیرس احمد ہے (باتی سب پاک) اور اگر میت کے بین بھائی بھی ہوں تو ماں کا

السُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَا وَكُمْ وَ

چھٹا حصہ ہے (اوڑیقیسم)، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی اور قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور

أَبْنَاؤُكُمْ لَاتَرْوُنَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ

تمہارے بیٹے ۳۳ میں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں یہ حصہ مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی

اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

طرف سے بے شک اللہ تعالیٰ (تمہاری صفتیوں کو جانتے والے بڑا نہ ہے اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں

لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ (۴) صرف ایک لڑکی ہو۔ اس صورت میں لڑکی نصف جایزہ دکی وارث ہوگی۔ (۵) صرف دلوڑ کیاں ہوں۔ (۶) یادو سے زائد اور لڑکا کوئی نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں لڑکیوں کو جایزہ دکا دو تھائی حصہ ملے گا۔

۳۴ والدین کے وارث بنیت کی تین مختلف صورتیں ہیں۔ (۱) ماں باپ بھی موجود ہوں اور اولاد بھی ہو خواہ لڑکا یا لڑکی ایک یا زیادہ، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور بقیا ۲/۳ اولاد میں حسب قاعدہ تقسیم ہو گا۔ (۲) صرف ماں باپ اور ہوں میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بین بھائی بھی نہ ہوں اس صورت میں ماں کا ۱/۳ اور بقیہ دو تھائی باپ کا۔ یہاں بین بھائی کے نہ ہونے کی تصریح نہیں کی گیونکہ تقریبی صورت میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔ (۳) میت کی اولاد تو نہ ہو یہ میں اس کے بھائی یا بہن ہوں اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ اور بقیہ ۲/۳ باپ کو۔ بھائی بہن خواہ عینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں خواہ علاقی یعنی باپ ایک یا یعنی الگ الگ یا اخیانی یعنی ماں ایک باپ الگ الگ۔ ان سب حالتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ باپ کے باعث بھائی بہنوں کو حصہ نہ ملے گا۔

۳۵ سابق حصہ بیان کرنے کے بعد یہ وضاحت فرمادی کہ ان حصہ کو خدا تسلیم و خیر نے اپنی حکمت کاملہ سے مقرر فرمایا ہے تمہیں یہ اختیار نہیں کہ ان میں رد و بدل کرو اور اگر یہ بات تمہاری صواب دید پر چھوڑی جاتی تو تم اپنی عارضی اور وقتی مصلحتوں

أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمْ

تماری بیویاں ہلے بشرطیکہ نہ ہو ان کی اولاد اور اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے

الرُّبُعُ مِنَ أَثْرِكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ط

چوتھائی ہے اس سے جو وہ چھوڑ جاتیں (تقریب) اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کرجاتیں اور قرض ادا کرنے کے بعد

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِنَ أَثْرِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

اور تماری بیویوں کا پچھوڑنا حصہ ہے اس سے بیوم چھوڑو بشرطیکہ نہ ہو ہلے تماری اولاد اور اگر ہو

لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِنَ أَثْرِكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

تماری اولاد تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اس سے بیوم پیچھے چھوڑ جاؤ (تقریب) اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو

تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ

تم نے کی ہو اور (تمہارا) قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ ہلے وہ

اور مفاد کے زیر اثر معلوم نہیں کیا کیا ترمیحیں کرتے رہتے۔

ہلے بیوی کی وراشت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں:-

۱۔ متوفیہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہونہ لڑکی نہ لڑکا نہ تم سے اور نہ کسی دوسرے خاوند سے۔ اس صورت میں نصف خاوند کو

بلے کا اور بقیہ لصفت دوسرے وارثوں میں حسب قاعدہ شرعی تقسیم ہو گا۔

۲۔ اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں چوتھائی خاوند کو بلے کی اور بقیہ دوسرے وارثوں کو۔

ہلے خاوند کی وراشت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) خاوند کی کوئی اولاد نہ ہونہ لڑکا نہ لڑکی نہ موجودہ بیوی سے نکری فری

بیوی سے تو چوتھائی بیوی کو بلے گا خواہ ایک ہو یا زیادہ اور اگر خاوند کی اولاد ہو (تفصیل سابق) تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔

ایک ہو یا زیادہ۔ یقینہ دیکر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

ہلے کلالہ اس مردیاً عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہوں۔ اگر اس کے وارث صینی یا علاتی بہن بھائی ہوں تو ان کا ذکر آخر سورہ میں آتے گا اور اگر اس کے اختیافی (یعنی بाल کی طرف سے سگے) بہن بھائی ہوں تو ان کا حکم بیان ذکر فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہو گی تو اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔

اُمَّرَأَةٌ وَلَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اور اگر

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْشُّرُكَاتِ مِنْ بَعْدِ

وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شرکیں ہیں تھائی میں (تیسیم) وصیت پوری کرنے کے

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٌ لَا غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ

بعد ہے جو کی گئی ہے ۲۳۷ اور قرض ادا کرنے کے بعد بشرطیکاری سے ۲۸۷ نقضان پہنچایا گیا ہو۔ (نظام و راثت حکم ہے اللہ کی طرف

اور اگر وہ ایک سے زائد ہوں تو سب کو تھامی حصہ ملے گا اور سب میں رات تیسیم ہو گا۔

۲۴۷ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتے تو تجہیز و تھفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتے

بعد ازاں اس کی وصیت پر عمل کیا جاتے اور اس کے بعد بقیہ تک حسب احکام قرآنی و ارثوں میں تیسیم کیا جاتے۔ قرض کی

ادایگی کا مقتدم ہونا تو عین الصاف ہے۔ وصیت کے بارے میں شریعت نے چند ایک قیود عائد کی ہیں۔ اور اسلام سے پہلے

وصیت کے بارے میں جو طریقہ راجح تھا اس میں اصلاح کر دی تاکہ اس طریقیں جو بے راہ روی روما ہو چکی اس کا سدید باب

کرو یا جاتے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا اپنی جاسیدا کی ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جانا جن سے اس کا دوڑ کا واسطہ

بھی نہیں ہوتا تھا اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا اور اس فعل کو شرافت و سخاوت کا کمال شمار کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے راہ روی

کے انسداد کے لیے احکام و راثت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیتے اور ان میں رد و بدل اور کمی بشی

کرنے سے صاف الفاظ میں منع فرمادیا لیکن بسا اوقات کوئی اجنبی یا غیر و راثت رشتہ دار و ارثوں سے کہیں بڑھ کر کسی کی خدمت

کرتا ہے اور وہ شخص اس کا معاوضہ اسے دینا چاہتا ہے یا کسی کا ریختیں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس سے بھی اسے محروم نہیں کیا گیا

بلکہ جایداو کے ۲۴۸ حصے میں اسے وصیت کرنے کا حق دیا۔ قرآن علیم نے وصیت کے لیے غیر مضر اگر کیم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حد ۲۴۹ مقرر فرمادی اور وصیت کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو وارث نہیں ہیں

کیونکہ اگر وارث کے لیے بھی وصیت جائز کھی جاتی تو پھر وادی میراث بالکل مغلظ ہو کر رہ جاتے۔ اس لیے حضور رحمۃ للعلیمین

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ فلا وصیة لوارث۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خدا کو اس کا حصہ

عطاف ردا دیا ہے اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں بعض لوگ وارث کو وصیت سے محروم کرنے اور

وصیت کو ایک محدود کرنے پر بے ردا و خستہ ہوتے ہیں کاش وہ اسلام کے حکیمانہ نظام میں خور کریں۔ (اس پر سی جعل بحث

میری تالیف سنت خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ملاحظہ فرمائیں)

وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ^{۱۲} تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا بڑا بارہے یہ حدیث مقرر کی ہوئی ہے اور جو شخص فرمایہ بداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی

يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدٌ إِنَّ فِيهَا مَا وَ

داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بھتی ہوں گی جن کے بیچے نہیں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اور

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^{۱۳} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

یہی ہے بڑی کامیابی اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا

حُدُودَه يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا صَوْلَه عَذَابُ مُهَمَّهِينَ^{۱۴}

اللہ کی (مقررہ) حدود سے داخل کرے گا اسے اللہ گی میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا

وَالَّتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ وَاعْلَمُ

اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا نسلے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو (تمت لگانے والے سے) ان پر

۲۸۔ اگرچہ یہ قید تمام سابقہ آیات میں بھی ملحوظ ہے لیکن یہاں تصریح کی اس لیے زیادہ ضرورت ہوئی کہ جب انسان کی اولادیا والدین نہیں ہوتے تو وہ اپنے دوسرے وارثوں کو خود کرنے کے لیے طرح طرح کے جیسے بہانے کرتا ہے کسی کو بلا وجہ و صیت کر دی، کسی کا فرضی قرضہ اپنے اور پر تسلیم کر لیا انکہ اس کی جائیداد بٹ جائے اور اس کے وارثوں کو نہ ملے اس لیے یہاں مضار کے الفاظ صراحتاً ذکر فرمادیتے۔

۲۹۔ ان دو آیات سے نظام و راست کی اہمیت کی طرف تو بہرہ دلانی، اس پر عمل پیرا ہونے کا تائیدی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کریم کی کامل اطاعت کی توفیق بخشی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے ہیں میں

نسل دوسری بُرائیوں کی طرح زنا بھی جاہلیت میں عام تھا پیشہ و رعوتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہ رایا کرتیں۔ اس فعل شیع کے ارتکاب کو (چند ذی شرف خاندانوں کی مستورات کے علاوہ) چنان معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس فعل پر کی روک تھام کے لیے صرف ععظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزا اور سزا بھی سنگین مقرر کی ہے لیکن ابتداء ہی میں اس سنگین سزا کا لفاذ نہیں فرمایا بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجیاً۔ ان دو آیتوں میں ابتدائی زمانہ میں جو سزا مقرر ہوئی اس کا ذکر ہے۔ سدی، قتاہ اور کئی دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے متعلق ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب

أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو اُن عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ

يَتَوَقَّهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّلًا^(١٥) وَالَّذِينَ يَا تَيْمَنَ سَا

پورا کر دے ان (کی زندگی) کو موت یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان (کی رہائی) کے لیے کوئی رستہ اور جو مرد عورت اڑکاب کریں

مِنْكُمْ فَإِذْ وُهْمًا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ

بدکاری کا قسم میں سے تو خوب ابیت و اخھین پھر اگر دونوں تو بپ کر لیں اور (ایپنی) اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو اخھین بے شک اللہ تعالیٰ

كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا^(١٦) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

بہت تو بقول کرنے والے بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرے جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کی تو بیہے جو کہ بیٹھتے ہیں

کہیں تو اخھین ان کے گھروں میں بطور سزا بکم حاکم نظر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے
کوئی دوسرا حکم نازل فرمادے۔ (یہ آخری کلمات اس بات کا صاف پتہ دیتے ہیں کہ یعنی قید کی سزا عارضی سزا ہے اور اس کے بعد
کوئی دوسرا سزا جو یہ نہ ہے والی ہے) اور دوسرا سری آیت میں غیر شادی شدہ مرد عورت کی سزا کا ذکر ہے لیکن یہ سزا تب دی
جائے گی جب بہم ثابت ہو جائے اور اس بہم کا تعقیل کیونکہ عورت و ابقوسے ہے اس لیے اس کے اثبات کے لیے دونیں
چار لوگوں کی ضرورت ہے۔ چاروں گواہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں۔ صحیح عرضہ بعد سورۃ نور کی آیت
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) نازل ہوئی جس میں غیر شادی شدہ زنا کا عورت اور مرد کی سزا بیان کی گئی اور سنت صیحہ نے شادی شدہ عورت
مرد کی سزا بھم مقرر فرمائی۔ (اس کا تفصیلی بیان سورۃ نور میں آتے گا انشاء اللہ تعالیٰ)

۱۳۷ تو بہ کا الغوی معنی رجوع کرنا اور لوٹ آتا ہے یعنی جس بہت میں آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھر کر دوسرا سمت میں
چل پڑیں۔ تو بہ شرعی میں بھی یہی معنی مخطوط ہے کہ انسان گناہ و معصیت کی جس را پرانی کم عقلی اور سچ فہمی کے باعث بھاگا چلا
جا رہا ہے اس سے رُخ موڑ کر نیکی اور تقویٰ کی شاہراہ پر گامز ہو جائے اسی لیے تحقیقین نے تو بہ کی قبولیت کے لیے متعدد
شرطوں بیان فرمائی ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں۔ (۱) ندامت (۲) اس گناہ سے اسی وقت باز آجانا (۳) دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے
کا پختہ ارادہ (۴) و ان یکون ذلك حیاء عن اللہ تعالیٰ لامن خیرہ یعنی یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ سے شناساہ ہو کرے۔
ایسی تو بہ کو قول فرمائے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ جھالة کا معنی نہ جانا ہے اور اس سے مراودہ کیفیت ہے کہ جب انسان
رذیل خواہش ہو اتنے نفس اور غصہ سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اپنے اعمال کے نتائج اس سے پوشیدہ ہو جائیں۔

السَّوْءَ بِمَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

گناہ بے سمجھی سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے ۳۴۳ پس بھی لوگ ہیں (نظرِ حجت) تو جسم ناتا ہے اسلام پر

وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا ۝ وَلَيُسْتَدِعَ النَّفَوَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ

اور ہی اللہ تعالیٰ اس سب کچھ جانئے والا بڑی حکمت والا۔ اور نہیں یہ تو بدل جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے، ان لوگوں کے لیے کہ تو بھتے ہیں یا میان (ساری عزم)

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تَبَّتْ أَلْعَنَ وَلَا الَّذِينَ

یہاں تک کہ جبکہ جانتے کسی ایک کو ان میں سے موت (تو) کے بیٹھاں میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی توبہ

يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا

بومرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں انھیں کہ لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک ۳۴۳ آئے

۳۴۲ وقت قریب سے مرادیہ ہے کہ وہ جذبات جن سے مغلوب ہو کر اس نے یہ فعل بد کیا جب ان کی تیزی ختم ہو جاتے تو فوراً بارگاہِ الہی میں حاضر ہو کر توبہ کرے لیکن شریعت نے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے تو بھتے کو صحیح فرار دیا ہے۔ چنانچہ ضحاک سے مروی ہے کہ کل ماکان قبل الموت فهو قریب لیکن انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی توبہ کی کیا جلدی ہے موت سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ کیا اپنے کہ موت اچانک ہی آجائے کیا خبر کہ یہم نا فرمانیوں کی خوست احسان گناہ کا گلاہی گھونٹ دے اور توبہ کی توفیق سے ہی محروم کر دے۔ ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بر تراویح اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو۔ ہاں جسے وہ خود محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اور پروا جب کرے۔ اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی سہ باں اور رحمت سے وعدہ فرمایا ہے۔

۳۴۳ یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر اور خوفِ الہی سے بے نکل ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں یا میان تک کہ موت کا فرشتہ اُن کا گلاد بوج لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مالیوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی تمام مہین ھلتی ہیں اور توبہ کہنے لگتے ہیں اس کو توبہ تا الیاس کہتے ہیں یعنی مالیوسی کی توبہ اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی نیز وہ بہبخت جو کفر برپر تا ہے ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں

الَّذِينَ أَمْنُوا لَمْ يَحْلِفُوكُمْ أَن تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

ایمان والوا نہیں حلال محتارے ہیے کہ وارث بن جاؤ سورتوں کے زبرستی^{۳۷۲} اور نہ روکے رکھو اخیں^{۳۷۳} ہے

لِتَذَكَّرُ هُبُوا بِعِظِّمَاتِهِنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس (مرد وغیرہ) کا جو تم نے دیا ہے اخیں بجز اس صورت کے کہ اتنکاب کریں کھلی بدکاری کا

وَعَالِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُونُوا شَيْئًا

اور زندگی بس کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ کی سے^{۳۷۴} پھر اگر تم ناپسند کرو اخیں تو (صبر کرو) شاید تم ناپسند کرو^{۳۷۵} لے کسی چیز کو

۳۷۴ عرب میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج تھا کہ خاوند کے مرلنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جانیداد کی طرح اس کی بیوی (اپنی سوتیلی ماں) کا ہی وارث ہوتا۔ چاہتا تو اس کو جبراً بغیر مراد کیے اپنے کاوح میں لے آتا۔ چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی دوسرا سے اس کی شادی کر دیتا اور مہر خود دھنوں کرتا۔ اور چاہتا تو اس سے ساری عمر یونی بیوی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرلنے کے بعد اس کی میراث کا تھا وارث بن جاتا۔ مدت دراز سے یہ نظام نہ صرف عرب میں بلکہ دیوانہ فرم دیا میں بھی راجح تھی۔ قرآن حکیم نے مظلوم عورت کی فریاد رسی کی اور مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے وکد دیا۔

۳۷۵ اس آیت سے ایک اور فوجِ زخم کا لعل مع کرنا مطلوب ہے یعنی مرد اپنی مادر بیویوں کو طبعی منافرتوں کی وجہ سے آباد بھی نہ کرتے اور طلاق بھی نہ دیتے تاکہ وہ یا تو اسی حالت میں مر جائیں اور یا وہ اخیں کچھ دے کر طلاق

لیتے پر مجبور ہو جائیں یا اس شرط پر طلاق دیتے کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ ان تمام چیزوں سے بھی قرآن نے منع فرمادیا ہاں اگر عورت فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو تو پھر خلع کی اجازت ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد اکثر مفسرین نے زنا لیا ہے اور حضرت

ابن عباس^{رض} اور ابن مسعود^{رض} سے بعض اور نافرانی بھی منقول ہے۔ الفاحشۃالمبینۃ فی هذہ الاتیۃالبغض والنشوز

مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رومنا ہو جس کے باعث ازو ابھی زندگی تباخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت

ہے کہ جو مر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دے۔

۳۷۶ لکنی واضح ہدایت ہے بلکہ لکنا کھلا حکم ہے حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰت والتسیمات کا ارشاد بھی شن لیجئے خیر کم خیر کو بیاہله تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے ہو والوں کے ساتھ عمدہ برداو کرتا ہو۔ کاش تم سمجھیں اور اس پہنچ کریں وہ مگر جس میں میاں بیوی میں آن بن ہو وہ بھی سچی مسرتوں سے اطفت اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔

۳۷۷ غابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معاشر جمالِ اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے۔ یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مشتملی نہیں جن کے تم متنمی تھے تو وہ بروڈ اسٹریٹ ہو کر ازدواج کے اس رشتہ

وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا١٩ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ

اور کہ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں (تحالے لیے) خیر کثیر اور اگر تم ارادہ کر لوئے کہ بدلوا ایک بیوی کو پہلی

زَوْجٍ وَأَتَيْهُمْ إِحْدَى هُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ مِنْهُ شَيْئًا٢٠ أَتَأْخُذُونَهُ

بیوی کی جگہ اور دیسے بچے ہوتم اسے ڈھیروں ماں تو نہ لو اس ماں سے کوئی چیز کیا قم لینا چاہتے ہو پہنال

بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُمْبِينًا٢١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ الْ

(زانہ جاہلیت کی طرح) بہتان لگا کر اور گھلانا کر کے اور کیوں کرو اپس بیٹے ہوتم (زنہی میں) ایک رسم

بَعْضٌ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ قِنْطَارًا غَلِيلًا٢٢ وَلَا تَنْكِحُوا مَنْكُمْ أَبَدْ وَكُمْ

سے ۲۳ اور وہ لے بچی ہیں تم سے پختہ وعدہ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کرچے تھا لے باپ دادا

کو توڑنے والے کم اکتا ہیں اور خامیوں پر صبر کرو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعد نہیں کہ تھیں اس بیوی سے ایسی بھیب و سعید اولاد عطا فرمادے جو تھارے نام کو روشن کر دے۔ یا جب زندگی کا کار و اول آزمائش و ابتلاء کی سندھلخ وادی میں قدم رکھے تو تھاری بیوی کی تھارے عزم و حوصلہ کو بلند رکھئے میں اس گل رعناء سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور زنگ صفا کو باہم تہموم کا ایک ہی جھونکا مر جھا کر رکھ دے انسانی صحن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں اس کے علاوہ اور بھی کتنی آئینے ہیں۔

۲۴ میں پہلے ذکر فرمایا کہ اگر عورت کی غلطی اور کوئا ہی کی وجہ سے طلاق ناگزیر ہو گئی ہو تو خاوند کو اپنا نامہ واپس لینے کا حق ہے میکن اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو اور پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسرا سری عورت سے نکاح کرنا چاہو تو تھیں یعنی حاصل نہیں کہ جو تم پہلے عورت سے عورت کو دے چکے ہو خواہ اس کی معتقد اربت زیادہ ہو واپس لو۔ امام رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ زمانہ جہالت کی ایک ستم بیتھی کجب کوئی آدمی دوسرا سری شادی کرنا چاہتا تو وہ پہلی بیوی پر زنکی تھمت لگاتا۔ اس طرح اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کو مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے بھی مسلماً انوں کو روکا گیا اور پ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے جاہل عرب کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت خواہ نتی ہو یا پرانی اس کا مزارج ایک ہی ہے۔

۲۵ افسی افضلاء سے ہے۔ فرمادا م لغت نے اس کا معنی کیا ہے مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا خواہ محبت کے بغیر ہو۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اس سے سارا مہروا جب ہو جاتا ہے۔

۲۶ جیسے ایک سابقہ آئیت میں گزر ہے کہ زمانہ جہالت میں باپ کے مرنے کے بعد لا کا اپنی سوتیلی ماں سے جبرا شادی کر لیا کرتا تھا۔ اس آئیت کے نزول سے جبرا شادی تو بند ہو گئی میکن جانین بن کی اضافمندی سے یہ سلسلہ جباری رہا اس آئیت میں

مِنَ النِّسَاءِ إِلَامَاقْدُ سَلَفَ طَإِنَهَ كَانَ فَلِحَشَةً وَمَقْتَأً طَوَسَأَهَ

مگر جو ہو چکا (اس سے پہلے سو وہ معاف ہے) بے شک یہ فعل بہت بے حیاتی اور نرفت کا فعل تھا اور بہت بُرا

سَبِيلًا عَزِيزَتْ عَلَيْكُمْ أَهْنَكُمْ وَبَنْتَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَشْنَكُمْ وَخَلْنَكُمْ

حرام کرو گئیں تم پر ایکہ تھاری مائیں اور تھاری بینیں اور تھاری بینیں اور تھاری بھپھیاں اور تھاری خالیں طریقہ تھا

وَبَنْتُ الْأَخْرَهِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأَمْهَنْكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنْ

اور بختیجیاں اور بھاجیاں اور تھاری مائیں لائے جھنوں نے تھیں دودھ پلایا اور تھاری بینیں

الرَّضَاعَةُ وَأَمْهَنْتُ لِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ لِسَائِكُمْ

رضاعت سے اور مائیں ۳۲۷ تھاری بیویوں کی اور تھاری بیویوں کی بھیاں جو تھاری گودوں میں (پوش پاہی) ہیں ان بیویوں سے

بکل مانعت کر دی گئی۔ علامہ قرطی نے اپنی تفسیر میں بہت سے لوگوں کے نام گنوائے ہیں جھنوں نے اپنی سوتیلی ماں سنے بکاح کیے اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوتی۔

۳۲۸ یہاں سے اُن عورتوں کا تفصیل اُذکر ہوتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ترمذ تین طرح کی ہے جو مت نسب ہر ترتیب رضاعت اور حُرُمَت مصاہرہ تھے جن کا ذکر ہے جن کی حُرُمَت کا سبب نسب ہے ان کی تعداد سات ہے:-

۱۔ مان (راس میں دادی، نانی اور اس سے اُپر سب داخل ہیں)

۲۔ بیٹی (راس میں پوتی، نواسی بیخی تک سب داخل ہیں)

۳۔ بہن (مسگی اور سوتیلی) (۴) پھپھی (۵) غالہ (۶) بختیجی (۷) بھاجی

۳۲۹ یہاں سے اُن محنتات کا ذکر ہے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ ساتوں رشتے جو نسب سے عرام نہیں وہی رضاعت سے حرام ہیں جو حُرُمَت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ اُن میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں سے پہلی قسم

بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہو لیکن اگر صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح درست ہو گا اور بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہی حکم پتوں اور لاؤسون کی بیویوں کا ہے دوسرا قسم

بیوی کی بہن، پھپھی، غالہ، بختیجی اور بھاجی ہیں جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اُس وقت تک ان سے نکاح درست

الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

جن سے تم صحبت کر پچھے ہو اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی ہرج نہیں تپراں (ان کی بیویوں سے مکاح

وَحَلَّا إِلَى أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْعَلُوا بَيْنَ

(کرنے ہیں) اور (عمر کی گیتیں) بیویاں تھاں ان بیویوں کی جو تھاری پشتیوں سے میں ہوں اور (بیوی حرام ہے) کو جمع کرو تم دو

الْأُخْتَيْنِ إِلَامَاقْدُ سَلَفَ طَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۲۲

بہنوں کو ۲۵ میگر بزر چکا رسو وہ معاف ہے) یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے

ہیں اور اگر بیوی مر جاتے یا اُسے طلاق فرے تو پھر ان سے زکاح کرنا درست ہے۔

۲۶ یعنی ان بیویوں کی بیویاں حرام ہیں جو تھاری پشت سے ہوں۔ یہ قید اہل عرب کی ایک غلط استمان کو مٹانے کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ وہ جن کو مبتلى بنایا کرتے اُن کی بیویوں کے یہاں مطلقاً ہونے کے بعد بھی ان سے زکاح کرنا حرام خیال کرتے۔

۲۷ دو بہنوں کو خواہ وہ حقیقی ہوں یا ارضاعی ایک زکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھانجی، غالا اور بھانجی کا ایک عقیلیں جمع کرنا منوع فرمایا ہے اور اس کی وجہیہ بیان فرمائی گئی کہ یہ رشتے محبت و پیار کے رشتے ہیں اگر یہ ایک دوسرے کی سوئیں بن جاتیں گی تو محبت و اش کی جگہ حسد و عناد جو عام طور پر سوکنوں میں پایا جاتا ہے رونما ہو جاتے گا۔ انکرا ذا فعلتو ذلک قطعتم اصحابکو (قربی)

وَالدُّحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ الْأَمَمَلَكَةُ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ

اور (حرام ہیں) خاوندوں والی عورتیں مگر (کافروں کی دُوْعَویں) لئے جو تمہارے ملک میں آ جاتیں فرض کیا ہے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَهْلَكُمْ مَا وَرَأَتُمْ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِآمْوَالِكُمْ

اللَّهُنَّ (اللَّهُمَّ) کو تم پر اور خلال کر دی کتی بین تھارے لیجے اسوا ان کے تناک فطلب کرو (ان کو) اپنے مالوں کے ذریعہ

مُحْسِنِينَ غَيْرِ مُسَاخِفِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

پاکدا من بننے ہوتے نہ زنا کار بننے ہوتے ۲۷ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے ۲۸

۲۷۔ یعنی جو عورتیں ہیدان جنگ میں بکڑی جاتیں اور ان کے خاوندوں والی حرب میں رہ جاتیں تو ان کا سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور حکومتِ اسلامیہ اس عورت کو جس سپاہی کے حصہ میں دے دے اس سے ہم بستری کر سکتا ہے جبکہ قیدیوں کا مستسلہ ہمیشہ سے عکومتوں کے لیے ہے اگر کسی بنا رہا ہے اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کا حل بیش کیا ہے کہ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں اسیہنہ کرتیں تو حکومتِ اسلامیہ کو اختیار ہے چاہے تو انھیں آزاد کر دے۔ چاہے تو ان سے فدیہ کے رکھوڑ دے۔ چاہے تو سelman قیدیوں کے ساتھ ان کا تباہ کر لے اور اگر مصلحت عامہ کا تقاضا ہے تو کہ انھیں اسیہنی رکھا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے لیکن کیسے؟ جایاں، جرمی اور روس کے قیدی کمپیوں کا یہاں کوئی وجود نہیں جہاں انھیں ہٹکو کا پیاسار کھا جاتا ہو۔ انھیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی جاتی ہوں اور ان سے رات دن بھری مزدوری لی جاتی ہو بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انھیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے ہر سپاہی اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھے جو اسیہنی عورت کسی کے حصہ میں آتے وہ ایک ماہواری گزرنے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے اگر اس کے شکم سے اولاد پیدا ہوئی تو اس کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسرا اولاد کے۔ اب وہ اس لونڈی کو فروخت بھی نہیں کر سکتا اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد بھی ہو جاتے گی۔

۲۸۔ علامہ قرطیؒ نے محسنین کا معنی متعفین عن الزنا کیا ہے یعنی پاک باز بننے ہوتے اور غیر مساخین کا معنی غیدزانین ایں ان کلمات سے نکاح کی غرض و غایت کی طرف اشارہ فرمایا۔

۲۸۔ اگر بیوی کے ساتھ مباشرت یا خلوت صحیح ہو جائے تو سارا مہارادا کرنا الازم ہو جاتا ہے اور اگر اس سے پیشتری جدائی ہو جائے تو پھر صرف نصف محرومی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس آئیت سنتعہ رواضن پر استدلال کرنے سرسر باطل ہے کیونکہ محسنین غیر مساخین کے الفاظ اس کی صراحت تردید کرتے ہیں نیز حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والتسیل نے اسے جنہوں اولاد کے موقع پر قیامت تک کے لیے حرام کر دیا تھا تفصیلی بحث سورہ المؤمنون میں ملاحظہ فرمائی۔

فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ

تو دو ان کو ان کے مہر بوجو مقرر ہیں اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس بجزیرہ تم آپس میں راضی ہو

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا وَمَنْ

جاوہر مقرر کیے ہوتے مہر کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اور جو

لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِنْ

نہ رکھتا ہوئے تم میں سے اس کی طاقت کو نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے تو وہ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ فَتَيَّبْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ طَوْلًا عَلَى اللَّهِ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ

نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان میں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی غیبت کو

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ

بعض تمہاراں کے بعض (کی جیسے) سے ہے تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپستوں کی اجازت سے اور دو ان کو

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَذِّلَاتٍ

مران کے دستور کے موافق (تمہارے نکاح سے) وہ پاکدا من بن جائیں نہ (اعلانیہ) زنا کار اور نہ بنانے والی ہوں

۲۹۹ ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ سمجھنے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

۵۰۰ عام طور پر آزاد عورت کامہر اور اس کا نفقہ کنیزیوں کے مہر اور نفقہ سے کہیں زیادہ ہوتا کرتا ہے بعض اوقات ایک شخص آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرتے کی قدرت نہیں رکھتا اور اس کو یارا تھے صیریتی نہیں۔ اس کے گناہ میں بتلا ہونے کا انذیشہ سے تو اس صورت میں قرآن حکیم نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کی کنیزی سے نکاح کر لے امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اس کنیز کا مسلمان ہوتا ضروری ہے اور امام صاحبؒ کے نزدیک مستحب ہے۔ طول کا معنی ہے السعة والغنى (القرطبی)

۵۰۱ عرب میں باندیلوں کے ساتھ نکاح کرنا بہت معموب سمجھا جاتا اور ان کے شکم سے جو اولاد ہوتی اس کو "بھین" کہا جاتا۔ یہ بتا کر کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اس خیال کی تردید کر دی۔

اَخْدَانٍ فَإِذَاً اُحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

پوشیدہ یاراں اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر اگر وہ از نکاب کروں بد کاری کا تو ان پر ۲۵۵

الْعَذَابُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِرُّ وَأَخِرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بد کاری ہیں بلکہ ابوز کامٹ سے اور تھارا صبر کرنا بہتر ہے تھا اسے لیے اور اللہ تعالیٰ اغفور رحیم ہے

۲۵۵ اخذ ان جمع ہے اس کا واحد خدین اور خدین ہے خدا ان اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پوشیدہ بُرے تعلقات ہوں اس آیت میں لکھئے اور پوری پچھیر زنا دلوں سے منع کر دیا۔

۲۵۶ ان دو قین آیتوں میں محسنات اور محسنین کے الفاظ کا کتنی بالکل اڑ ہوتا ہے لیکن کسی جگہ اس کا معنی شادی شدہ کہیں پاکاڑ کہیں آزاد اور کہیں کنوں اکیا گیا ہے جس سے اگر کسی نو تہوڑے کے ذہن میں تردد پیدا ہو جاتے تو کچھ بعد یعنیں کہ ایک لفظ ہے اور قدم قدم پر اس کے معانی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس تردد کے ازالہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان الفاظ کی تحقیق کی جائے ان الفاظ کا مأخذ احصان ہے اس کا لغوی معنی روکنا اور حفاظت کرنا ہے اسی لیے قلم و حصن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حریف کے حملہ سے محفوظ رکھتا ہے اور مضبوط زرہ کو درع حصینہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی حریف کے وار سے جسم کی حفاظت کرتی ہے اسی مناسبت سے جو مرد یا عورت بد کاری سے اپنی حفاظت کرے اُسے بھی محسن اور محسنة کہتے ہیں اس حفاظت کے متعدد اسیاب ہیں اسلام، آزادی، طبعی عفت، بکارت اور زواج۔ ان میں سے ہر ایک چیز انسان کو بد کاری سے روکنے والی ہے۔

اس لیے موقع اور عمل کی مناسبت سے اس لفظ کا معنی مختلف گیا جائے کا خصوصاً معنی کا وہ تعین جو رسوئی اللہ نے فرمایا ہے وہ قطبی ہو گا اس میں ردوبدل کی گنجائش نہیں۔ یہاں محسنات کا معنی آزاد یا کرہ لڑکیاں ہیں اور یہاں محسنات کا معنی حضور کریم کا تعمیر ہے کیونکہ منت بُری کے مطابق انہیں کی نہ اسود ہے ہے جس کا لفظ پچاس دُرے مسلمان لونڈی کی سزا ہے دُوسرے فوائیں میں مراعات اور گنجائشیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو صاحب جاہ و ثروت ہوں اور سوسائٹی میں کوئی بلند مقام رکھتے ہوں لیکن اس دین فطرت میں ان مراتب کو محفوظ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پیش نظر کھا گیا ہے جہاں پھیلنے کے امکانات زیادہ اور زچنے کے وسائل کم ہیں۔ وہاں سزا میں تخفیف کر دی گئی غلاموں، باندیلوں، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی سزا میں کمی بخشی کا یہی راز ہے (جو مرنگی سزا پر تفصیلی بحث سورہ التوریں آئے گی انشا اللہ تعالیٰ)

وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِي كُمْ سُنَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ۵۵۶ کہ کھول کر بیان کر دے (پینے احکام) تھا اسے بیوی اور حلقہ تم کو ان (کامیاب لوگوں) کی ہبھوں پر یوں تم سے پہلے کوڑیں

وَتَوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ

اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتے والا بڑا دنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بتائے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے

عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ يَتَبَعَّدُونَ الشَّهُوتُ أَنْ تَمْلِئُوا أَمْبُلًا

تم پر اور چاہتے ہیں وہ لوگ بھیر دی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم (حق سے) بالکل منہ

عَظِيمًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ

موڑ لو ۵۵۷ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے ۵۵۷ تم سے (پابندیوں کا بوجھ) اور پیدا کیا گیا ہے انسان

۵۵۷ سابقہ آیات میں کثیر التعلا و احکام بیان کیے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے بڑی دشواری تھی اس لیتے تاکیدی طور پر فرمایا کہ تم نے ان احکام کی پابندی تم پر بلا وجہ فرض نہیں کی بلکہ مقصد یہ ہے کہ تھیں وہ راستہ دکھادیں جن پر تم سے پہلے انہیار و صلحاء کا مزن تھا اور داریں کی سعادتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں لیے ان احکام کی بھروسی میں تھاری اپنی سعادت اور بھلانی ہے۔

۵۵۸ ان گونگوں اصلاحات نے عرب کے پرانے طرزِ مدنی و معاشرت میں ایک انقلاب برپا کر دیا اب لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورشہ ملنے لگا تھا عورت اپنے خاوند کے مرجانے کے بعد اپنے سوتیلے میٹھے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دی گئی تھی بلکہ عورت کو زنے کے بعد اسے اختیار تھا جس سے چاہے نکاح کرے سوتیلی ماں سے نکاح کی مخالفت کرو دی گئی تھی۔ زنا کو حرم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے لیے سکین مزامنقر کر دی گئی تھی۔ اسی طرح متعدد ایسے قوانین نافذ کر دیتے گئے تھے جو ان کے قدم رسم و رواج کے سر جملہ تھے۔ ایک طبقہ اپنی دیرینہ بھالت سے انہیں ہدایت کے باعث ان اصلاحات پر انش زیر پا ہو گیا۔ اور وہ لوگوں کو اسلام سنت فرنگرنے کے لیے ان قوانین کا سہارا لینے لگا اس کے علاوہ یہودی بھی یہ گوارانہ کر سکتے تھے کہ ان کے نافذ کردہ من گھر کو رہنے والوں میں اسلام کی تعلیمات کے متعلق علط فہیماں پیدا کی جائیں۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکامِ الہی سے بکشیدہ کرنے کے لیے اپنے مخصوص جیلی اختیار کرتے

اللہ تعالیٰ اس آیت میں شمازوں کو ان کے مکروہ فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائے ہیں۔

۵۵۹ علیم و حکیم فدا جو تھارا اور تھاری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے اسے تھاری فطری کمزوریوں کا ثواب علم ہے اس لیے احکامِ شرعیہ میں ایسی سختی نہیں رکھی گئی جس کو قم برداشت نہ کر سکو۔ یہ بات کسی ایک قانون سے متفض نہیں بلکہ شریعتِ اسلامیہ کا ہر

ضَعِيفًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكُلُوا آمْوَالَ كُمْ بَيْنَكُمْ

کمزور آئے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّثْكُمْ وَ

ناجاائز طریقے سے ٹھہرے مگر یہ کہ تجارت ہو تھاری باہمی رضامندی سے اور

لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ

نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو ہمہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی ہمہ بانی فرمائے والا ہے اور جو شخص کرے گا

ذَلِكَ عُدُولٌ وَأَنَّا وَظَلَمْنَا فَسَوْفَ نُصْلِيهُ نَارًا ۝ وَكَانَ ذَلِكَ

یوں، سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اُسے آگ میں اور یہ

قانون اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔

۵۷ ۴۵ کسب حلال پر قرآن نے جتنا زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے موقعوں پر قرآن کا انداز بیان بڑا اثر انگیز ہے تو اکثر یہ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ بلکہ فرمایا اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مطلوب ہے کہ اُمّت کے کسی فرد کا مال پر ایام نہیں بلکہ اپنی ہی مال ہے۔ اس میں ناجائز تصرف کرنا دھوکا فریب سے اس کو ہر پر کرنا اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے۔ ہاں اگر تم آپس میں تجارت کرو اور تجارت میں کسی کی سادہ لوچی یا مجبوری سے ناروا فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو بلکہ فریقین نے راضی خوشی سے لین دین کیا ہو۔ اور اس طرح تمہیں لفظ حاصل ہو تو یہ لفظ حلال ہے۔ عَنْ تَرَاضٍ کے کلمات پر مزید غور فرمائیے۔ اسلام جس صاف سُقْهی تجارت کی اجازت دیتا ہے اس کے خدوخال آپ پر واضح ہو جائیں گے۔

۵۸ اس ایت میں خود کشی کی ممانعت بھی آگئی اور کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ انفسکو کم کرتے بادیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا لعاصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ تھاری ہی ایک ہومن ہیں یہو گی۔ تھاری ہی یہی ملت کے معصوم پنج تیم ہوں گے تھار میں مسلم معاشرہ کا ہی ایک گھرم و نندہ کے اندر ہیں ڈوب جاتے گا۔ علامہ بیضاوی علیہ ہمدرہ نے اس کا ایک اور لطیف معنی بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ لَا قَتْلُوا النَّفْسَ كُمْ بِاقْتِرَافٍ مَا يَذِلُّ لِلَّهِ وَيَرِدُ هَافَانَهُ الْقَتْلُ الْحَقِيقِيُّ لِلنَّفْسِ لِعِنِّي الْيَسِيْ بِذُنُومِ حَكِيْمِيْ اور ذلیل اعمالِ مت کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل و رُسوکر دیں کیونکہ یہ ذلت و رُسوانی ہی نفس کی حقیقی ہلکت و تباہی ہے۔ سُجَانُ اللَّهِ إِلَيْهِ طَيْفٌ بات کی ہے۔

عَلَیْکُمْ سَبِیلٌ کُمْ وَنُذْ خَلَکُمْ مُدْخَلًا کَرِیبًا ۲۰ وَلَا تَمْکُنُوا

اللہ پر بالکل آسان ہے اگر تم پیختے ۲۹ ہو کے ان بڑے بڑے کاموں سے دکا گیا ہے تھیں جن سے تو ہم محکوم ہیں کے

عَنْکُمْ سَبِیلٌ کُمْ وَنُذْ خَلَکُمْ مُدْخَلًا کَرِیبًا ۲۱ وَلَا تَمْکُنُوا

تمہارے (نامہ اعمال) سے تمہاری بُرا یا اور تم داخل کوئی گے تھیں عزت کی جگہ میں اور نہ آرزو کرو اس چیز کی،

۵۹ یہاں تین چیزیں خور طلب ہیں :-

۱۔ اجتناب کا کیا معنی ہے؟

ب۔ گناہ کبیرہ کے کہتے ہیں؟

ج۔ تکفیر سیتیات کا کیا مطلب ہے؟

۱۔ کسی ایسے کام کو جس کے دواعی اور اسباب موجود ہوں اسے اپنے ارادہ اور مرضی سے نکرنے کو اجتناب کہا جاتا ہے۔

ب۔ گناہ کبیرہ کے متعلق علماء سے کہتی احوال منقول ہیں لیکن علامہ بیضاوی کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی دھکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ والا اقرب ان الکبیرۃ کل ذنب درتب الشارع علیہ حل اوصح بالوعید فیہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو بکرہ شمار کیا ہے :-

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کھیڑانا۔ (۲) قتل بے گناہ (۳) پاکباز عورت پر بہتان (۴) ہتیسم کا مال کھانا۔

(۵) زنا (۶) میدان جہاد سے فرار (۷) اور الدین کی نافرمانی۔ اس شمارے قصود حصر نہیں ہے احادیث میں ان کے علاوہ کسی اور امور کو بھی کبیرہ کہا گیا ہے۔

ج۔ اب رہا تکفیر سیتیات کا مسئلہ۔ اس کے متعلق عام مفسرین نے تو ہی فرمایا ہے کہ نکفر کا معنی نحو (میادینا) اور نکفر (خش دینا) ہے لیکن جدیں اسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے اُنس میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے پچھنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگریزوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچاتے کی سعی کرتا ہے تو اس شکمش سے اس کے دل کے آئینے سے زنگار دُور ہونے لگتا ہے طبیعت پھر اپنی کھوٹی ہوئی صحبت واپس لے لیتی ہے گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اسی حالت کو تکفیر سیتیات کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (المدار)

مَافَضَلَ اللَّهُ بِهِ بِعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ طَلِيلًا نَصِيبٌ

بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر نہ مددوں کے لیے حصہ ہے

مِنَ الْكَتَبِ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنَ الْكَتَبِ وَسَأَلُوا اللَّهَ

اُس سے جو اخنوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو اخنوں نے کمایا اور مانگتہ رہا اللہ تعالیٰ سے اُسے

۶۰ بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و توانی، ذہانت و فطانت، حسب و نسب اور رجاه و متنزلت برتر اور افضل ہو اکرتے ہیں اس لیے ان جیسا بننے کی حرست سے اپنی زندگی کو تنخ زبانا لو۔ یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہیں اور نہ انھیں قربِ الہی میں کچھ دخل ہے عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قربِ الہی کا صلح راستہ تو تمہاری ذاتی جدوجہد میں ضرر ہے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قربِ الہی نصیب ہو گا قلعہ نظر اس سے کتماری رنگت کیا ہے تمہاری جسمانی قوت اور ذہانت کا امتیاز کیا ہے اور تم کس خاندان کے چشم و چراخ ہو تم درہ یا عورت اور تمہارے پھرے کی دلکشی تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسرا غیری خوبی تھیں خالق و مخلوق کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں بخش سکے گی اس لیے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو۔ دوسروں کے مکالات دیکھ کر ان جیسا بننے کے فقط خواب دیکھتے رہنا تو ایک ہون کے شایان شان نہیں۔ یہ عادت تو انسان میں حسد اور عناد کے جذبات کو بھارتی ہے۔ علامہ بیضاویؒ نے کیا خوب لکھا ہے ای لکل من الرجال والنساء فضل و نصیب بسدب ما الکتب و من اجله فاطبلو الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني يعني ہر مرد اور ہر عورت کو بلا امتیاز اس کی جدوجہد کا شریطے گا اس لیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسا بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کیا حاصل عورتوں کے دلوں میں عام طور پر یہ حرست ہوتی ہے کہ کاش وہ مرد ہوتیں۔ اس کا بھی ازالہ فرمادیا کہ تکوینی مصلحتوں کے پیش نظر کسی کو مرد اور کسی کو عورت ضرور ہونا تھا اس لیے اس خیال خام کو اپنے دلوں سے نکال دو جھوٹوں کمال اور قربِ الہی کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں آگے بڑھو اور اپنے حسن کردار اور غوبی عمل سے بلند سے بلند مفت م حاصل کرلو۔

نیز اس آیت سے یہ بھی بتا دیا کہ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی اپنی کمانی تھوڑی دولت کا مالک ہوتا ہے اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے اسی طرح عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں۔ اس ارشادِ گرامی سے مردوں میں جو بے جا تفرقی صدیوں سے قائم تھی اس کا قلعہ قمع کر دیا۔

۶۱ صرف خیالی پاؤ پکانے اور حسد کرنے کی عادت کو ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دامن پھیلا دو۔ وہ اپنی جدوجہد مخا سے تمہیں سب کچھ عطا فرمائے پر قادر ہے اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ وہ کہشت سوال سے اُلتانہیں جاتا بلکہ خوش ہوتا ہے

مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ وَلِكُلِّ جَعْلٍ

اس کے فضل (وکرم) کو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اور ہر ایک کیلئے بنایتے ہیں

مَوَالِيٌّ مَهَاتِرُكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاهَدْتَ أَيْمَانَكُمْ

ہم نے دارث اس ماں سے جو چھوٹ جائیں ماں باپ اور قربی رشتہ دار ۴۳ اور وہ لوگ جن سے بندھ جا ہے تمہارا عہد و پیمان

فَاتُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

تو دو اخیں ان کا حصہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے

الْجَاهُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَحَلَّ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى

مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو

بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ قِنْتَنْ حِفْظٌ

عورتوں پر ۴۳ اور اس جسے کہ درغیر گرتی ہیں اپنے ماں (عورتوں کی ضرورت آم کیلئے) تو یہ تو ۴۴ نے اطاعت گزار ہوئی ہیں طبق نہائیتی ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے سلوال اللہ من فضله فانہ یحب ان یسائل و افضل العبادة انتظار الفرج لیعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو وہ اس کو دوست رکھتا ہے اور بہترین عبادت تھیبیت کے دُور ہونے کے لیے منتظر ہنا ہے۔

۴۴ عہدِ بہالت کی ایک رسم یا بھی ختم کر جن لوگوں کی آپس میں دوستی ہوتی تھی یا جس کو وہ اپنا منہ بولا بٹا بنا لیا کرتے تو بھی ان کی دراثت میں حصہ دار بن جاتا۔ اس آیت میں وضاحت فرازی کہ دراثت کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارث پھیلایا ہے جن کے ساتھ ان کا معابدہ ہوا کرتا ان کو پہلے پا حصہ دیا جاتا۔ بعد میں اولو الراحم کی آیت سے یہ بھی منسون ہو گیا۔

۴۵ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قَوَّامُ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر علیکت کا ایک فرماں رو اہون ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعییں کرے۔ اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کیفیل اور اس کی ٹوٹھمالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جاتے۔ ورنہ گھر کی یہ مختصر گرام ریاست کا سکون و اطمینان برپا ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جاتے اور اس بارگزار کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ

(امروں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے اور وہ عوتیں ہیں ان لذیشیوں تھیں جن کی نافرمانی کا تور پرے نرمی سے) انھیں سمجھاؤ

میں ہے اس کے وہی امید و اہمیں ماں اور باب پر قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں ایک وہی ہے اور دوسرا کسی۔ انھیں کے باعث وہ گھر کی حملت کا رہنیں مقرر کیا گیا ہے پہلی خوبی تو یہی ہے جس سے کوئی امکان نہیں کر سکتا کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دو راندھی میں بلاشبہ عورت سے بڑھا جائے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے منحصر الفاظ میں بیان فرمایا بہمافضل اللہ بعضهم علی بعض اور مرد کی دوسرا خوبی یہ ہے کہ بیوی نے کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔ وبما انفقوا من اموالہم اس لیے اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کچھ فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لگن میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے نہیں ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن - اور قربُ الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر لٹادا ہیں اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا لسوال ہی پیدا نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرہ میں بخشنا ہے اس کی نظر نہیں۔ ویسے کوئی انھیں بند رکھنے پر ہی ادھار کھاتے بلیکہ ہو تو چشمہ آفتاں را چرخنا۔

۴۲- یہاں سے نیک سورتوں کی صفات کا بیان ہے اس ارشادِ تبائی کی مزید وضاحت صنوبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے خیر النساء امراۃ اذا نظرت اليها سرتک اذا امرتها اطاعتک اذا اغبت عنها حفظتک في نفسها و مالك يعنی بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو پوئیں وہ بوجائے اُسے عکر کرے تو وہ تیری اطاعت کرے اور اگر تو کمیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ (ابن حجر ابی ہریرہ)۔ ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آر استہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متفصل ہونا چاہیے ان کا ذکر لکھنے والیں کلمات میں کیا گیا ہے۔ بیوی کا اس سے بلند معیار تصوہر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود سوچئے اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اور اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔

۴۳- لیکن پانچوں انکھیاں برابر نہیں ہو تو کتنی اچھی خواتین کے ساتھ سا تھی ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شند مزارج اور کچھ سریشت ہوتا کرتی ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے عورت کے از راہِ عُزُور و نفرت خاوند کی اطاعت سے سرتانی کرنے کو "نشوز" کہتے ہیں۔ خوف سے مراد وہم و مگان نہیں بلکہ علم و لیقین ہے (قرطبی) یعنی اگر تمھیں ان کی نافرمانی کا پورا اعلم ہو جائے تو پہلے ہی خستہ سے بے قابو ہو کر انتہمی اقدام نہ کرو۔ بلکہ پہلے انھیں نرمی سے سمجھاؤ۔ اور اگر فحاش موثق ثابت نہ ہو تو پھر ان سے الگ اگت بس کریا

وَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَآخِرُ بُوْهُنَّ هُنَّ قَانُ أَطْعَنَكُهُ فَلَا تَبْغُوا

اور (پھر) الگ کرو ایک خواب گاہوں سے اور (پھر بھی باز نہ آئیں تو) ماروا بھیں پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تھاری توہ تلاش کرو

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا طَرَقَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ

ان پر (ظلم کرنے کی) را ۴۶ یقیناً اللہ تعالیٰ (علمت کریمی میں) سب سے بالا سب سے بڑا ہے اور اگر خوف کرو تم ناچاقی کا

بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

ان کے درمیان ۴۷ تو مقرر کرو ایک پنج مرد کے کنبہ سے اور ایک پنج عورت کے کنبہ سے اگر وہ

يُرِيدَ أَصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بِيَمِنِهِ مَا طَرَقَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا خَبِيرًا ۴۸

دونوں (پنج) ارادہ کریں گے صلح کرنے کا توافق پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ امیان ہوئی کے درمیان بیانیک اللہ تعالیٰ سب سچے جانے والا ہربات سے خود اڑا ہے

کرو اور محبت بھری بائیں کرنا ترک کرو ۴۹ وہ عورت جس میں شرافت کی حس ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے ضرور اپنی اصلاح کر لے گی۔
یہیں اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو لیکن مارالیسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوت آجائے۔ والضرب
فی هذہ الایہ ضرب الادب غیرالمبرح (قرطبی) اور حضرت ابن عباس سے تو یہ تصریح مردی ہے کہ اگر مارنے
کی نوبت آتے تو سوا کیا اس قسم کی کسی ہلکی ہلکی چیز سے مارے۔ آج کل ہملا مارپنی بیولیوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں اس کی اجازت
قطعہ اسلام نہ نہیں دی۔

۴۶ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آجائے اور اپنے شوہر کی فرمادار بن جاتے تو پھر شوہر پھر لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویہ کو حکیم
بدل دے اور اس پر دست درازی سے مکملیت باز آجائے۔ حکم اس فُدُکا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے اور اس
کے حکم کی سرتاسری کے تنازع بڑے امناک ہیں۔

۴۷ لیکن اگر نہ پس کی کوششیں اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہوں اور ایسے آثار و نماہوں نے لگیں کہ اگر صورت حال پتھرا ہو
نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا ختم ہو گا تو اس وقت یا او میاں بھی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایات
سُن کر ان کا ہمی تصفیہ کر دیں یادوں کے خاندان ثالث مقرر کریں اور اگر معاملہ عدالت نہ کہ پنج گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہئے کہ
جلد بازی سے ان میں تفرق نہ کر دے بلکہ حکم کے ذریعہ ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے اور اگر ان حکموں نے خلوص نیت سے صلاح
کی کوشش کی تو توفیق الہی صدر امان کے شامل حال ہو گی بعض فسروں کے نزدیک ان یوں اصلاح کے فاعل میاں بھی ہیں
یعنی اگر ان کے دونوں میں مصالحت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرمادے گا۔

وَاعْدُوا لِلَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ۴۸ اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو اور والدین کے ساتھ اچھا برداشت کرو

وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى

نیز رشتہداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہدار ہے

وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما فَلَكَ

اور پڑوسی جو رشتہدار نہیں اور ہم مجلس اور سافر اور جو (لوٹی غلام)

آيَةُ كُفَّرٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ حُخْتَالًا فَخُورًا لِلَّذِينَ

متحاسے قبضیں ہیں (ان سے ہیں حسن سلوک کرو) بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نہیں کرتا اس کو جو مغزور ہو فخر کرنے والا ہو ۴۹ جو خود بھی

يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَهُمْ

بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھیاتے ہیں نکے جو عطا فرمایا ہے انہیں

۴۸ پہلے میان ہیوی کے حقوق کا ذکر ہے اپنے میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکیدیں ہوتیں اصلاح حال کی تدبیریں بتائی گئیں اب مخاطب کو یہاں دلایا جا رہا ہے کہ تیرنے لعنت صرف ٹھہر اور ٹھہروا لی سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ تیر رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ اپنے خالق کا حق تو تجوہ پر ہی ہے کہ اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی عبادات میں سرشار رہے اور کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بناتے نہ ذات میں نہ صفات میں اور اس کی مخلوق کا تجوہ پر یہ حق ہے کہ سب کے ساتھ احسان اور مرمت کا برداشت کرے کسی کو ضرر اور دُکھ پہنچانے کا لوخیاں تک بھی تیرے دل میں نہ گز نہ تیریں بیان ہر ارباب کی ترتیب پر دلالت کرتی ہے۔ کاش ہم تعلیماتِ قرآن پر عمل کرنے کی سمی کریں۔

۴۹ محتال مغزوہ متنکر سکونتی ہیں اور فخر اس کو کہتے ہیں جو اپنی تعریف و ثنا میں ہی رطبِ اللسان رہے اور اپنی نوبیاں اور کمالات ہی بیان کرتا رہے آخراً میں ان دو صفات کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ ایسا انسان ہی کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے میں اپنی کسری شان سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر نیازِ ختم کرنے کے شوق سے محروم رہتا ہے۔

نکم اس میں خدا کے دینے ہوئے مال کو بھی اپل صدروت سے پوشیدہ رکھنے کی مددت ہے نیز وہ صاحب علم جسے اللہ تعالیٰ ہے نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور ان کے کافوں تک پیغامِ حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدَ لِنَا اللَّهُ كَفِيرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا^{٣٧}

اللَّهُ تَعَالَى نے اپنے فضل (وکرم) سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذبیل کرنے والا عذاب

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رَحْمَةً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتے

بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيبًا

اللَّهُ پر اور نہ روز قیامت پر اور وہ (بدر قسمت) ہو جائے شیطان جس کا ساختی کئے

فَلَاءُ قَرِيبًا^{٣٨} وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْا مُنْوَأْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

پس وہ بہت بُرا ساختی ہے اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے اللَّهُ پر اور روز آخرت پر

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا^{٣٩} إِنَّ اللَّهَ

اور خرچ کرتے اس سے بُرودیا ہے ایخیں اللَّهُ تَعَالَى نے اور اللَّهُ تَعَالَى اُن سے خوب واقف ہے بلے شک اللَّهُ تَعَالَى

لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ لَّيَضْعِفُهَا وَإِنْ تَ

غلام نہیں کرتا ذرہ برابر بھی (یہکہ) اگر ہر معمولی سی نیکی تو دو گناہ کر دیتا ہے اسے اور دیتا ہے

اس کا بھی بھی حال ہے۔

یہاں ان پذیریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللَّهُ تَعَالَى محبت نہیں کرتا۔ بلاشبہ جو لوگ غرور و فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں

جس کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی ہنک رہا خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں اور دوسروں لوگوں کو بھی لایا ہوت

میں مال خرچ کرنے سے روکیں اور اللَّهُ تَعَالَى کی دی ہر ٹوپی نعمتوں کو چھپاتے رکھیں وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللَّهُ تَعَالَى ان سے

محبت کرے۔ وہ رُسُوا کُنْ عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔

اُنے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللَّهُ تَعَالَى کی رضاوی کے لیے مال خرچ کرنے میں بُخل سے کام لیتے ہیں وہ اپنی نام و نمود کے

لیے، حکماً وقت کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکن بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت خرچ کرتے

ہیں حقیقت میں نہ اللَّهُ پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ قیامت پر ایخیں یقین ہوتا ہے۔ ان کا دوست اور ساختی شیطان ہوتا ہے۔

مِنْ لِلَّهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ يَعْذِنُ لِمَنْ كُلَّ أُمَّةً

اپنے پاس سے اجر عظیم کے تو کیا حال ہو گا (ان نافرماں کا جب تھم لے آئیں گے ہر امت سے

لِشَهِيدٍ وَجْهَنَّمَ بَكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا طَيْوَمِدَّ يَوْمَ الدِّينَ

ایک گواہ میں اور اس حدیث (ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ اُس روزنا کریں گے وہ جنہوں نے

كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْتَسْوَى بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكُونُونَ

کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کے کاش! (انھیں باکر ہوا کردی جاتی ان پر نہیں اور نہ چھپا سکیں گے

جو اس ازلی بدخواہ کو اپنا صلاح کاربنائے اس سے زیادہ بد قسمت کوں ہو سکتا ہے شیطان تو اُسے ہر نیک کام سے روکے گا اس سے بدترین ساختی اور ہم سفرکوئی نہیں ہو سکتا۔

۳۴ کے غفلت شعرا، کوتاه اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے تو راحتی میں مال خرچ کرنے میں ہرگز بُخُل نہ کرتے بلکہ بڑی دریادلی سے غریبوں سکینوں کی امداد کرتے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بکت دیتا۔ جتنا خرچ کرتے اس سے کمی گناہ اس دنیا میں وہ انھیں عطا فرماتا اور اس کے علاوہ جو اجنبیم انھیں بارگاہ اللہی سے ملتا اس کا تکوہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن شیطان کی سفکت نے انھیں سود فراموش اور زیان کاربنادیا ہے۔

۳۵ م قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال پر شہادت دیں گے اور حضور پیر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کے کام کی شہادت کے درست ہونے کی لوایہ دیں گے اور ہو لا عکاشا ایمان امت صطفویہ کو بھی قرار دیا گیا ہے یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے۔ و قیل الاشارة الی جميع امته علام قطبی نے اس قول کی تائید کر لیے حضرت سعید بن میتب کا یہ قول نقل کیا ہے۔ لیس من يوم الالتعرض على النبي صلی الله علیہ وسلم امته غدوة وعشية فیعرفهم بسیماهم واعمالهم فلذذک شیهد عیهم (القطبی) یعنی حضور علیہ الصلوات والسلام پر صبح و شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے حضور اپنے ہر امت کا پھرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں اسی علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے ریاضتوں دوسرا سے سیپارہ کی دوسرا آیت کے ضمن میں مفصل گزرا ہے۔ ملاحظہ فرماؤں۔

۳۶ کاش اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو بڑے طلاق سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں تو انھیں پتہ چلے کہ رسول کے نافرماں اور اس کی سُنّت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہو گی۔

اللَّهُ حَدَّيْشًا يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ أَمْنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

اللَّهُ سَكَارِي حَتَّى تَعْلَمُو مَا تَقُولُونَ وَلَا جِنْبًا لَا عَابِرِي سَبِيلٍ

نشہ کی حالت میں ہم یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو (زبان سے) کہتے ہوئے اور نہ جنابت ملکے کی حالت میں گجری کہ تم سفر کے کہتے ہوئے ہو

۵۷۔ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا اگر اسے یک لخت حرام کر دیا جاتا تو مسلمان طبیعت کل میں بدلنا ہو جاتے اس لیے حکیم و علم خدا نے اس کی حرمت کے احکام تدبیج نازل فرمائے ابتداء میں توصیر اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ ضرر اور نقصان دہ چیز ہے۔ اس سے بعض طبیعت طبائع نے شراب چھوڑ دی پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اوقات نماز میں شراب کی ممانعت کردی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دن میں شراب کا استعمال بند ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد ہی لوگ اس سے شوق کرتے کچھ بدلت بعد شراب کی قطعی حرمت کا حکم نازل ہوا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں کسی صحابہ مدد عوختے کھانے کے بعد دو رشراپ چلا جب وہ اس کے نشہ سے بھجوں رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ ایک صاحب امامت کے لیے آگ بڑھے اور اتفاق سے سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کردی۔ اور بے ہوشی میں لا عبد ما تعبد و من کی جگہ لا عبد ما تعبد و من پڑھ گئے جس سے معنی بالکل بدل گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے روز بارگاہ اللہ میں حاضری کا ذکر گزرا اس آیت میں بارگاہ اللہ میں حاضری کے آداب سکھاتے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کی حاضری آسان ہو۔ بتایا کہ با ادب و ہوشیار ہو کر اس احکام الحکمیین کی خدمت میں حاضر ہو۔ مد ہوشی کی حالت میں حاضری آداب شہادت کے خلاف ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں بتایا کہ ول کے حضور کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت و نظافت بھی لازمی ہے۔

۵۸۔ حدیث پاکیں ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت تم پر نیند کا غلبہ ہو جاتے تو نماز چھوڑ دو اور جا کر سور ہو۔ اور نیند پوری کرنے کے بعد جب ہوش و عس درست ہو جائیں تو نماز ادا کرو۔ اذ الغس احد کم و هو یصلی فلینتصرف فلینم حقی یعلو صادقول (بخاری عن انس)

۵۹۔ یوی سے صحبت کرنے سے بیا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جنپی ہو جاتا ہے۔ اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعصاب پر ایک درماندگی اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ لیکن جب پانی کے ٹھنڈے پھیستے ٹرتے ہیں تو نشاط و سرور کی رو سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے اور افسردگی اور درماندگی کی شکستی سے بد جاتی ہے۔ انسان ایسی نتی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نماز سے پہلے غسل کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ بارگاہ اللہ میں یہ حاضری ایسی

حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواٰ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أُوْجَأَهُ

یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اگر ہو تم بیمار فہم یا سفر میں یا آتے کوئی

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتَمِ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ فَامَّا

تم میں سے قضاۓ حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہو تم نے (ابنی) عورتوں کو پھر نہ پاؤ تم پانی تو (اس صورت میں)

فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا أَطِيبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِنْ

تیم کرو ٹھے پاکی ہی سے اور (اس کا طلاقیہ یہ ہے کہ) ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوں پر بے شک

حالت میں ہو جب تم ترمذہ اور شکفتہ خاطر ہو۔

۸۷مے ان الفاظ کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں فقط الصلوٰۃ پر ہوا بدلتے آیت میں گزار اسر فو خور کرنا چاہیتے کہ بعض علماء کے نزدیک جن میں امام شافعیؒ بھی بین الصلوٰۃ سے مزاد سجد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ہاں اگر مجبور اگر زنا پڑے اور دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو صرف گزرنے کی اجازت ہے لیکن وہاں بھی وہیں نہیں۔ اور بعض علماء نے صلوٰۃ سے مزاد نماز ہی لی ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہو گا کہ سفر کی حالت میں جنبی کو اجازت ہے ہے کہ وہ تیم کر کے غسل کے بغیر نماز پڑھ لے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

۸۸مے اس آیت میں ان صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن میں تیم کی اجازت ہے۔ پہلی صورت بیماری۔ اگر انسان بیمار ہو اور اُسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے غسل کیا تو صنوکیا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جاتے گا تو تیم کر لے۔ دوسری صورت سفر۔ اگر منسفہ ہے اور غسل کی ضرورت پڑتی اور پانی کا ملناؤ شوار ہے تو تیم کر لے۔ تیم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے و صنوکے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی تقاضے حاجت کے لیے جاء من الغائط کے الفاظ اور صحبت کے لیے لستہ النساء کے کلمات لکھنے لطیف ہیں۔ نازک سے نازک طبع پر بھی گواہ نہیں گرتے۔ یہی حسن تعصیر تو اس کلام خداوندی کا انجاز ہے۔

۸۹مے اب یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تیم کس چیز سے ہو سکتا ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں لکھ کر ہیں پہلی چیز کے متعلق تو فرمایا کہ صید طیب سے کو و صید کا معنی ہے۔ وجہ الارض کا نام علیہ التراب اول عیکن "زین" کی بالائی سطح خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔ امام صاحب حجۃؒ کے نزدیک میتؒ اور مٹؒ کی چیز کی سب چیزوں شامل تھیں، ایت وغیرہ سے بھی تیم جائز ہے لیش طبیک وہ پاک ہوں۔ و صنواد غسل کا بدل تیم کوونکر ہوتا۔ اور مٹؒ کے ساتھ تیم کرنے کا حکم دیئے ہیں کیا تھیں یہیں اس پچھلاتے اسلام نے سیر حاصل بحث کی ہے جس کے ذکر کی یہاں تکجا لکش نہیں (اس کے لیے المنار ملا جلد ہو) تیم کرنے

اللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ۝ الْمُتَرَإِ لِلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا

اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے والا بخششے والا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف تھیں دیا گیا حصہ

مِنَ الْكِتَبِ يَشْرُونَ الصَّلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضْلُّوا

کتاب سے وہ مولے رہے ہیں گمراہی کو اور (یہ بھی) چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی

السَّبِيلَ ۝ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكُفَّيْ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ

راہ راست سے اسے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تھارے شمنوں کو اور کافی ہے (تحالے سے لیے) اللہ حمایتی اور

كُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّقُونَ الْكَلْمَ

کافی ہے (تحالے سے لیے) اللہ تعالیٰ مد دگار پچھو لوگ جو یہودی ہیں ۸۳ پھیر دیتے ہیں (اللہ کے کلام کو

کاظر لقیئیہ ہے کہ پیدا ہم کی نیت کرے اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے اگر ان کے ساتھ غبار بہت لگ گیا ہو تو پھونک

سے کم کر دے اس کے بعد اپنے چہرہ پر ملے دوبارہ پھر اسی طرح زمین پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کھنسیوں تک ملے۔

تیم سے بھی ایسی کامل طہارت ہوتی ہے جیسے وضو سے اگر امام نے تیم کیا ہو تو وضو کرنے والے مقدمی کی نماز اس کے پیچے

درست ہے تیم سے عتبی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے تفصیل احکام کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرمائیے۔

۸۴ تھی تیم سے بندوں کے ساتھ جو نرمی کی گئی ہے وہ ان دو صفات کا بہترین نظر ہے۔

۸۵ یہود و نصاری کو آسمانی کتب سے بہرہ درکیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس نجت کی قدر نہ کی اور مال و جاہ حاصل کرنے کی خاطر

احکام الہی کو نظر انداز کر دیا جو ان کی سعادت و فلاح کے ضمن میں تھے لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ تھیں جبی گمراہ کرنے

کے لیے کوشش ہیں بظاہر تھارے خیر خواہ اور درست بنے ہوئے ہیں درحقیقت یہ تھارے بدترین دشمن ہیں جو تھیں راحت

سے بہ کادیتا چاہتے ہیں ان سے خربدار ہو ان کے دام فریب ہیں بخشن کر خداوند کیم کے نافرمان نہ بتو۔ اسی کو اپنا درست اور

مدگار بناؤ۔ اس کے احکام کی پیروی کرو۔ اگر تھیں اس کی دوستی اور نصرت نصیب ہو گئی تو پھر کوئی دشمن تھیں گزندہ نہیں

پہنچا سکے گا۔

۸۶ بیباک اور گستاخی، تصفح اور تملق اور کلام الہی میں اپنی مرغی کے مطابق کائنات چھانٹ اور احکام خداوندی کی منانی تو ملیں

یہود کی خصوصیات ابن کرہ گئی تھیں۔ جناب رسالت تاب کی تعریف و توصیت جس سے تواریخ کے صفحات مژہ میں تھے جان بوجھ

کروہ ان کا انکار کرتے اور ان کے من گھڑت معانی بیان کرتے گئنکو کے وقت بارگاہ نبوت میں بڑی دریہ دہنی سے کام لیتے۔

عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْغَيْرَهُ

اس کی اصلی جگہوں سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور (کہتے ہیں) سنو تم نہ

مُسْكِعٌ وَرَاعِنًا لَيْكَانًا لِسْتَهُمْ وَطَعْنَانِ الدِّينِ طَلَوْ

سنا تے جاؤ اور (کہتے ہیں) "رَاعِنًا" بل ویتے ہوتے اپنی زبانوں کو اور طعنہ زنی کرتے ہوتے دین میں اور اگر

أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا

وہ (یوں) کہتے ہم نے (اپ کا ارشاد) سنا اور (اے) مان لیا اور (ہماری بعض) سنبھالے اور نگاہ (کرم) فرمائیے ہم پر تو ہوتا بہت بہتر

لَهُمْ وَأَقْوَمُ لَا وَلَكُنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ

ان کے لیے اور بہت درست لیکن (لپنی رحمت سے) دُور کر دیا۔ ^{۸۲} اخیں اللہ تیرے بوجان کے کفر کے پس نہیں ایمان الائیں کے

إِلَّا أَقْلَيْلًا يَا يَهُهَا الدِّينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِنْوَاهُمَّا نَزَّلْنَا مَصِدِّقًا

مگر تھوڑے سے آے وہ لوگو جھیں دی گئی کتاب! ایمان لا اس کتاب پر ہونا زل فرمائی ہم نے تاکہ تصدیق کرے

طبعی خستت کے باعث ذہنی کلمات استعمال کرتے جن میں مدرج و ذم کے دونوں پہلو ہوتے اور اپنی زبانوں کو بل دے کر ان کا ایسا تنقیض کرتے جس سے ذم کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا۔ اور اگر لوگ اجاتا تو فرآگہ کہہ دیتے کہ نہیں صاحب ہمارا مدد عایا تھا جھنوں رفرہ کائنات اگر کوئی حکم فرماتے تو سمعنا بلند آواز سے کہتے اور اسی سانس میں چکے سے وعصینا بھی کہہ جاتے۔ غیر مسمع کے وہ فہوم ہو سکتے ہیں۔ دعا کے لیے بھی یعنی کوئی ناگوار بات آپ کو نہ سنبھلی پڑے اور بد دعا کے لیے بھی کہ آپ کچھ نہ سُن سکیں اور وہ یہ کلمہ بولتے وقت دُوسرا معنی مراد لیتے۔ راعنا کہتے وقت زبان کو چک دیتے تاکہ راعینا ہو جاتے۔ اس لفظ کے متعلق پہلے ذکر گز حکما ہے۔ یہاں کے اطوار تھے۔ یہ اُن کارویہ تھا اُس فخر عالم و عالمیاں کے ساتھ جس کے دربار میں فرشتے بھی حاضر ہوتے تو تصویر ادب بن کر۔

^{۸۲} ہے بارگاہ رسالت میں بے باکی کرنے والوں کی سزا ہی یہ ہے کہ وہ در رحمت سے دُور کر دیتے جاتے ہیں۔ ہدایت کی توفیق اُن کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حق شناسی کی وقت اُن سے چھین لی جاتی ہے۔ یہی سزا یہ دُو کو دی گئی۔ اور قیامت تک ایسے بے باکوں کو ہی سزا دی جائے گی۔

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ آنَ تَطْمِسَ وَجْهًا فَنَذِدَهَا عَلَى آدَارِهَا

اس کتاب کی جو تھارے پاس ہے (ایمان لاو) اس سے پہلے کہ تم منع کر دیں پھرے ۵۸ پھر پھر دیں انھیں شپتوں کی طرف

أَوْ نَكْلُعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبَّتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۴۷

یا لعنت کریں اُن پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

بے شک اللہ تعالیٰ لام نہیں بخشناس اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے جس کے علاوہ جس کو

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِنَّمَا عَظِيمًا ۴۸

چاہتا ہے اور جو شرکیک ٹھیڑتا ہے اللہ کے ساتھ وہ اڑکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا کیا نہیں

۵۸ کسی حیرہ کا نام و نیشان مژادینے کو عربی میں طمس کہتے ہیں اور چھرہ کا حلیہ بگاڑ دینا اس کے نقش و نگار کو خراب کر دینا "طمس او بوج" کہلاتا ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے اور اہل زبان صلاحیتوں کے منع ہو جانے کے لیے بھی طس کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔ چنانچہ علامہ بیضاوی، قرطبی اور دوسرے حلیل القدر فخری نے اس کا مفہوم بھی بیان کیا ہے یعنی یہ وہ جن پر اسلام آور پیغمبر اسلام کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں ہتھی اور پھر بھی وہ انکار پر مصروف تھے انھیں تنہیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ یہ ضد اچھی نہیں ۔ اور الگرمت حق کے سامنے مجھک نہ گئے تو یاد رکھو حتی پذیری کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیتے جاؤ گے تھاری انھیں دیکھو تو رہی ہوں گی لیکن حق کو پہچان نہیں سکیں گی ۔ تھارے کا ان سق قور ہے ہوں گے لیکن حق بات کو نہیں سنیں گے بیضاوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں ۔ من قبل ان نظمس وجوها بآن دفعی الابصار عن الاعتبار و نضم الاذن عن الاصناعات الحق بالطبع و نزد هامن الهدایۃ الی الصلالۃ بعض علماء نے وجوہ کا معنی چھروں کی جاتے رہو سارے کیا ہے یعنی ہم تھارے سرداروں کے چھرے بگاڑ دیں گے یعنی اب اُن کے چھروں پر جو رونق اور ترقیاتی ہے وہ چھین لی جاتے گی ۔ ان کے چھرے بے نور اور بے رونق ہو کر رہ جائیں گے جس پر نامردی اور ناکامی کی گرد پڑ رہی ہوگی اور نزد ها کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انھیں مدیرۃ طیبہ سے جلا وطن کرنے پھر سینا کے بے آب و گیا محرماں لوٹا دیا جاتے گا ۔

۵۹ علامہ ابو عبد اللہ الانصاری القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں شرک کے متعلق بہترین بحث کی ہے جس کا خلاصہ ہدیۃ ناطرین کرتا ہوں ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کے تین مرتبے ہیں اور تینوں حرام ہیں : (۱) اصلہ اعتقاد

تَرَإِ الَّذِينَ يَزَكُونَ أَنفُسَهُمْ طَبَلَ اللَّهُ يُرِيْكُ مَنْ يَشَاءُ وَ

دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک بازبلاتے ہیں اپنے آپ کو یہ بلکہ (یعنی) اللہ (کی شان تھے، کہ) پاک باز بنادے جسے چاہے اور

شریک اللہ فی الوہیتہ وہو الشرک الاعظم وہو شرک الباھلیۃ لیعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان ہجھ بھروسہ جو بھر کو الیہ یقین کرتا ہی بھر کا غلط ہے اور عمدہ یقین کے مشترکین یہی شرک کیا کرتے تھے جیسے سورہ الصافہ میں ان کے متعلق ہے فاذ اقلیم لہم لالہ الا اللہ یستکبرون ویقولون عاذاللار کوا الہیتل الشاعر مجذون جب انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا انہیں تو بھر کرتے اور کہتے ہیں اس شاعر دیوان کے ہنسنے پر ہم اپنے خداوں کو چھوڑ دیں (۲) ویلیہ فی الرتبۃ اعتقاد شریک اللہ تعالیٰ فی الفعل وہو من قال ان موجود اما غیل اللہ تعالیٰ یستقبل باحداث فعل وایجادا دان لعیقدن کونہ الہا۔ لیعنی شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتماد رکھا جاتے کہ وہ مستقبل طور پر اور بالذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہے (۳) ویلیہ هذہ الرتبۃ الشرک فی العبادۃ وہو الریاء (۵:۱۸) لیعنی کسی کو عمادت میں شرک کرنا اور یہ ریا ہے اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خواہ ذات پاں صطفے علی اطیفۃ البخیۃ واجمل الشناہی ہو یہ اعتماد رکھتا ہے۔ الگرہنیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان مسلمانوں کو مشترک ثابت کرنے کے لیے اپنی یقینی کا زور اضافت کرتے ہیں اور وہ تمام آیات جو مشترکین مکد او رکفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں جن کے شرک کی یقینی اور پند کو ہر قسمی سمجھے بے سمجھے مسلمانوں پر چیل کرتے ہیں کیا انہیں خدا کا خوف نہیں۔ وہ دو دین کمیں ان کا شمار بیخی فیون الکلوب عن مواضعہ کے ذمہ میں نہ ہو۔

شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہو گئی شرک اس قادِ مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے اس کی باشدناہی اور فرانزوائی میں کسی کو شرکیک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ خالہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے عفو و درگزار کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں لیکن علم بغاوت بلند کرنے والا گردن زدنی ہوتا کرتا ہے۔ الگرکسی دینیوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگاتیں کہ اس حقیقی پادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی، میرا بھی اور تیرا بھی، بلندی کا بھی اور سبقتی کا بھی، اس کی اُوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے اس سے بڑا جرم ہی کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن یہ اس وقت جب اسی حالات کفر و شرک پر موت آ جاتے۔ اور اگر وہ شرک سے تاب ہو جاتے اور توحید کو دل وجہان سے تسلیم کر لے تو اس کی توہی قبول ہو گئی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ گنہ گاروں جو اپنے گناہوں سے توہی کے بغیر جانتے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش فے ۸۴ یہود اپنی اعتمادی، اخلاقی اور عملی گوناگوں خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مقدس اور پاک باز یقین کیا کرتے اور کہا کرتے کہ نحن ابناو اللہ و اصحابا کا ہم اللہ کے فرزند اور اس کے لاٹے ہیں جنت ہماری جاگیر ہے جو جی میں آتے تکرتے رہیں ہم عنہا نہیں دیجا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونہی شیخی بکھارنے اور اپنے تقدیس و پاکبازی کے قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں بنتے گا پاک

لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ

وَهُنَّ نَّاسٌ مُّكْبَرٌ مُّكْبَرٌ کے بھروسے کے برابر۔ دیکھنے کیسے گھرتے ہیں اللہ پر جھوٹ

وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝ أَكَمَّ تَرَالِيَ الدِّينَ أُوتُوا نَصِيبَهَا

اور کافی ہے (انھیں سوا کرنے کے لیے) یہ کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اُن لوگوں کی طرف بھیں دیا گیا حصہ

مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبَتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ

کتاب سے وہ (اب) اعتقاد رکھنے لگے ہیں بجت اور طاغوت پر ۸۸ اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جھوٹ ہے

كَفَرُوا هُوَ لَا عَاهُدٍ مِّنَ الدِّينِ أَمْنُوا سَبِيلًا ۝ أُولَئِكَ

کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لاتے ہیں ۸۹ یہی وہ (بدلفیب) ہیں

تقدس تو وہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں تقدس ہے۔ فیضلاً ما یکون فی شَنِ النَّوَافَةِ... یَغْرِبُ بِالْمَلِشِ فِي الشَّعِيرِ الحَقِيرِ (فردات)

۸۸ جبت لغتیں میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بکار مغضوب ہو لازمی لا خیر فیہ۔ اس کا اطلاق جادو، جادوگر، جوشن، رمل اور
قال گری وغیرہ خرافات پر ہوتا ہے جحضور کیم علیہ الصلوٰۃ والتسیل کا ارشاد ہے۔ "الطَّرْقُ وَالطِّیْرَةُ وَالْعِیَاْفَةُ مِنَ الْجَبَتِ" (قرطبی
عن ابن داؤد)

کنکریاں بھینک کر فال بکپڑے کو طرت کہتے ہیں اور الطیرۃ کا معنی بدشگونی ہے اور العیافۃ پر نہیں کے ناموں، آوازوں

اور ان کے گزرنے سے فال بکپڑے کو کہا جاتا ہے (حاشیہ قربی) یہ سب اور ہام پرستی کی اقسام ہیں صاحب المدار کہتے ہیں فالمعنى

الجامع للجbet هو الدجل والادهام والمخرافات يعني بکر و فریب، وهم پرستی اور خرافات کو جبت کہا جاتا ہے اور طاغوت

کی تعریف ادب ولغت کے امام جوہری نے یہی ہے۔ والطاغوت الكاہن والشیطان وكل راس في الصلال يعني

طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی مگر اسی کا سر غنہ ہو مزید وضاحت

سورة بقرہ کی آیت ۲۵۶ کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیے)

۸۹ جنگ احمد کے بعد یہود کے دوسرا غنائم کعب بن اشرفت اور عیین بن اخطب ہند اور یہودیوں کے ہمراہ مکہ کے تاکہ کفار کو مسلمانوں

پر حملہ کرنے کے لیے اُکسائیں۔ ابوسفیان نے اُن سے پوچھا کہ تم تو ان رہ ہیں اور آپ لوگ اہل علم اور صاحب کتاب ہیں ہیں
یہ تو تباہ کہ راستی برکون ہے ہم بامحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جانتے ہوئے کہ تشریک مغضوب کو توحید غافل سے کیا نسبت ہو سکتی ہے

پوری بے باکی سے کفار مکہ کو غوش کرنے کے لیے جواب دیا کہ اُن سے کہیں زیادہ تم ہدایت پر ہو جانتے ہو جو جھٹے سفید جھوٹ!

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار

أَمْ لَهُمْ نَصِيرٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الْأَيُّوبُوْنَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

کیا نہ ان کے لیے کوئی حسد ہے حکومت میں اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو قتل برابر

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ

کیا حسد کرتے ہیں اف لوگوں سے اُس لعنت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے (وہ حسد کی

أَتَيْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّبَعُوهُمْ فَلَمَّا عَظِيمًا ۝

آگ میں جلا کریں ہم نے تو محنت فرمادی ہے ابراہیم کے کھانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت فرمادی ہے انہیں عظیم الشان سلطنت

قِنْهُمْ مَنْ أَمْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ

تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے اور کافی ہے (انہیں جلانے کے لیے)

سَعِيرًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيَّتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا أَكْلَمًا

جہنم کی دہلتی ہوئی آگ۔ بے شک ہم خلوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں جب کبھی

اخلاقی پستی ملا جائے ہو۔ ایسوں پر لعنت زبر سے گی تو کیا رحمت کے پھول برسیں گے۔

۹۷ یہ تو خیر ہوتی کہ انہیں اختیار و اقتدار میسر نہیں۔ اگر کوئی خڑکہ زین اُن کے زیر مگن ہوتا تو فرط بخیل سے یہ کسی کو چھوٹی کوڑی بھلی نہ دیتے۔

۹۸ حسد کی تعریف یہ کی گئی ہے الحسد تمنی زوال النعمۃ عن صاحبہا المستحق بها يعني ایسے شخص سے

لعنت کے زوال کی آرزو جو اس لعنت کا صحیح مستحق ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں کی یہ اسلام و شرمنی محسن حسد کی وجہ سے

لختی و رزق یہ مرقع حصّن و خوبی بھی تو خاندان ابراہیمی کا چشم و چراغ ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے خاندان کو تو اس کے رب نہ بنت اُن

کتاب حکمت اور وسیع سلطنت سے سرفراز فرمایا اگر اس کے ایک فرزند کو یعنی تین پھرخشی گئی ہیں تو حیرت و افسوس کیوں

ہو۔ نقید۔ بھوڑ کی گھٹلی پر یا یک ساجو لقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں مُراد ہے حقیر ترین چیز۔

نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَلَّنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لَيْذَ وَقُوَّالْعَذَابَ

یک باتیں گی ان کی کھالیں تو بدلتے دین گے ہم انھیں کھالیں و سری تاکہ مسلسل بھتھتے رہیں عذاب کو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ

بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اور نیک عمل بھی کیے

سَنُدُّ خَلْهُمْ جَهْنَمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا

عنقریب ہم داخل کریں گے انھیں باخوں میں روایا ہیں جن کے یونچے ندیاں ہیں شہر رہیں گے ان میں

أَبَدَّ اطْلَهُمْ فِيهَا آزِوَاجُهُ مُطَهَّرَةٌ وَنُدُّ خَلَامُ طَلَّا ظَلِيلًا

تا ابد - اُن کے لیے ان باخوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے انھیں کھنے سایہ میں

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْدُوا الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ

بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تھیں کہ اُن کے سپر در کو ۹۳ احادیث کو جوان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کروں

۹۲ علامہ قطبی لکھتے ہیں **هذا الاية من امهات الاحکام فضممت جميع الدين والشرع يعني يا آية فرقان كريم كله تم ترين**

احکام سے ہے اس کے ضمن میں دین اور شریعت کی تمام تفصیلات ہمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں اور قطبی کا یہ بتا بالکل جو ہے۔ کیونکہ

اوائی امانت سے مروی ہاں صرف بھی نہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں والپس کر دے بلکہ

اس کا مفہوم وسیع تر ہے عبادات بھی امانت ہیں۔ ان کو صحیح وقت پر اخلاص نہیں سے شرائط و قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس

امر کی تقلیل ہے۔ اگر آپ کو اقتدار و حکومت حاصل ہے تو غریب و امیر، قوی و ضعیفین میں مساوات فائم کرنے، عدل کے ترازو و کوتما مختار

رجُحانات کے باوجود برادر کھنہ حکومت کے عمدوں پر قدر کے لیے کنبہ پروری اور دوست نوازی کی بجائے صرف الہیت فقابلیت

کو میعاد قرار دینا بھی اس حکم کی تعلیم میں داخل ہے۔ علامہ قطبی لکھتے ہیں۔ والا ظہر فی الاية انه عامۃ في جميع الناس

فهي تتناول الولاۃ فيما یلهم من الامانات في قسمة الاموال و رد الظالمات والعدل في الحكومات۔

۹۳ عالم لوگوں کے علاوہ اس حکم کے خصوصی مخاطب امراء اور حکام ہیں اور انہیں مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر

ہوتا چہرہ پر اس آیت کا خصوصی مخاطب ہے ارشاد ہے۔ کلم راع و هو مسئول عن رعيته فالامام راع و هو

مسئول عن رعيته والرجل راع على اهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنھا تمیں سے شخص اپنے مرتبہ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظَمُكُمْ بِهِ

لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تھیں

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

بے شک اللہ تعالیٰ سب پر یہ سئنے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے آے ایمان والوں ۹۲ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

اور اطاعت کرو (اینہ ذی شان) رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی

شَيْءٍ فَرْدُودٌ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۝ بِاللَّهِ

چیز میں تو لٹا دو اسے اللہ اور (اینے) رسول (کے فرمان) کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ أَكْمَلَ رَأْيَ

اور روز قیامت پر یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا الجام کیا ہمیں دیکھا آپ نے ان کی طرف

کے لحاظ سے پاسبان ہے اور جواب ہے امام اور حلیفہ بھی راعی ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جاتے گا۔ خاوند اپنے

گھر والوں کا رہیں ہے اور یہوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جاتے گا۔

۹۲ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا

گیا اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور علیہ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ نے اس دارقطانی میں زیادہ دیراقامت گزیں نہیں ہونا تھا اور حضور کے

بعد امورِ مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور امراء نے سنبھالنی تھی اس لیے ان کی اطاعت کرنے کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ لیکن

اطاعتِ رسول اور اطاعتِ امیرین ایک بین فرق ہے۔ بنی معصوم ہوتا ہے جملہ امور میں خصوصاً احکام شرعی کی بیان میں

اس سے خطانہیں ہو سکتی اس لیے اس کی اطاعت کا جہاں حکم دیا گیم شرُوط اطاعت کا حکم دیا مثلاً ما اتلکو الرسول

فخذ ولا دمانہ کم عنہ فانہو، جو کچھ تھیں رسول دے لے لو اور جس سے سرو کے روک جاؤ۔ رسول کا ہر حکم واجب التسلیم

اور اٹل ہے اس میں کسی کو مجال قیل و قال نہیں حلیفہ کام حضور ہونا ضروری نہیں۔ اس سے فلسفی بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس

کی مشروط اطاعت کا حکم دیا کہ اس کے حکم کو خدا اور رسول کے فرمان کی روشنی میں پڑھو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل

کرو ورنہ وہ قابل عمل نہیں۔ حضور کریم کا ارشاد ہے۔ لاطاعة للملحق في معصية الله۔ اس لیے حاکم وقت کی

الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

بۇ ۹۵ دعویٰ توکرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس (کتاب) کے ساتھ جو اماری گئی آپ کی طرف اور جو اتر اکیا آپ

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّهَاهُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا

سے پہلے (اس کے باوجود) چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے (پسندیدگی) طاغوت ۹۴ کے پاس رے جاتیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا

اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تھا رسے درمیان تنازع رونما ہو جاتے تو اُسے اٹادو اللہ اور اُس کے رسول مکی طرف یعنی اس حکم کا فرق آن و سنت کی روشنی میں جائزہ لو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔

۹۵ ان آیات کے شان نزول کے متعلق علماء تفسیر و حدیث نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک ہناف کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازع ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا۔ اس نے اس نطاہ مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اُس منافق کے دل میں پور تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی اور نہ شوت سے کام بنے گا اس لیے اس نے کہا کہ تھارے عالم کعب بن اشرفت کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا۔ پھر انہوں نے چار و ناچار حصوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق کے پاس گیا۔ وہاں سے بھی وہی حکم ملا لیا۔ اس کو بھی تسییم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے گرے کے پاس چلیں۔ وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ میں بھی پھانچا۔ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے حصوں کی نسبت میں ہر چیز میں فیصلہ آلم و ستم اور حضرت ابو بکرؓ اس مقدمہ کا فیصلہ میرے حق میں کر کچے ہیں اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ رویدا کہ حتیٰ اخراج الیکم ایمرے واپس آنے تک ٹھہر پھانچ آپ کھڑک تشریف لے گئے۔ تکوار بے نیام کیے واپس آتے اور اس منافق کا سفر کلم کر دیا اور فرمایا ہکذا اقضیٰ حلی من لھویرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ ونزلت الآیۃ و قال رسول اللہ

انت الفاروق (قرطبی) یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو تسییم نہیں کرتا میں اُس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حصوں نے اس دل حضرت عمرؓ کو الفاروق (حق و باطل میں فرق کرنے والا) کے لقب سے سرفراز فرمایا۔

۹۶ طاغوت پر عاشیہ گز رچکا۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم اور عدالت ہے جو احکامِ الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کیا کرے۔

أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

تھا کہ انکار کریں طاغوت کا اور چاہتا ہے شیطان کہ بہ کا دے انھیں بہت دور تک

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

اور جب کہا جاتے انھیں کہ آؤ ۖ اس (کتاب) کی طرف جو تاری ہے اللہ نے اور (اے رسول) (ایک) کی طرف تو آپ

الْمُنْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ فَكَيْفَ إِذَا آَاصَابَهُمْ

انھیں کہ ننافقوں کو کہ مدنہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوتے پس کیا حال ہوتا ہے جب بیختی ہے انھیں

مُحْسِبَةٌ يُبَاقِدُ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

مُصیبت (مودو جن در نتوں) کے جو آگے بیجھے ہیں ان کے ٹھوں نے پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پیش میں ظاہر ہیں اللہ کی کہتی ہے،

إِنَّ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

ہمیں صدر کیا تھام نے مگر بھلانی اور باہمی مصالحت کا یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ۹۹ جو کچھ

۹۶ اس سے معلوم ہوا کہ ننافقین کی یہ عادت تھی کہ جس مقدمہ کے متعلق انھیں یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گا اس کے تصفیہ کے لیے تو بارگاہ و نبوت میں حاضر ہوتے اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ تم جھوٹے ہیں اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انھیں حکوم ہوتا کہ تم اپنے اثر و رسوخ یا ریشتہ سے اپنے حق میں فیصلہ کر لیں گے اچھی بعض لوگ ایسے انور میں تو شریعت کے ظاہر فیصلہ کرتے پر ایسے مصروف ہوتے ہیں جہاں انھیں فائدہ کی توقع ہو اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا تاؤن ان کی خلاف ہے تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں اور شریعت کے قریب بھی ہمیں پہنچتے آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور محمد رسالت کے ننافقین کے درمیان بھر کیا فرق ہوا۔

۹۷ یعنی جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو فال شخص کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کراوے ورنہ فیصلہ تو وہی ہم نے تشییم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا تھا۔

۹۸ وَهُدًّا لَكُمْ كَجْهُوٰ قَسَمِينَ كَهَايِنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كَهَ دُلوِنِ مِنْ جَوْهِ شِدَّهِ ہے اُس سے خوب واقف ہے۔

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ

ان کے دلوں میں ہے (اے جبیب) اچشم پوشی فرمائیے ان سے اور فصیحت کرتے رہئے اخیں اور کہتے اخیں تاہم تنہائی میں

قَوْلًاً أَبَدِيعًاٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

ایسی بات جو موثر ہو اور نہیں بھیجا ہم نے اے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

اور اگر یہ لوگ لاد جب ظلم کر دیجئے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے

۱۰۷ اس صریح سکشی کے بعد بھی ولا تے کرم اپنے مجھوں کیم کو ان سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوشش رہنے کی تلقین فرمارہا ہے اسی کے متعلق تוחنہ فرمائیا ادَبَنِی ربی فاحسن تادیبی میرے رب نے مجھے آداب اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے۔

۱۰۸ چند نظلوں میں ایک طویل بحث کو سمجھ کر کھو رکھ دیا اللہ کی اطاعت ہرگز من پر فرض ہے اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ حکم ہی مانا جاتے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو جو رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ کے حکم سے سترناہی کی۔ تو رسول کی نافرمانی کر کے اُس نے صرف رسول کی بھی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ فدو تجوہ حضور رسالتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتباع کو خیر ضروری بلکہ امانت کے لیے مضر اور نقصان وہ سمجھتا ہے وہ اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتا اور اگر پڑھتا ہے تو اسے کیوں واجب الاتباع لیتیں نہیں کرتا۔

۱۰۹ اُسی لے رحمت میں اگر یہ دُنیا بھر کے قصور کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم فناست ہو کر تیرے ضفوریں حاضر ہوں تو ان پر اپنا درِ رحم باز رکھ جب ان کی شفاقت و خشش و رستگاری کے لیے تیرا تھیمیری بارگاہ بجود و عطا میں اُسے گاہ توحہ وہ کتنے گنہ خار رو سیاہ اور بد کاریوں نہ ہوں تیرے رب کی رحمت ان کو ایوس نہیں کرے گی بلکہ ان کی تہ قبول کر لی جاتے گی اور ان بگانوں کو اپنا بنا لیا جاتے گا حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت حضور کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں بلکہ تا ابد ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہم محظوظ ہرگز ان اس کامشاہدہ کرتے ہیں حضرت سید زاد علی کرم اللہ و جمہر الحکیم سے مردی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے تین روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور (فقط) رنج و غم سے مزار پر اوار پر گر رہا اور خاک پاک کو اپنے سر پڑا۔ اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول! جو آپ نے فرمایا میں نے سُنَا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا اور اسی میں یہ آیت بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ وَاللَّهُ تَوَآبًا رَّحِيمًا ﴿٤٣﴾

نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول (کریم) بھی تو وہ ضرور پر اپنے اللہ تعالیٰ کو بہت تو پر قبول فتنہ والا نہایت سُمِّ کرنے والا ہیں

(امم مصطفیٰ) تیر سب کی فتح یہ سامنے لوگ مون ہیں تو سکتے ہیاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں ہجھوڑ پڑاں کہ دیاں

ثُمَّ لَا يَجِدُ وَإِنْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيْمًا ۝ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِ مَمْأَنًا قُتْلُوًا أَنْفُسَكُمْ أَوْ

دل وجان سے اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر ہله کہ قتل کرو اپنے آپ کو بیٹھا جائے تو اسکے لئے اگر ممکن تھا اس کا انتہا کیا جاتا تھا۔

پسی جان پر پڑے بُرے سُم کیے میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے سرایا سبقت و رحمت امیری ہفت کے لیے فاعل ہاتے فنودی من القبرانہ قد غفرلاد (القرطبی) تو مرقد متوڑ سے آواز آئی تھی جسے جشن دیا گیا۔
سلسلہ رسول کریمؐ کی غیر مشروط طاعت و اتباع کو پھر نہایت واضح ہو گکہ اور تو شیرپیر ایمیں بیان فرمایا جا رہا ہے داؤ قسم کے لیے ہے نفعی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لا نفعی کو دوبار ذکر کیا ہے۔ ایک باقشم سے پہلے اور دوسرا مرتباً قسم کے بعد یعنی تیرے رب عجلیں کی قسم وہ برگزہم کو ایمان نہ اٹھیں ہو سکتے۔ اگر ایک لا نفعی پر اکتفا کیا جاتا تو عبارت لغوی ساخت سے تو درست ہوتی یہکس زور سیان فقود ہوتا۔ امام ابن حجر ویغہ کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی اسی سابقہ واقعہ سے ہے اور یہ حکم بھی حضورؐ کی ظاہری بیانات کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، شخص کے لیے ہے اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ بچھس اطاعت رسولؐ سے ستر بابی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قسم سے مولود کر کے اپنا فصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں وہاں تو وہی اطاعت قبول ہے جو اس کے رسولؐ کی اتباع و پیروی میں ہو اور وہی مطلب ہے طبع ہو گا جو حصطفے علیہ التحیۃ والثنا کی غلامی کا طوق زس گلو کیسے حاضر ہو گا۔ فاعتدروا اما ولی الاصصار۔

۷۰۔ اس محبہ نے تو یہاں تک تصریح کر دی کہ ظاہری القیاد و تسلیم کافی نہیں بلکہ مومن وہ ہو گا جو دل کی گمراہیوں میں بھی فرلان رسول کے خلاف کوئی گرانی اور لکھن محسوس نہ کرے۔

۵۔ علمیہ حکومتی تعلیمیں میں ایمان کی قیمتی کا حصہ جاتی ہے اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو گنتی کے پسند آدمیوں کے علاوہ سب فیل ہو جاتے۔

اُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْا نَهْمٌ

بکل جاؤ اپنے اپنے گروں سے تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے اور اگر وہ کرتے

فَعَلُوا مَا يُوَظِّفُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيهً تَّمَّا

لئے جس کی اخیس نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتران کے لیے اور (اس طرح) سختی سے (اللہ کے حکما پر) ثابت تھا کہ ہو

وَلَذَا الَّتِي نَهْمُ مِنْ لَدُنْ أَجْرًا عَظِيمًا لَّوْلَهَ يَنْهَا مِنْ حِرَاطًا

جاتے تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے اخیس اپنے پاس سے اجر عظیم اور ضرور پہنچاتے اخیس سیدھے

وَسْتَقْيِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ

راستہ تک کھائے اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اس کے) رسول کی توجہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر

اور صاحب کرام نے جب یہ آیت سُنی تو بول اُنھے لوفعل ربنا الفعلنا اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ کم دیا تو ہم تعیل حکم کریں گے۔
حضور نے جب اپنے صحابہ کا یہ حواب سناؤ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا الایمان اثبت فی قلوب اہلہ من الجبال
الرواسی اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مشتمل ہے اور اس کے دل میں زیادہ مفہوم بُوطی سے جاگزیں ہے۔

۷۰۰ مُنَافِقِينَ كُو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم کیسیسوئی سے میرے رسول کا دامن بکپڑ لیتے۔ تمہاری
مُنَابِی سخور جاتی اور آخرت بھی۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمذنب کی یہ کیفیت جس سے تم دوچار ہو، کبھی اسلام
کی طرف پہنچتے ہو اور کبھی کفر کے ساتھ پہنچتے ہو یہ ختم ہو جاتی۔ تمہارے دلوں کی یہ تینی لیفیں سے اور تمہارے رُوحوں کی یہ تینی
اطیمان سے بدل جاتی اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے کرب والم کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تمذنب و یہ تینی کی
موجوں کے تھوڑی سے کھارہا ہو اور اس کے سفینہ حیات کی کوئی مستعین منزل نہ ہو۔ واشد تشبیت کیا جیسا کہ اور پیارا جنمہ ہے
لئے کیا خوب لکھا ہے علامہ بیضاوی نے۔ فرماتے ہیں۔ یہ صلون بسلوکہ جناب القدس ویفتح عیدهم ابواب الغیب

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل بما علم و درثہ اللہ علما مالم عیلام۔ یعنی اطاعت رسول کی برکت سے
اخیس وہ رستہ مل جاتے گا جو اخیس حیرم قدس تک پہنچاوے گا اور ان ریغیب کے دروازے ھٹل جاتیں گے حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُنسے وہ علوم القادر کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔

۷۱۰ ہے پہلے مذنب لوگوں کو اطاعت کی تزعیب دی گئی۔ اب ان خوش نصیبوں کی خوش شیخی کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ اور
اس کے رسول کی اطاعت کا شرف نصیب ہوا۔ صدیقین۔ فیعین کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا العویسی

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِيدَاتِ

الله تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہیدات

المبالغی الصدق نہیت راست بازاور راست لگتار ہے اور مقامات قرب اللہ میں سے ایک مقام کا نام مجھی ہے۔ اشیخ محمد عبد اللہ لکھتے ہیں ہم الذین ذکت فطرتهم واعتدلت امنزجتم وصفت سراویہ هوحتی انهم پیغمبر دین بین الحق والباطل والخير والشر بمحض دعده ضنه یعنی صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن برگز وغیرہ سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو بقول کر لیتے ہیں خیر و شر کے درمیان الخیں ارتباں نہیں ہوتا بلکہ جیسے نگاہ سیاہ و سید کے درمیان بے تکلف اقیاز کر لیتی ہے اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں اقیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدقیقت کامرتیر حضورؐ کے کمی جلیل القدر صحابہؓ کو حاصل تھا اور صدیق اکابر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدقیقت کبھی کاظمہ رام ہے ایمان لانے کی دعوت می گئی تو ادنیٰ بھجوں کے بغیر اسے قبول کیا۔ مراجح کی بخشنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرط پر ایک یہستی بختی جسے کوئی تردید نہ تھا اور علاقافت کے اٹھاتی سال کے عرصہ میں تو سیحان اللہ صدقیقت کی نور افشا نیاں اور ضیاء پاشیاں میں شباب پر تھیں۔ چون قدم اٹھایا کہ ب صحابہؓ کی پوشان ہو گئے لیکن ہر قدم درست نکلا۔ ہر تدبیر تم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی۔ ایک ایک واقعہ کو لیجئے بخدا یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدقیقت کا نور تمام جہابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے جواب دیکھ رہا ہے۔

الشهداء: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ الشہید فیعیل بمعنى الفاعل وهو الذي یشهد بصحبة دین الله تارة بالحجۃ والبيان وآخری بالسیف والسان ویقال للمقتول في سبیل الله شهید من حيث انه بذل نفسه في دین الله وشهادته له بانه الحق ومساواه الباطل (کبیر)

شہید کا وزن فیعیل بمعنى فاعل ہے۔ وہ شخص جو کبھی نورِ بہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین اللہ کی حقائقیت کی شہادت دے دے وہ شہید کہلاتا ہے اور راہ خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے۔ کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقائقیت کی گواہی دی۔ اس کے معاً بعد امام رازی لکھتے ہیں کہ فڑی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کے شاہد رہے وہی قیامت کے روز نکونوا شہداء علی الناس کے مصدق ہوں گے۔

اللهم اجعلنا منھر۔

الصالحون: امام رازی فرماتے ہیں کہ والصالح هوالذی یکون صالحی اعتقادہ و فی عملہ جو عقائد و اعمال دلوں کے لحاظ سے صالح ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا یہ کتاب شیریں یہ شمر ہے۔

وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۝ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ

اور صَالِحِينَ اور کیا ہی اپنے ہیں یہ ساختی وہ یہ (محض) فضل ہے اللہ تعالیٰ

اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيِّمًا ۝ يَا يَا إِلَّا إِنَّمَا الَّذِينَ امْتَوْأَخْرُجْ وَأَحْذَرْ كُمْ

کانَهُ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جانے والا آئے ایمان والوا ہوشیار رہو ۱۱۷

۹۔ حَسْنٌ بمعنى ما أَحْسَنَ تَعِيبُ کے لیے ہے بُطَاهُ حَسْنٌ أَوْ لِئَكُنْ رِفْقَاءَ چَاهِيَّةً لیکنْ عَلَامَنِ اس کے دُوْجَابِ دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کلام یہ ہے حسن کل واحد منہور رفیقا اور دوسرا بُحْر زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ رفیق تبرید وغیرہ الفاظ واحد بجمع اور جنس سب معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے یہاں رفیق بمعنى رفقاء ہے اس آیت کا شانِ نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زادِ حضرت ثوبانؓ حاضر ہوتے تو ان کا پھر اُتراتا ہوا اور نگاہ اُڑاہتا دیکھ کر حضور نے وجہ پوچھی تو دردمند عاشق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی بسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد ہے۔ بات یہ ہے کہ رُخُنُ الْوَرْجَبِ الْمُكْحُولُ سے اوچھل ہوتا ہے تو دل بے تاب ہو جاتا ہے۔ فرآذیارت سے اس کو تسلی دیا ہوں۔ اب رہ کر مجھے یہ خیال ستارہ ہے کہ جنت میں حضور کا مقام بلند کماں ہو گا اور میسکین کس گوشے میں پڑا ہو گا۔ اگر روتے تباہ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فراق و ہجر کا یہ جانکاہ صدمہ تو اس دل نا تو ان سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور یہ با جراثم کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ جہریل ایمنی یہ مرشدہ لے کر تشریف لائے کہم اطاعت گزار عاشق کو جنت میں جدایی کا صدر نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو اپنے محبوب کی معیت و مصالحتیہ ہو گا حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفوی یہ صرف ثوابان کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ چنانچہ علامہ قطبی اور دیگر مفسرین جنہوں نے یہ راویت لکھنی ہے انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ کے شکوہ فراق پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ ہوا زفاجبک و حب جیبک المحتضن و انت ذوالفضل العظيم۔

۱۰۔ اعمال صالح پر اعلیٰ گیا ہے جو یقیناً پورا ہو گا جنت، جنت کی بے پایانیتیں، کیف بار اور حروگلیں لذتیں حُور و قصُور، ان کے علاوه دیگر بے شمار انعام و اکرام ان اعمال صالح کا برج ہوں گے لیکن اپنے محبوب بندوں کی معیت خصوصاً اپنے جیب مکوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریانی کی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہو گی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شان جود و عطا کی جلوہ گری ہو گی۔ اس کی اطا فتوں سے فہری بہرہ و رہو سکتے ہیں جن کو درویخت اور سوزِ عشق کے انعام سے سرفراز کیا گیا ہے۔

۱۱۔ اللہ حَنْرٌ وَحَدَّرٌ ایک ہی معنی ہے۔ یقال اخذ حذرة اذا یتیظ و احتز زمن المخوف کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور حوکتا ہو جانا مسلمانوں کو پہلے اطاعتِ نُدُو اور رسول ﷺ کا حکم دیا اب دین حق کی سر بلندی کے لیے جہاد کی تلقین کی جائی

فَإِنْفِرُوا أَثْبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًاٗ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ

پھر (وقت آجاتے تو) نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر اور بشکر تھیں سے بعض ایسے بھی ہیں جو مذراٰت دیر

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذْلَمَ

لگائیں گے پھر اگر پہنچے تھیں کوئی مصیبت تو وہ کہے احسان فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں

أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًاٗ وَلَكُنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ

تمہارا کے ہمراہ (جنگ میں) حاضر اور اگر ملے تھیں فضل (فتح اور مال غنیمت) اللہ کی مریانی سے

لِيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مُّودَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنْتُ

تو ضرور کے جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی کاش میں بھی ہوتا ان

مَعَهُمْ فَأَفْوَزُ فَوْزًا عَظِيمًاٗ فَلِيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی پس چاہیتے کہ لڑاکریں اللہ کی راہ میں (صرف) وہ لوگ جنہوں نے

ہے۔ اور پوری طرح تیاری کرنے اور دشمن کی عیار ان چالوں سے ہوشیار اور چوکنگاڑھنے کی پڑائیت کی جا رہی ہے۔ ثبات کا واحد ثابت یہ ہے اس کا معنی گروہ ہے۔

۱۱۷- مُنَافِقُوْنَ کا مُسْلِمُوْنَ کے ساتھ جو بُرْتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مُسْلِمُوْنَ میدانِ جہاد کا رُخ کریں تو یہ مختلف ہیلوں بھائوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر میدانِ جنگ میں مُسْلِمُوْنَ کو مصیبَت یعنی تکلیف اور شکست ہو تو بغلیں بجا تے ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے کو اللہ کا افضل شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ عین اُس کی ناراضی کا نتیجہ ہے کہ انہیں شہادت کی سعادت اور جہاد کے ثواب سے محروم رکھا۔ اور اگر مُسْلِمُوْنَ کو فتح ہو تو انہیں سانپ سو نکھ جاتا ہے اور ان کے دلوں میں حسرت و پیشیانی کی اگل سُلگنے لگتی ہے۔ پیشیانی اگر ثوابِ جہاد سے محرومی کے باعث ہوتی تو کوئی بات بھی تینکن ان کی ندامت و پیشیانی تو فقط اس لیے ہے کہ انہیں اب مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ کانِ لوتکن کا جملہ ان کی ذہنیت کو خوب و واضح کر رہا ہے۔

يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْأُخْرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ

بنج دی ہے دُنیا کی زندگی ۳۴۵ الٰہ آختر کے عوض اور جو شخص اڑے الٰہ اللہ کی راہ

اللَّهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيَكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

میں پھر (خواہ) مارا جاتے یا غالب آتے تو (دونوں حالتوں میں) ہم دین گے اسے اجر عظیم اور

مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو ۳۴۶ الٰہ راہ خدا میں حالانکہ کتنی بے بس

۳۴۷ شر خریدنے اور بخوبی دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ اس فدائیت اور حوالہ نشاری کے میدان میں وہی قدم لکھے جو پھر اپنی زندگی اور اس کی دل بستکیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا ہو۔ وہ لوگ جو دُنیا اور دُنیاوی جہاں و جلال کے متلاشی ہیں وہ کسی اور منذری کا اُخر کریں مسلمانوں کی صفوں میں اور اسلام کے پرجم کے پنجے ایسے دُول تہمت اور دُنیا طلب لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

۳۴۸ نیت میں اخلاص ہو مقصد اللہ تعالیٰ کی غوثوادی اور دین کی سریزندی ہو تو پھر کامیابی کا یہ معیار نہیں کثیر و عافیت سے مال غنمتوں کے انبار سکتے ہوئے واپس آتے تو کامیاب ورنہ ناکام نہیں وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے سلامتی سے گھر واپس آتے تو، جام شہادت نوش کرے تو، علامہ مرقوم نے کیا خوب ترجیحی کی ہے سے

برتر از اندیشہ سُود و زیارات ہے زندگی

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

۳۴۹ لکھ میں کتنی مرد ہوئیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کفار کم نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ نہ وہ بھرت کر سکتے اور نہ انھیں امن و سلامتی میسر رکھی۔ وہ خدا نا ترسوں کے مظالم برداشت کرتے اور اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے کرائے غریبوں کے فریادوں اور بے کسوں کے حامی اہم ناقلوں پر رحم فرا اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بجا ہیوں، ہمتوں کی امداد کی ترغیب دے رہا ہے چنانچہ وہ دن آیا جب نبی حضرت اپنے ہمراہ دس ہزار مسلمانوں کو لیے تکمہ پر چمدہ اور ہمہ اُس روز کہ نے اپنے بندروں والے کھوں دیتے اور اس کے غفر و تکبیر درباری نے اپنی گردیں خم کر دیں اور ان مظلوموں نے آزادی کا سانش لیا۔ یہ حکم اب بھی بدستور ہے جس خطہ زمین میں مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو بخات دلائیں۔ و مادا کم میں استفہم تحریف کے لیے ہے یعنی جہاد پر بائیختمہ کرنے کے لیے۔

الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْوُلُدُ اِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخْرُجْنَا

مرد اور عورتیں اور پتھے ایسے بھی ہیں جو (ظلم سے تنگ کر) عرض کرتے ہیں اسے ہمارے بھائیں

مِنْ هُنَّةِ الْقَرِيَّةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا

ہیں اس بستی سے ظالم ہیں جس کے ہنسنے والے اور بنادے ہمارے بیٹے پاس سے کوئی دوست

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝ الَّذِينَ امْنَوْا يُقَاتِلُونَ

اور بنادے ہمارے بیٹے اپنے پاس سے کوئی مددگار جو ایمان لاتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں ۱۶

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ

اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كِيدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

تو اے ایمان والوں لڑو شیطان کے حامیوں سے بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے ۱۷

۱۶۔ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن مقاصد کے اختلاف کے باعث وہ لائق تحسین یا قابل فخر ہو جاتا ہے جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی۔ اور دوسری قویں بھی لڑائی کیا کرتی ہیں۔ دونوں جنگوں میں خون کے دریا بہتے ہیں۔ تکشتوں کے پشے لگتے ہیں نجیبوں کی چیخ و پیار سے فضاسوگوار ہو جاتی ہے لیکن چھپتی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زین و آسمان کا فرق ہے مون کی جنگ اعلانے کلمۃ اللہ کے لیے، عدل و انصاف، مساوات و تحریث، یعنی واقعی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور غیر مون کی جنگ کے پس رو رہ صرف مادی فوائد کا فرمایا ہوتے ہیں کسی ملک پر قبضہ کا کسی قوم کو غلامی کی نجیبوں میں جھپڑنا، اپنے بیتی بھارت کی منڈیاں تاقم کرنا، نفوذ و مالک کی معدنیات اور قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو طاغوت (یعنی باطل) کے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جاتے گی خواہ لڑنے والوں کے سر پر ملی رچم ہمارا ہو اور غلغله ہائے پیغمبر سے ساری فضائل اسی ہو وہ جنگ فی سبیل اللہ ہیں ہو گی۔

۱۷۔ اے اہل ایمان! باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگادو تم تھ کے علم بردار ہو۔ حق کو فتح اور غلبہ نصیب ہو کا تو انسانیت کے چین میں بھار آ جائے گی۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بالا دستی تاقم ہو گی۔ اپنی کی روشی اور مہک ہر سوچیل جاتے گی۔ امن و عافیت کا دور دورہ ہو گا۔ باطل کے سر پر اہوں کی قتنہ سامانیوں سے خوفزدہ اور دل گرفتہ ہونے

اَللّٰهُ تَرَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُوْا اَيْدِيهِنَّ وَاقِمُوا الصَّلَاةَ

کیا نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی طرف جھینیں جب کہ مگیا۔ اس کے روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز

وَأَنُوا الرَّكْوَةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

اور اداکرو زکوٰۃ (ان بالتوں کو تو مال لیا) پھر جب فرض کیا گیا ان پر بہاد تب ایک گروہ ان میں سے

يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشِيَّةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا

ڈرنے لگ گیا لوگوں سے بیسے ڈراجاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اسے

لَمْ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ط

پرو رکار اکیلوں فرض کر دیا تو نے ہم پر بہاد (اور) کیوں نہ مدت دی تو نے یعنی بھوڑی مدت تک

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى فَوَ

(ایے تو جان حقیقت اخفیں) کہ دنیا کا سامان ۱۹ اے بہت قمیل ہے اور آخرت نیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو قتوی اختیار کیے ہے اور

کی قطعاً ضرورت نہیں بخواز نعمۃ اللہ الکبر سے اہل طاغوت کے قلعے لرز جائیں گے بخواز ایک حملہ کی دیر ہے ان کا نام و نشان ملک باقی نہ رہے گا شیطان کا مکرو فریب بہت مکروہ ہے۔

۲۰ اے علامہ قطبی نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب تک نماز و روزہ کا حکم تھا اس وقت تک تو پکے مومن بننے رہے۔ اب جب اسلام کی سر بلندی کے لیے سر کٹائے کامو قع آیا تو اوسان خطا ہونے لگے۔ قلت وهذا اشیہ بسیاق الایۃ۔ علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ ربنا العکبت الخ کا جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نہیں بخل سکتا۔ وہ تو اس دارفناک الوداع کہ کہ آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکار ہونے کے لیے ہر وقت بے نتاب رہا کرتے تھے۔ ومعاذ اللہ ان یصدیں هذ القول من صحابی کریم الخ (قطبی) پناہ بحمدکسی پاکباڑ صحابی کی زبان سے یہ جملہ صادر نہیں ہو سکتا۔

۲۱ یعنی اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا پذیری اسالشوں کے لیے ابدی زندگی اور اس کے لازوال انجامات کو کیوں نظر انداز کر تے ہو جھنور کیم کا ارشاد ہے مثلی دمثیں الدنیا کا اکب قال قیوٰۃ تحت شجرۃ شورا م و ترکھا۔ یعنی میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار راستے میں کسی درخت کے ریچے دوپر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھیڑتا ہے

لَا تُظْلِمُونَ فَتَيْلًا ۝ أَئِنَّ مَا تَكُونُوا إِذْ رَأَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ

نهیں ظلم کیا جائے کام پر کچھ بھی اٹھلی کے لیشہ کیا۔ جماں کہیں تم ہو گے آئے کی تھیں موت نہ لے الگ چھپ رینا ہی نہیں ہو

فِي بُرُوجٍ مُّشَيْدَةٍ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

تم مضبوط قلعوں میں اور اگر پہنچے انھیں کوئی بھلانی تو کہتے ہیں اے اللہ کی

عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

طرف سے ہے اور اگر پہنچے انھیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے

قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ

(رسیمیر سے سووں) آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے

اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔

۱۴۱ بُرُوج کا واحد بُرج ہے۔ وہ بلند عمارت جو دور سے نایاں ہو یعنی قلعہ یا قصر۔ مشیدہ کامعنی مضبوط بھی ہے اور بلند بھی۔ بتانا یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نامردی اور بُرُوجی دکھانا عقلمندی نہیں۔ تم اپنے بچاؤ کے ہزاروں سامان کر لوموت آکر رہے گی۔

۱۴۲ مُنَافِقِین ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے یعنی ان کا شیوه یہ ہے کہ اگر جگہ میں قتح ہو یا عام حالات غوشگوار ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے۔ اور اگر ان کی اپنی مکروری سے پسپاٹی ہو یا غلط کروں ہو جاتے یا باغات اچھی طرح نہ پھیلیں تو اس وقت سارِ الزمِ اللہ کے رسول پر دھرتے ہیں کہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے پسپاٹی ہوئی ہے یا ان کے اور ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آتے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل کے اندھوں! ہر کام کا فاعلِ حقیقتی اور مسبتب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تم میرے محبوبِ پرکیوں الزم کلتے ہو مولیانا دریا آبادی نے یہاں خوب لکھا ہے کہ مُنَافِقِین کا یہ من عنِ اللہ کہنا بھی بطور حکمة تھا بلکہ بطور حکمة زبان تھا جیسے اُردو میں لوگ کہہ اُٹھتے ہیں کہ یہ تو تقدیری امور ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

يَقْتَهُونَ حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَاتِ فِيمَنَ اللَّهُ وَمَا

قریب، ہی نہیں جاتے بوجیخے آپ کو ۱۴۲ء بھلائی سوہہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَاتِ فِيمَنْ نَفِسِكَ طَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَوْلَادَ

بوجیخے آپ کو تکلیف سوہہ آپ کی طرف سے ہے اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف سے رسول نہ کر

۱۴۲ یہاں خطاب نوع انسانی کے ہر فرد کو ہے یا خطاب حضور نبی کریمؐ کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ من عند اللہ یعنی رحیم رحیمکھ اور دُکھ، آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگی سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہاں یہ ارشاد ہے کہ سکھ آرام اور خوشحالی تو حضن اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور دُکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے ہے بظاہر ان آیتوں میں تضاد کا مگام ہوتا ہے اس لیے دو خصوصی فقولوں میں علم برپیاوی نے اس کا جواب دیا فرماتے ہیں۔ کل من عند اللہ ایجاد او ایصالاً غیر ان الحسنة احسان و امتحان والسيئة هجازة وانتقام۔ یعنی ہر کام کامو جد حقیقی تو واللہ تعالیٰ ہے لیکن آرام و خوشحالی کا باعث اُس کا احسان ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندہ کا امتحان بھی لیا جاتے کہ وہ اس انعام پر کیسے شکردا کرتا ہے۔ اور تکلیف و رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہو اکرتی ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کو غزوہ احمدیں ملے گی جس ہز میت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا اگرچہ اس کامو جد تو رب تعالیٰ ہی تھا لیکن پہاڑی و رہ پرستی و ستر کی جلد بازی اس کا سبب بنی تھی۔ دوسرا سے یہ جوں کی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے مخصوص برک و بارکتے ہیں۔ انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے ہاں واجام پر بھی نگاہ رکھنی چاہیتے۔

۱۴۳ اللہ الناس پر الف لام استغرق کے لیے ہے یعنی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانہ کے انسانوں کے لیے رسول بننا کر بھیجا ہے۔ کوئی زنگت، کوئی زیان، کوئی قومیت اور کوئی وطن اس سے مستثنے نہیں۔ سب کے لیے آپ ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور سب کے رسول ہیں اور رسول کی تشریف آوری کی غایت ابھی بنانی چاہکی ہے کہ الایطاع باذن اللہ کہ اس کی اطاعت کی جاتے تو اب گون ہے جو حضور کو اپنا رسول تو تسلیم کرے اور آپ کی اطاعت سے محفوظ ہو۔ اور آیاتِ بنیات میں دُواز کارتا ویلات کرتا رہے یہ تو یہ دُواز کاشیوہ تھا کہ بعض آیاتِ تواریخ جو ان کی ہوائی نفس کے طبق ہوئی تھیں ان لیا کرتے اور دُوسرا آیات کا حسب منتظم طلب گھر لیتے۔ بہ حال یہاں واضح ہے کہ قرآن ن سنتِ صطفیٰ علیہ وعلیٰ آلم اسنی الصدوات وحسن المحتیات کی بے پُون و چرا اطاعت کو بار بار اتنا دُہرایا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب تین کرنے والے کے لیے سُنتِ نبوی سے اخراج کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔

وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ مَنْ يُطْعِرُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۝

اور کافی ہے ۱۴۲۷ء اللہ تعالیٰ (آپ کی رسالت کا) گواہ جس نے اطاعت کی رسول کی ۱۴۵ء تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی

وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا آتَنَاكَ عَلَيْهِمْ حَقِيقًا ۝ وَيَقُولُونَ طَاغٰةٌ ۝

اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اُن کا پاسان بنایا کہ اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا ۱۴۶ء

فَإِذَا بَرَزَ وَاصْنَعْنَاهُ بَيْتَ طَالِفَةٍ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي ۝

اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تورات بھم مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے عکس جو آپ نے

تَقُولُ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ هَايِبِيُّونَ ۝ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ۝

فرمایا اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں پس اُرخ (انور) موڑ لجھتے ان سے اور بھروسہ پہنچتے

اللّٰهُ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ۝ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ ۝

اللہ پر اور کافی ہے ۱۴۷ء اللہ تعالیٰ (آپ کا) کارساز تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں ۹۸ء اور (اتا) بھی نہیں سمجھتے

۱۴۲۸ء اس عجیب اس حقیقت کی صداقت پر خود خدا گواہ ہے کہ تو اس کی ساری کائنات کا ہادی و مرشد ہے اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے مکانیں کا انکا پر کاہ کی وقعت نہیں رکھتا۔ ناگفتہ بہ حالات میں اسلام کا غالب آنا اور دشمنان اسلام کا ہی چھپر دست بعد اس کی ناموس و عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل ہے۔

۱۴۲۹ء کتنا کھوں کرتا دیا کہ اللہ کا مطیع ڈھی ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہو۔ لا کھوئی و خوئی کرے اطاعتِ الٰہی اور اتباعِ قرآن کا وہ جھوٹا ہے جب تک اللہ کے رسول کو یہی کی سُنّت کا پائندہ ہو۔

۱۴۳۰ء منافقوں کا رویہ یہ تھا کہ بظاہر تو اطاعت و تسلیم کا اقرار کرتے اور درپرده سانشوں کے جال بنا کرتے۔

۱۴۳۱ء اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں تاریخِ عکبوتوں سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوئیں اور جو فتنہ اور شورشِ انگھوں نے رسولِ کرم کو ناکام کرنے کے لیے بیباکِ وہ خود ان کی ہلاکت و دُسوائی کا باعث بنتی۔

۱۴۳۸ء منافق جن کے طرزِ عمل اور دوڑخی پالیسی کا ذکر جلا آ رہا ہے ندوہ سچے دل سے حضورؐ کی رسالت کے قاتل تھے اور نہیں قرآن کو کتابِ اللہ یقین کرت تھے۔ اسی لیے تو وہ اس مخصوصی میں گرفتار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انھوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہے تو ان پر عیاں ہو جاتا کہ یکسی انسان کا نہیں بلکہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس طرح وہ اس تنبدب سے

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُ وَاقِعٌ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ

اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے (بھیجا گیا) ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر ۱۲۹ اور جب آتی ہے ان کے

أَمْرٌ مِنَ الْأَكْمَنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَا عَوَابِهِ وَلَوْرَدَةُ إِلَى الرَّسُولِ

پاس کوئی بات اطمینان یا خون کی نسل توجیہ کرنے لگتے ہیں اس کا اور اگر لوٹا دیتے اسے رسول (کریم) کی طرف

نجات حاصل کر لیتے۔

۱۲۹ یہ کتاب چوتھیں سال کے عرصہ دراز میں نازل ہوتی اس میں تضاد و اختلاف کی لمبیک نہیں یہ وہ ہنگامہ خیز اور پرآشوب عرصہ ہے جس میں داعیٰ اسلام، اس کے ماننے والوں اور خود اس دعوت کو شدید قسم کے مختلف حرолов سے گزرنا پڑا خلک و ستم کے پھاٹ بھی توڑے کتے۔ اور عقیدت و محبت کے پھول بھی بر سائے گئے ایسے حالات بھی روما ہتھی کہ ظاہر بین مکاہیوں کو یقین ہونے کا کہ چراغ حق ابھی صحاجا ہتا ہے۔ اور ایسا دوسری بھی آیا کہ اس چراغ کو پھوٹکیں مار مار کر بمحابانے والے پر وانہ والا اس پر تصدق ہونے لگے۔ صلح بھی اور جنگ بھی، فتح بھی اور پسپانی بھی، خوف بھی اور امن بھی ہر ستم کے حالات روپ زیر ہوتے۔ ان گوناگوں اور بوقلموں ادوار میں ایک کتاب نازل ہوتی ہے اور اس میں ایک ایسی آیت کی بھی نشان دہی نہیں کی جا سکتی جس سے اسلام کے اصولوں میں تضاد کا شایستہ نک ہو علمبرضاوی نے ایک جملہ میں سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا۔ من تناقض المعنی و تفاوت النظائرین اس کی کوئی آیت نہ معنوی لحاظ سے دوسرا آیت کے خلاف ہے اور نہ فضاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے حصے سے فروت ہے معانی و حقائق کا سمندر ہے جس کی لمبوں میں آویزش نہیں جس کی ہر موجود اور ہر قطرہ کل کارنگ و بولی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے کلام الہی ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

۱۳۰ مسلمان جب بحیرت کر کے مدینہ نورہ پہنچنے تو فارکے ساتھ جنگوں کا سلسہ شروع ہو گیا۔ ایک جنگ کے بعد دوسرا جنگ کی تیاری، ایک یورش کے بعد دوسرا یورش کا اندیشہ تھا مسلمان مسلسل ایسے حالات میں نہذگی بس کر رہے تھے جنہیں بجا طو پر زمانہ جنگ کما جا سکتا تھا۔ ہر دن ہر لحظہ حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبریں کا پھیلانا ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے۔ اگر ان افواہوں کو روکا رہ جاتے تو صورت حال بڑی سیلگیں ہو سکتی ہے مسلمان معاشرہ میں بھی کتنی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار دل افراد تھے کہ کوئی بات کا ذوق تک پہنچی اور اسے سارے شہر میں مشمور کر دیا جس سے طرح طرح کے نقشانات کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اس سے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو یا تم میں جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اس کی جانچ پر ٹکال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقسام کریں جب عام و نیوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں داخل اندمازی اور خود دوسرا سے روک دیا گیا ہے تو اپنے خود

وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَدِبُونَكُمْ مِنْهُمْ ط

اور باقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو تجوہ افسوس کر سکتے ہیں بات کا انہیں سے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَا تَبْغُثُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور (نہ ہوتی) اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا سوائے

قَلِيلًاٖ ۝ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَض

چند آدمیوں کے تو اے محبوب! بھادروال اللہ کی راہ میں تبلیغ دی جاتے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے اور انہاریں آپ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْعُبَ بَاسَ الدَّنِينَ كُفُراً طَوَّالِهِ

(ایمان والوں کو (بھادپر) عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًاٖ ۝ مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكِنْ

کی گرفت بہت سخت ہے نیز وہ نہزادینے میں بہت سخت ہے جو کرے گا سفارش اپنی ۳۴۳ءے ہو گا

سوچیں کہ انور دینی میں یہ بدقسمی کب برداشت کی جاسکتی ہے کہ ہر کہ وہ مفتری بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی راستے سے ہم آہنگ کرتا رہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہبھی کے بندوں کی تقلید نہ شروع کر دیا کریں اور دینی انوریں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقویٰ اور دینی بصیرت مسلکہ اور جن کی سیرت بے داش ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کرم کو حکم دے رہے ہیں کہ جب باطل حق سے برس پر یا ہو تو آگے بڑھو خواہ آپ تنہا ہی کیوں نہ ہوں پہنچنے پر حصہ رکھو کر یہ افاظ اسی حکم کی تعلیم معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ لا فاتلہ هر حقی تغیرد سالفتی۔ یعنی جنہاں میں کفار سے ضرور لڑوں گا خواہ میری گردان جدرا ہی ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو اک اگر کسی کا خیر میں اس کا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اسے ایکیے اس کام کو شرفع کر دینا چاہیے۔ ساختیوں کا نہ ہونا کوئی مذر نہیں ہے۔

۳۴۳ءے امام راغب یہاں شفاعة کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ای من النظم الى غيده و عاونه و صار شفيعاني الخيد والشرفاعونه وقواه وشاركه في نفعه وضرره۔ یعنی کسی اچھے یا بُرے کام میں کسی کے ساتھ اس طرح شرکیک ہو جانا اک اس کی اعانت اور تقویٰ پر اپنا پورا ذرا و صرف کر دے اور اس کام کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر شرکیک سمجھے۔ اس توضیح کے پیش نظر آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ جو شخص حق و صداقت کے علم بردار کے ساتھ اپنی مشتمت

لَئِنْصَيْبَ مِنْهَا وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنُ لَّهُ كَفُلٌ

اس کا حصہ اس میں سے اور جو کرے گا سفارش بُری تو ہو گا اس کے لیے بوجھ

مِنْهَا طَوْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا^{٨٥} وَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحِيُوا

اس سے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب لام دیا جائے تھیں کسی لفظ و عاصے سے تو سلام دو

بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا طَوْكَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا^{٨٦}

تم ایسے لفظ سے جو بہترہ اس سے یاد کم از کم درود وہی لفظ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَلِيفٌ مَعْتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ طَوْكَانٌ

اللہ نہیں کوئی تبعود بغیر اس کے وہ ضرور جمع کرے گا تھیں قیامت کے دن نہیں ذرا شک اس (کے آئے) میں

والبستہ کر دیتا ہے اور اپنا تن من وہن اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے وہ ضرور اپنے قائد کی طرح اعظام کا مستحق ہو گا۔ اسی طرح جس نے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو باطل کے سرخنوں کے ہوال کر دیا اور فرق و فجوہ کو فروغ دینے میں ان کا ہاتھ بٹاتا رہا تو وہ بھی اس گناہ میں برا بر کاشتہ رکیا ہو گا۔ اس آیت کا معنی فرموم ہی بیان کیا گیا ہے کہ کسی مشکل میں کسی بھائی کی امداد کرنا اس کے حقوق کی بازیابی کی سعی کرتا، اس کو نقع پہنچانا اور اس سے کسی تکلیف کو دُور کرنے میں کوشش ہونا بشرطیکہ اس سے کسی غیر کی حق تلقی نہ ہو تو یہ اپنی سفارش ہے اور اس پر سفارش کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اور اگر ایسی سفارش کی جس سے کسی کی حق تلقی ہوئی یا کسی رظلہ ہو تو اپنے بُری سفارش ہے اور سفارش کرنے والا لگنہ کار ہو گا۔

سے الہ تھیتہ باب تعلیم کا مصدر ہے۔ اس کا اصل معنی زندگی کی درازی کی مُعاویت ہے۔ داخل التھیۃ الدلعام بالحياة (فقطی) اور اس کا معنی ملک بھی ہے التھیۃ للہ میں یعنی لمحوظ ہے۔ جمورو مفسرین کے زدیک یہاں تھیتہ سے مراد سلام کہنا ہے سلام دینا حضور کریم کی پسندیدہ سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینے کے قرآن حکیم نے دو طریقے سکھاتے ہیں یا تو وہی الفاظ دوہراؤ جن سے تھیں سلام کہا گیا ہے یا ایسے الفاظ کا اضافہ کر وجوہ محبت و تحریم پر دلالت کرتے ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی اسلام علیکم کے توجہاب میں و علیکم السلام و رحمۃ اللہ کہو اور اگر کوئی اسلام علیکم و رحمۃ اللہ کے توقم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ سے جواب دو۔ باہمی محبت و پیار کے جذبات کو ترویزہ کرنے کا بیڑہی موت رظر لفظ ہے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کا ارشاد گرامی ہے لات خلون الجنة حتی تو ممنوا لا تعمنون حتی تحابوا اولاد لکم علی شئی اذا فعلتموها تحاببتم انشوا السلام بینکم۔ جب تک ایمان نہیں لا اؤگے جنت میں داخل نہ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَلْبَيَاً^{٤٧} فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَفَقِّينَ

اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں سوکیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بالے میں ۳۴۲

فَئَتَّمَ وَاللَّهُ أَكْسَاهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُ وَأَمْنَ

(تم) دو گروہ بن گتے ہو حالاً کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اُندھا کہ دنیا پے تھیں لی جاؤں کہ تو توں کے باغھوں نے کیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اُسے اہدھا کہا

أَخْلَقَ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا^{٤٨} وَدُوَا

جسے گمراہ کر دیا اللہ نے اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہر گز نہ پائے کلاوس کے لیے (بدایت کا) راستہ دُو دوست رکھتے ہیں

لَوْنَكُفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَنَحَّلْ وَإِنْهُمْ

اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے باغھوں نے کفر کیا تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ ۳۴۳ پس نہ بناؤ تم ان سے

ہو سکو گے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے تو ایمان نصیب نہ ہو گا۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کرو تو اپس میں محبت و پیار پیدا ہو جائے؟ (خود ہی فرمایا) ایک دوسرے کو اسلام علیکم کہا کرو۔ ۳۴۴ میں جتنے آداب ملاقات راجح ہیں سب کو دیکھو ملاقات کا دوہ طریقہ ہو آپ کو قرآن نے سکھایا ہے اس کا جواب نظرنا آتے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے دُھی الفاظ جواب میں دُوہرا دو۔ ردہ اہم شیعہ مسلم علیکم علی غیر اہل دین کم (تفہیمی)

۳۴۵ بعض لوگ اسلام تو قبول کر لیتے لیکن بال پتوں کی محبت، مال و جاندار کا پیار اور وطن کی کشش انھیں بھرت کرنے کی اجازت

نہ دیتی اور اس طرح قبول اسلام کے بعد بھی انھیں مشرکوں کی معاذنا نہ سُرگرمیوں میں شرکیک ہونا پڑتا اور بعض جو بھرت کر کے مدنیہ آ

بھی جاتے لیکن وہاں کاظمام حیات، اخلاص پائندیاں اور ان پر دشمن کے ہملوں کا خطرہ انھیں وہاں قیام نہ کرنے دیتا اور وہ آب

ہوا کی ناموافقت کا عذر کر کے والپس لوٹ آتے۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی آرام منتفت تھیں بعض انھیں مسلمان اور دوسرے انھیں خارج از اسلام خیال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے متعلق مختلف الرأیے کیوں ہو یہ تو اپنی بذاتی علیہ

کے باعث جدھر سے آتے نہیں اُدھر سی لٹا دیتے گتے۔ ارکس اور انکس دونوں ہم معنی ہیں۔ کسانی کہتے ہیں الرکس

والنکس قلب الشیعی علی راستہ والمرکوس المنکوس (القرطبی) رکس اور انکس دونوں کا معنی کسی پیغیر کو سر کے بل اوندھا گرا دینا ہے۔ ارکس کا یہ لفظ یہاں لکھنا موزوں ہے۔ بمالسَبُوا نے واضح کر دیا کہ ان کا جادہ ہعن سے مخفف ہونا

ان کی اپنی خلط کاریوں کا طبعی ثمر ہے۔

۳۴۶ یعنی تم تو ان کے متعلق آپس میں بمحبت کر رہے ہو اور ان کے کفر و فسق کا یہ حال ہے کہ وہ تمہیں بھی

أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَا جُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَخُذُوهُمْ

اپنے دوست یہاں تک کہ وہ بھرت کریں اللہ کی راہ میں پس اگر وہ (بھرت سے) منہ موزیں تو پکڑو اخیں

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَلَا تُتَخَذُوا مِنْهُمْ وَلِيَاؤْ

اور قتل کرو اخیں جہاں کہیں پاؤ ان کو اور نہ بناؤ ان سے (کسی کو) اپنا دوست اور

لَا خِصِيرًا^{٨٠} إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

نہ مددگار مگر ان کو (قتل نہ کرو) جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تھا رے درمیان اور ان کے درمیان

مِيتَاقُ أَوْجَاءٍ وَكُمْ حَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتَلُوْا

معاہدہ ہے^{۱۳۴} یا آگئے ہوں تھا رے پاس اس حال میں کہ جنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں

قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتُلُوكُمْ وَحْ فَإِنْ

اپنی قوم سے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو سلطکر دیتا اخیں تم پر تو وہ مذور بڑتے تم سے پھر اگر

اعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوَايْكُمُ السَّلَمُ لَا فَيَأْجَعَلُ

وہ گناہ کر لیں تم سے اور نہ جنگ کریں تھا رے ساختہ اور بھیجنیں تھا رے طرف صلح (کا پیغام) تو نہیں بنائی

دولت ایمان سے محروم کر کے اپنے ساختہ ملانے کی تدبیر سوچ رہے ہیں۔ اس لیے جب تک بھرت کر کے تھا رے ہاں قیام نہ کریں اور اپنی قسمت تھا رے ساختہ و بستہ نہ کر دیں اس وقت تک تم ان کے ساختہ و وستانہ تعلقات قائم نہ کرو۔

۱۳۴۔ یہ لوگ جو تھا رے اُن دشمنوں سے جا بیٹے ہیں جن کے ساختہ تھا رے جنگ شروع ہے تو ان کو مت جانے دو جہاں میں قتل کر دلو لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلہ کی پناہ اختیار کر لیں جن کے ساختہ تھا رے امعاہدہ ہو چکا ہے تو پھر اُنھیں کھینڈ کرو اور اگر وہ تھا رے پاس حاضر ہو کر قیضیں والا دیں کہ نہ وہ تھا رے ساختہ تھا رے جنگ کریں گے اور نہ تھا رے ساختہ تھا رے معاون بن کر اپنی قوم کے خلاف نظریں گے تو بھی ان سے تعرض نہ کرو۔ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ آیت سابقین ان کے قتل کرنے کا حکم صرف اس وقت ہے جب وہ تھا رے خلاف لڑ رہے ہوں۔ اور جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ تم بھی ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔

اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجْدُونَ أَخْرِيْنَ يُرْبِيْدُونَ آنَ

اللہ تعالیٰ نے تھار سے لیے ان پر (ازیادتی کرنے کی) راہ میں تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ

يَا مَنْوَكُمْ وَيَا مَنْوَاقُومُهُمْ كُلَّمَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْسَوْفَاهُمْ

امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے (یہیں) جب کبھی پھیرے جاتی ہیں فتنہ کی طرف تو نہ کے بل کہ رہیے ہیں میں یہیں

فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِ لُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيهِمْ

سو اگر رہ کریں تم سے یا نبھیں تھاری طرف صلح (کا پیغام) اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ شَقَّتُوهُمْ وَوْطَأْتُكُمْ جَعْلَنَا لَكُمْ

تو پکڑ لو انھیں اور قتل کرو انھیں جہاں تم پاؤ انھیں اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تھیں

عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مُبِينًا ۝ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ آنَ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا

ان پر کھلا اغیار ۹۳۱ اور نہیں (جاائز) کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے نہ کسی مومن کو مگر

۹۳۲ اس آیت نے مزید وضاحت کر دی کہ قابل گرد़ن زدنی وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔
۹۳۳ ایسی غیر جانبداری کے ان بلند بانگ دعووں کے باوجود وجہ کبھی موقع ملے اور ان کی قوم انھیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے
لیے کہ تو پھر انھیں اپنی غیر جانبداری کا خیال نہیں رہتا اور فرما سلیح ہو کر کفار کی صفوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔

۹۳۴ اگر وہ اپنی امن پسندی کا کوئی ثبوت بھم نہ پہنچائیں تھارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش بھی نہ ہوں تھیں صلح کا
پیغام بھی نہ بھیجیں اور جب موقع میں قم پر دستِ تعددی دراز کرنے سے باز بھی نہ آئیں تو پھر تم بھی ان کا ذرا الحافظہ کرو اور جہاں
قابلیں آئیں بلا تاثل ان کو نوت کے گھافِ آثار دو۔

۹۳۵ مفسرین نے ماکانِ لمومن کا معنی کیا ہے ما صلح لمومن ولیس من شانہ مومن کے لیے یہ درست اور
جاائز نہیں اور مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ اس فعلِ شنیع کا بسلا مقتی ہوش و حواس ارتکاب کرے۔ ہاں یہ الگ
بات ہے کہ بے ارادہ اور نادِ انسنة اس سے یہ جرم سرزد ہو۔ اس اسلوبِ بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ جرم معمولی قسم کا نہیں
بلکہ نہایت سنگین اور بہت سی گھناؤنا ہے کسی ایماندار سے اس کا صد وحد درجہ قیچ ہے۔

أَلْخَطَعُ إِذَا أَخْرَيْتُمْ عَنْ تَعْمِلٍ يَعْنِي أَكْرَصَدُوا إِرَادَهُ كَبَعْرِ كُوئِيْتِيْ كَامَ ہو جائے تو اسے خطا کہتے ہیں اس کی مختلف

خَطَّأَ وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحَرِّي رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدَيْةٌ

غلطی سے اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو (اس کی سزا یہ ہے کہ) آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا

فَسَلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقَ فَوَاطَّافَانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلَّ

ادا کرے مقتول کے گھروں کو مگر یہ کہ وہ خود ہی (خون بہا) معاف کر دیں پھر اگر ہوا مقتول الله اس قوم سے جو شتم ہے

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحَرِّي رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ طَوَّانْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

مختاری نہیں وہ (مقتول) خود مومن ہوتا (قاتل) آزاد کرے ایک مسلمان غلام اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہوچکا ہے

صورتیں ہیں کفار کے ساتھ جنگ جاری بھی گولیاں برس رہی تھیں اتفاقاً اس کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا۔ یا نشانہ لگایا تھا شکار کو اور جا کا کسی انسان کو، یہ سب قتل خطا کی صورتیں ہیں۔ یہ بھا عدم القصد۔ تمام میں قدمشترک قصد کا نام ہوتا ہے۔ اس آیت کرمیہ میں قتل خطا کی تین صورتیں اور ان کے احکام بتاتے گئے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے ورثا مکو دیت ادا کرے اس کی مقدار اللہ کے رسول نے سو اونٹ مقرز فرمائی ہے اور یہی مقدار ہر زمانہ کے لیے ہے۔ دیہ الحرم المسلموماًۃ ابل فی کل زمان (قرطبی) ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانہ میں سو اونٹوں کی قیمت کے برابر نقدر و پیر دے سکتا ہے اونٹوں کی قیمتیں ہیں کمی بیشی سے روپیہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے بھر حال دیت سو اونٹ ہی ہوگی۔ البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو وہ بخشن سکتے ہیں شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپیہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ کیونکہ روپیہ کی قیمت یعنی قوت خود یعنی طاقتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپیہ کی قوت خردی بھٹک جاتے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جاتے گی جو کسی طرح بھی قریں اضافات نہیں۔ اس لیے شریعت نے خون بہا ایک سو اونٹ مقرز کیے ہیں تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں اضافات کے تعاضتے پورے ہوتے رہیں۔ یہی جمیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نہایں۔ اور اپنی نظر کو بتارہی ہوتی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں بلکہ علم و حکم رب کی فرستادہ ہے۔

۱۸۲۱۔ قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان لیکن اس کی بُود و باش کفار میں ہو۔ اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دے۔ اس پر دیت الازم نہ ہوگی۔ اور وہ اس لیے کہ اس کے سب وارث کافر ہیں اور مسلمانوں سے بُرس پکایا ہیں۔ ان کو دیت ادا کرنا تو ان کو تقویت دینا ہے جو کسی طرح قریں عقل نہیں۔

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيقَاتٌ فَدِيَةٌ لِّلْمُسْلِمَةِ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ

متحارسے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ تو قاتل) خوں بھاوسے دے ۱۳۲۶ء اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے

رَقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِ رَبِّنُوكَتَابِ عَيْنِ

ایک مسلمان غلام تجویش خواستہ پاسکے ۱۳۲۶ء تروزے رکھے دو ماہ لکھاں (اس گناہ کی)

تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا

تو بہ اللہ کی طرف سے (یعنی تقریبے) اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا حکمت الا اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو

مُتَعَمِّدًا فِحْرَازُوهَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

جان پوچھ کر ۱۳۲۶ء تو اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس میں اور غصہ ناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور

۱۳۲۶ء اگر مقتول اُس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تھا رامعاہدہ ہو پھر کسے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثا کو دیت ادا کرے۔ ذقی عینی اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا بھی یعنی حکم ہے مسلم، کافر، مجبسی وغیرہ سب کی دیت یکساں ہے یعنی سواؤ نٹ و بہ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔

۱۳۲۶ء اگر کوئی شخص غلام خردی نے کی استطاعت ترکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو سکتے ہوں تو پھر دو ماہ لکھاں تروزے رکھے اگر اس نے عذر شرعی مثلاً حیض، بیماری کے سوا ناغد کیا تو پھر اس سر تو شروع کرنے ہوں گے۔ اخناف کے نزدیک یاری غذر نہیں ہے۔

۱۳۲۶ء پہلے قتل خطا کا ذکر تھا اب قتل عمد کا بیان ہے۔ قرآن حکیم اور ارشادات نبویہ اس جرم کے عظیم ترین ہونے پر شاہد ہیں قرآن کریم کی یعنی آیت انسان غور سے یڑھے اور اس میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر نگاہ ڈالے تو ورنگے کھڑے ہو جائیں لحضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قتل المومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ہے معتزلہ کے نزدیک قاتل عمد کی توبہ قابل قبول نہیں لیکن اہل سنت کی یہ راتے ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ وعداً ان کے لیے ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قتل عمد کی جو تفسیر متفقون ہے اس کے پیش نظر تو یہ الحسن پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا متعتمد اس تخلی مقتلہ یعنی جو دالستہ اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی سزا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

لَعْنَةٌ وَأَعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ

ابنی رحمتے دو کردے گا اسے اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے پیدا عظیم اے ابل ایمان جب تم سفر پر نکلو ۱۲۵

فِي سَيِّئِ الَّلَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ

اللہ کی راہ میں (بحمد کے پیسے) تو خوب تحقیق کرو اور نہ کو اسے جو بھیجا ہے تم پر سلام

لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

کہ تم مومن نہیں ہو تم تلاش کرتے ہو سامان دُنیوی زندگی کا پس اللہ کے پاس بہت غمیتیں ہیں

كَثِيرٌ طَّكَذَلَكَ كُنْدَمٌ مِنْ قَبْلٍ فَمَنْ أَنْهَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا وَإِنَّ

(وہ تھیں غنی کر دے گا) ایسے ہی (کافر تم بھی تھے ۱۲۶ اس سے پہلے پھر احسان فرمایا اللہ نے تم پر تو خوب تحقیق کر لیا کرو یقیناً

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ

اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے نہیں برابر ہو سکتے (گھروں میں) بیٹھنے والے

۱۲۵ ماقولیوں ہوا کہ حضرت اسامہؓ کی قیادت میں حضور نے ایک سریروانہ فرمایا۔ کفار کو جب لشکرِ اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ گئے لیکن مرد اس نامی ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا وہ اپنے مال موصی کے ساتھ ٹھیرا رہا جب مسلمان وہاں پہنچے اور نفرہ تکبیر بلند کیا تو اس نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا بینچے اُتر آیا اور انھیں السلام علیکم کہا لیکن حضرت اسامہؓ نے اس کی پڑاہ نہ کی اسے قتل کر دیا اور اس کا روٹہ ہاٹک کر مدیریت طلبیہ کے آئے اور بارگاہ رسالت میں سالابارابیان کیا حضور بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت سابقین مسلمانوں کو حالتِ امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا اس آیت میں حالتِ جنگ میں بھی بلا وجہ قتل و فحارت سے روک دیا جب تک تھیں لقین نہ ہو جاتے کہ یہ محارب کافر ہے اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ اور اگر کوئی عین اس وقت بھی اظہارِ اسلام کرے تو مالِ غنیمت کے حصوں کے لیے اس کی شہادت رد نہ کر دو۔ اس فناپزیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت ایمان رد کر رہے ہو تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی تجویز اللہ کے ہاتھیں ہیں اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے تو وہ دوسرا سے تم پر رزق کے دروازے کھوں گے ۱۲۶ یعنی ابتداء میں محاربی بھی زبانی شہادتِ اسلام پر اعتبار کر لیا گیا تھا تم دوسروں کی زبانی شہادت کو کیوں صحیح تسلیم نہیں کرتے فتبینوا کا فقط آیت میں دوبار آیا ہے جو قتل میں انتہائی احتیاط برتنے کی تاکید کر رہا ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

سوائے معدودوں کے ۲۳۷ اور بہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں مسلمان

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ

اپنے ماں اور اپنی جانوں سے بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے بہاد کرنے والوں کو اپنے ماں اور

أَنفُسِهِمْ عَلَى الْقِعْدَةِ دَرَجَةً وَكُلًاً وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى طَوَّ

اپنی جانوں سے (گھوٹوں میں) بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا لیکن

فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقِعْدَةِ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَتٍ

فضیلت دی ہے اللہ نے بہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے (ان کے لیے) بلند درجے میں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ

اللہ کی جانب سے اور (نویدہ) بشش اور رحمت ہے اور ہے اللہ تعالیٰ سارے گز بخشش والا ہمیشہ حکم فرمائے والا بیشہ شکر لوگ کہ

تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بعن کیا ان (کی وجہ) کو فرشتوں نے ۲۸۱ اس حال میں کو ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں کو فرشتوں نے خوب کیا کہم اس شکل میں تھے (معذالت کرنے تھے) انہوں نے

۲۸۲ اس سے مراودہ لوگ ہیں جو سیاری یا سچی حقیقی عمبوڑی کی وجہ سے بہاد میں تیرکت سے قادر ہیں۔ قالاً للعلماء: اهل الصدر اہل الاعذار اور یہ چیز صحیح بیان نہیں کہ جو لوگ ہر وقت سریکفت اللہ و رسول مکے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کا وہ لوگ مقابلہ کیونکر سکتے ہیں جو اپنے گھوٹوں میں آرام سے بیٹھے ہوں اور اپنے دنیاوی کار و بار میں ہر وقت مشغول ہوں۔

۲۸۳ ان حضور نبھتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کو کے مدینہ طیبۃ تشریف فرمائی ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز و اقرب اور مال و جاندا دوختیر کی وجہ سے مکہ ہیں رہ گئے اور اس وقت جب کہ ہجرت فرض بھی ہجرت نہ کی۔ مرتبے وقت فرشتوں سے جو اُن کام کاملہ ہو گا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے۔ ایک تو مکہ کی فضائی ناسار کا رخنی کر گھم کھلا شکر ہو رہا تھا۔ فسق و فجور کا بازار گرم تھا۔ عقیدۃ اسلامی کا اظہار اور عبادات کی بجا آوری از حد شکل بھی یعنی حالت

مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً

کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ

فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَإِوْلَيْكَ فَآوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ ۷۹

تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور ہبھم بہت بُری پلڑ کر آنے کی جگہ ہے

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ۲۸۹ میں کر سکتے تھے

حَيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۷۹ فَإِوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

(ہجرت کی) کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے وہاں سُرخلنے کا کوئی راستہ تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اُمید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگز

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۹۰ وَمَنْ يَهْاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فراتے گا ان سے اور اللہ تعالیٰ درگز فرمانے والا بھت بخشنے والا ہے اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں

يَجْدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ

پاتے گا زمین میں پناہ کے لیے نہ ہے بہت جگہ اور کشادہ روزی اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے

میں ایمان کے ضائع ہونے کا قوی انذیشہ تھا اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس کے علاوہ مدینیہ طیبہ پر کفار ہر وقت حملہ آؤ رہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساختہ آلبیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی تقویت کا باعث بنیں۔

۲۸۹ میں سابقہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کی اور کفار کے ساتھ مل جعل کر زندگی بسر کرنے پر رضا مند ہو گئے اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً معدُور تھے۔

۵۰ میں صاحب کشاث نے مراغم کا معنی بیان کیا ہے۔ مراغم: مهاجر او طریقای راغم بسلوکہ قومہ او یفا قهم

علی رغوا لوفهم۔ (کشاف) یعنی مراغم کا معنی ہجرت کا ہے یا ہجرت کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافر ہجرا تھے کہ

سے اسے بزور و کر رہے تھے ان کی ناک کو خاک میں ملا کر اس نے ہجرت کی۔ اپنا وطن، اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریبی وطنی

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ

بھرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسولؐ کی طرف پھر آئے اس کو (راہ میں) موت تو ثابت ہو گیا اس کا اجر

عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًاٖ وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

اللہ کے ذمہ اہام اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور جب تم سفر کرو ۱۵۵ زین میں

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ

تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم فصر کرو نماز میں اگر ڈرو تم

أَنْ يَقْتِنُكُمُ الظِّلَالُ ۚ إِنَّ كُفُورًا لِّأَنَّ الْكُفَّارِ إِنَّ كَانُوا إِلَّا كُفَّارًا ۖ وَأَمْبِينَكَ

اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تھیں کافر بے شک کافر تو تھارے گھٹے ڈشمن ہیں

کی تکلیفوں کو قبول کرنا بڑی مشکل بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو غوشخبری دے رہے ہیں کہ گھبراہ نہیں تھیں بہترین رہنمے کی جگہ اور فراخ روزی دیں گے۔

۱۵۶ بعض صحابہ بھرت کے ارادہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے تھیں وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں ہی موت کا پیغام آگیا۔ ان کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

۱۵۷ اس آیت کو میدیں نماز کے قصر کرنے کا ذکر ہے۔ قصر کے معنی ہیں کہ جن نمازوں میں فرضوں کی چار رکعت پڑھی جاتی ہیں ان میں بجاۓ چار تے دو رکعت پڑھنا۔ اس آیت میں اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگرچہ آیت میں قصر کے لیے خوفِ لفوار بطور شرط مذکور ہے لیکن خوفِ لفوار کا ذکر بطور حقیقتِ حال کے تھا یعنی اس وقت مسلمانوں کے تمام سفر کفار کے خوف سے گھرے ہوتے تھے۔ ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں قصر فرمایا۔ علی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں پھر تم قصر کریں کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا بھی بھی تعجب ہوتا تھا تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضورؐ نے فرمایا۔ تلاک صدقۃ تصدق اللہ بھا علیکم فاقبلوا صدقۃ“ تھارے یہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔

مسائلہ۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنیٰ مقدار اتنی ہے جتنی تین رات دن میں پیدیل یا اونٹ کی متوسط رفتار سے طے کی جاسکتی ہے۔ اس کی مقدار خشکی اور دریا اور پیاراؤں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ اکثر فقہاء نے میدانی علاقہ کے لیکھتے ہیں کہ یاچوں میں مقرر فرمائی ہے دو رات سفر اگر کسی جگہ پوچھ دو تو قصر کرتا رہے اس سے نیادہ ٹھیرے تو پھر پوری نماز ادا کرے۔

وَلَا أَكُنْتَ فِي لَمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقْعُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

اور (آے عجیب) جب آپ ان ہیں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز تو پاہنیے کر کھڑا ہو ایک گروہ ان سے ۳۵۵

مَعَكَ وَلَيَاخُذُوا السِّلْحَةَ مِنْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مُؤْمِنُو رَبِّكُمْ

آپ کے ساتھ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار پس جب سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جاتیں تھارے پیچھے

وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّوْ فَلَيُصَلِّوْ مَعَكَ وَلَيَاخُذُوا

اور آ جاتے دوسرا گروہ جس نے (ابھی) نماز نہیں پڑھی پس (اب) وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے ہیں

حَذَرُهُمْ وَأَسْلَحْتُهُمْ وَذَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ

اپنے بجاوہ کا سامان اور اپنے ہتھیار تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ

أَسْلَحْتُكُمْ وَأَمْتَعْتُكُمْ فَيَمْلِئُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ

اپنے سلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر یک بارگی اور

۳۵۵ نمازِ خوف کا منحصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جاتے اور دوسرا جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی بھتی وہ آگرا مام کے ساتھ دوسرا رکعت پڑھے پھر فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آگر دوسرا رکعت بغیر فرات کے پڑھے اور سلام پھیرے اور دشمن کے مقابل پھلی جاتے۔ پھر دوسرا جماعت اپنی جگہ آگرا کر کر رکعت جو باقی رہی تھی اس کو فرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے کیونکہ یہ لوگ سبوتوں ہیں اور پہلی لاحق حضرت ابن مشفود سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نمازِ خوف ادا فرمان امری ہے جنور کے بعد بھی صحابہ نمازِ خوف پڑھتے رہے ہیں حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام سے نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے (خرائن العرفان) حضرت صدر الافق مرا ابادی قدس سرہ) یہ اہتمام اس وقت ضروری ہے جب ساری فوج ایک ہی امام کی اقدامیں نماز ادا کرنا چاہتی ہے جیسے عبید رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جہاں ایسا نہ ہو اور لوگ الگ الگ اماں کے پیچے نماز ادا کرنے پر معرض نہ ہوں تو پھر ایک جماعت اپنے امام کے پیچے پوری نماز ادا کر لے اور دوسرا جماعت دشمن کے مقابل ڈھنی ہے جب پہلی جماعت فارغ ہو کر موڑھے سنبھال لے تو پھر دوسرا جماعت آگرا پسندے امام کی اقدامیں نماز ادا کرے نیزہ حکم اُس وقت کا ہے جبھیں تو اسستہ ہوں اور لڑائی شروع نہ ہوتی ہے۔ اگر معکرہ سینگ جاری ہے اور مسلمان دشمنوں سے گھنکھا ہو

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ كَانَ بِكُمْ آذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا

نہیں کوئی ہرج تم پر اگر ہو تھیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار

أَنْ تَضْعُوا السِّلْكَمَ وَخُذُوا حِلْرَكْمَ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْكُفَّارِ

تو آزار دو اپنے سیچیار مگر (شمن کی نقل فحرکت سے) ہوشیار ہو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے

عَذَابًا أَمْهِنِّاً فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

عذاب رسو اکرنے والا جب تم ادا کر چکو نماز ۵۵۰ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوتے اور یعنی ہوتے

وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنْتُمْ فَاقْرِبُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ

اور اپنے پہلوؤں پر (لیتے ہوتے) پھر جب ۵۵۰ مطہن ہو جاؤ (شمن کی طرف سے) تو ادا کر نماز (حسیب ستور) بے شک نماز

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهْنُوْرَافِي الْتِغْلِيْقِ الْقَوْمَ

۱۵۴ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر اور نکردنی دھکاو (شمن) قوم کی تلاش میں ۷۵۰

چکے ہیں تو اس وقت جماعت کا اہتمام ضروری نہیں۔ جیسے بن آتے خواہ فقط اشاروں سے ہی نماز ادا کر لیں اور اگر لتنی بھی فرستہ نہ ہو تو بے شک اس وقت نمازوں کو ملتوی کر دیں اور جب فراغت ہو تو ادا کریں جیسے غرہہ خندق کے رو و خصوصی اللہ تعالیٰ

علیہ و آلہ وسلم نے چار نمازوں بعد میں ادا فرماتی تھیں۔

۷۵۰ نمازوں کا طریقہ تعلیم کرتے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی ہیئت کے مطابق سکون و طمینت سے ادا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان و دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکرِ اللہ میں مصروف رکھو۔ تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آتے پاٹے اور جنگ کی حالت میں کثرت سے ذکرِ اللہ کرنے کی تاکید تو دوسرا معتقد دیا یوں میں آتی ہے مثلاً اذ القیتو فعہ ذات بتو اذ کرو اللہ کشیدا۔ جب شمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کر سکو۔

۷۵۰ اور جب خوف دوڑ ہو جائے تو پھر نماز کو اس کی اصلی ہیئت کے مطابق ادا کرو۔

۷۵۰ نماز کے متعلق یہاں دو خصوصیتیں کا ذکر فرمایا کتاب اور موقوتا۔ کتاب کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے تھماری مرضی پر اس کا انحصار نہیں کہ موجود میں آتے تو ادا کر لی اور موجود میں نہ ہوئے تو پھر ڈرمی۔ بلکہ مالک اسک شہنشاہ دو جماں کا تاکیدی حکم ہے اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے موقوتا کا معنی ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اوقات

إِنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا أَلَمَتَ الْمُؤْمِنَاتِ وَتَرْجُونَ مِنْ

اگر تھیں دُکھ پہنچتا ہے تو انھیں بھی دُکھ پہنچتا ہے جیسے تھیں دُکھ پہنچتا ہے اور تم تو امید رکھتے ہو

اللَّهُ مَا لَّا يَرْجُونَ أَطْوَالَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اللہ تعالیٰ سے اس اثواب کی جس کوہ امید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا بڑا نہیں ہے بلکہ تم نے اس کی ہے اپ کی طرف

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

یہ کتاب ۵۵۵ءے حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور نہ بنیے ۵۵۶ءے

مقرر ہیں۔ والمعنی عند اهل اللغة مفروض لوقتہ بعینہ یقال وقتہ فهو موقوت و وقتہ فهو موقت (قطبی) اس لیے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے یعنیں کہ جب جیسا کہ طھر ہوئے اور دو تین ایک ساتھ پڑھ ڈالیں ایک فرقاً سیاہی ہے جو ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز عیشہ ملا کر پڑھتا ہے بیلی دونمازوں کا نام ظہر ہے اور دوسرا دو نمازوں کا نام مغرب ہے اور دیا ہے۔ انھیں چاہیئے کہ غدرا سے ڈریں۔ اس آیت میں غور کریں اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقرر کردہ اوقات میں ادا کیا کریں۔ اتنے اہم فرضیہ کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور مشاہر سے کام لینا ان کے لیے روزِ قیامت پیشانی کا باعث ہو گا۔

۴۵۷ءے دُشمن کے تعاقب میں سُستی نہ کرو۔ ماذا کہ تھیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن تمہارے دشمن جو کفر و شر کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں انھیں بھی تو اسی طرح تکلیف واذیت پہنچی ہے۔ اگر وہ باطل کے لیے تمام سختیاں خوشی سے بداشت کر رہے ہیں تو تم تھن کو فتحیاب کرنے کے لیے ان سے سچھپے کیوں رہتے ہو۔ تھیں تو یہ امید ہے کہ اس جدوجہد سے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو گا اور ان کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد بھی نہیں۔ تو پھر تمہارا اسٹست و کاہل ہونا بہت تعجب تھیز اور سیرت افزایا ہے۔

۴۵۸ءے یہ چند آیات ایک دافق کے متعلق نازل ہوئیں جو عہد رسالت میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ الصارکے بنی نلقر قبیلہ کے ایک شخص مسمی طهمہ بن ابیرق نے اپنے ہمسایہ قضاۃ بن نحمان کے مکان میں نقب لگا کر رنج زد ہیں اور آنکی بوری چڑی اور ایک یہودی زید بن سین کے ہاں جا کر رکھ آیا۔ صبح ہوئی اور حضرت قادہ کو جب پوری کاپڑہ پلا تو انھوں نے اپنے پڑوسی طهمہ سے دریافت کیا اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کر مجھے اس کے متعلق علم تک نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا۔ انھوں نے اس آٹے کے نشانات کا پچھا کیا۔ چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے تلاش کرنے پر مال مسر و قد برآمد ہو گیا۔ اُس یہودی نے کہا کہیں چور نہیں بلکہ میرے پاس طحمدہ یہ چیزیں یہ کھلکھلیے ہے۔

لِلَّذِي أَنْتَ خَصِيمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

بِدِيانتِ لوگوں کی طرف سے جھگڑے والے ۱۴۰ اور مغفرت طلب کیجئے اللہ سے ۱۴۱ بے شک اللہ تعالیٰ عفو

کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق کی طمعہ کے قبیلہ والوں نے کما جلوہ بنی کرم مصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آللہ و سلم کی خدمت میں چلیں۔ چنانچہ سب حاضر ہوتے بتوظف کو اب علم ہو چکا تھا کہ پور یہودی نہیں بلکہ طمعہ ہے لیکن اپنی بدناسی کے خوف سے وہ طمعہ کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سگری دکھانے لگے جتنی کہ حضور کی جناب میں بھی عرض کرنے لگے کہ اگر فصلہ طمعہ کے خلاف ہو تو بے چاراہلاک ہو جائے گا اور ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ صفات بڑی ہو جائے گا حضور کو بھی خیال گزرا کہ بتوظف جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے۔ چنانچہ کوئی فصلہ صادر ہونے سے پہلے وحی الہی پیچ کسی جس سے حقیقت حال آشکارا ہو گئی۔ ارشادِ ربیٰ ہوا ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اُماری ہے تاکہ آپ اس علمِ حقینی کے مطابق فصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے چنانچہ اس سخنِ شید رضا کھتے ہیں و تسمیۃ اعلامہ تعالیٰ لنبیہ بالاحکام را آئی یہ شعبان علیہ السلام ربه الحقینی کا العلم بسایراہ یعنیہ فی المجلاء والوضوح (المنار) یعنی احکام کے متعلق بعلوم اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کو عطا فرمایا اس کی تعبیر اراءۃ (دکھا دینا) سے کی ہے تاکہ یہ پتہ چل جاتے کہ اس علم میں نلن و مگان کا احتمال نہیں رہا بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے جیسے کسی چیز کا انکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود انصاف فرماویں کہ جس ذات فُرسی صفات کے سامنے آئے والے ہر حجاب کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہو اس کے علم و سیع پر ہم ایسوں کو زیب دیتا ہے کہ اعتراض کرتے پھریں۔

۱۵۹ ۱۵۹ حضور مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خاتون کی طقداری نہ کیا کریں یہونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستے ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کوں ہے اور یہودی کوں ہے آپ کی شان سے بہت فروت رہے لیکن اس نبی سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور نے خاتون کی طقداری کی تھی اس لیے آپ کو منع کیا گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے طقداری نہیں کی ویسے آئندہ بھی طقداری نہ کریں چنانچہ مولانا تھا تو اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ پس آپ کی حالت اور نبی کے مجبوہ سے حاصل یہ ہو گا کہ جیسے اب تک طقداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجئے۔ اور یہ انتظامات ہم مکمل حصمتِ نبیویہ کے ہیں۔ (بیان القرآن)

۱۶۰ ۱۶۰ اگرچہ خاتون اور پورا ایک تھا لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ بتوظف اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا اس لیے سارے قبیلہ کو خاتن کما گیا معلوم ہوا کہ خاتن کی احانت سے بھی آدمی کا شمار خاتون میں ہو جاتا ہے۔ طمعہ کا انجام یہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ کر کہ آگیا۔ ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا کہ دیوار کر پڑی اور روہ اس کے ریخچے دب کر ہلاک ہو گیا۔

۱۶۱ ۱۶۱ کس کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ امام رازیؒ نے یہاں تین وجوہات بیان فرمائی ہیں:-

(۱) طمعہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نصرت کا جو (ہلکا سا) خیال خاطر مبارک میں گزرا تھا اس سے طلبِ مغفرت کا

رَحِيمًاٖ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

رحيم ہے اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے بو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے ۱۴۲

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثْيَيَاٖ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ

نہیں دوست رکتا اسے جو بڑا بد دیانت (اور) بد کار ہے وہ چھپا سکتے ہیں (اپنے ارادے) لوگوں سے ۱۴۳ لیکن

لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضِي

نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے اور وہ تو (اس وقت بھی) ان کے ۱۴۲ ساتھ تباہ جب توں کوشش کرتے ہیں لیکن باقی کا

ملکم مل رہا ہے۔ ۱۴۳ طبعہ کی قوم بنی طفر کی شہادت کے باعث یہودی کو میراث میرانے کا جواہرہ سا ہتا تھا اس کے متعلق استغفار کا حکم تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجہات ہوں تو آپ کا یہ خیال حسنات الابرار سیئات المقربین کی قسم سے ہے کہ آپ کا مقام اتنا رفع اور اتنا بلند ہے کہ ایسا وہ جسم بھی اس تو زیبا نہیں اور قیسری و جرم امام رازیؒ نے یہ ذکر کی ہے استغفار لا ولناک والذین یذ بون عن طعمۃ ویریدون ان يظہروا بِرَاءَتَهُمْ کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے ہیں سے طبعہ کی اعانت سرزد ہوئی ہے آخروہ بھی سماں ہیں اور آپ کے علام!

۱۴۲ صاحب کشاف لکھتے ہیں جعلت معصية العصاة خيانة منهم لانفسهم لان الضرر راجع اليهم یعنی کیونکہ ان کی خیانت کا وباں اخفیں پر لوت کر پڑنے والا ہے۔ اس لیے گویا وہ کسی دوسرا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے بلکہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں مولیاً مودودی نے یہاں ایک ہنایت لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے لکھتے ہیں جو شخص دوسرا کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ وراسل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے کیونکہ دل اور دماغ کی جو قیمتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بے جا تصرف کر کے وہ اخفیں محبوہ کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنا یا تھا اس حد تک دبادیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سدراہ بنتے کے قابل نہیں رہتا جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دوست بُرُد کو پائی تجھیں تک پہنچا لیتا ہے تو کہیں باہر اس سے خیانت و محصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

۱۴۳ اس میں بونظر کو سرزنش کی جا رہی ہے۔

۱۴۴ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہونے کا یہ طلب نہیں کہ اس کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے کیونکہ کسی مکان میں پایا جانا حسکم کی صفت ہے اور ذاتِ الہی اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اہل سنت کے نزدیک معیت کا معنی ہے اسی بالعلم والرؤیۃ والسمع یعنی اپنے علم سے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے اس کو اور اس کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے

مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا^(۱۰۸)

بوجپند نہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوتے ہے سنتے ہو!

هُوَ لَأَعْجَادُ لَهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يَجَدُ لِلَّهِ

تم وہ لوگ ہو کہ جھکرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں ۱۴۱ پس کوں جھکرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا^(۱۰۹) وَمَنْ يَعْمَلُ

ان کی طرف سے قیامت کے دن یا کون ہوگا (اس روز) ان کا وکیل اور جو شخص کر بلیحہ

اور اس کی ہربات کو سنتا ہے صاحب کشاف لکھتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کو اپنا ماتم کرنے کے لیے کافی ہے جو یہ ایمان رکھتے ہوتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی حجاب بھی نہیں اور وہ ہمارے کسی عمل سے غافل بھی نہیں اور یہ وہ اس سے نہیں شرمتے۔ اور نہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم کسی آدمی کی موجودگی میں کوئی بُری حرکت کرنے کی جرأت نہیں کرتے تو کیا یہ تفاحت و بے حیاتی کی حد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بے جھگ گناہ پر گناہ اور قصور پر قصور کرتے چلے جائیں۔

۱۶۵ اے قرابت یا دوستانہ تعلقات کی بنار پر لوگ مجرم کی اعانت کرنے سے باز نہیں آتے بلکہ بسا اوقات وہ اسے اپنی ذاتی یاقبلہ کی عزت کا مستلزمہ بنالیتے ہیں۔ ہر ممکن حلیہ سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح بتوظف کاطرے عمل آپ سن چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تو تم جھوٹی فتنیں کھا کر اور جھوٹی لوگوں میں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر لو گے ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے روز ان کی صفاتی کس منہ سے پیش کرو گے۔ اس مجرم دوست اور گناہ کار رشتہ دار کو خداوند دو الجلال کی گرفت سے کیونکر بجاوے گے کس میں یہ دم خم ہے کہ اس کا وکیل بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اس کو رہا کر اسکے۔

ان آیات میں انبیت مسلم کی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو یقین ذہن نہیں کرایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اور نگناہ کے خلاف متعدد محاذ قائم کریں تاکہ اسلامی معاشرہ گناہوں کی آلاتش و عقوبات اور نگناہ کاروں کی فساد انگیزیوں سے پاک ہو جائے جنم کسی سے سرزد ہو اس کو اس کی مزرا بھگتی دی جاتے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کی تنقیدیں آڑنے نہیں تو جرام کا استیصال کرنے میں زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا مسلمان جو لوم الحساب پر قین رکھتے ہیں ان کے لیے تو کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف جماد کرنے کے سچائے گناہ کار کی اعانت کرنے لگیں اور اس طرح بُرایتوں کے فرع غ کا باعث نہیں۔

سُوءَاءِ أُوْيَظَلُهُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَمْجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۱۰

بُرُّا کام یا خلُم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پاپے کا اللہ تعالیٰ کو بڑھنے والا بہت حرم فروزان ۱۴۶۷

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اور جو کماتے گئے کو تو وہ کماتا ہے اُسے اپنے لیے ۱۴۶۸ اور اللہ تعالیٰ علیم (و)

حَكِيمًا ۝۱۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِهِ بِرَبِيعًا فَقَدْ

حکیم ہے اور جو شخص کماتے کوئی خطا ۱۴۸ یا گناہ پھر تھمت لگاتے اس سے کسی بے گناہ کو تو اس نے

أَحْتَمَلَ بُعْتَانًا ۝۱۲ وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝۱۳ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

اٹھایا (بوجھ) بہتان کا اور گھٹے گناہ کا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر ۱۴۹ اور اس کی رحمت

۱۴۶ گناہ کا سرزد ہو جانا بعد ازاں ممکن نہیں۔ بسا اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر یادا دانی اور ناجھی سے غلطی کو بیٹھتا ہے اب اس کے لیے یہ ہرگز روانہ نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے غفور و رحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے فصور کا اعتراف کرے۔ اس پر صدق دل سند امداد شرمندگی کا اظہار کرے اور چنچتہ و عذر کرے کہ آئندہ وہ ایسی ناشائستہ حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دم رحمت میں پناہ دے گا اور اس کے گناہوں کو بحق دے گا۔

۱۴۷ بد کا مجرم و تحقیقت اپنا ستیاناس کر رہا ہے دوسروں کو تواذیت یا لقصمان بعد میں پہنچے گا اس کی تباہی و بربادی کا سامان پہنچ ہو جاتے گا۔ جس شخص کو اپنا مفاد عزم ہو اور جو اپنی سلامتی کا خواہاں ہو اسے تو گناہوں کے قریب بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔

۱۴۸ گناہ سرزد ہونے کے بعد چاہیئے تو یہ کہ انسان اس پر نادم و تشریس اپنے کا طالب ہو۔ لیکن یو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر نادم ہونے کے بجائے اپنی برلت ثابت کرنے کے لیے اس گناہ کا الزم کسی بے گناہ پر تھوپیا ہے تو اس سے بڑھ کر کینہ اور دُول فطرت کوں ہو سکتا ہے لیکن شخص نے اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا مجرم بنادیا ہے ایک گناہ دوسرا بہتان۔ اسے سزا بھی آب دوہری ملے گی۔

۱۴۹ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر اپنے فضل و کرم اور عنایات پیس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسے میرے محبوب بندے اس خاص قسم میں اگر ہمیشہ کی طرح اللہ کا فضل و احسان تیرے شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے تو ایک غلط فیصلہ آپ سے کرانے کا رادہ

لَهَمَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے اُن سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو

وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور نہیں ضر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت

کرہی بیا تھا لیکن جفضل خداوندی تجھ پر ساری فکن اور عصمت رباني تیری دستگیر ہے تو وہ تجھے کیسے غلط راہ پر ڈال سکتے ہیں
ہاں انہوں نے ایسا خیال کر کے اپنا ہی کچھ بکرا رہا۔

۱۴۷۷ میں عذایت رباني میں سے خاص خاص عنایات کا ذکر فرمادیا کہ آپ کو کتاب و حکمت دی اور آپ کو جملہ ان امور کا علم عطا فرمایا جن کا پہلے آپ کو علم نہ تھا۔ آیت کے اس حصہ کی تفسیر امام المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اسی کے لکھنے پر اتفاق رکتا ہوں۔ فرماتے ہیں : وَمَنْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا حَمْدٌ مَعْسَارِهِ مَا تَفْضُلُ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ نَعْمَهٖ أَنَّهُ
انزل علیک الكتاب وهو القرآن الذي فيه بيان كل شيء و هي و هي موسيخة والحكمة يعني و انزل عليك

مع الكتاب الحكمة وهي ما كان في الكتاب حملاً ذكره من حلاله وحرامه وامرها ونهيه واحكامه
ووعدل ووعيد لا وعلمك مالعوتكن تعلم من خيرا الاولين والآخرين وما كان وما هو كائنا (تفسير ابن
جزيرہ) ۱۴۷۷ یعنی مصطفى اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایا احسانات سے آپ پر یہ بھی خاص احسان فرمایا کہ آپ کو قرآن
جیسی کتاب سے نواز جس میں ہر چیز کا بیان ہے نیزاں میں ہدایت کا لور بھی ہے اور پند و فضیحت بھی ایسی جامع کتاب کے
ساتھ حکمت یعنی قرآن کے حلال و حرام، اوامر و نواہی وغیرہ کے اجمال کی تفصیل بھی نماذل کی۔ نیزاں آپ کو ان امور کا علم عطا فرما
جئے کہ آپ کو علم نہ تھا یعنی گزرے ہوئے اور آئنے والے لوگوں کی خبر ویں کا علم جو کچھ بورچا (ماکان) اور جو کچھ ہونے والا
(وما هو كائنا) ہے اس کا علم بھی عذایت فرمایا۔ امام ابن جریر کے یہ الفاظ کہ اللہ نے اپنے بنی کریم کو علم ماکان و ما هو
کائنا عطا فرمایا تھا۔ یعنیہ یہی الفاظ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو زید عمر بن الخطب سے روایت کیے ہیں۔ پوری حدیث
بعد ترجمہ بدیناظرین ہے :-

حدیثی ابو نید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر و صعد المنبر خطبنا حتى
حضرت الظہر فنزل فصلی ثو صعل المنبر خطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلی ثو صعل المنبر
خطبنا حتى غربت الشمیس فَاخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَاعْلَمْنَا الْحَفْظَنَا۔

ترجمہ۔ ابو زید (عمرو بن الخطب) فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریمؐ نے صبح کی نماز پڑھاتی پھر منبر پر تشریف فرمائے ہوئے
اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ نمازِ ظہر کا وقت ہو گیا حضور منبر سے اُترے، نماز پڑھاتی پھر منبر پر تشریف فرمائے ہوئے

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

اور سخا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے اسے

لَا خَيْرٌ فِي كُثُرٍ مِّنْ نِعْمَةٍ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِ الصَّدَقَاتِ أَوْ مَعْرُوفٍ

نہیں کوئی بخلانی ان کی اکثر سرگشتوں میں اسے بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا

ہو کر خطبہ شروع کیا ہیاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا حضورؐ نے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی پھر منبر چبوڑہ فروز ہو کر اپنا خطبہ جاری فرمایا اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ اس طویل خطبہ میں (جو صحیح سے شام تک جاری رہا) حضورؐ نے ہمیں (ماکان) جو کچھ ہے گز رچا تھا کی بھی خبر دی اور (صاہو کائن) جو کچھ ہونے والا تھا اُس کی بھی خبر دی ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ زیادہ یاد ہے۔ (مسلم صفحہ ۲۹۰۔ جلد ۱۴ مطبوعہ اصح المطالع کراچی)

اس کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث ہیں جن سے حضورؐ نے علم و سیع کا پتہ چلتا ہے۔ امام بوصیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاعرانہ مبالغہ سے کام نہیں لیا تھا بلکہ حقیقت کا اطمینان فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے مشہور نقشیہ میں بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی وان من جود لک الدنیا و صرتہا و من علومک علم اللوس والفتلم (اے بنی رحمت اُدمیا اور آغڑت آپ ہی کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے بھر بیکار کا ایک حصہ ہے)

اللہ تعالیٰ کا علم ماکان و ما یکون کے علم میں مخصوص نہیں تاکہ مساوات کا شہر ہو بلکہ اس علم کو تو علم الہی سے اتنی شبست بھی نہیں جو قدرے کو تمند رہے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی هاشم جبیع معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جن بے پایاں علوم سے فواز اور اسرار و معارف کے جن خداونوں سے آپ کے سیدنے کو بریز فرمایا ان کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کو ملے گا جن کے پڑھنے اور سمجھنے سے آپ کے دل کو اطھیناں نصیب ہو گا۔ مخصوصاً سورہ النمل کی آیت ۶۵ ضیاء القرآن جلد سوم اور سورہ العنكبوت کی پہلی آیت ضیاء القرآن جلد پنجم کا مرتع العرف فرمائیے۔

۱۷۳ اے کتنا پیارا جملہ ہے جس ذاتِ اقدس واطمیر پر اللہ کا فضل ہوا اور فضل بھی مکوڑا سا نہیں، مخدود سا نہیں بلکہ فضل عظیم ہو تو اُس کے علوم و معارف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔

۱۷۴ اے علامہ قطبی لفظ بخوبی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بخوت الشیعی انجوہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کہ یہی بخوبی خالص اور منفرد کر لینا۔ اسی میانہ شبست سے دو ادمی ہو دوسرے لوگوں سے الگ تھلک ہو کر باتیں کرتے ہیں اس کو بخوبی لکھتے ہیں۔ یہ صدر ہے اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (واذ هم بخوبی)

أَوْ أَصْلَاحٍ يَرِدُّ النَّاسِ طَوْمَنٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَرْضَاتٍ

یا صلح کرنے کا لوگوں میں اور جو شخص کرے یہ کام ۳۴۷ء میں اللہ تعالیٰ کی ضمانی میں

اللَّهُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ

حاصل کرنے کے لیے تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم اور جو شخص مخالفت کرے ۳۴۸ء میں (اللہ کے) رسول کی اس کے

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ

بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھر نہیں کے

مَاتَوْلِي وَنَصِيلِهِ بَحْرَمَهُ وَسَاعِتَ مَحْسِيرًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ

اسے جدھڑہ خود پھرا ہے ۳۴۹ء اور ڈال دیں گے اسے ہم بین اور یہت ابڑی پلانے کی جگہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں بنتا اس (اجر عظیم) کو

اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے جو اکثر غیر محبوب احوال ہوتے ہیں اور ان میں بڑی رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں یہ سب تضییح اوقات ہے۔ باہمی افتکو تو وہ اچھی ہے جس میں ان معاملات پر غور کیا جاتے کہ کسی ضرورت مند کی کیسے حاجت روانی کی جاتے، اصلاحی منصوبوں اور نیکی کے کاموں کو کیسے عملی جامہ پہنا یا جاتے۔ لوگوں میں فتنہ و فساد کی جو آل بھٹک رہی ہے اُسے کیسے فروکھا جاتے معمور کا لفظ ہر نیکی کو شامل ہے۔ دوناراض ادمیوں میں صلح کرنا اگر پھر معروف کے ضمن میں بھی آگیا تھا لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مستقل اعلیٰ درجہ دکھر فرمایا۔

۳۵۰ء یعنی اس ساری زندگی و دُو کے پیش نظر دنیاوی عز و جاه اور پودھر اہٹ کا حصہ نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو اسے اجر عظیم کی بشارت ہے۔

۳۵۱ء المشاقۃ: المعاداۃ (قربی) مشاقۃ کا معنی عداوت و مخالفت ہے۔ یہ دو آیتیں بھی سابقہ پور طمعہ بن ابیرق کے متعلق ہی نازل ہوئیں لیکن ان کا مفہوم عام ہے۔ طمعہ کا انجام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔

۳۵۲ء علامہ بضاوی اس جملہ کا معنی لکھتے ہیں۔ بخعلہ والیالماتوی من الصنال و الخل بینہ و بین ما اختارہ۔ جس کُفُور و مُكْرَری کی طرف وہ دانستہ پھر گیا ہے تم اس میں حائل نہ ہوں گے اور اسے ادھر ہی پھر نہ دیں گے یہی معنی نیاد مہذبوں معلوم ہوتا ہے۔ اس بد لخصیب کا لکھا حال ہو گا رحمت و توفیق الہی نے جس کی دشکبری چھوڑ دی ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں محض ایک کھلونابن کر رہ جاتا ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے اُسے تکنی کانائج نچاتا ہے۔

أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ

کے شریک ہیجا جاتے اس کے ساتھ اور جس دنیا ہے اس کے سوا جتنے جرم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے اور جو شریک ہیجا رہے (کسی کو)

بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ أَبْعَدَّاً إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اللہ کے ساتھ تو وہ مگر ہوا اور مگر اسی میں دُور نہ کیا گیا نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا

إِلَّا إِنَّا جَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ

مردویوں کی ہے اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی ہے اس پر اللہ نے اور اس نے کہا تھا

۱۴۶۴ اس کے لیے آیت نمبر ۲۸ کا حاشیہ ملاحظہ فرمایا جاتے۔

۱۴۶۵ اے پہلے شرک میں متعلق کسر رضترخ کی کہیہ جرم قابل عقوبہ ہیں۔ اب مشرکین کی حماقت اور سفاہت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اگر خدا کا شریک ہیجا رہے ہیں تو کس کو؟ ان کھڑکی اور پتھر کے بنے ہوئے ہوں گو۔ ان کے معبودوں کو اناشت (عورتیں) کہا گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے باشیر معبودوں کے نام عورتوں کے سے تھے جیسے لات، هنات، عزیزی وغیرہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ جس قبٹ کی پستش کیا کرتا تھا اسے انشی بینی فلاں کہا جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یونان وہ بے جان ہو رہا ہے تھیں اس لیے انھیں انسان سے تعجب کیا گیا۔ یونانکہ موئش بھی انفعال پذیر ہوتا اکریت ہے یعنی دوسرا سے کا اثر قبول کرتی ہے اور کسی میں اثر نہیں کرتی اسی طرح یہ لکڑی پچھو وغیرہ بھی موئش کی طرح صرف منفعل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں فاعل نہیں ہوتے اس لیے انھیں انسان کہا گیا۔ (بھینا وادی) لفظ یہ دعویٰ ہے کہ معنی ابن جریر، زمخشیری، بیضاوی، قطبی وغیرہ نے یہ عبید و دن (عبادت کرتے ہیں) کیا ہے اور مولانا تھانوی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے "یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زمانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں" (بیان القرآن) تفسیر القرآن میں اس کا ترجمہ یوں درج ہے "وَهُنَّ اللَّهُ كَوَّهُوْرُ كَرِدِيُوْلُوْنُ كَوْمَعْبُودُ بَنَاتِهِنَّ وَهُنَّ وَهُنَّ بَاغِيْ شَيْطَانَ كَوْمَعْبُودُ بَنَاتِهِنَّ" ۱۴۶۶

۱۴۶۷ المدید العاقی المترصد لعین نافرمان اور سرکش کو مرپکتھے ہیں میشور کین شیطان کی بلا واسطہ توبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب انھوں نے شیطان کے ہملا نے چھسلانے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر ان یوں کی عبادت شروع کر دی تو گویا انھوں نے اپنے نفسوں کی باگ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کامل پر راضی ہو گئے تھے اس لیے گویا دوسرا سے معنوں میں شیطان ہی کی پوچھا کیا کرتے تھے۔ دیکھتے اول تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے پھر بنا یا تو کن کو؟ پتھروں کو جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں اور عورتوں کے نام سے موسوم ہیں اور کس کے تبلانے سے ہ شیطان مردود و ملعون خداوندی کے بہ کانے سے کیا اس ضلالت

لَا تَخْذِنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا^{۱۸} وَلَا خِلْنَهُمْ وَ

کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے (اپنا) حصہ مقرر ۱۴۹ اور میں ضرور انھیں گماہ کروں گا اور

لَا مَيْدَنَهُمْ وَلَا مَرْتَحَمْ فَلَيَبْتَكِنَ أَذَانَ الْأَعْامِ وَلَا مَرْتَهَمْ

میں ضرور انھیں ۱۸۰ مچھوٹی امیدوں میں رکھوں گا اور میں ضرور حکم دوں گا انھیں لامپسُ مُضروط ہیں جائز دوں کے ان اور میں

فَلَيَغْيِرُنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخَذِ الشَّيْطَنَ وَلِيَأْمُونَ دُونَ

انھیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدلت دلیں گے اللہ کی خلوق کو ۱۸۱ اور جو شخص بنائے شیطان کو (اپنا) دوست اللہ کو پچھوڑ کر

اور جمالت کی نظر میں سکتی ہے (حاشیہ محمود الحسن صاحب)

۱۸۱ جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے باعث شیطان راندہ درگاہِ رحمت ہو گیا تو اُس نے اُسی وقت دل میں اولاد آدم کو گماہ کرنے کی ٹھانی لی اور صاف صاف اس کا اظہار بھی کرو دیا جس کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔

۱۸۲ امنیتِ جھوٹی امید کو کہا جاتا ہے شیطان متناع ایمان کو لوٹنے کے لیے انسان کے سامنے کس طرح امیدوں کے محلات تعمیر کرتا ہے کس طرح وہ خواہشات کی حسین وجمیل دُنیا آنکھوں کے سامنے لاکھڑی کرتا ہے کس طرح جاہ منصب کے زر تار جاں بُن کر طارِ عقل کو چھنساتا ہے یہ بات کسی تو پڑھ کی محتاج نہیں اور اس کی ہمارت کی داد دیجئے کہ وہ امیدوں اور تو قعات کے سُنہرے جاں ایک ہی شکل کے تیار نہیں کرتا بلکہ جس امید سے وہ کسی کو زیادہ فریب دے سکتا ہے اس کے لیے اسی قسم کا جاں بُنتا ہے۔ واد عوکلامنهم الی ما یمیل طبعه الیه فاصدہ بذاللش عن الطاعة (رفع) یعنی میں شہض کو اس کی دعوت دوں گا جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس طرح میں اُسے اللہ تعالیٰ کی فنازداری سے وک دوں گا۔

۱۸۳ کفارِ عرب اس اونٹی کو جو پانچ بچے جنتی اور پانچوں نر ہوتا اُس کے کان چھید کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کسی تہشم کا کام نہ لیتے۔

۱۸۴ تغییرِ خلق سے مراد کسی جاول کے کان کا ط دینا، کسی مرد کو خصی کر دینا، عورتوں کا بال کٹا کر پینی انوشت کو بجاڑ کر مزدوں کی مشابہت اختیار کرنا، مزدوں کا داڑھی منڈانا وغیرہ اعمال ہیں بعض عملاتے کرام نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کی خلیق اس کے خالق نے فرمائی ہے اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا مثلًا سورج، دریا اور پتھر وغیرہ جو انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو اپنا معبود بنالینا بھی تغییرِ خلق میں داخل ہے صاحب کشاف نے اس کی تشریح کی ”فَطَرَةُ اللَّهِ الَّتِي هِيَ دِينُ الْاسْلَامَ“ یعنی تغییرِ خلق سے مراد دین اسلام جو دین فہرست

اللَّهُوْ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا^{١٦} يَعْدُهُمْ وَيُمَذَّهُمْ وَمَا

تو نقصان اٹھایا اس نے کھلا نقصان شیطان (بھوٹ) وعدے ۱۸۳ کرتا ہے اُن سے اور غلط امیدیں

يَعْدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا^{١٧} أُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا

دلاتا ہے انھیں وعدہ کرتا ان سے شیطان بھگ فریب کا یہی لوگ ہیں جن کا طہ کانا دوزخ ہے ۱۸۷ اور نہ

يَجْدُونَ عَنْهَا حَيْصًا^{١٨} وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ

پائیں گے اس سے نج نکلنے کی جگہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے

سَنُدْ خَلُّهُمْ جَدَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا

داخل کریں گے ہم انھیں ان باغوں میں روایتیں جن کے ینچے ندیاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں

أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا^{١٩} لَيْسَ

رہیں گے (یہ) اللہ کا سچا وعدہ ہے ۱۸۵ اور کون زیادہ پتھا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں (نجات کا) اختصار نہ

ہے اس میں رد و بدل اور کافٹ پچھانٹ کرنا اور اس کا حلیہ کچھ سے کچھ کر دینا ہے اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم کا یہ لفظ ان تمام معانی پر مشتمل ہے، ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق اس سے استفادہ کیا ہے۔

۱۸۶ یعنی شیطان کا نوکام ہی صرف وعدے کرنا اور امیدوں کے سبز باغ دکھانا ہے۔ اس کے بازار کی ساری رونقیں اور اس کی جنس عصیاں کی بڑھتی ہوتی مانگ کا سارا ارادہ ادا نہیں کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ برآنے والی امیدوں پر ہے ان آیات کے نزول کا مقصد لظاہر تو یہی حکوم ہوتا ہے کہیکی کی جو صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں ان کو خواب غفلت سے بچ جھوڑا جاتے اور ہمیں غیرت دلانی جاتے کہ یہ شیطان آنکھیں بند کیے جس کی ہربات مانتے چلے جا رہے ہو یہ وہی تو ہے جو تمھارا ورزاں کا وہ شمن ہے اور اس نے تمھیں اسی دن اپنا تچیرج یا بول بنا نتے کا اعلان کیا تھا۔ وہ تمھاری متبا عقل و دلیں لوڑتا چلا جا رہا ہے اور تم ہو کر کاپنے رہ کر یہ کی طرف سے منہ مور کر کاپنے اس کھلے وہ شمن کے پیچھے سر پر پڑ دوڑتے چلے جا رہے ہو اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ غلڈریوں سے نکال کر تمھیں سراب وہم و مگان کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اگر انسان کا ذوق سلیم ہے جس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقویٰ کے جذبات کو سرگرم عمل کرنے کا لینا موثر اسلوب ہے۔

۱۸۷ اہ جو ایسی دل ہا دینے والی تنبیہات کے باوجود بھی شیطان کے پنکل سے رہاتی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کا الجما ملاحظہ ہے۔

بِاَمَانَتِكُمْ وَلَا اَهَانَىٰ اَهْلَ الْكِتَابَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَبُهُ لَا

رَّجَارِي بِجُنُونٍ طَامِدِوں پر ہے اور نہ ۱۸۶ءے اہل کتاب کی بھجنی طَامِدِوں پر (بلکہ) جو عمل کرے گا بُرے اُسے سزا ہے گی اس کی اور

لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلُ

نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار اور جس نے عمل کیے

مِنَ الصَّالِحَاتِ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مون ہو ۱۸۶ءے سو بھی لوگ داخل ہوں گے اپنے

۱۸۶ شیطان کے ساتے وعدے تو بھجوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اُسے پورا فرمائے گا۔

۱۸۶ ایعنی اللہ کی جانب سے جس اعراضیم اور جنت الخلد کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے قم اس طرح مستحق نہیں بن سکتے کہ کوئی پچھے نہیں اور سمجھو یہ کہ سب پچھے ہمارے لیے وقف ہے ایسا نہیں بلکہ یہ تو اس کو ملے گا جو سچا مومن بھی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا صفات صاف بتا دیتا کہ کوئی تکسی دھوکہ میں مبتلا ہو کر ان فرصت کے محاذات کو ضائع ہی نہ کر دے اب بھی اگر کوئی عمل صالح کی اہمیت کا اعتراف نہیں کرتا تو اسے خود فریب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم کی زندہ مثال بیش کی جلوہ ہے جو صرف توقعات اور امیدوں کی آنونش کی پروردہ ہتھی۔ یہی ڈینگیں مارتے رہے کہ مخفی انساؤاللہ و احباءہ اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلاتے گی اور ہم افضل ترین ائمہ ہیں اور زندگی کے وہ سنسری محاذات ضائع کر دیتے یعنی حضور رحمۃ اللعالمین کے حلقة غلامی کے شرف سے محروم رہ گئے افتاب ہدایت طلوع ہتوازین کے دُور افواہ تاریک ترین گوشے بھی جگہ کا اٹھتے ہیں ان بھی شوں کو ہوش نہ آیا اپنی برتری کے نشیں آنکھیں بند ہی رہیں اور اس کا بیتچہ یہ ہوا کہ عزت و عظمت کے تحفے سے نجھے پھینک دیتے گئے۔ غالباً مصطفیٰ علیہ اجمل الصلوٰۃ و اطیب الشفاعة کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدماً پر نہ چلنا تحفہ ابھی کہیں یہی حضرت ناک الجام نہ ہو۔ کاش اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلانے والے اس آئیت کو بار بار پڑھیں۔ دعویٰ عشق و محبت اور محبوب کی اطاعت میں سستی اور کاہلی اذرا غور کرو کتنی بے جوڑی بات ہے۔

۱۸۷ یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط اولیں ہے آپ خود دیکھئے ایک آدمی ایک قطعہ زمین کو ہوا رکرتا ہے۔ اس سے جڑی بُوٹی اٹھاڑ کر باہر پھینکتا ہے۔ پھر اس کی آپیاشی کرتا ہے اور رات دن اس کی پھرگانی میں مصروف رہتا ہے لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا۔ تو کیا اس کی طویل محنت و مشقت کا کوئی نتیجہ برآمد ہو گا جب بیج ہی نہیں تو ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ اسی طرح اگر ایمان کا تھم نہیں تو دنیا ہمان کی ساری نیکیاں بے مژہوں گی۔ اور

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلِمُونَ نَقِيرًا ۚ وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا فَمَنْ أَسْلَمَ

جنت میں اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل بھر اور کوئی بھرتہ ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو

وَجْهَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْمُحْسِنُ وَالْتَّابِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ

پیغمبر اللہ کے لیے اور وہ ۸۸۵ میں احسان کرنے والا ہوا پیغمبر کی تبلیغاتی اس حال میں کہہ براطیل سنبھوٹے ہوئے ہو اور بالایہ،

اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۚ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل ۱۸۹ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلْ

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں آپ فرمائیے

اگر ذرا دقت نظر سے کام لیا جاتے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک عامل میں صفت ایمان موجود نہ ہو کیونکہ ایمان کے بغیر عمل کے بیچھے کوئی پست جذبہ کار فراہم ہو کا مشلاً دنیاوی منفعت، شہرت، ذکر و امام وغیرہ وغیرہ۔ تو جس عمل کا حوصلہ ایسی پست چیز ہو وہ عمل صالح نہیں کہا مل سکتا۔ صرف ایمان ہی وہ وقت ہے جوہ عمل کا رُخ صرف اللہ وحدہ لا شريك له کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اسی نسبت کی بُرکت سے انسان کا ہر عمل صالح بن جاتا ہے۔ اس پر جو ناجی مرتب ہوتے ہیں ان سے عامل کی زندگی کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی قوم اور ملک کو بھی عزت و ناموری حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۸ جو سرتاپ اطاعت ہی اطاعت ہو۔ اور محسن کا مطلب یہ ہے اُت بالحسنات تارک للسیئات یعنی اس سے میکی ہی نکی صادر ہو برائی کا اس سے ظہور نہ ہو۔ صلیفت ہر طوف سے منہ موڑ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے والا ہواں کی شیخ پہلے تحریکی ہے۔

۱۸۹ لفظ خلیل کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب المذاکرات ہیں۔ یطلق الخليل بمعنى الحبيب او الحب لمن يحبه اذا كانت هذه الحبطة خالصة من كل شابيعة بمحبت لم تدع في قلب صاحبها موضع الحب آخر وهو من الخلقة اي الحبة والمودة التي تتخلل النفس وتمارجها كما قال الشاعر:

قد تخللت مسلك الروح مني و به سمي الخليل خليلا
یعنی خلیل کا لفظ اس جیب اور محبت پر لولا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں بس جاتے کہ کسی غیر کی محبت کی نجاشی تک نہ ہے۔ خلۃ اس محبت کو کہتے ہیں جو نفس میں رج جاتے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔ اے محبوب!

إِنَّ اللَّهَ يُغْنِي بِكُمْ فِيهِنَّ لَا مَا يُشَاهِدُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَوْمَئِمَ

الله تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تھیں ان کے بارے بنیل اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب (قرآن ہیں (ان میں احکام ہیں) ان تیسم

السَّلَاءُ إِلَيْهِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغِبُونَ أَنْ

پنجیوں کے متعلق جنس مم نہیں دیتے ہو جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے اور خواہش کرتے ہوں ۱۹۱ کہ خود

تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلَدَانِ لَا وَأَنْ تَقْوُمُوا

نكاح کرو ان کے ساتھ (ان کا مال بوجنے کے لیے) اور (قرآن میں احکام ہیں) مکروہ بچوں کے متعلق اور (وہ یہ) کہ قائم رہو

بھاں جہاں میری رُوح ہے تیراعشق وہاں سماگیا ہے اسی وجہ سے تو غسل کو خلیل کہا جاتا ہے صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ محبت کا جو مقام محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ حضرت خلیل کاظم ارزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ وان من مراتب المحبة مالمرتبة الحمد لله عليه السلام وهي المرتبة الثابتة له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (روح المعانی)

۱۹۲ عرب عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ بوسلوک کرتے تھے لیکن نمیراث میں حصہ، نہ اپنی شادی کے معاملہ میں کچھ اختیار اور شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق سے سراسر تجاذب وغیرہ اور اسلام نے اس صورت حال میں جو اصلاحات کیں ان کا ذکر اس سورۃ کی استذمایں بھی ہو چکا ہے۔ اسی کے متعلق لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے۔ اب مرید اخھیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تھیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کی بلا پچون وچر تعمیل کرو۔ اور ان کے بحقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں مستسی نہ کرو۔

۱۹۳ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ بہماالت میں اگر کوئی بھی قیصرہ جاتی تو اگر وہ صاحب حسن مال ہوتی تو اس کا ولی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا یکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال تک نہ کیا جاتا۔ اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی یکن قبول صورت نہ ہوتی تو پھر سرے سے اس کی کسی سے شادی ہی نہ کی جاتی تاکہ اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا رہی کوئی نہ ہو اور وہ خود ہی اس کے مال کو ہضم کر جائے۔ اور اگر وہ نہ خوبصورت ہوتی اور نہ مالدار تو پھر اس کو اپنی مرضی سے کسی کے پتے باندھ دیا جاتا اور اس کا ہم وغیرہ ولی خود وصول کر لیتا۔ ان تمام چیزوں کی مخالفت کردی گئی۔ ترغیبون کا کوئی صلحہ عن یا الی ذکر نہ کرنے میں یحکمت بھی ہو سکتی ہے کہ عبارت تمام صورتوں پر حاوی رہے اور حسب حال صلہ مقدر مان لیا جائے۔ آیت کا دلیل یہ ہے کہ تیم بچوں کے جن حقوق کا پتے ذکر ہو چکا ہے وہ ہر وقت اور ہر حالت میں مُنظَر ہیں۔

لِلّٰهِ تُمٰى بِالْقُسْطٍ وَمَا تَفْعَلُو امْنٌ خَيْرٌ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

تیمیوں کے معاملہ میں انصاف پر ۱۹۲ اے اور جو کرو گے بھلانی (کے کاموں) سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب

عَلِيهِمَا ۝ وَإِنْ أُمْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

جانشہ والا ہے ۱۹۳ اے اور اگر کوئی عورت خوف کرے ۱۹۴ اے اپنے خاوند سے (راس کی) زیادتی یا رُوگدانی کی وجہ سے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

تو نہیں کوئی ہرج ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں اور صلح ہی (دونوں کے لیے) بہتر ہے

وَأَخْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّهَرَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللّٰهَ

اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل ۱۹۵ اے اور اگر تم احسان کرو اور ترقی بنو ۱۹۶ اے تو بے شک اللہ تعالیٰ

۱۹۷ تیمیم پھیوں کی طرح تیم پھیوں کے ساتھ بھی بے اضافی نہ کرو ان کو ضعیف و فکر و سمجھ کر ان کے اموال غصب نہ کرو اور ان کے حقوق نکف مرت کرو۔ وہ بے چارے تو تمہارے مظالم پر صدایے احتجاج بلند کرنے سے بھی قادر ہیں لیکن ان کا خدا تو قادر تو نہیں ہے اس کی گرفت اور عذاب سے تھیں کوئی بچائے گا۔

۱۹۸ آخرين فراديماں اگر تم تیم پھیوں اور پھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرو گے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو گے تو وہ اگرچہ تھیں ان احسانات کا بدله دینے سے قاصر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھیں ضرور اجر عطا فرماتے گا۔ وہ تمہارے جملہ احسانات کو خوب جانتا ہے۔ یہ نامہن ہے کہ وہ تھیں ان نیک خدمات کا اپنے شایان نشان صلسلہ نہ دے۔

۱۹۹ بعض اوقات بیوی دائم امراض یا بانجھ ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت غیر سپردیدہ یا اس کا مزاج تند و تیز ہوتا ہے یا کبستی کی وجہ سے مرغوب خاطر نہیں رہتی اور مرد چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کسی دوسرا عورت سے شادی کر لے یا کسی کی دو بیویاں ہیں ان میں سے ایک مذکورہ بالا وجوہات کے باعث اب اس کے لیے و بال جان بن گئی ہے، اور وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے تو ایسے موقعوں کے لیے عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو اس کی جگہ اپنے تریخ دیتی ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا مهر معاف یا مم کر کے، اپنے حقوق روجیت سے دوسرا بیوی کے حق میں دست بردار ہو کر یا اپنے نفقہ کے بار کو بکار کر کے خاوند کے ساتھ صلحت کر لے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے قرآن فرماتا ہے کہ جہانی اور افتراء سے بہ حال صلح ہی بہتر ہے۔

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انصاف کرو اپنی ہیویوں

النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْبَلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّهَا

کے درمیان اگرچہ تم اس کے بڑے خواہشند بھی ہو فلم تو یہ نہ کرو کچھ کھاڑا (ایک بھی کی طرف) بالکل اور جھوڈ دو دوسرا کو جیسے

كَالْمَعْلَقَةِ ۝ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقْوِيَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

وہ (درمیان میں) لٹکے ہی ہو۔ اور اگر تم درست کرو اپنا رویہ اور پہنچ کار بن جاؤ تو یہ شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے

وَإِنْ يَتَفَرَّقُوا يُغْنِي اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعْتِهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

اور اگر دلوں (میاں بیوی) جلد ہو جائیں تو غنی کردے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو یعنی وسیع بخشش سے اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا

حَكِيمًا ۝ وَلَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ وَصَبَّا

حکمت والا ہے^{۱۹۸} اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک ہم نے حکم دیا

۱۹۵ یعنی شخص مرد ہو یا عورت اپنے فائدے دست بدار ہونے میں بہت سخت ہے وہ اس کو سخوشنی گواہ کرنے کے لیے بہت کم ہی آمادہ ہوتا اکرتا ہے۔

۱۹۴ مددوں کو ہی تر غیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان اور عالی ظرفی سے کام لیں اور اپنی نامرغوب بیوی کے ساتھ بھی

حسن سلوک کریں اور اس کے حقوق کی پاسداری میں اللہ سے ڈرتے رہیں

۱۹۶ یعنی جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر حقیقت سے آپس میں مساوی نہیں ہو کرتیں شکل و صورت صحبت فیماری خوش غیری و بغلقی کئی قسم کا بایہمی تفاوت پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دلی محبت و انس کیساں نہیں ہوتا اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے لس سے باہر ہے اسے حکم دیا کہ ایسا نہ کرے کہ ایک بیوی میں ہی کھو کر رہ جاتے اور دوسرا کے تمام حقوق نظر انداز کر دے اور اُسے متعلق بنا کر رکھ دے بلکہ اس کی باری کے دن اور نعمت و غیرہ میں مساوا ملحوظ رکھے کیونکہ اگر دل کامیابان تھا کے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں ہیں۔

۱۹۷ اگر صلح کی ہر تین اکام ثابت ہو اور طلاق ناگزیر ہو جاتے تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ وہ ایسی صورت پیدا کرنے کا جس میں دونوں کی طمانتیت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جاتے گا۔ خاوند کو ایسی بیوی

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّا كُمْ أَنَا تَقُوَّ اللَّهُ وَإِنَّ

ان لوگوں کو جھیں دی گئی کتاب ۱۹۹ تم سے پہلے اور حکم دیا تھیں بھی کہ ڈر و اللہ تعالیٰ سے اور اگر

تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْكَانَ اللَّهُ

کفر کرو ۲۰۰ تو بے شک اللہ کے بلک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیا نہیں اور

غَنِيَّا حَمِيدًا ۚ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْكَانَ

ہر تعریف کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے

دے دے گا جو اس کے لیے قرشہ العین ہو گی اور اس مظلومت عورت کو ایسا خاوند عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔

۱۹۹ جو لوگوں میں مختلف زمانوں میں انبیاء و رسول پر نازل ہوتیں اور یہ کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے آثار می گئی ہے، ان سب میں تمام اممتوں کو تقویٰ کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اگر غور کر کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین اللہ کا دار و مدار ہی تقویٰ پڑھے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو انسان کاظم ہر و باطن سنورگیا اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔

خُرُدْ تَكَبَّرْ بَهِي دِيَالا إِلَهُ تُوكِيَّا حَاصِلَ دَلْ وَلَكَاهَ مُسْلَمَانَ نَهِيَنْ تُوكَچَحْ بَهِي نَهِيَنْ

وقال بعض العارفين هنـ ۖ الـ آتـ ۖ رـ حـ آـتـ ۖ القرآنـ لـ آـنـ جـ مـ يـ عـ يـ دـ وـ عـ لـ يـ هـ اـ قـ طـ بـ يـ لـ يـ مـ اـ مـ تـ

نے اس آیت کو سارے قرآن کا محور قرار دیا ہے۔

۲۰۰ اہل عرب مدت ہائے دراز سے جس رسم و رواج کے پابند چلے آتے تھے ان سے کنارہ کش ہو جانا اور بالکل نہ قلعہ ضرواوط کا پابند ہو جانا کوئی انسان کام نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مالک الحکم ہونے، نہیں و آسمان کی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے اور کسی کا غلط جنم ہونے کا ذکر فرمائکر الخیں تنبیہ فرمائے ہے یہی کہ ان و قادر و ضرواوط کی پابندی میں تھا را ہی دنیا و دین کا فائدہ ہے اگر تم ان سے سترناہی کر کے اپنی جاہل نہ رسم کی پابندی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے پاوری صاحبان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے وزخ کی آگ اور حذاب کا سہارا لیا ہے جب کہ عیسیٰ کا انعام مرضی محبتِ الہی پڑھے افسوس باشیل ان کے اس دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتی بلکہ اسے "جوبدن کو قتل کر تھیں اور وح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈر و بلکہ اسی سے ڈر و جرود ح اور بدبن دلوں کو جنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ (متی ۱۰: ۲۸) اس سے ڈر و جنم کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جنم میں ڈالے۔ ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ (لوقا ۱۲: ۵)

بِاللّٰهِ وَكِيلًاٰ ﴿٣﴾ اِنْ يَشَاءُذْهِبُكُمْ اَيْمَانَ النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ

اللّٰهُ تَعَالٰی کار ساز اگر چاہے تو لے جاتے تھیں اسے آئے لوگ اور لے آتے دوسروں کو

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيرًاٰ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اللّٰهِ بِإِيمَانٍ

اور اللّٰهُ تَعَالٰی اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص ادا کرتا ہو مفترِ ذوب نیا کا (تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے) لہٰذا

فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا يَصِيرُ إِيمَانًا ﴿٥﴾

اللّٰہ کے پاس تو دنیا و آخرت (دونوں) کا ثواب ہے اور اللّٰہ تَعَالٰی ہر بات سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدُ آئُهُمْ

آئے ایمان والوں میں ہو جاؤ مضمبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے محض اللّٰہ کے لیے

۱۴۰ میں یخیالِ تم اپنے ذل سے نکال دو کہ اللّٰہ تَعَالٰی کر دیں کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو ختم ہو جاتے گا یہ بزم ہستی کی ساری رونقیں تھیں اسے دم قدم سے ہیں۔ اگر تم نہ رہے تو بزم پرے وفق ہو جاتے گی نہیں اگر تم نے اس نزیں موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللّٰہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول ص کے دامن کو نہ تھاماتو وہ تھیں اس مقامِ شرف سے ہٹا کر کسی دوسرا قوم کو اپنی نوازشات کے لیے منتخب کر لے گا۔ کیا تمھیں خبر نہیں کہ تم سے ہندے بھی کئی امتوں نے نکشی کاراستہ اختیار کیا تو انھیں پڑھ دیا گیا ان کے مدد جانے سے اللّٰہ کی باوشاہی میں کیا کوئی زوال آیا؟ اسی طرح اگر تم بھی نظرِ رحمت سے گردائیے گے تو کوئی اور آگے بڑھ کر اس تاریخ کرامت کو اپنے سر پر رکھ لے گا۔

۱۵۰ انسان کی اپنی کوتاه نظری اور کم ہستی ہے کہ وہ بارگاہِ رب العالمین سے صرف دولت، اشرفت، عزت، وجہت کا ہی سوال کر کے رہ جاتے۔ ورنہ اس کریم، رحیم اور وہاب کی جناب سے توحہ مانگا جاتے وہ ملتا ہے۔ انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے کیوں نہ اس کی محبت کا جامِ نیکیں مانگئے اور اس کی رضاکاریے دامن طلب چھیلاتے جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں بخل کرے ۔

تو ہی ناداں چند گلکیوں پر فنا عنت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگی دامان بھی تھا

۱۶۰ میں تمام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد شہادت عددی نہیں بلکہ اس سے ثبات اور استحکام فی الشہادۃ کی تاکید یقصود ہے یعنی جب شہادت دو تو خوب مستحق مسکو کر۔ پہنچ زوجین یا تم تین چھوپیوں کے حقوق کا ذکر حلا آیا ہے اس میں کبھی عدالت تک جانے کی نوبت آجائی ہے۔ وہاں کفیصلہ گواہوں کی گواہی سے کیا جاتا ہے۔ اگر گواہ سچی گواہی نہ دے تو عن دار کی

وَلَوْ عَلَى الْفُسْكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنِيْـا

چا ہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی شہزادے اروں کے خلاف۔ جس کے خلاف گواہی دی جائی ہے

أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعَّـوُ الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

وہ ولت مندوہ یا فقیر پس اللہ زیادہ نیز خواہ ہے دونوں کا۔ تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی انصاف کرنے میں

وَلَنْ تَلُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٥٣

اور اگر تم ہیر پھیر کر وہ ۲۰۴ یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمُ رَسُولُهُ وَالْكِتَبُ الَّذِي

آئے ایمان والوا ۲۰۵ ایمان لا و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو

حق تلفی ہو جاتی ہے اور علم جس کے انسداد کے لیے عدالت کا دروازہ ٹھکٹھایا گیا ہے اس کو اٹھا فاؤن کا سہارا میں جاتا ہے اس لیے گواہوں کو سچی سچی گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ان تمام امور کو سچی گواہی دینے سے انسان کو روکتے ہیں مثلاً پناہی فائدہ، ماں باپ کا پاس، قربی رشتہ داروں کی رعایت وغیرہ کو ذکر کر کے ان کو خاطر میں نہ لانے کی تاکید کی جا رہی ہے مندرجہ بالاموال اخ کے علاوہ جبکہ یہ خیال انسان کو حق کے انتہا سے روک دیتا ہے کہ جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہ امیر پھیر ہے اور بھی یہ تو ہے کہ سچی سکین کی سکنت اور غربت کا احساس انسان کے دل میں رحم و شفقت کے جذبات ابھار دیتا ہے اور اس غریب کے خلاف سچی بات کھنے سے اس لیے سچکا ہا ہے کہ اس سے اس غریب کو لفظان نہ پہنچے انسانی نفسیات کا لکنا و قیق خاصیہ ہے۔ فرمایا عدالت میں کھڑے ہو کر ان احساسات کو بالکل دل سے نکال دو اور بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دو۔

فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا۔ لکنا پیارا جملہ ہے یعنی تم کسی کی خیر خواہی بھلاکی کرو گے تم اپنے رب کا حکم مانو۔ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ اخود ان (غريب و امير) کا نیز خواہ ہے اس آیت کی ابتداء میں دو فقط "شہدَ اللَّهُ" لکھنے پر شکوہ اور اثر افرین ہیں یعنی یہ سمجھو کہ تم کسی انسان کے لیے گواہی دے رہے ہو اور جو تمہارے دل میں آئے کہہ دیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑتے گا۔ نہیں یہ گواہی سی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ ذو الحجہ والعلیٰ کے لیے ہے اب سوچ لو کیا تم اس کو ناراض کرنے کی بہت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ اکیا جلال و کشکوہ ہے کلامِ حکمِ الحاکمین ہیں۔

۲۰۶ یعنی سچی گواہی دینے دیتے ہیر پھیر کر دیا جو بات غیر ابرم بھی اس پر بڑا زور دیا اور جو اہم بات ہوئی اس کو پی گئے۔

۲۰۷ یعنی اے ایمان والوا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ و معنی آمنوا اثبتوا علی الایمان و دو موالیہ (کشافت)

نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ

نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے اور جو

يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلِكِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ

کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ تو وہ

ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيدًاٖ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَشَدُ

گمراہ ہوتا اور گمراہی میں دُور نہ کل گیا بے شک ہو لوگ ایمان لاتے پھر کافر ہوتے ۲۰۶ء پھر

آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

ایمان لاتے پھر کافر ہوتے پھر بڑھتے گئے کفر میں نہیں ہے سنت انہی ان کے متعلق کچھ دلخیں

وَلَا يَهُدِّي يَهُمْ سَبِيلًاٖ ۝ بِشِرَ المُنْفَقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًاً

اور نہیں کہ پہنچاتے انہیں راہ (راست) نہ کہ بلاشبہ ان کے لیے دردناک نہ

اسلام قبول کرنے کے بعد جیسی انسان کو کہتے ہی کٹھن مارھوں سے گزرا پڑتا ہے مومن تو وہی ہے جو بڑی پامروہی سے کسی خطرہ، کسی وسوسہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوتے جادہ زیست پر قدم بڑھاتا چلا جاتے۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اے ایمان کا دعوے کرنے والا اپنے حسن عمل سے اس کی تصدیق کرو۔

۲۰۷ء جو لوگ اتنے طبقاً عمل تھیں ہوں کہ اسلام کی کوئی کامیابی دیکھی تو مسلمان ہو گئے ذرا شدت کا زمانہ آیا تو جھٹ کفر اختیار کر لیا۔ پھر کوئی تمجھز و دیکھا یا مسلمانوں کے غالب آنے کے آثار نہایاں ہوتے تو پھر اسلام قبول کر لیا پھر کسی شیطان نے وسوسہ ڈالا یا مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو اسلام سے رشتہ توڑ کر ہنسے ناطہ جوڑ لیا۔ ایسے مجرم ناقابل عفو ہیں اور توفیق خداوندی ان لوگوں کی دستیگیری کرنے کے لیے بیچن نہیں جو گمراہی کے گڑھ میں گرنے کی قسم کھاتے بلکہ ہوں۔ روی عن ابن عباس ان الآية في المرتدين (بخاري)

۲۰۸ء بشارت کا عام استعمال تو خوشخبری کے معنی میں ہوتا ہے اور اس عذر ایم کی خبر کو بشارت سے تعبیر کرنا بطور ظریز ہے اور عالم قطبی نے لکھا ہے کہ ہر اس اچھی یا بُری خبر کو بشارت کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد اس کے اثرات چھو پر نہیاں ہو جائیں۔ التبشير بالأخبار بما يظهرها شرعا على البشرة (قطبی)

أَلَيْمَا لِلَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفَّارِيْنَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ

ہے وہ منافق بوجناتے ہیں کافروں کو (اپنا) دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر

إِبْرَهِيمَ عِنْهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ تَرَكَ

کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عربت؟ تو (وہ سُنِیں) عربت تصوف اللہ کے لیے ہے سب کی سب اُنے اور حقیقت اُنہاں

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ اِيَّتِ اللَّهِ يُكَفِّرُهُمْ وَيُسْتَهْزِئُهُمْ

ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر حکم کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو مکار کیا جا رہا ہے ان کا ۹۷ اور مذاق اڑایا

بِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَامْعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

جار ہا ہے ان کا تومت بیٹھو ان کفرو انتہا کرنے والوں کے ساتھ یہاں تک کہہ شغول ہو جائیں کسی دوسرا بات میں

إِنَّمَا إِذَا مِثْلُهُمْ طَرَاطَ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفَقِيْنَ وَالْكُفَّارِيْنَ فِي جَهَنَّمَ

درنہ تم بھی انھیں کی طرح ہو گے بے شک اللہ تعالیٰ اکھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں

۲۰۸ مُنافقین لکھار کے ساتھ محبت کی بیگنیں اس لیے بڑھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا رکھا ہے۔ نہ دولت، نہ شوکت اور ہر ہمچوں کے حملوں کے سیلاں میں پہ جانے کا خدشہ اور کافروں کے پاس دولت و ثروت کے علاوہ قوت و شوکت بھی ہے۔ ان سے روابط پیدا کر کے ہم عربت حاصل کر سکتے ہیں۔ انھیں تباہیا جا رہا ہے کہ یہ سب تھاری خام خیالیاں ہیں۔ عربت عطا فرائی فالا اللہ تعالیٰ رب العربت ہے ابھی چند دنوں میں تھیں پتھر چل جائے گا کہ کس کا آفتاب اقبال دُنیا بھر کو منور کرتا ہے اور کن کے قدموں میں دلت لونڈی بن کر حاضر ہوتی ہے۔

۲۰۹ ایسی مجالس میں جن ہیں کتاب اللہ کا مکار کیا جائے اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے شرکت کرنے کی ممانعت کردی گئی تھی۔ اسی حکم کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے کہ جو شخص ایسی مجالسوں میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا مشریک ہوتا ہے۔ تمام گمراہ فرقوں کی مجلسوں اور جلسوں میں جا کر بیٹھنے کا بھی حکم ہے کیونکہ صحبت کا اثر ہوتے بغیر نہیں رہتا۔

جَمِيعًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُلِّمَفَانْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ

وہ بو ۲۱۳ءے انتظار کر رہے ہیں متحارکے (اجما) کا۔ تو اگر ہو جاتے تھیں فتح اللہ کی طرف سے

قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفَّارِ إِنْ نَصِيبٌ لَّا قَالُوا أَلَمْ

(تو) کہتے ہیں کیا نہیں تھے تم بھی متحارکے ساتھ اور اگر ہو کافروں کے لیے پچھھتہ (کامیابی سے) کہتے ہیں کیا نہیں

نَسْتَحِوذُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَنْكُمْ

غالب آگئے تھے تم پر اور (اس کے باوجود) کیا نہیں بچایا تھا تم نے تم کو ممنون سے پس رکھ لیا (اتفاق) اللہ فضیلہ کے گا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ إِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سِيلًا ۝

تحارکے زمیان قیامت کے دن۔ اور ہرگز نہیں بناتے گا ۲۱۴ءے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر (غالب نے کا) راستہ

۲۱۵ءے مُناہیقین کی دوڑخی روشن کو بے نقاب کیا جا رہا ہے لیعنی ان کا کوئی دین نہیں کوئی عقیدہ نہیں جس کے لیے جدیں اور
مرنے کی تربیت ان کے دلوں میں موجود ہو۔ ان کا دین، ان کا عبیدہ مقصود صرف عروس دولت ہے۔ اپنا عہد و پیمانہ توڑا
پڑے، اپنے ضمیر کو چنانچہ پڑے پرواہ نہیں دولت مل جاتے۔ حق و باطل میں جوش مش جاری ہے اس میں وہ کسی ایک کے
ساتھ اپنی قیمت والستہ نہیں کرتے بلکہ اس تاریخی رہتہ ہیں کہ پیکس کا بھاری رہتا ہے اور مال غنیمت پر قابض کون
ہوتا ہے۔ میدان جنگ کسی کے ہاتھ رہے وہ اسی کے پاس جا کر اپنی دوستی کا حق جتل کر مال غنیمت میں اپنے حصہ کا
مطلوبہ کرنے لگتے ہیں۔ شاید دنیا کے پرستاروں کا ازال سے یہی شیوه ہے اور ابتدکا یہی شیوه رہے گا مسلمان ہونے
میں ترقی کے امکانات دکھائی دیتے تو حضرت پیغمبر مسلمان ہیں۔ اور اگر ورزاق تیں اور عہدے، خطابات اور جاگیریں کفر
کے تصرف میں دیکھیں تو تسبیح و سجادہ کو دوسرے سلام کیا قشقة لگایا، زنار پہنا اور باطل و کفر کی خدمت میں جاں شائز اور
وفادار غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے۔

۲۱۶ءے اس کے متعلق علامہ قطبی تے تفصیلی بحث کی ہے اور سب سے پسندیدہ قول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی نادری مانی
کر کے اور مُنِّيَنَ الْمُبِيرَ سے انہیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاخونی طاقت ان کو
شکست نہیں دے سکتی۔ بہماں کہیں اور حب کبھی بھی مسلمانوں کو ہزمیت ہوئی ہے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اگر وہ
احکام الٰہی کے صحیح معنوں میں پابند ہوں۔ دُشمن سے نبر آنما ہونے کے لیے جس اتفاق و اتحاد کا اخیس حکم دیا گیا
ہے اور تمام ممکن وسائل سے جنگ کے لیے مستعد ہونے کا ارشاد ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو ملحوظ رکھیں تو دنیا کی کوئی

إِنَّ الْمُنْفَقِينَ يَخْذِلُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ لَّهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

بے شک منافق (بپنے گمان میں) دھوکہ فے لے جئے ہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ منزدیت والا ہے انھیں (اس دھوکہ بازی کی) اور جب

الصَّلَاةَ قَامُوا كَسَالَىٰ لَيَرَأُونَ النَّاسَ وَلَا يُكَرِّرُونَ اللَّهَ

کھڑے ہوتے ہیں مازکی طرف ۲۱۳ تو کھڑے ہوتے ہیں کابل بن کر (وہ بھی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ) لوگوں کو دھانے کے لیے اور

إِلَّا قَلِيلًاٰ مَذَبَّنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هُوَ لَاءُ وَلَا إِلَىٰ

نہیں فر کرتے اللہ تعالیٰ کا گرخوڑی دیرہ والوں ڈول پوہنچے ہیں کفوایاں کے درمیان نہ ادھر کے اور نہ اور

هُوَ لَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًاٰ يَا أَيُّهَا

کے ۲۱۴ اور جس کو گمراہ کر دے ۲۱۵ اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پاتے کا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ ۱۔

طاقت انھیں غنیوب نہیں کر سکتی ان اللہ سبحانہ لا يجعل للکفرین علی الموهین سبیلًا الا ان یتواصوا بالباطل ولا یتناہوا عن المتنکرویت قاعداً واعن التوبۃ فیکون تسليط العد و من قبلهم - قال ابن العروی هذان فیض جداً القرطبی بعض علماء نسبیل سے مراد دلیل لی ہے یعنی دلیل وبرہان کے میدان میں کافر کبھی سلمانوں کو ٹکست نہیں دے سکتے۔

۲۱۶ یہ چارے منافقوں کی جان بھیب غذاب میں گرفتار رکھی جب دل ایمان سے غالی ہو تو مازکوں پڑھے لیکن انھیں مجبوری یہ تھی کہ اسلام کا یہ ظاہری لباس جو انھوں نے پہن رکھا تھا اگر وہ مازنہیں ادا کرتے اور جماعت میں شرکیں ہوتے تو تاریخ ہوتا ہے اور ان کا فناق بالکل عیاں ہو جاتا ہے اس لیے انھیں بادل خواستہ جماعت میں شرکیں ہونا پڑتا تھا اور اس میں بھی تھیت کی بھکر نہ تھی بس لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں انھوں نے یہ سوانح رچا رکھا تھا اور وہ جذب وکیت اور ذوق و شوق بوسملانوں کو یادِ اللہ میں نصیب تھا ان کو تو اس کی ہوا تک بھی نہ لگی تھی - امام نے سلام پھیر اور یہ جوتیاں ہاتھ میں لیے مسجد سے بھاگے معلوم ہوا ماز سے فارغ ہو کر ذکرِ اللہ میں مشغول رہنا، مکملہ شریعت و درود شریعت پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا یہ وہ چیزیں تھیں بوسملانوں کو منافقوں سے ممتاز کرنی تھیں - ہمارے ہاں چشم بند ہو رہا اب ایسوں کی کمی نہیں جو ماز کے بعد کلمہ یاد رود شریعت پڑھنے والوں پر پہنچتی ہوئے کا الزام لگائیں میں کسی نرمی کے رواد رہنیں - اللہ سمجھ دے۔

۲۱۷ یعنی نہ زمرة مومنین میں اور نہ گروہ لفڑیں کہیں کہ بھی نہیں -

الَّذِينَ أَنْهَا لَا تَتَخَذُ وَالْكُفَّارُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

ایمان والوا نہ بناؤ ھا الے کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا إِلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنْفَقِقِينَ

کیا تم را واد کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل ۲۱۴ بے شک منافق

فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ

سب سے پچھے طبق میں ہوں گے وزن (کے طبقوں) سے ۲۱۵ اور ہر گز نہ پائے کا تو ان کا کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے

تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ حَمْرَ اللَّهِ قَوْلَكَ

تو بکی اور اپنی اصلاح کر لی اور ہبھوٹی سے پکڑ لیا اللہ کا (ادمی رحمت) اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے تو یہ لوگ

۲۱۶ و من یضل الخاکا یعنی ہے کہ جب انہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ ایک بار نہیں بلکہ بار بار اور کفر و ضلالت کی راہ اپنے لیتی چکب کر لی تو سنتِ الہی کے مطابق ایجاد ضلالت کردی گئی۔

۲۱۷ اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کا معنی ہے دوست، ہزار مددگار۔ ای لاجعلوا الکافرین خاصتمک بطنانتکو (قرطبی) اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔

۲۱۸ یعنی کفار کے ساتھ اس فرم کے قریبی مراسم اور سختہ تعلقات منافقت کی کھلکھل ہوتی دلیل ہیں۔ اس کے بعد اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آتے تو تم کوشکوہ کا موقع نہ رہے گا کہ ابھی ہم تو مسلمان تھے کیونکہ تم نے کفار کے ساتھ دوستی قائم کر کے اپنے منافق ہونے کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کر دیا ہے۔

۲۱۹ اللہ رکھ اور اللہ رکھ دونوں لفظیں ہیں بلندی کی طرف جو یک بعد دیگرے درج ہوتے ہیں انھیں اہل عرب درجات کہتے ہیں۔ اول سپتی کی طرف یک بعد دیگرے بود رہے ہوتے ہیں انھیں درجات کہتے ہیں۔ جہنم کے مختلف طبقات کے علی سبیل التنزیل یہ نام ہیں۔ ۱۔ جہنم۔ ۲۔ نظری۔ ۳۔ حکمہ۔ ۴۔ سعیر۔ ۵۔ سقر۔ ۶۔ جہیم۔ ۷۔ یاویہ سب سے نیچے منافقوں کا یہی ٹھکانا ہے۔ (قرطبی) اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دوزخ کی لوسرے بھی مسلمان کو محفوظ رکھے۔

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ طَوَّفَ يُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا^(٤) مَا

ایمان والوں کے ساتھ میں ۲۱۸ اور عطا فرماتے گا اللہ تعالیٰ مونتوں کو اجر عظیم کیا

يَعْلَمُ اللَّهُ بَعْدَ إِبْكَمْ إِنْ شَكَرْتُهُ وَأَمْنَتُهُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهَا^(٥)

کرے گا اللہ تعالیٰ مخفی عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ ۲۱۹ اور اللہ تعالیٰ بِإِقْدَارِهِ ہے سب کچھ جانے والا ہے

۲۱۸ سبحان اللہ کیا ٹھکانا ہے اس کے عفو و درگزدگا، کیا حد ہے اس کے بود و کرم کی منافقین نے انتہا کر دی اللہ کے عجیب کو اذیت پہنچانے، شمع اسلام کو بھجانے، کفر کو غالب متصوّر کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے میں۔ اور اس طرح اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کے اُفُقِ کوتیرہ قنار کر دیا۔ اس کے باوجود کریم و رحیم خدا۔ محمد رحمۃ للعالمین کا خدا اخیں بتا رہا ہے کہ وہیو ادھر و یکو اور ہر کام میت و سُنگت نصیب ہوگی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْمُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَّمَ و افتخار اسلام کا خدارب العالمین ہے اور اس کا پیغمبر رحمۃ للعالمین ہے اور یہ دین - دین انسانیت ہے۔

۲۱۹ اگر تم راہ راست اختیار کرو اور ضلالت و گمراہی سے باز آ جاؤ تو اللہ کو کیا ٹھی ہے کہ مخفی خواہ غذاب دیوار ہے وہ ایسا نہیں بلکہ وہ شاکر ہے۔ جو بنده حسن نیت سے نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے غایت کرم سے اُسے قبول فرماتا ہے اس سے کچھ مخفی نہیں۔ وہ سب کچھ جانے والا ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ طَوْ

نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کمی جاتے بُری بات مگر اس سے جس پر ظلم ہوتا ہے اور

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْهِمَا إِنْ تُبَدِّلُوا خَيْرًا أَوْ تُخْعِلُوهُ أَوْ

اللہ تعالیٰ خوب سنبنے والا خوب جانے والا ہے ۲۲۱ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے یا

تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ اللَّهَ ذِينَ

درگز کرو (کسی کی) بُرانی سے توبے شک اللہ تعالیٰ درگز فرمانے والا قادر تھا ۲۲۲ جو لوگ

۲۲۰ بعض لوگوں کا مشغالم ہی دوسروں کی عیب جوئی ہوتا ہے کسی کے حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھا لانے اور ان کی تشریکرنے میں بھی خاص لطف آتا ہے اور بعض ممنہ چھپت ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی بگڑتی اچھال دی۔ دوچار بے نقطہ سنا کر اپنی بڑائی کی تسلیکین کر لی۔ ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی محبت و پیار کو جتنا لفظان پہنچاتے ہیں اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس مقاش کے لوگوں سے واسطہ رہا ہو۔ اسلام ہم سماں اونوں کو سیسیسا پلانی ہوئی دیوار کی طرح یہ جان دیکھنا چاہتا ہے وہ ان یادوں کو کب برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں واضح ہدایت فرمادی کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے باز آہا و کسی کی پس پشت غیبت کسی کی منہ پر توہین اور ہتک عزت سب کی مخالفت کر دی گئی۔ ہاں وہ شخص جس پر واقعی ظلم ہوا ہو اس کی حق تلفی کی گئی ہو اسے رخصت ہے کہ وہ ظالم کے خلک کا بر ملا اطمہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنا تے۔

۲۲۱ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ظالم و ظلم و دلوں کو احساس دلایا جا رہا ہے ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مقام کا کسی کو علم ہی نہیں یاد نہیں کی کوئی طاقت اس کا کچھ بکھڑا نہیں سکتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوں سے واقع ہے۔ اور اگر نیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اسے سزا مل کر رہے گی۔ اور مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ الگ کوئی دوسرا تمہاری دادرسی نہیں کرتا تو صبر کرو اللہ تعالیٰ تیرافریز اور سے تیری مظلومیت اور کسی کا اس غصب عمل ہے ۲۲۲ بُرانی کے اطمہار سے منع کیا اور نیکی کے متعلق اجازت دی کہ چاہے اسے ظاہر کرو یا نہیں رکھو۔ آخر من مظلوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی زیادتی کرنے والے انسان سے درگز کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کا ملک سے باوجود غلط کاروں اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو بھی الگ اپنے آپ کو صفاتِ الہی اور اخلاقِ ربیانی سے مقصود کرنے کے لیے یہ یغصہ پی جاتے تو تیرے لیے بہت مناسب ہے بہلا حکم رخصت ہے اور عوام کے لیے ہے جن کی اخلاقی حالت اتنی بلند نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت ضبط سے کام لے سکیں جب کہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور دوسرا حکم عمریت ہے اور خواص کے لیے ہے

يَكُفِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكْفُرُ بِعَضٍ لَا وَيُرِيدُونَ

کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ۲۲۴۳ءے اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں ۲۲۴۲ءے اللہ اور اس کے

رَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكْفُرُ بِعَضٍ لَا وَيُرِيدُونَ

رسولوں کے دین میان اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ اور چاہتے ہیں ۲۲۵ءے

۲۲۴۳ءے مشکرین و مذاقین کی خصلتوں کے ذکر کے بعد اب کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کی بھی کہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت و رسالت کے قابل نہیں۔ ایک وہ جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں مثلاً یہودی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت مسیح اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اسی طرح عیسائی۔ ان سب کے متعلق فرمایا کہ وہ کچھے کافر ہیں۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے اسے پکا کافر کیوں کہا گیا؟ اس نے یہ کہ رسول اللہ وحی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا نہ اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا صحیح علم ہوتا ہے اور نہ اسے عبادت کا وہ طریقہ علوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو جب اللہ تعالیٰ کی صفات تقدس و مکمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو کیا پہچانا۔ آپ ان قوموں کے رسول عبادت کو دیکھئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نبی کے پیر و کار نہیں۔ آپ بیرون ہو گرہ جائیں گے۔ اسی طرح فلاسفہ قدیم و جدید نے جن صفات الہیہ کا اثبات کیا ہے وہ بھی انسان کے لیے کچھے کم پر ایشان کرنے نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بعض انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور جن دلائل و برائیں اور محاجرات کی وجہ سے انھوں نے ان بعض کی نبوت کا اقرار کیا۔ اب جب ان سے بھی حکم تردد لائل و برائیں اور روشن ترجیحات ایک وسری ہستی میں پاتے جاتے ہیں تو وہ اس کی نبوت پر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ ان کا یہ ایمان نہ لانا یعنی انبیاء کے انکار کے مترادف ہے اور خصوصیات پاک حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا جن کی آمد کی پیشافت اور ان پر ایمان لانے کی تاکید ہے زمانے کے بنی نے فرمائی صرف آپ کا انکار نہیں بلکہ تمام سابقہ انبیاء و مُرسلین کی تکذیب ہے۔

۲۲۴۴ءے اللہ اور رسولوں کے دین میان فرق کرنے کا یہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور وحی و رسالت کا سرے سے انکار کر دیا۔ اس انکار میں ان کی انائیت اور خود بینی جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات تو تناقض و ناکافی ہیں۔ اس نے یہی ان کی عقلی موتکافیوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کے تو قابل ہیں لیکن اللہ کے رسولوں کی اطاعت سے گریزاں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسولوں کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے وہ ذرا غور کریں کہ وہ بھی کہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مرتکب تفرقی کی تکذیب تو نہیں ہو رہے۔

۲۲۴۵ءے اسلام اور کفر کی مجموع مركب بنانے کا خیال بہت پرانا ہے ان لوگوں کے علاوہ جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے

أَن يَتَّخِذُ وَابْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ

کے اختیار کر لیں کفر ایمان کے درمیان کوئی (تیسیری) راہ یہی لوگ کافر ہیں

حَقًّا وَ آتَهُنَّ نَكِيرًا لِكُفَّارِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَ الَّذِينَ امْنَوْا بِاللَّهِ

حقیقت میں اور تم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوایرنے والا اور جو لوگ ایمان لاتے ۲۲۶ میں اللہ تعالیٰ

وَرَسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَوْنَهُمْ

اور اس کے ساتھ اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے یہی لوگ ہیں جو کا انھیں اللہ تعالیٰ

أَجُورَهُمْ طَوَّكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَحِيمًا ۝ يَسْعَلَكَ أَهْلُ الْكِتَبِ

ان کے اجر اور اللہ تعالیٰ عفو رحیم ہے مطالبه کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب

أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْكَبِيرَ

کہ آپ اتروادیں ان پر کتاب آسمان سے ۲۲۶ سوہہ تو سوال کر رکھیں موسیٰ (علیہ السلام) سے اس سے

مَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرْنَا اللَّهَ جَهَرَةً فَلَمْ يَخْذُلْهُمُ الصِّعَقَةُ بِظُلْمِهِمْ

بھی بڑی بات کا انہوں نے کہا تھا (امے موسیٰ) دھکا وہیں اللہ حکم کھلا تو پھر طیار تھا انھیں بھلی کی کڑک نے سبب ان کے ظلم کے

ہماری اپنی تاریخ بھی ان فواد روکا تسبیوں سے خالی نہیں۔ اکبر اور دارالشکوہ کے بعد آج بھی تو کسی افراد موجود ہیں۔

۲۲۶ یعنی جو لوگ اللہ پر اس کی تمام صفات تقدس و کمال پر اور بلا استثنہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے اعظیم کافر فرمایا جا رہا ہے۔ اور سو فتاویٰ مضمون کے لیے ہے۔

۲۲۷ گسپ بن اشرفت چنداور یہودیوں کو ہمراہ لے کر بارگاہ بنوت میں حاضر ہوا۔ اور اگر کہنے لگا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے

تیار ہیں۔ یہ آپ ہماری ایک چھوٹی ٹسی شرط پوری کر دیجئے جیسے ہمارے سینے میں علیہ السلام پر کمھی لکھائی تورات آسمان سے اُتری تھی آپ ایسی ہی کوئی کتاب اتروادیں تو ہم آج ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہود کا یہ مطالبہ بغض جھٹ بازی کے لیے تھا۔

جس کے وہ عرصہ دار اس سے خوگر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مبوب کے تعجب کو دو دکر نے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ اس پر حیران ہیں یہ اپنے پیغمبر سے تو اس سے بھی بڑی اور انکھی فرمائش کر رکھے ہیں ان سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَاهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَ أَعْنَ

پھر بنی اسرائیل کو نے پھر طے کو (ابن معبد) ۲۲۸ اس کے بعد کہ آپکی تھیں ان کے پاس مکمل میلیں پھر بھی ہم نے سمجھ دیاں

ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ وَرَفَعْنَاقًا فَوْقَهُمُ الظُّورَ

کا بیر (ستگین) حرم ۲۲۹ اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیٰ کو واضح غلبہ ۲۳۰ اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو

بِمِيزَانِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنًا وَقُلْنَا لَهُمْ

ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے اور ہم نے فرمایا انھیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے فرمایا انھیں

لَا تَعْدُوا فِي السَّبِيلِ وَأَخْلُنَّا مِنْهُمْ مِيزَانًا غَلِيلًا ۝ فَمَا

کہ حد سے نہ بڑھنا سبیت میں اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ (ان پر پھٹکار کی)

نَقْضِهِمْ بِمِيزَانِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِياءُ بِغَيْرِ

وجہ یہ تھی کہ انھوں نے توڑ دیا اپنے وعدہ کو ۲۳۱ اور انھوں نے اکارکیا اللہ تعالیٰ کی آئیوں کا اور انھوں نے قتل کیا انبیاء کو ناچ

ہمیں خدا کا بے پرده دیدا کردا وتب ایمان لائیں گے اس گستاخی کی سزا انھیں یہ دی گئی کہ انھیں کی کڑک نے انھیں آیا۔

۲۲۸ ان کے چھت باز ہوتے کادوسر اور قعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے روشن محجرات آنھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد جب سامری نے بھجھا بنا کر انھیں کہا کہ تمھارا اصلی خدا تو یہ ہے عقل کے شمن اس موڑت کی پر پتش میں لگ گئے اور انھیں اتنا بھی یاد رہا کہ میں ذات نے ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنائیں خیں فرعون کی گرفت سے بچالیا اور ان کے دشمن کو ان کی آنھوں کے سامنے غرق کر دیا جاتے تھے کو دون ہوں دُہ اگر ایسے نامعمول مطالبات کریں تو اس میں ہیئت کیا ہے۔ نیز جو تواریخ لکھی لکھائی ان پر اتراری گئی تھی اس کو انھوں نے کب مانا تھا کہ اب اگر کوئی ایسا صحیفہ آسمان سے آتا راجا جاتا تو ان کے ایمان لانے کی توقع کی جاتی۔

۲۲۹ یعنی اس شرک قبیح کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف فرمادیا۔

۲۳۰ روشن محجرات اور واضح دلالت یا رُعب و دبدبہ۔

۲۳۱ بحسبیت کے معنی برداشت کرتا ہے ما زائد ہے اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اور تقدیر بعارات یوں ہے فتن قضیم میشاقہ لعنانہم (قطبی) یعنی انھوں نے پختہ وعدہ کیا کہ ہماری اطاعت و فرماں برداری کیں گے لیکن اس کے بعد

حَقٌّ وَقُولُهُمْ قُلُوبُنَا عَلَفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

اور انہوں نے یہ (گستاخانہ) بات کی کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑھے ہیں (لویں نہیں) بلکہ مجھ کا دادی اللہ نے ان کے دلوں پر ۳۳۲

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًاٰ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولُهُمْ عَلَىٰ فَرِيمَهُ كَفَتَانًا

بوجہان کے کفر کے سووہ ایمان نہیں لائیں کے مکمل تصوری ہی تعداد۔ اور ان کے کفر کے باعث اور ۳۳۳ مریم پر بہتان عظیم

عَظِيمًاٰ وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ رَبِيعَهُ رَسُولَ

باندھنے کے باعث اور ان کے اس قول سے کہ تم نے قتل کر دیا ہے میسح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول

اس کو توڑ دیا۔ اس وجہ سے ہم نے اُن پر بچہ کار کی اور انہیں اپنے درجت سے دُور کر دیا۔

۳۳۴ ۳۳۴ پہلے کی طرح یہاں بھی اس امر کی تصریح کر دی کہ انسان جب پے در پے گناہوں کا ازالہ کابرتا ہے تو اس کا آئینہ دل زنگار اودہ بوجاتا ہے اُس کی نگاہ حق بیں بے لوڑ بوجاتی ہے اور اس میں حق قبول کرنے کی استعداد دم توڑ دیتی ہے یہود کے فروجہم کی اس طویل فہرست پر حواشی سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔

۳۳۵ ۳۳۵ یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہاں ان جرائم کے علاوہ چند ایسے شدید قسم کے جرائم کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں آیا۔ (۱) حضرت مریم پر بہتان؛ جب حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت دی گئی تو اپ کنوواری تھیں۔ وضع کا وقت قریب آیا تو آپ باہر ویرانے میں چل گئیں ڈچ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے طعنوں کا خیال کر کے گھبرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تم پر زبان طعن دراز کرے تو قوہ ڈچ پہننا اور اس نیچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ جب آپ واپس یوشلم پہنچیں لوگوں نے ان کی گود میں ڈچ دیکھ کر انہیں مطلعون کرنا شروع کیا۔ ایک کنوواری بڑی کی گود میں ڈچ دیکھنے سے اس کے اخلاق کی متعلقات کو شکوک کا پیدا ہوا جانا ایک طبعی امر تھا۔ حضرت مریم نے حصہ ارشادِ الہی پرچ کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہ اس سے دریافت کرو۔ کہنے لگے۔ کیف نکلو من کان فی المهد صبیا۔ ہم کیوں کراس پیچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی سچھوڑے ہیں ہے۔ اس وقت وہ مخصوص بچہ جس کی عمر چند ہفتے سے زیادہ نہ تھی فصیح زبان میں کیا ہوا۔ قال ابی عبد اللہ اتنی المکتاب وجعلنى بندیا۔ کیں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھبندی بنایا ہے۔ اس روشن مہجزہ اور ناقابل تزوید دلیل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد انہیں حضرت مریم کی طہارت کا یقین آنا چاہیئے تھا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے اور نبوت، وحی اور مہجزات پر ان کا ایمان تھا لیکن لویں جان لینے کے بعد بچہان کا اس تقدیش تاب خالتوں پر یہ تہمت لگانہ بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ والبہتان العظیم رمیہ مردیوالزنام رؤیتہ حوالیۃ فی کلام عیسیٰ علیہ السلام فی المهد ووصف بالعظيم لا نهم تماد واعلیہ بعد ظہور

اللَّهُ أَعْلَمُ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا كُنْ شَيْءَ لَهُمْ طَوَّانٌ

ہے ۲۳۴ حالت کئی انہوں نے قتل کیا اور نہ اُسے رسولی پڑھنا سکے ۲۳۵ بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے (حقیقت) ۲۳۶ اور یقیناً

الآية و قیام المعجزة بالبراءة (بحیر) ۲۳۷ دُوسِرِ جرم جس کا یہاں پہلی دفعہ ذکر ہوا ہے ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح کو قتل کر دیا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اس کے دو جواب دیتے گئے ہیں۔ (۱) انہوں نے یہ الفاظ بطور متحرک رہا ہے تھے۔ وہ آپ کو رسول مانتے نہیں تھے یا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی شان و توقیر بیان کرنے کے لیے بڑھا تھے ہیں۔ لیکن اگر یہودی کی گزشتہ تاریخ کو دیکھا جاتے تو کچھ بعد بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہوئے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی ہو رحمت اُنکیا اور یہاں علیہما السلام کو بنی مانتے تھے لیکن جب ان بزرگواروں نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں پر ٹوکا تو انہیں اپنے ہاتھوں شہید کر دیا بہرحال ان کا یہ دعویٰ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا (اگرچہ اس کی تغییط آگے آرہی ہے) اور پھر اس پر ان کا ارتانا اور فخر کرنا اس سے بڑھ کر ان کے کفرکی اور کیا دبیل ہو سکتی ہے۔

۲۳۸ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور رسولی دے دیا اور آپ کے مانے والے اور پستار بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو سوچی دے دیا۔ گویا بیٹا سوچی پر لکھتے ہوئے ایلی ایلی! تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا فریاد کرتا رہا اور بات نے اس کی کچھ مدد نہ کی۔ جب دشمن اور دوست سب اس بات پر تتفق ہو چکے تھے تو قرآن نے آکر حضرت مسیح کی عظمت و جلالت شان سے پردہ اٹھایا اور صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس اللہ کے رسول کو اپنے اللہ کا پیغام سنانے کے باعث انہوں نے قتل کرنے کی سر توڑ کو شمش کی اللہ رب العزت نے اُن کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور لبنتی رسول کا بال بھی برکانہ ہو نہ یہا۔ دونوں چیزوں کی نفی کر دی یہودی رہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ سوچی پر چڑھا کر نہ لیں کر سکے۔ جسے مختلف انجیلوں میں مذکور ہے۔ مراٹیوں کی لاہوری پارٹی کے امیر مولوی محمد علی نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن میں اس جگہ تو ضمیحی نوٹ لکھا ہے اس میں اس بات کی بڑی زحمت ا Hutchinsonی ہے کہ ایات قرآن کو انجلیوں میں بیان کر دہ حکایت پر مطبق کریں۔ چنانچہ وہ ان تمام تفصیلات کو جو انجلیوں میں موجود ہیں بڑی فراغدی سے تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت مسیح کو سوچی دیا گیا۔ چنانچہ وہ نیم جان ہو کر دوسرے دو مجرموں کی طرح نیچے گر رپے۔ آپ کے پہلوینی صربیں لگا لگا کر چلنی کر دیا کیا اور جو من کے فوارے بن لکے وغیرہ۔ پھر آخر میں تحریک اخذ کرتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا کیونکہ قرآن نے بھی سوچی پر مرنے کی نفی کی ہے لیکن اگر وہ ذرا ساتھیں کرتے تو قرآن کا ایک لفظ ہی ان کو اس زحمت لاطائل سے بچا لیتا۔ وہاں دونوں چیزوں کی نفی ہے مرنے کی بھی اور سوچی پر چڑھائے جانے کی بھی۔ کیونکہ صلب کا معنی ہے الصلب هو

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْقِرْبَاتِ مِنْهُ مَا لَهُ بِهِ حِلْمٌ عَلَمٌ

جھنوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شکر شہر میں ہیں ان کے متعلق ۲۳۷ نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم

تعليق الاحسان للقتل کسی انسان کو لٹکا دینا کروہ مر جائے۔ مر جانا صلب کے معنی هو ضرع لمیں داخل نہیں بلکہ اس فعل کا مقصد ہے اور مقصد و غایت مفہوم کو مستلزم ہو تو ہمیں معنی میں داخل نہیں ہو اکرتنا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جاتے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہود اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آپ کے منہ پر خون کا بھی گیا۔ کانٹوں کا تاج بھی پہنایا گیا اور پھر سویں بھی چڑھا دیا گیا۔ گویا اپنی طرف سے انھوں نے اس مخصوص منصوبہ کو عملی جامہ پہنادیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تیسی توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوئے اور نجح گئے۔ یہود کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ انھوں نے آپ کی تسلیم تحقیر اور اذیت رسانی کے سارے اعمال پورے کر لیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ناپاک سازشوں کو ناکام کر دیا اور اپنے برگزیدہ بندے اور حبیل القدر رسول کی توبین کرنے کا انھیں قطعاً موقع نہیں دیا اور یہی قرآن کا واضح اعلان ہے۔

۲۳۵ تفاسیر میں الکرجچی اسی روایات کثرت سے مدرج ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور آپ کے نجح جانے اور کسی دوسرا سے انسان کو سویں چڑھاتے جانے کی تفصیلات متوجہ ہیں لیکن محقق علماً تے تفسیر نے صراحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی لقینی نہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ واختلف الروايات في كيفية القتل والصلب ولو هي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شیع (بحر المحيط) بہ حال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہود پوں نے فلسطین کے رومی گورنر پلاطس کی حکومت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں اور حجومی شہادتیں پیش کر کے اسے مجبور کیا کہ آپ کو چنانی کی سزا دے۔ اور جب اسے سیس دیش کرتے دیکھا تو اس کو فتنہ و بغاوت کی دھمکی دی انجیل کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ چچہ نہیں بن پڑتا بلکہ اٹا بلہ ہو جاتا ہے تو پانی لے لے کر لوگوں کے رُو بُرُو اپنے ہاتھ و ہوٹے اور کہا میں راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو! اس ب لوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہلاکی گردن پر۔ انجیل میتی۔ توجیب پلاطس نے ان کے دباو کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرتے ہوئے سوی میتے کا حکم دے و یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبه اور حکمت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچالیا اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشاہدہ کر دیا اور یہودی اسی نویس سمجھ کر پکڑ لے گئے اور اسے چنانی دے دیا۔ اغلباؤہ منافق یہود اسے تھا بھاؤ آپ کا سواری تھا۔ اور جب یہودیوں نے اسے تیس روپیہ کا لالج دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی خبری کی اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا۔

۲۳۶ اس بارے میں نصاریٰ کے مختلف اقوال کی توحید ہی نہیں۔ امام رازیؒ نے تین مشہور فرقوں کی آراء نقل کی ہیں۔

إِلَّا إِتْبَاعُ الْقَطْنِ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِينًا لَمْ يَلْرَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ طَوْ

بجز اس کے کہ وہ بڑی کرتے ہیں مگان کی اور نہیں قتل کیا انھوں نے اُسے یقیناً بلکہ اٹھایا ہے اُسے اللہ نے اپنی طرف ۳۴۹

انسطوریہ۔ ۴۔ ملکانیہ۔ ۵۔ یعقوبیہ نسطوریہ فرقہ کا یہ قول ہے کہ مسیح کا ناسوت تو صلوب ہوا یعنی ان کا الہوت مصلوب نہیں ہوا۔ ملکانیہ کا خیال ہے کہ الہوت بھی مصلوب ہوا یعنی بالذات نہیں بلکہ بواسطہ ناسوت اور یعقوبیہ کاظمیہ یہ ہے کہ ناسوت اور الہوت دونوں کو سوی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ آراستہ دلیل پر بنی نہیں بلکہ سب کچھ ظن و مگان کی نقش آرائیاں ہیں۔

۶۔ مسیح کے نام سے واقع جتنی قویں جہاں کہیں سبی تھیں سب اس غلط فہمی کا شکار تھیں کہ آپ کو سوی دیا گیا۔ اس عالمی غلط فہمی کا ازالہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت کا اعلان اگر قرآن حکیم نہ کرتا تو اور کون کرتا۔ اس لیے بار بار اس حقیقت کو دھڑایا جا رہا ہے۔

۷۔ حضرت مسیح کے بارے میں بھی ہوتے تمام نظریات کا بطلان کر کے اب قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ فرمایا اُنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا۔ اب قدرتیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اٹھایا کہیں وہ خود بیٹھا تو ہے نہیں کہ وہاں بُلا لیا ہو تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ آسمان پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث معراج میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یکیونکہ رفع کا معنی بلند کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو پیچی جگہ سے اٹھا کر بلند جگہ پر کھو دیا جاتے یا کسی کا مرتبہ اور شان بلند کردی جاتے تو وہاں رفع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے اور اگر دونوں چیزیں کمٹھی ہو جاتیں یعنی بلندی مقام اور بلندی شان رفع کا استعمال کیوں دل میں کھٹکے۔ بات اتنی سی تھی۔ بالکل منحصر اور دو توک۔ کہ یہ دلوں کا دعویٰ اور عیسیٰ یوسف کا عقیدہ کہ حضرت مسیح کو سوی دے دیا گیا و نوں غلط ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں اپنی طرف اٹھایا اور حدیث رسول نے بتا دیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا یعنی انسان کی کج بھی یادوں اسی افرینی کا کیا علاج جب تک سیدھی اور صاف بات ہیں اپنی ترخ نہ لگا لے حضرت کو قرار نہیں آتا جناب مزا صاحب آنہما نی تشریف لاتے اور اپنے بنی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے وفات مسیح کو بطور اساس قرار دیا حالانکہ تخریب نبوت کے مسئلہ کو حیات مسیح کے ساتھ دُور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر بغرض محل حیات مسیح ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا آیات قرآنی اور احادیث بنوی میں کا صریح انکار اور کفر ہے۔ مزید براں مزا صاحب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور استدلال بھی کچھ کم و چھپ پہنیں۔ آپ مسیح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوچھا جاتے کہ جناب اجنب احادیث میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے ان میں تو مسیح کا نام، ولادتیت، محل نزول اور بوجوہ کارہاتے نہیں اپنے انجام دیں گے ان سب کا ضمیل ذکر ہے۔ وہ جسون اتفاق کہ آپ میں ان تفصیلات میں سے کوئی ایک چیز بھی تو نہیں پائی جاتی تو پھر آپ وہ مسیح کیوں کہو گئے

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

اور بے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر

جس کی آمد کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ (ان احادیث کثیر میں سے ایک حدیث کا ذکر ابھی آ رہا ہے) تو پھر انہیں احادیث پر اعتراض کی بوجھاڑا اور جب اس میں بھی کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر تاویلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے دشمنوں نے پھر طے کو خدا مان لیا تھا تو آج الگ کوئی مژا صاحب کو بنی یا مسیح مسحود مان لے تو کیا تعجب ہے؟ حیاتِ مسیح علیہ السلام کی تفصیلی بحث سورہ الاحزان کی اکتا لیسوں آیت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے۔ ضیاء القرآن جلد چھارم بیلہ قبل موته کی ضمیر کا مردح کون ہے؟ بعض نے کہا اس کا مردح کتابی ہے لیکن ہر اہل کتاب پر من سے پچھے حضرت علیہ کام قائم بیوت و بعد تیت منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن رام المفسرین ابن جریر۔ امام ابن حیان الاندلسی اور علام ابن عبد اللہ القطعنی اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مردح حضرت علیہ السلام کی ذات ہے لیعنی آپ دفات سے پہلے زین پر نزول فرمائیں گے اور اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے پہنچا بن حیان کی عبارت ہے۔ والظاہرات الصمیدین فی بہ وموته عائد ان علی عیسیٰ وہوسیاق الكلم (بچھر محیط) اور امام ابن جریر فرماتے ہیں: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّحَةِ وَالصَّوَابِ قَوْلٌ مِنْ قَالَ تَاوِيلَ ذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلِيُّونَ مِنْ بَعْدِ عِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى۔

ترجمہ۔ تمام اقوال سے زیادہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ بہ اور موته کی ضمیر کا مردح عیسیٰ ہے لیعنی تمام کتابی عیسیٰ کے من سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔

اور علامہ قطبی یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں و قاله قتادة و ابن زید و غيرهما و اختارة الطبری و خواہ عن الضحاک و عن سعید بن جعفر۔ ترجیح۔ کہ حضرات قتادة، ابن زید وغیرہما کا یہی قول ہے ضحاک سعید بن جبیر اور رام طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

اور اس قول کی وجہ ترجیح یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ع۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہے قال لیںزلن ابن مریم حکما عد لافلیقتلن الدجال ولیقتلن الخنزیر و لیکسن الصليب و تكون السجدة واحدة لله رب العلمین شو قال ابوہریرہ اقرؤا وان شئت وان من اهل الكتاب الالیؤ من به قبل موته قال ابوہریرہ قبل موت عیسیٰ علیہ السلام یعیدہا ثلاث مرات۔

ترجمہ۔ حضور بنی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل حاکم کی خیثیت سے تم میں ضرور

لِيَوْمٍ مِنْ يَهْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

وہ ضرور ایمان لاتے گا میسح بران کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر

شَهِيدًا ۚ فِيظَلِمُ مِنَ النَّاسِ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ

گواہ ۲۳۴ سوبو ہر غلمن ڈھانے یہود کے ۲۳۴ ہم نے حرام کر دیں ان پر

طَبِيبَتِ أَحْلَتُ لَهُمْ وَبَصَلَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ

وہ پاکیزہ پہنچنیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے اور بوجہ روکنے یہود کے ۲۳۴ اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو

اُتریں گے وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتے گا جو پروردگار عالم ہے پھر حضرت ابوہریرہ نے کہا کہ اگر دلیل کی ضرورت ہو تو یہ آیت پڑھو۔ وان من اهل الكتاب الایوم من به قبل موتتے۔ ابوہریرہ نے فرمایا موت کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ نے یہ بات تین بار کہی۔ یہ حدیث ان کثیر التعداد احادیث میں سے ایک ہے جن میں آنے والے میسح کی ولادیت، ان کی صفات اور ان کے کارہاتے نمایاں کا تذکرہ ہے۔ انصاف سے کہتے کیا جناب مزا صاحب میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ میسح موعود (یعنی وہ میسح جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے) کیوں کربن سکتے ہیں؟

۲۳۵ یعنی آپ یہودیوں اور عیسیٰ یتوں کی بداعمالیوں پر شہادت دیں گے۔

۲۳۶ فِي حَانَقْضِهِمْ كَابِدُلَ ہے۔ ابھی ذکر یہود کی نافرمانیوں کا چلا آرہا ہے انھیں عصیاں شعاریوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے کسی ایک حلال پاکیزہ اشیا کو بطور سزا ان پر حرام فرمایا جن کا تفصیلی ذکر آگے آتے گا۔

۲۳۷ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ انسان خود اطاعت خداوندی سے محروم رہے لیکن جو شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتا ہے اور دعوت حق قبول کرنے سے روکتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون جرم ہوگا۔ دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو سچا دین قبول کرنے سے روکے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی ہے یوں یادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ انسان دین حق کو قبول تو کر لے لیکن اس کے احکام، اس کے ضوابط اخلاق اور اس کے قواعد معاشرت وغیرہ پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ سنوار سے تو دوسری قوموں سے بند اور بہتر نہیں تو پھر اس دین سے متنفس ہو جائیں گی کہ جب اس کے قدیم ماننے والے کسی حیثیت سے بھی دوسری قوموں سے بند اور بہتر نہیں تو پھر اس دین کو کیوں قبول کیا جاتے کیا ہم مسلمان ہملا نے والے اپنی زشتی اعمال سے دوسری قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے میں حجاب اور رکاوٹ تو نہیں یہ غور طلب مسئلہ ہے۔

وَأَخْزِنُهُمُ الرِّبْوَا وَقَدْ نَهْوَاعَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
اور بوجہ ان کے سود لینے کے ۲۲۳ مالا نکہ منع کیے گئے تھے اس سے اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال
بِالْبَاطِلِ طَوَّعَتْهُمْ لِكُفَّارِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۚ لِكِنْ

اور تیار کر رکھا ہے تم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دروناک لیکن
ناحق

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
جو پہنچتے ہیں ۲۲۵ علم میں ان سے (وہ بھی) اور (جو) مسلمان ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر جو آتا گیا
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْيَمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ

آپ کی طرف اور جو آتا گیا آپ سے پہلے اور صحیح ادا کرنے والے ۲۲۶ نماز کے اور دینے والے

الزَّكُوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِلَيْكَ سُنُوتِهِمْ

زکوٰۃ کے اور ایمان لائے والے اللہ اور روز آخرت کے ساتھ یہی ہیں جنہیں عنقریب ہم دیں گے

۲۲۷ اگرچہ آج یہود دنیا میں سب سے ٹری سود خور قوم ہے اور دولت جمع کرنے میں ہر حیلہ و فریب سے کام لیتے ہیں ضرب المثل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دین نے ان کو ایسے قبائح کی اجازت دی۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ ان بالتوں سے انھیں منع کیا گیا تھا لیکن باز نہ آتے۔ ان کی تواریخ میں اب بھی ایسی واضح آیات موجود ہیں جن میں انھیں سود لینے سے روکا گیا ہے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے فرخناہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ (خرود: ۴۲: ۲۵)

۲۲۸ یہود کی کثرت غالباً اگرچہ پدراست آسمانی کو عملی طور پر چھوڑ چکی تھی لیکن ان میں بھی خال خال ایسے علماء موجود تھے جن کی معلومات اپنے دین کے متعلق سطحی قسم کی نہ تھیں بلکہ ٹھوس قابلیت کے مالک تھے جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ اور اپنے علم کے مطابق عمل پر ای تھے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن حکیم ان لفوس قدسیہ کا ذکر نہ فرماتا۔

۲۲۹ اس کا عطف المونون پر ہے۔ سخنی قاعدہ کے مطابق المقيمون ہونا چاہیے اسے اپنے معطوف علیہ کے خلاف اعراب کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق علماء نے تقدیر ہو اب دیتے لیکن سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جو سیبوری نے کی۔ قال سیبوریہ هذل باب ما ینصب على التقطیل: کم قیمین پر نصب تعظیم کی وجہ سے ہے وہنا اصح ماقبل فیہ (قرطبی)

أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ

اجر عظیم بے شک نہ وحی بھی آپ کی طرف ۲۷۲۔ جیسے وحی بھی ہم نے نوحؑ کی طرف

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

اور ان نبیوں کی طرف جو نوحؑ کے بعد آتے اور (جیسے) وحی بھی ہم نے ابراہیمؑ، اسماعیلؑ،

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَآيُوبَ وَيُونُسَ وَ

اسحقؑ، یعقوبؑ اور ان کے بیٹوں اور علیؑ، ایوبؑ، یونسؑ،

هُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّبَعْنَا دَادَ زَبُورًا وَرَسُلًا قَدْ قَصَّاهُمْ

ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف اور ہم نے عطا فرمائی داد و کوز بور اور (جیسے وحی بھی) دوسرا رسولوں پر جن کا حالان ہیں کو دیکھیے

۲۷۲ نعمت عربی میں وحی کا معنی اشارہ کرتا ہے جیسے فادحی الیہوان سبعوا بکرہ و عشاہ حضرت زکیانے انجین شاہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کریں اور اس کا اطلاق مختلف مفہوموں پر پوتا رہتا ہے بطريقہ الامم کسی چیز کو دل میں ڈال دینے کو بھی وحی کہتے ہیں جیسے واو حینا الی اہم موسیٰ نیز اپنے طبعی اور غیریزی فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہدایت کسی کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف سے ہوتی ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے جیسے واخی ربک الی التحل - اور کسی کو پر اسرار طلاقیہ سے کسی امر کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں جیسے شیاطین الدنس والجن یوحی بعضہم الی بعض - اور انہیاں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بوجوہی کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے وحی اللہ الی انبیائے ہو ما یلقیہ الیہو من العلم الضروری الذي یخفیه عن غیرہم بعد ان یکون اعدا روا لهم لیقیہ بواسطۃ الملائک او بغیر واسطۃ الملاک

ترجمہ - اس علم لقینی اور قطعی کو وحی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے نہیاں اپنے انبیاء کے دلوں میں القار فرماتا ہے۔ جن کے ارواح طیبہ کو اس نے پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے۔ یہ القار کبھی فرشتہ کے واسطہ سے ہوتا ہے اور کبھی بلا واسطہ برداواز است۔ وحی کی حقیقت ذہن شیش کر لینے کے بعد اب آیت پر غور فرمائیے حضور بنی کریمؐ کی نبوت کو یہود بڑے شک کی زگاہ سے دیکھتے اور بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیونکر بنی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہیں کہ آپ سے پہلے اور انہیاں بھی میتوڑ ہوتے اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وحی کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نبی نہیں مانتے چنانہ انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر دیتے تاکہ انجین مجال انکار نہ رہے۔

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ

ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا ہے اور کلام فرمایا اللہ نے

مُولَىٰ تَكْلِيمًا ^{۱۴۶} **رَسُلًا قَبْشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ**

موسیٰ سے خاص کلام ^{۱۴۷} (یعنی ہم نے یہاں رسول خوشخبری دینے کے لیے اور وطنے کے لیے تاکہ نہ رہے

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ^{۱۴۸}

لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی غذر رسولوں کے (آنے کے بعد) اور اللہ تعالیٰ غائب، حکمت ہے کوئی تسلیم کرنے تو اُس کی حرفی

۳۲۸ یہاں سے اس غلط فہمی کا ازالہ کرننا قصوہ ہے کہ انبیاء صرف اتنے ہی ہوتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں اس لیے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قرآن حکیم من نہیں آیا۔ اس سے کوئی یہ نہ بھجو لے کہ دوسرا سے انبیاء کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی علم نہ تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور تو کو سب انبیاء کا علم تھا۔ یہاں نفی زمانہ نہ شستہ کی ہو رہی ہے۔ یہ اس کو مستلزم نہیں کہ آئندہ بھی نہ تباہ ہو۔ لان نفی قصہ میں قبل لا یستلزم رفیق قصہ مطلقاً۔ (روح المعانی)

۳۲۹ مصدر کا ذکر تاکید اور رفع احتمال مجاز کے لیے ہے یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو مousi علیہ السلام سے بھی نہ ریغہ فرشتہ ہوتی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے۔ بلکہ حقیقتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے بغیر کلام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے خاص ضلع سے متاز کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بے واسطہ گفتگو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہوتی لیکن مousi سے وادیٰ این میں اور صاف سے بالائے عرش۔ بس ڈھنی فرق بھلیم اور جلیب میں ہے۔ علامہ آلوسی بخداوی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو بھجو نہ عطا ہو اور بھجو۔ اللہ تعالیٰ نے بعد زیادتی اپنے محبوب کو بھی محبت فرمایا۔ بل ما من ذرۃ نور شعت فی العَلَمِینَ الاَنْصَدَتْ بِهَا شمس ذاتِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وَلَلَّهُ سَبَحَنَهُ دَرَالْبُوصِيرِی حیدث یقول ہے

وَكَلَّمَ أَنْتَ الرَّسُلَ الْكَرَامَ بِهَا فَإِنَّمَا التَّصْلِتُ مِنْ نُورٍ بِهِمْ (روح المعانی)

یعنی سارے جہاںوں میں نور گئی کوئی کرن جو کہیں جا کر رہی ہے وہ آنفاب محدثی کا صدقہ ہے۔ اور علامہ بوصیری نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ اللہ کے معزز و مکرم رسولوں تجویز بھجو۔ بھی ملا ہے وہ درحقیقت آپ کے نور کا فیضان ہے۔

۳۲۵ یعنی ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں اور مختلف وقتوں میں اس لیے بنی اور رسول مبعوث فرماتے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں اور یوم حشر جب وہ بھاری جناب میں پیش ہوں تو یہ عذر نہ ملیں کہ کسیکیں کہ ہمیں ہماری گمراہی پر کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیغمبر کہا جس نے ہمیں حق کی دعوت دی اور ہم نے قبول نہ کی جب ہمیں

لَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ عِلْمٌ هُوَ الْمَلِكُ كُلُّهُ

لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ریجیو اس نے آپ کی طرف تاری کلاس نے اسے اٹاہے اپنے علم سے اور فرشتے بھی ہے

يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَصَدُّوا

گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ بے شک لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دو کا (دوسریں کو)

عَنْ سَيِّئِ الْكُلُّ قَدْ ضَلُّوا صَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللہ کی راہ سے ۲۵۳ وہ گمراہ ہوتے اور مگر ہی میں بہت دُور نکل گئے بے شک جنہوں نے کفر کیا

وَظَلَمُوا لَهُمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَغْفِرَ لَهُمْ طَرِيقًا ۝

اور ظلم کیا ہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ جتنی دے انہیں اور نہ یہ کہ دکھاتے ۲۵۴ اخیں (سیدھی) راہ

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

بجز جہنم کی راہ کے ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہے

حق کی طرف بلانے والا آپ نے چھیاہی نہیں تو پھر ہمیں آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کے اس عذر کو دُور کرنے کے لیے انبیاء و رسول مبینوں کیے گئے۔

۲۵۴ جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آئے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی۔ اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً گوئی ضرورت نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے اس کی صحیانی کی گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت ہر جملہ بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ بوشض تھسب سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کر کرے گا وہ بے ساختہ کہ اُنھوں نے کہہ کرہ کتاب اللہ کی نازل کر دے ہے۔

۲۵۵ ہم ضرور صلحی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و مکالات جو تورات میں موجود تھے ان کا انکار کر کے اُنھوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ ای دین الاسلام بانکارہمون غلت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ۲۵۶ کیونکہ اُنھوں نے خود قبول حق کی استعداد کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے اعمال سنتی سے اپنے آپ کو جنم کی سزا کا مستحق بنادیا ہے۔

يَسِيرًا ۝ يَا يَهُوَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ۝ ۱۴۹

بالکل آسان ہے اے لوگو! تحقیق آگیا ہے مختارے پاس رسول حق کے ساتھ مختارے ب کی طرف سے

فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُونُ تَكْفِيرُ وَأَفْانَ اللَّهَ كَافِي السَّمَوَاتِ

پس تم ایمان لا دو یہ بہتر ہے مختارے لیے اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمًا ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا

اور زمین میں ہے اور ہے اللہ سب کچھ جانے والا حکمت والا اے اہل کتاب نہ غلو کرو ۲۵۲

فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا إِنَّهُ أَعْلَمُ بِأَنَّهَا مُسِيْحٌ عِيسَى

اپنے دین میں اور نہ کو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر یعنی بات بے شک مسیح عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَقْهَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ

پس مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ۲۵۳ جس اللہ نے پہنچایا مختاریم کی طرف اور ایک روح تھی

۲۵۳ اس سے پہلے یہود کا ذکر تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام بلند کو نہ پہچانا اور آپ کو نبی ماننا تو کجا ایسے یہ آدمی بھی بتکر کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی والدہ طاہرہ پر گندے سے گندے بہتان لگاتے ہیں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی مذہبی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی تردید کے بعد رُو تے سخن دوسرا قوم کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو یوں بڑھایا کہ انھیں فدا یا خدا کا عالمانہ انشار فرع کر دیا۔ اب انھیں اس غلو سے روکا جا رہا ہے اور انھیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خُدُّ انہیں، خُدُّ اسکے بیٹے نہیں بلکہ خُدُّ کے برگزیدہ رسول اور مقبول بنے ہیں غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا الغلو التجاوز فی الحد (قطبی) قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کلمہ اور رُوح کے الفاظ کا ذکر اکثر ملتا ہے اس لیے ان کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنا انہوں نے ضروری ہے تاکہ کسی کی وسواسنہ لازمی سے انسان متاثر نہ ہو۔

۲۵۴ کلم کا الغوئی معنی تو ہے دماینطون بہ الاسنان جس کے ساتھ نقط کیا جاتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپس کا اطلاق تھی میں نہیں بلکہ مجاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ مجاز کیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ کے اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ ہر ہو لود کے دو سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی تخلیق سے

مِنْهُ فَإِنْوَأِ الَّلَّهَ وَرَسُلَّهُ وَلَا تَقُولُوا شَكْلَةً إِنْ تَهْوَى خَيْرًا

اس کی طرف ہے۔ پر ایمان لا اور اللہ اور اس کے رسولوں پر اور رہ کو ۳۵ تین (خدا ہیں) باذ آجھا (ایسا کہتے سے) یہ بہتر ہے متعلق ہے اور وہ اپنی زبان قدرت سے کوئی فنا کر سے ادنیٰ ختم ہو دے دوسرا سبب یہ ہے کہ مادہ منوی شکم مادریں قرار کرٹے اور وقت معین گزرنے کے بعد اس کی ولادت ہو۔ پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نکاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے تو سبب بعد کہہ لیجئے اور دوسرا سبب کیونکہ عادی اور عام ہے اور اسے ہر ایک جانتا ہے مون ہو یا غیر مون اس لیے اسے سبب قریب کہہ لیجئے راب یہاں دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب یعنی مادہ منوی موجود ہیں اس لیے ان پر سبب بعيد یعنی کلمہ "کن" کا اطلاق کر دیا اور آپ کو کلمۃ اللہ یا کلمۃ منہ کہہ دیا۔ اور عربی لغت میں سبب کا اطلاق مسبب پر عام ہوتا رہتا ہے جیسے حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تعلق فرمایا۔ انا دعوة ابی ابراهیم یعنی میں اپنے پدر بزرگوار ابراہیمؑ کے دعا ہوں حالانکہ آپ دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے۔ دعا ابراہیمؑ کی تشریف اوری کا سبب بنی محی اس لیے آپ پر دعا کا اطلاق کر دیا تیر کلمہ کا افظع بشارت اور آیت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا رہتا ہے اس صورت میں معنی یہ یوگا کہ آپ دعا بشارت ہیں جو حضرت مریمؑ کو دی گئی تھی یا آپ اللہ کی قدرت کی آیت (نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی) ہیں۔

۲۵۶ رُوح کا معنی ہے مابہ الحياة جس کے ساتھ زندگی قائم ہو۔ اور زندگی و قسم کی ہوتی ہے جسی ہو معنوی حیثی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا پڑنا، بولنا، سُننا اور سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں اور معنوی وہ ہے جس سے مکار اخلاق رحم، سخاوت، محبت وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکم کو بھی کتنی بار رُوح کہا گیا ہے کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے وکن لاث او حیدنا الیک روح امن امرنا۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر رُوح یعنی قرآن نازل فرمایا۔ اور حضرت مسیح کیونکہ جیات جسی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے اس لیے آپ کو بطور مبالغہ رُوح یعنی سر لای رُوح کہہ دیا جیسے تم کسی بہت خوب صورت انسان کو "حسن مجسم" کہہ دیتے ہیں۔

منہ۔ رُوح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جزئیت کی نہیں بلکہ تشریف و تفضیل کی ہے اور یہ اضافت قیام اور کلام عرب میں عام ہے مثلاً اللہ تعالیٰ شیطان کو فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہ سلطان یعنی میرے بندوں پر توقابو نہیں پاسکتا۔ بندے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں مون ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد۔ لیکن اطاعت شعبان بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنا مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف و عزت بخشی۔ یہاں بھی رُوح منہ یا رُوح اللہ کہہ کر اس خصوصی شرف و مقبولیت کا اطمہما مقصود ہے جو حضرت علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں حاصل ہے منہ کے لفظ سے یہ کہنا کہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کی جمیں ہیں بالکل ناجحت ہے کیونکہ آپ اس طرح جزئیت ثابت کرنے پر بقدر ہوں تو پھر اس میں حضرت علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ قرآن میں حضرت

لَكُمْ طَرِيقُكُمْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَاحْدَهُ سُبْحَنَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَكُمْ مِلَّةُ مَا

محالے یہے بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی ترکا اسی کا (ملک) ہے

اُدمٰ علیہ السلام کے متعلق صاف موجود ہے کہ نفخت فیہ من روحی کہیں نے اپنی روح آدم میں پھونک دی۔ صرف آدم نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے متعلق ارشاد ہے شوجعل نسلہ من سلالۃ من ماء مهین شوسواہ و نفحہ فیہ من روحہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آدم کو مادہ منویہ سے تخلیق کر کے اور اس کے اعضاء کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ صرف آدم و بنی آدم ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا جزو و مانا ہے گا و سخرنکو مافی السموات و مافی الارض جمیع امنہ۔ اگر من روحي اور من روحہ اور منہ کے الفاظ سے کسی چیز کی بہتیت ثابت نہیں ہوتی تو یہ اگر وہی لفظ حضرت مسیح کے لیے استعمال ہوں تو ان سے بہتیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں میں اب بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے قرآن کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ روح الامین کے پھونک مارنے سے آپ کی ولادت ہوتی۔ ملاحظہ ہو۔ اما اولاد ایسوسع المیسر فکانت هکذا: لما كانت مریوامة مخطوبة لیوسف قبل ان یجتمعوا بعد جدت جبلی من الرّح
القدس۔ اس علی عمارت کا ترجمہ اُردو میں ملاحظہ ہو:-

"اب لیسوع میسح کی پیدائش اس طرح ہوتی کہ جب اس کی ماں مریم کی مغلنی یوسف کے ساتھ ہوتی تو ان کے اکٹھے ہوتے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی" (انجیل متی ۱۸:۱)

۲۵۷۔ قرآن حکیم نے حضرت مسیح کی ہستی کے متعلق جو صدیوں سے ایک ہمدرہ کی ہتھی صاف الفاظ میں صراحت کرو دی کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں اور بن بابا اس کے کلمہ نہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب رُوحوں میں سے ایک مقدس رُوح ہیں۔ اب ان الفاظ سے عیسیٰ یوں کو ان کے غلط عقیدہ سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہے اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کی ایک اور روشن دلیل ہے کہ ثلثہ جو خبر ہے اس کو ذکر کیا اور اس کی مبتدا کو مخذوف کر دیا کیونکہ تثنیت میں تو عیسیٰ یوں کے تقریباً تمام فرقے متحاذ ہیں لیکن ان کی تفصیل میں ان کا باہمی اتنا اختلاف اور تضاد ہے کہ یہ مسلمہ ان کے نزدیک بھی ایک چیستان بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی ایک مبتدا بیان کر دی جاتی تو تثنیت کی ایک صورت تو ممنوع ہو جاتی اور تثنیت کی دوسری اقسام کا حکم معلوم نہ ہو سکتا۔ اس لیے ہم برکے ذکر پر اتفاق کیا تاکہ موقع اور محل کے مطابق مبتدا مقدمہ مان لی جاتے۔ یہاں یہ تو نہیں کہ عیسیٰ یوں کے تمام فرقوں کا تثنیت کے بارے میں بوجو عقیدہ ہے ان سب کو بیان کروں لیکن ان کے چند اہم فرقوں کے نظریات بیان کرنے کی ضرور جبارت کروں گا۔

اس بات پر تو تقریباً سب عیسائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجویز یہ کے واحد ہے۔ اور

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْكَفِي بِاللَّهِ وَكَيْلًا

جو پچھر آسمانوں میں اور جو پچھر زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز

بیحتیت اقایم تین ہے۔ وجود علم اور حیات کو اقایم کہتے ہیں (اقایم کا واحد اقوام ہے) جس کا معنی شخص اور اصل ہے۔ (الاقوم؛ الشخص، الاصل، اصول) اقانیو والكلمة من الدخيل (المنجد) وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان تین اقایم کا تعلق جو ہر ریعنی اللہ سے نیسا ہے۔

۱۔ ایک فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ تین اقایم اور جو ہر قریم الگ الگ ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا ہے۔ اور اقوام ثالثی ریعنی علم حضرت مسیح کے جنم سے متحدو ہو گیا جیسے شراب اور پانی ملنے کے بعد ایک جان ہو جاتے ہیں اور دیس بھی ازی قدم ہے۔ اور مریم نے ازی قدم کو جنا ہے۔

۲۔ ایک اور فرقہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا ریعنی مسیح کی دو عیشیتیں ہیں ایک لا ہنوتی اور ایک ناسوتی۔ اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ خدا تے کامل ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کا خہر اس جسد عرضی میں ہو انسان کامل ہے اس لئے یہ قریم بھی ہے اور حادث بھی۔ اور قریم و حادث کا یہ اتحاد نہ قریم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔

۳۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کلمہ ریعنی اقوام ثانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدا مسیح کی شکل میں رہو ہوا ہوا۔

۴۔ بعض کی راستے یہ ہے کہ القدیم کے جو ہر انسان حادث کے جو ہر میں یوں انتراج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک چیزوں جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہر قریم اور جو ہر حادث کے مجموعہ کا نام مسیح ہے اور وہی خدا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا انسان نہ بن سکا لیکن انسان خدا بن گیا جیسے الگ الگ کوئی نہیں بن سکتی تو کونہ تو الگ بن جاتا ہے۔

اس سلسلہ کو کہاں تک طول دیں میشته نہونہ از خوارے بس سست۔ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جسے عقل سمجھ سکے۔ بہر حال ایک چیز واضح ہو گئی کہ ان تمام اختلافات کے باوجود تیثیت کے عقیدہ پر سب متفق ہیں۔ گونو ان جداجہا ہیں لیکن معنوں ایک ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا معہم ہے جس کو حل کرنے کے لیے عیسائیت کے بڑے بڑے مدربوں اور دانشوروں نے سر توڑا کو شش کی لیکن نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ آخر ایک ہی چیز کو قدم اور حادث، خدا اور بندہ اور الہتہ ناسوت کا مجموعہ کیسے تصور کر لیا جاتے۔ اگر تاریخ نہ ہے بعلم کامطا العکیبا جاتے تو تیثیت کا عقیدہ تمام مشکرانہ زادہ ہیں مُشرک نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ”تری مورتی“ یعنی برمہا، دشنا و درشیو کی عبادت کی جاتی ہے جن کے لیے وہ ان تین حروف (ا، و، م) کو بطور مراست تعالیٰ کرتے ہیں۔ چین میں ”تاو“ ایک ایسا خدا ہے جس کی تین اقایم ہیں مصطفیٰ میں معبد تیفیس کے قسیں شاولث مقدس کی تعلیم دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ پہلے نے دوسرا کے او ر دو لوگ

لَنْ يَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ

ہرگز عار نہ سمجھے گا میسح (علیہ السلام) کہ وہ ۲۵۸ بندہ ہو اللہ کا اور نہی مقرب فرشتے

الْمَقْرُوبُنَ وَمَنْ يَسْتَكِفُ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِفُ فَسِيدَ الْجَهَنَّمِ وَهُوَ

(اس کو عار سمجھیں گے) اور جسے عار ہو اس کی بندگی سے اور وہ تحریر کرے تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا

إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَنَّا اللَّهُ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرِيدُ إِنَّمَا الَّذِينَ يُنَزَّلُونَ مِنَ السَّمَاءِ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ان سب کو اپنے ہاں پھر جو ایمان لاتے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انھیں

نے مل کر تیرے کو پیدا کیا۔ اُن کے اعتقاد میں اتفاق شانی کو کلمہ، نیز دوسرا خدا اور اللہ کا پوٹھی کا بیٹا کہا جاتا ہا بلکہ ویسے جیسے اب عیسائی کلمہ کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں، اور فارس میں بھی ایک ایسے الکی پرستش کی جاتی تھی جو مشتمل اللہ القائم تھا جن کے نام یہ تھے ازمرد، مترات اور اہمن۔ مترات کو وہ بھی ابن اللہ کہا کرتے۔ اور خود یورپ میں مسیحیت سے پہلے تشییث کا عقیدہ راجح تھا۔ چنانچہ یونانی ایک ایسے خدا کے قائل تھے جس کی تین اقایم تھیں۔ اور روم کے قدیم بُت پرست بھی تشییث کے قائل تھے۔ اور اللہ، کلمہ اور روح پر ایمان رکھتے تھے۔ اس مطالعہ کے بعد یہ تحریر نہ کافی مشکل نہیں کہ جب عیسائیت مشرق اوس طے سے یورپ میں پہنچی اور قسطنطینی شاہ روم نے اسے قبول کیا تو وہی تشییث جواہل یورپ کے عقیدہ میں غیر معلوم زمانہ سے چل آئی تھی منتقل ہو کر ایک ایسے دین میں آگئی جو سراسر توحید خالص کا علم بردار تھا انجیل مقدس کی یہ آیت اب بھی اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا اور اس کے پیغمبر کا دامن شرک کی ان آئو گیوں سے پاک ہے۔

حضرت میسح علیہ السلام فرماتے ہیں :-

هذا هي الحياة البدية ان يعرفوك انت الا الله الحقيقي وحدك وليس العيسى الذي ارسلته۔ (انجیل یوحنا)

یہیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجوہ نہ دلتے واحد اور بحق کو اور یسوع میسح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔

(انجیل یوحنا باب ۱۷: ۳۴)

۲۵۸ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف باعثت ہزار فخر و نازلش ہے وہ بھلاکیوں اس کو عار سمجھیں۔ اور حقیقتہ یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اپنے معبود و حقیقی کو چھپان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا طوق ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو۔ حضور رحمۃ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام جب محراب کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بہما اشرف کے یا محمدؐ۔ آے سرا پستاش و خوبی امیں آج

أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَآمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفَفُوا

آن کے اجر اور زیادہ بھی دے گا انھیں اپنے فضل (وکرم) سے۔ لیکن جھنوں نے عار سمجھا (بندہ یعنی کو)

وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعْدُ بِهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^{١٧٣} وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ

اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انھیں دردناک عذاب اور نہ پائیں گے اپنے لیے

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا^{١٧٤} يَا يَاهَا النَّاسُ قُدْجَاءَكُمْ

اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار آے لوگو! آ چکی ہے تھاکے

بُرُهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا^{١٧٥} فَاقَا الَّذِينَ

پاس ایک روشن (ذیل تھاکے پر دگار کی طرف سے اور ہم نے آتا ہے تھاکی طرف نور دخشاں تو بو لوگ

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُلُّ خَلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ

امیان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مبینوں سے پھر طیا اللہ کی رسمی (کوتی) کو تو معقریب داخل کرے گا انھیں اپنی رحمت

وَفَضْلٌ وَيَهْدِيْهُمْ إِلَيْكُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا^{١٧٦} يَسْتَقْتُلُنَّكُمْ

اور فضل میں اور پہنچائے گا انھیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر (ائے میرے سوول) قتوی پوچھتے ہیں

قُلِ اللَّهُ يُفْتَيِّكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنَّ امْرَوْا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

اپ سے۔ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ اقویٰ دیتا ہے تھیں کل المركبی میراث) کے بارے میں ۲۵۹ کہ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے تو بوجس کی کوئی اولاد

تجھے کس اعمان سے مشرف کروں تو حضور نے عرض کی بنسدتی الیک بالعبدیۃ مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فما رثاید یہی حمکت ہے کہ جس آیت میں معراج کا ذکر ہے وہاں حضور کے متعلق عبدہ کا لفظ نہ کوئے استندکف (الحل: استکبر و استنکف من کذا: امتنع انفة و حمیة واستکبارا (المنجد)، یعنی تکبر کرنا، ازراہ سخوت و غرور کسی چیز سے رُک جانا۔

وَهُنَّ كَلَّةٌ أَسْتَهْمِنَّ بِهِمْ جَسَدَهُمْ كَيْفَ يَرَوْنَهُمْ

وَلَكَ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثِي هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ

اور اس کی ایک بین ہو تو بین کا نصف حصہ ہے اس کے ترک سے ۲۴۱ نہ اور وہ وارث ہو گا اپنی بین کا اگر نہ ہو اس بین

لَهَا وَلَكَ فَإِنْ كَانَا ثَتَّابَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْلَثُنِ مِمَّا تَرَكَ وَلَكُنْ

کی کوئی اولاد - پھر اگر دو بہنیں ہوں ۲۴۲ تو ان دونوں کو دو تمہانی ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا اور اگر

كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُرْمَشُلُ حَظُ الْأُنْثَيَيْنِ ط

وارث ہوں بین بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی ۲۴۳ تکہ تومرد (بھائی) کا حصہ دو عورتوں (بہنوں) کے حصہ کے برابر ہے

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضْلُوا طَوْلًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۷۷

صفات صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے (ایضاً) احکام ۲۴۳ تکہ مکراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو غوب جانے والا ہے ۲۴۴

۲۴۰ وہ بین جو صرف ماں کی طرف سے ہو اس کا حکم پیدا گز رچکا۔ بہاں بین سے مراد سکی اور باپ کی طرف سے جو بین ہو اس کا ذکر ہو رہا ہے ایسی بین کو نصف ترک ملے گا۔ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصیہ ہو الیعنی چاپ، چاپ زاد بھائی وغیرہ تو ان کو ملے گا۔ ورنہ یہ نصف بھی بین کی طرف لوٹ آتے گا۔

۲۴۱ اور بقیہ شلت عصیہ کو ملے گا اور اگر عصیہ کوئی نہ ہو تو پھر یہ بھی ان کو ملے گا۔ دو یادو سے زائد بہنوں کا یہی حکم ہے۔

۲۴۲ اگر کلام تکے والوں میں بھائی اور بین و نوں ہوں تو بھائی کو دو حصے اور بین کو ایک حصہ ملے گا۔

۲۴۳ احکام میراث کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی غرض تبادی کہ تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں مکراہ نہ ہو جاؤ۔

۲۴۴ یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تخلیق نہیں جس کی معلومات ادھوری اور ناقص ہوں۔ بلکہ اس قادر تو انارب العزّ کا مقرر فرود ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جانے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَعْرِفُ سُورَةَ الْأَمْرِ

اُس سُورَةٍ پاک کا نامِ المائدة تھے اور یہ مدینی ہے کیونکہ حضرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں خواہ وہ مذکورہ طبیبہ میں نازل ہوئی ہوں یا مذکورہ طبیبہ سے باہر حالت سفریں یا حج و عمرہ کے ایام میں خاص مکرہ میں سب کو مدینی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک سورتیں آیات، اور رسولہ رکوع ہیں اس کے حروف کی تعداد ۴۲۴ ہے۔

اس سُورَةٍ کی فقط ایک آیت الیومِ الکملت لکھا گئی کے متعلق توقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وہ ذی الحجه نماز ہوئی۔ باقی آیات کی تاریخِ نزول نے متعلق وثائق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن مختلف روایات میں غور و فکر کرنے سے یقین ہے اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اس کا نزول صلح حدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اختتام ہوا۔

یہ چند سالِ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مدینہ کے افتخار کے جو سیاہ بادل ہر وقت منڈلا یا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے تھے۔ لفڑا پر یہ تحقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ اسلام ایک قوت ہے اس کو مٹانا بہ ان کے لیے کی بات نہیں۔ یہودیوں کا زور بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ مدینہ اور اس کے گرد و نواحی میں ان کی سب بستیاں گڑھیاں اور قلعے مسلمانوں کے تصرف میں تھے۔ غرضیکہ مظلومیت کی طویل اوتار ایک رات اب ختم ہو رہی تھی اور افتابِ اقبالِ طلوع ہو رہا تھا۔ ان بد لے ہوئے حالات میں یہ سُورَةٌ نازل ہوئی۔ اب یہیں دیکھنا ہے کہ قرآنِ حکیم نے مسلمانوں کو کیا ہدایات فرمائیں۔

- ۱۔ اس سُورَةٍ کا آغاز تربیتِ اخلاق سے ہو رہا ہے اس لیے پسے اسی عنوان پر غور کریں۔ اس سُورَةٍ میں مختلف اقسام کے اخلاقی سبق دیتے گئے ہیں جن کا تعلق جس طرح ایک قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے اسی طرح ان کا تعلق بین الاقوامی معاملات اور تعلقات سے بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ خواہ یہ وعدہ بخی کا وبار کے متعلق ہوا پسے حیلہوں سے ہو اور خواہ اپنے ربِ ذوالجگہ والعلی سے ہو۔ آج کل کی متعدد قومیں یہ درست ہے کہ اپنے انفرادی وعدوں کی کسی حد تک پاندھی کرتی ہیں لیکن سیاسی زندگی میں اپنے وعدوں کی جو مٹی پلید کرتی ہیں وہ محترج بیان نہیں مسلمانوں کا رب اُنھیں حکم دیتا ہے کہ جو وعدہ کرو اسے

پُورا کرو خواہ وہ وعدہ حدیثہ کے میدان میں دشمنانِ اسلام سے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اب جب قوتِ واقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے تو ان کو صاف صاف اور کسی کسی با حکم دیا کر جب قضائی کمی پڑھو تو یاد رہے عدل وال صاف متحار اشعار ہو۔ فلت مقدمہ متحار اور شمن ذاتی نہیں بلکہ دینی دنی ہی نہیں نہ ہو عدل کا دامن متحار سے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ نیز فرمایا کہ اقوام عالم سے متحار سے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نکی اور بھلائی کے ہر کام میں انھیں متحاری معاوحت حاصل ہو اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں تم اُن سے اشتراک نہ کرو فتنہ آدم کا قصہ بیان کر کے بتایا کہ حسد بہت بُرجی چیز ہے اس نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنادیا تم اس مذوم خصلت سے احتراز کرنا۔

۴۔ آسمانی کتابیں۔ بُوسنی اہم چیز جس کا ذکر اس سورۃ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تورات انجیل اور قرآن الگ الگ نظریات کے علم بردار نہیں بلکہ یہ تینوں نہیں ایک ہی سرخشمہ فیض سے پھوٹی ہیں۔ تورات کے متعلق فرمایا کہ فیہاہدی و نور انجیل کے متعلق بھی یہی الفاظ فرماتے کہ فیہ هدی و نور اور قرآن کے متعلق تو بار بار یہی فرمایا گیا معلوم ہوا سب میں ہدایت ہے سب میں نور ہے۔ اور ہر ایک کتاب میں اسے زمانہ کے مطابق شریعت کا متمکل ترین نظام اور اخلاقیات و معاملات کا واضح ضابط موجود تھا۔ اور ان سب کا جامع اور ان تمام بلند اخلاقی قدروں کا نقیب، محافظہ اور نگہبان قرآن مجید ہے۔

۵۔ حاملانِ قرآن کو تنبیہ فرادی کر دیکھو! ہدایت و نور یہود کے پاس بھی آیا اور نصاریٰ کے پاس بھی یہیں انھوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اسے فلامِ مصطفیٰ اب وہی ہدایت و نور اپنی پُوری آب و تاب اور شوکت جلال سے متحار سے مطلع ہیات پر فوج دار ہو رہا ہے۔ اور تھیں اس سے استفادہ کا موقع دیا جا رہا ہے کہیں تم بھی اپنے پیش روؤں کی طرح اپنی خواہشات اور خود ساختہ صلحتوں کی قربان گاہ پر اسے بھینٹ نہ پڑھا دینا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پُوری پُوری تعمیل کرنا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ منکر حق ہے۔ وہ نافرمان ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہود و نصاراً لے خود تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ تھیں بھی جادہ حق سے بھلانے پھسلانے کی انتہائی کوشش کریں گے رجبار! ہوشیار!

ان کے دام فریب میں نہ پھنس جانا۔ واحد دان یفتتوک عن بعض ما انزل اللہ الیاک۔

معلوم ہوتا ہے اہل حق کو حق سے برگشته کرنے کی جو کوشش اس وقت شروع ہوتی تھی وہ بدستور جاری ہے اور پہلے کی شبکت زیادہ تندری اور تیزی سے اور اسی تحریک کے پیدا کردہ وہ وسو سے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی مملکتوں کے سربراہ اسلامی قانون کو اپنانے سے ہراساں ہیں۔ بات تصرف اتنی ہے کہ جس طرح پوری یاک بھتی کے ساتھ ایک بار اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ان فتنگی اتفاقوں کی ظاہری غلامی کے زنجیر توڑے ہیں۔ لیں ایک بار اور جی کڑا کر کے اللہ اکبر ہیں اور ذہنی غلامی کا طیسم بھی توڑ کر رکھ دیں۔ قوتِ یقین اور ذوق عمل کا ایک منجز ہے چند سال ہوئے ہم نے اپنی ایکھوں سے

ویکا ہے اور اقوام عالم کو دکھایا ہے۔ فقط ایک اور بھروسہ منانی کی ضرورت ہے۔ وادی امین سے تواب بھی یہ اواز دادم آرہی ہے۔ لاخف انک انت الاعلیٰ گھبرا نہیں تو ہی سرفراز و کامیاب ہے اور الٹ مافی یمندنا کا حکم مل ہا ہے لیکن ہم ہیں کہ ساحر فرنگ کی شعبدہ بازیوں سے دم بخود ہوتے بلیطے ہیں۔

افحکم الجاہلیۃ بیعون کیا تم جاہلیت کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ کی توفیق سے یہ بتا کہ الگ تھاری غفلت کے باعث حق کا چراغ مل ہو گیا تو پھر "جاہلیت" کا اندر ہی اچھا جاتے گا۔ اور "جاہلیت" خواہ اس کے چہرہ کو علم و فن کی مشتعلی نے کسی دل آرام کی طرح بہت ہی دلکش و دل فریب بنایا ہو۔ اس کی رُوح خالم ہے اس کی فطرت بے رحم ہے وہ تھاری ساری عزمی قدروں اور عقائد کو کھل دے گی رونداں کے گی بلکہ خود قم سے رونداڑلے گی۔

۲۔ قرآن جو شریعت کے کرایا اس کی کتنی حُجْمَتات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ حج کے آداب۔ شعائر اللہ کی تعظیم، شراب اور بجوا کی قطعی مانع، وضو و نیم کے احکام، حلال و حرام اشیاء کا ذکر، پر امن راستوں پر ڈالنی کرنے والوں اور پوری کرنے والوں کے لیے عبرتاں سزاویں وغیرہ جن کا تفصیلی تذکرہ اپنے اپنے مقام پر ہے گا۔

۳۔ لات وہبل کا زور لٹک چکا تھا۔ ان کے اپنے ماننے والے ان سے بدظن ہو چکے تھے۔ اب صرف اتنی ہی دیر تھی کہ کوئی دھکا دے اور وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گر رہیں۔ لیکن شرک کی ایک اور ستم دنیا کے ایک ویسیع حجتہ کو اپنی پلیٹ میں لیے ہوئے تھی یعنی عیسائیوں کا عقیدہ تثییث۔ جس کی اشاعت کے لیے شاہی خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ جس کی حفاظت کے لیے پے شمار تلواریں لے نیام تھیں۔ اور جب کبھی رسی فکری بھر جان نے اسے دُو دھراغِ محفل بنانا چاہا تو ٹھہماں فلسفہ یونان و روما کا جاہب اکبرتان کو کھڑے ہو جاتے۔ قرآن نے اس عقیدہ کا پہلے بھی محسوب کیا ہے۔ اور یہاں بھی بڑی بے تکلفی اور فطری سادگی سے اس کا بجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو ماں کے شکم سے پیدا ہو۔ جو اپنی بقا کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہو وہ بندہ ہو سکتا ہے مقبول ترین بندہ، محبوب ترین بندہ، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ اور روز قیامت پیش آئنے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح کی زبانی توحید خاص کا اعلان کر دیا۔

۴۔ اس سورہ کا طریقہ امتیاز وہ آیت کرمیہ ہے جو بتایر تحریخ ۹۔ ذی الحجه میدان عرفات میں رحمت عالمیاں ہسپیکر ہدایت، اور بھیسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایو مرکم دیت لکھ دین کرو و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکھوں اسلام دینا۔ دین کی تکمیل کا اعلان! اتمام نعمت کا مرضیہ اللہ اللہ! ابلال کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے ڈب دیا گئی ہوں گی۔ ابو بکرؓ کی جیین نیاز سجدہ میں بھاگ گئی ہوگی۔ عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ کے چہرے فرط مسرت سے رشکِ مرتباں بن گئے ہوں گے اور حمزہؓ، یاسرؓ، سمیہؓ اور حبابؓ اپنے مزارات پر اواریں ربتِ ذوالجلال کی حد و ثنا معلوم نہیں کوڑو سلسیل سے دھلے ہوئے کن نو اپنی کلمات سے کرنے لگے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہجھوم اٹھا۔

ہوگا۔ اللہ رب السموات والارض کی ساری نوری مخلوقات اس کے حبیب، اس کے رسول، اس کے صفی اور اس کے عبدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام کے پھول شارکر رہی ہوگی۔ فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفی مسلماً و الحقی بالصالحین بجاه سیدی و مولائی وجیبی محمد الامین وآلہ الطیبین آمین آمین یارب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سوہا ملکہ دینے سے اس کی) اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو بہت سی ہم بان جمعیتی رحکومانیے والا ہے (آئش ۱۷۰، اور رکو ع ۱۴۶ م)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ إِذْ أَحْلَتُ لَكُمْ بَهِيمَةً

آئے ایمان والوں پورا کرو (اپنے) عہدوں کو اے حلال کے گئے ہیں تھا رے لئے رے زبان

الأنعام إلّا مَا يُتّلِى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَإِنَّمَا حُرْمَةٌ

جانور ۳ سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر مُسنا پایا جاتے گا متحیں نہ حلال سمجھو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہوئے

اے جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اُسی کے مطابق اس کو پورا کرنے کو وفا اور الیغام کہتے ہیں۔ عقد و عقد کی جمع ہے۔ اس کا الغوی معنی گردہ لکھا نہ ہے۔ اب اس کا اطلاق اس سچتہ وعدہ پر ہوتا ہے جو دشمنوں کے درمیان طے پائے۔ یہاں عقود سے مراد قہسم کے معاملے سے ہیں خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہوں یا انسان اور انسان کے درمیان ہوں۔ ان کا تعلق دینی احکام سے ہو یا دینیوی معاملات سے ہب اس میں درج ہیں۔ اور سب کی پابندی کا یہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ البنت وہ وعدہ جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اُس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله وسلم نے عہد شکنی کو منافت کی علامت قرار دیا ہے۔ اخلاق کا لکھنا بہترین درس ان دونوںوں میں دیا گیا۔ کاش! سمجھ جیز، اور عمل کرس۔

۳۔ احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کی تعمیل کا وعدہ مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے

کیا کرنا ہے پھلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آکے آ رہا ہے دوسرے موتی تھار سے لے یہ حلال ہیں۔ مشترکین عرب نے اپنے باطل عقائد اور فاسد خجالات کی وجہ سے کتنی ملیشی اپنے اور چرام کر کے تھے مثلًاً بحیرہ وغیرہ۔

نیز کئی مولیشی بطور زبانی اسرائیل پر حرام کر دیتے گئے تھے مثلاً ان کو حکم دیا کہ یہ جاؤ تھارے لیے حلال ہیں۔ بھیمة کا معنی علامہ راغب نے کیا ہے حالانکہ لہ یعنی بے زبان۔ ترجمہ میں میں نے یہی معنی اختیار کیا ہے۔ بعض علماء کی راتے ہے

کہ ہر جو پاٹے کو بھیمہ کہا جاتا ہے اسولکل ذی اربع اس صورت میں اس کی اضافت انعام کی طرف اضافت بیانیہ ہوگئی۔ بعض دنگر ایل علک کا خجال ہے کہ بھیمہ سے مراد ہرنے والے شکاری حالوڑہن مثلاً سرلن نیزل گاتے وغیرہ۔

سے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نے تج و عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو پھر متحار کے لیے خشکی کا شکار ممتوحہ ہے

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْنُوا لَا تُحْلِوْا شَعَابِرَ

بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے ہے اے ایمان والوں بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں

اللَّهُ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَادَ وَلَا آمِينَ

کی شہ اور نہ عزت والہ میں کی اور نہ حرم کو بھی ہوئی قربانیوں کی اور نہ حن کے گلے میں پڑے ڈالے گئے ہیں اور نہ بے حرمتی کرو جو

۲۷۔ بشیر احکام جو اس وقت نازل ہو رہے تھے وہ عرب کے دیرینہ رسم و رواج اور ان کے آبائی عقائد کے بالکل خلاف تھے۔ اس لئے احتمال تھا کہ سوال وجواب کا سلسہ شروع ہو جائے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا۔ اسے کیوں حرام اور اسے کیوں حلال کیا گیا وغیرہ وغیرہ اس لئے یہ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراض کر لیا۔ اس کو علیم و حکیم سیدم کر لیا اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا تو اس قیل و قال کیسی یقین حکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ۔

۲۸۔ امام ابن حجر العسکری تحقیق کرتے ہوئے تھے میں کہ یہ شعیرہ بروزن فتنیہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی حیز کی پچان ہو سکے۔ و شعاشرہ المقاۃ جعلہا امارات بین الحق والباطل یعنی جن سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے ان کو شعاشر اللہ کہتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا طرہ امتیاز مقرر فرمایا ہے ان کی پابندی کرو جن حدود کو قائم کیا ہے ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کے استعمال سے روکا ہے ان کے قریب مبت جاؤ۔ هدیٰ اُس قربانی کے جائز کو گہا جاتا ہے جو حرم شریف کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ قلائل یعنی ذوات قلائل: قربانی کے ان جائزوں کو گہا جانا جو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لے جارہا ہو اور ان کے گلے میں پڑے ڈال دیتے گئے ہوں۔ آمیں: قصد کرنے والے ارادہ کرنے والے نفعی تحقیق کے بعد اب اس آیت کا شانِ تزویں ملاحظہ ہو۔ حطمه بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور حضورؐ سے اسلام کی تحقیقت کے متعلق دریافت کیا۔ حضورؐ نے اسلام کی تحقیقت اس کے سامنے پیش فرمائی۔ سُنْ کر کہنے لگا مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لوں۔ آمید ہے کہ ہم سب آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس کے حاضر خدمت ہونے سے پہلے ہی حضورؐ نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ آج تھمارے پاس قبلیہ ربعیہ کا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گشتوکرے گا۔ اور جب وہ جاتے لگا تو حضورؐ نے فرمایا لقد دخل بوجہ کافروں خدا ج بعقب خادر: جب آیا تھا تو اس کے چہرے پر کفر کی خوست برس رہی تھی اور اب جارہا ہے تو اس کی پیش پرقدیر کے انتہار نہیاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہنوا کہ راستے میں ایک جگہ مسلمانوں کے مولیشی چڑھ رہے تھے ان کو بھگا کر لے گیا اور سال قربانی کے لیے وہ مسلمانوں کے چڑھتے ہوئے مولیشی لے کر ان کے گلے میں قلادے ڈال کر جج کے ارادہ سے انہوں۔

الْبَيْتُ الْحَرَامُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا طَوِيلًا

قدیمیے ہوتے ہیں بیتِ حرام کا طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا اور جب

حَلَّتُمُ فَاصْطَادُوا طَوِيلًا لَا يَجِدُ مَثْكُومًا شَانَ قَوْمٌ أَنْ صَدُوقُمْ

احرام کھول پکو تو شکار کر سکتے ہو اور ہرگز نہ اگسائے تھیں لئے کسی قوم کا بعض بوجہ اس کے کامخول

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُ وَامْرَأَنْواعَ الْبِرِّ وَ

نے روکا تھا تھیں مسجدِ حرام سے اس پر کم زیادتی کرو اور ایک دوسرا کی مدد کرو کے نیکی اور

مسلمانوں کو علم ہواؤ تو انہوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو فرما یہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر چہ وہ کافر ہے اور تھارا جرم بھی ہے لیکن اب نکلا سے میرے گھر کی نیت سے۔ قربانی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر، اس سے تعریض نہ رکو (ابن حجر) قریبی) خدا پرستی کیا عمدة تعلیم ہے۔ کوئی کسی روپ میں ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو کر نکلے تو اس پر دست درازی نہ کرو۔ اس کی اب ہر چیز شعائر اللہ ہے۔

لئے جرم کا معنی پر ایک جنتہ کرنا، کسی کام پر اسنان سے۔ شنان کے معنی بغض اور دشمنی کے ہیں۔ قریش مکہ کا مستور تھا کہ جو عورت کے لیے کسی پر پابندی نہ تھی۔ جانی و دشمن بھی حرم کامہمان بن کر کیوں نہ آجائے اس کا احترام کیا جاتا۔ اس کی خدمت کی جاتی۔ لیکن جب ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو فاریکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور ان تمام سابقہ روایات کو بالائے طاقِ رحلہ دیا جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے ہاں مرچن جھیں مسلمانوں کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اور ان کے غضہ کی کیا یقینت ہوگی اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ یعنی عکس تھا کہ مسلمان جو اپنی کاروانی کرتے اور ان مشعر ک قبلت تک رسک آنے سے روک دیتے جوں کے راستے مسلمانوں کے مقابلہ علاقہ سے گزرتے تھے اس لیے رب جلیل نے انھیں حکم دیا کہ کفار کہ کائنات مکہ کا انسان شدید حرم بھی تھیں کسی پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے تھیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی رظلہ و تقدی کرو۔ مختاری شان سے رمحکت بہت فروتو ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جہاں تصفع نہیں ریا نہیں۔ دیکھئے قرآن اپنے مانے والوں کی اخلاقی تربیت گن بلند اصولوں پر کو رہا ہے۔ ہملاں ہو اکارخ دیکھ کر بات نہیں کی جاتی بلکہ ایسی باتی جاتی ہے جو ہو اکارخ موڑ دے یعنی اس وقت مسلمانوں کو دشمن پر دست درازی سے منع فرمایا جب غضہ کی چنگاریاں جڑی ہیں اور انفعام کے شعلے بھڑک رہے تھے کہ زندگی کا ایک اور زریں اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تھارے آپس کے تعلقات کی بُنیاد اور اقوام عالم سے مختارے تعلقات کی اساس یہ ہوئی چاہیتے کہ ہریکی اور بھلائی کے کام میں انھیں تھارے اعانت اور تعاون حاصل ہو اور ہر

التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

تقوى (کے کاموں) میں اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور رذیعتے رہو اللہ سے بے شک

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابٍ حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ

اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے حرام کیے کئے ہیں تم پر ۵۷ مُرداد ، خون ،

لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جاتے اور گلا گھوٹنے سے مرتا ہو جوٹ سے مرتا ہوا ،

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مَوْقِفٌ وَ

اوپر سے یخچے گر کر مرا ہوا، سینگ لکن سے مرتا ہوا اور جسے کھایا ہو کسی درنسے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کرلو اور (عزم ۴)

بڑائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کا ہر حکم دل نواز، اس کی ہر آیت انسانیت پر ورا اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا میدار ہے لیکن ان کی برکات کاظموں تو سب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جاتے۔ اور اس کو کلام الہی مانتے والی قوم ہی جب عملی طور پر اس سے رُوزگار اپنے اس کی مشکل غربیاں اور فائدے کیوں کر عیاں ہوں۔

یہاں سے ان جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے جو حرام ہیں۔ (۱) صیدتہ: مُرْدَاد (۴) دم مسقوح : وہ خون بودخ کے وقت بتاہے

(۲) خنزیر (۳) ما اهل بہ: وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جاتے۔ جیسے مشرکین کاظمیہ تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی وجہے باسم اللات والعزی، لات اور عزی کے نام سے ذبح کرتا ہوں تھا کرتے علامہ

بیضاوی لکھتے ہیں۔ ای رفع الصوت لغیر اللہ بہ لقوہم باسع الالات والعزی عند ذمہ۔ اس پر فصیلی

حاشیہ سورۃ بقرۃ کی آیت ۱۴۳ کے یخچے ملاحظہ فرماؤں۔ (۴) منحنقة۔ وہ جانور جو گلا گھوٹنے سے مر جاتے۔

(۵) موقوذۃ۔ جسے پتھر یا لٹکی کی سہم ضربوں سے مار دیا گیا ہو۔ (۶) متددیۃ۔ جو بلندی سے یخچے گر کر مر جاتے۔

(۷) نظیحة۔ جو جانور اگر زندہ ہوں اور انھیں ذبح کر لیا جاتے تو ہر آن کا کھانا حلال ہے۔ (۸) وماذبع علی النصب یعنی ساقیہ جانور اگر زندہ ہوں جس کی زمانہ جاہلیت میں پوچا کی جاتی تھی اور ان کے لیے

امام ابن حجر یتے قادة سے نقل کیا ہے کہ نصب وہ پتھر ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوچا کی جاتی تھی اور ان کے لیے

جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ والنصب الجاہلیہ یبعد و نہا و یذبحون لها (ابن حجر) اور اس سے

مراد ہر ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو مشرکانہ رسوم کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہو۔

مَاذَرَحَ عَلَى النَّصِيبِ وَأَنْ تَسْتَقِسُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمُ الْفِسْقُ

بوجذب کیا گیا ہو تھاںوں پر اور (یہی حرام ہے) کہ تم تقسیم کرو ہوتے کے تیرہ سے یہ نافرمانی کے کام میں ف

۹۔ مشترکین کی یہی ایک عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے وغیرہ میں تین تیر (جو اس مقصد کے لیے پہلے تیار رکھے ہوتے) ڈالتے۔ ایک پر لکھا ہوتا امری ربی (میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے) دوسرا پر لکھا ہوتا منعی ربی (مجھے میرے رب نے اس سے منع کیا ہے) اور تیسرا خالی ہوتا۔ انھیں بند کر کے ہاتھ ڈال کر نکالتے اور جو تیر نکلا اس کے مطابق عمل کرتے۔ اس فعل سے انھیں روکا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہو تو ان کو عقل حبُر اداوے کام لینا چاہیے اور اس کے فائد و نقصانات کا پوری سمجھیگی سے جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فرم و داش کی تعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے اس کی یقینی توہین ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اس سے کام نہ لیں بلکہ اتفاقات پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ تقسیم کا معنی علامہ بیضاوی نے یہی کیا ہے۔ طلب معرفۃ ما قسوا لہم و دن مالہ یقسو لہم و بالازلام۔ اہل عرب کی دوسری عادت یہ تھی کہ دُہ تیروں کے ذریعہ جو اکھیا کرتے۔ ان تیروں کی تعداد دس ہوا کرتی۔ سات پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا اور تین غالی ہوتے اس فعل بد کو بھی ممنوع کیا گیا۔ کیونکہ انسان اس طرح بھی دولت گھانے کے ایسے راستے تلاش کرنے کا خود ہو جاتا ہے جن میں نہ قبیل کاوش کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ جسمانی مشقت کا۔ اس میں ہارنے والے کامال بغیر اس کی رضامندی کے جتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ ناجائز ذات سے دوسرے کامال ہڑپ کرنے کی ایک واضح صورت ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ حشیم زدن میں امیر کبیر بن جانے کی ہوں میں لوگوں کو گھروں کی اینٹیں بیچتے دیکھا گیا ہے کیونکہ نوشحال لگنے چند دنوں میں غربت اور افلام کے گھر ہی میں گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جو چیز اتنی خرابیوں کا باعث ہوا اسلام اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ ایک بات اور یہاں غور طلب ہے۔ اس وقت بھی کتنی لوگ جو ایں جستی ہوئی رقم کو اپنے اور پر خرچ نہ کرتے بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیویوں کی اس سے اعانت کیا کرتے یعنی قرآن نے جو اک ممنوع کرتے وقت اس صورت کو مستثنی نہیں کیا بلکہ جو اک دیگر صورتوں کی طرح اسے بھی حرام کر دیا۔ آج ہمارے ہاں جو یہ رسم قبول عام حاصل کر رہی ہے کہ کہیں طوفان یا سیالاب آیا یا کوئی دوسری مصیبت لڑکی تو مصیبت زدگان کی ارادوں کے لیے چڑھ فراہم کرتے کے لیے کہیں رخص و سرو دکی مغلیں سجائی جاتی ہیں اور کہیں فلم ایکٹرسوں کے میچ کراتے جاتے ہیں ان کا حکم بھی اس آیت سے واضح ہے۔ بجاۓ اس کے قوم کے انسانی اور اسلامی جذبات کو بیدار کیا جاتے ہم ان کے شہوانی جذبات کو اگسرا کر دلت اکٹھی کرتے ہیں۔ خود سوچتے ہم قوم کو کس لیتی کی طرف دھکیل رہے ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ کے غصب کا مقابلہ اس کی نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑ کرنا کیا ایک کلمہ کو کوزیب دیتا ہے؟

آلَيْوَمَ يَكُسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَ

آج مالیوس ہو گئے ہیں بھنوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے نہ سونہ ڈرو تم ان سے اور

خُشُونْ طَ الْيَوْمَ أَكْمَلُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ أَتَمَتُ عَلَيْكُمْ رَعْمَتِكُمْ

ڈرو مجھ سے آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تھا رادین اللہ اور پوری کردی ہے تم پر اپنی نعمت اللہ

وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَ فِي فَخْصَةٍ غَيْرَ

اور میں نے پسند کر لیا ہے تھا رے لیے اسلام کو بطور دین ہے پس جو لاچار ہو جاتے ہو گوں میں در آں حالیکہ نہ

۱۴۔ الیوم سے مزاد یا تو و ذی الحجہ کا خاص دن ہے اور یا الیوم زمانہ پر دلالت کرنے کے لیے ہے یعنی اب کفار کی قوت
لوٹ چکی ہے انہیں معلوم ہو گیا ہے کوہ آب تم کو نہیں مٹا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اس کے کسی حکم کی تعییں میں
پس و پیش نہ کیا کرو۔

اللہ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ آیت و ذی الحجہ نہ بمقام عرفات روز جمعہ سر و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
و سلم پر نماز ہوتی۔ اس میں بتایا گیا کہ جس دن کا داعی بننا کر آپ کو بھیجا گیا تھا آج وہ ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی
برلحاظ سے پانچ تکمیل کو پیچ گیا۔ اس دن کے غلبہ اور فتح مندی کا جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا آج آپ نے اپنے غلاموں
سمیت مشاہدہ کر لیا کہ لوگ اگر دیا گیا۔ نیز وہ عقائد جن رو تھماری بحاجت کا انحصار ہے وہ مکمل طور پر تھیں سکھا دیتے گئے۔
شریعت و قانون کے وہ بنیادی قاعدہ قصیلیاً اصولاً قم کو بتا دیتے گئے جو ہر زمانہ اور تمام حالات میں تمہارے لیے واقعی
کامیاب ثابت ہوں گے۔ تھیں ایسے اصولوں کی تعلیم بھی دے دی جن کی مرد سے تم ہر ہر مشکل کا حل اور ہر جدید مسئلہ کا
جواب معلوم کر سکو گے۔

۱۵۔ یعنی قرآن جیسی کتاب ہدایت مختصر طفیل علیہ التحیۃ والثنا بر جیسا رسول اور ہادی عطا فرمایا۔ ہدایت کی راہ تم پر روشن
کردی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بہم ان کفر و شرک کی حکمت بھی وہاں آج اسلام کا برج چشم ہمراہ ہا ہے۔
بہم لات وہیں کی پوچا ہو اکر تی بھی وہاں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں پیشایاں محسوس ہو گیں۔

۱۶۔ دین اسلام جو تمام ساختہ انباء اور رسول کا دین تھا وہی دین اپنی کامل صورت میں تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے
اب اس میں اضافہ اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہوئے
کی واضح دلیل ہے۔ کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا اس کے احکام میں رو و بدال کی گنجائش نہ رہی تو پھر کسی دوسرے
نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔

مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ لَا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا

بِحَكْنَةٍ وَالاَّهُوَغَنَاهُ کی طرف ۖ تَعْلِمُنَا اللَّهُ تَعَالَى بَهْتَ بُخْشَنَهُ وَالاَّهُتَ رَحْمَنَهُ وَالاَّهُتَ پُوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا

اُحَلَّ لَهُمْ قُلْ اُحَلَّ لَكُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِ

حلال کیا گیا ہے ان کے لیے ۵۸۰ آپ فرمائیے حلال کی کتنی ہیں تھا کہ لیے پاک چیزیں اور (شکار) ان کا سکھایا ہے تم نے جھینیں ۱۷۶

مُكَلِّبِينَ تَعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

شکاری جانوروں سے شکار کی طرف نے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو اُنھیں (وہ طریقہ) جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے تو کھاؤ اس میں سے جسے

عَدَيْكُمْ وَادْكُرُوا السُّمَّ اَللَّهُ عَلِيهِ وَانْتَقُوا اللَّهَ طَرِيقَ اللَّهَ

پکڑ کر کھیں تھا کہ لیے اولیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر کلے اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ

۱۷۶ مندرجہ بالا چیزوں کو حرام کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اسے کھانے کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز ملکر نہ ہو تو اس نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت ان میں سے کوئی چیز کھاتی تو اس سے باز پس نہ ہوئی۔

۱۷۷ جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہوئیں حرام چیزیں اب یہ فرمائیے کہ حلال کوں کون سی چیزیں ہیں۔ تجوہ اپ دیا گیا کہ سب طیب اور پاک یہ چیزیں ہیں کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع تھا اور ان کو نام بنا مذکور نہیں میں دُشواری تھی اس لیے ایک لفظ سے انھیں بیان فرمادیا۔ اب رہایہ کہ طیبات کس کو کہتے ہیں تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا جسے طبع سلیم سپنڈ کرے اور حضورؐ کی حدیث سے اس کی تردید وضاحت ہو گئی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وكل ذی خلب من الطیب یعنی حضورؐ نے ہر دارہ والے درندہ اور ہر سنجپے سے پکڑ کر کھانے والے پرندہ کو حرام فرمایا۔

۱۷۸ عدی بن حاتم اور زید الخیر نے عرض کیا یا رسول اللہ ! ہم کہتے اور باز کے ذریعہ شکار کرتے ہیں کیا یہ ہماليے حلال ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی۔ شکاری درندوں اور شکاری پرندوں کا ایک ہی حکم ہے۔

۱۷۹ آیت سے جو مستفادہ ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتنا یا تکہ وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے:-

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ

بہت تیز ہے حساب یعنی میں آج حلال کر دی گئیں تھا رے لیے پاکیزہ چینیں اور کھانا ان لوگوں کی جنہیں

أَوْتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنُاتُ

دی گئی کتاب حلال ہے تھا رے لیے ۱۸ اور تھا رکھنا حلال ہے ان کے لیے اور (حلال ہیں) پاک دامن

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ

مومن عورتیں ۱۹ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے

۱۔ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہو ایسا ہو۔

۲۔ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔

۳۔ شکاری جانور بسم اللہ الکبیر کہ کر چھوڑا گیا ہو۔

۴۔ اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ الکبیر کہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔

مسئلہ۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے (غیر ان العرفان) حضرت صدر الافق مرا ابادی قدس سرہ العزیزیہ ۱۸ یہاں طعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جانور جسے کسی یہودی اور ضرانی نے ذبح کیا ہو اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے اگر ذبح کے وقت اخنوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو پھر تو سب اتم اس کے حلال ہونے متفق ہیں لیکن اگر وہ عزیز یا ور مسیح علیہما السلام کا نام لے کر ذبح کریں تو پھر کیا حکم ہے۔ اس نے متعطل ہیزیں قول وہ ہے جسے صاحب روح المعانی نے حسن سے نقل کیا ہے کہ اگر تو خود شستے کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اسے نکھا اور اگر تو نے خود نہیں مٹا تو پھر حلال ہے۔ وقال الحسن اذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله تعالى وانت تسمع فلا تأكل فإذا أغار عنك فكل فقد احل الله لك رفع المعنى وقللت طائفه اذا سمعت الكتبى يسمى غير اسم الله عزوجل فلا تأكل و قال بهذا من الصحابة على دعا شئته و ابن عمر وهو قوله طائعه والحسنه (قرطبی)

۱۹ محدث کا ہعنی ہے پاک دامن۔ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلاتی جا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن دلت کی وجہ سے شادی نہ کر و بلکہ عفت و پاک دامن کے زور سے جو مرتی ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہی ایک ایسی مکمل بُنیا ہے جس پر گھر کی جو عمارات اُٹھاتی جاتے گی وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔

قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

پہلے نتے جب دے دو تم انجیں مرآن کے پاکباز بنتے ہوتے نہ بدکاری کرتے ہوتے

وَلَا مُتَخَذِّلِي أَخْدَانِ طَوْمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقُدْ حَبَطَ

اور نہ پوری چھپے آشنا بناتے ہوتے ۲۱۲ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا ۲۲ تو بس ضائع ہو گیا

عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْوَا

اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھاتے والوں سے ہو گا آے ایمان والو!

۲۰۔ پہلے یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ذبحیہ تھا لے یہی حلال ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صرف ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکتِ اسلامیہ کی رعایا ہوں۔ دارالحرب میں رہنے والی کتابی عورتوں سے اجازت نہیں۔ احناٹ کے نزدیک ہرام تو نہیں لیکن مکرہہ ضرور ہے لیکن بعض علمائے ہر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی خواہ وہ مملکتِ اسلامیہ کی رعایا ہو یا دارالحرب کی باشندہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونا اس کی حرمت کا باعث نہیں۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے اور غرابیاں روپیہ ریہوتی ہوں تو پھر حرمت لغیرہ ثابت ہو جاتے گی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ان کے گھروں میں دہی طرزِ معاشرت داخل ہو گئی۔ قوئی بے پردگی، دہی غیر درود سے عام اختلاط، اسلامی عبادات سے بے غصت اور اخلاق و آداب سے بے کنجی اور پھر ہی اذان کی اولاد میں بھی چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ یہودی و نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے ایسے رازپینی و قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے اگر ان دفعہات کے باعث ایسی عورتوں سے نکاح کرنے پر پامنی لگادی جاتے تو عین حکمت ہے۔

۲۱۔ عورت اور مرد کے باہمی تعلق کی صرف ایک صورت کوہی اسلام نے جائز رکھا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد نکاح صحیح پر ہو۔ اس کے علاوہ محض شہوت رانی کے لیے جو تعلقات فائم کیے جاتیں گے خواہ وہ کھلکھلا ہوں یا پوری چھپے وہ قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔

۲۲۔ غیر عورتوں سے شادی کرنے میں یہ خدا شما کہ کہیں اُن کے دام محبت میں بھنس کر مسلمان اپنا ایمان، اسلامی حکام اور اخلاقی قدروں کو پس پشت نہ ڈال دیں اس کے متعلق سر زنش فرمادی۔

إِذَا قِيمْتُمُ الْأَنْوَارَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى

جب تم اٹھو ۲۳ نماز ادا کرنے کے لیے تو (پہلے) دھولو ۲۷ اپنے چہرے اور اپنے بازوں کھینیوں

۲۳ اس سے پہلے کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے احکام تابے بوجدت اصغر (بے وضو ہونا) اور حدث اکبر (جنت) کا باعث ہوتے ہیں۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ حدث اصغر کے لیے وضو اور حدث اکبر کے لیے عرش کا حکم دیا۔ یہاں قسم متعین ارد تم ہے یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اختصار کے لیے ارادہ جو سبب ہے اس کو ذکر نہیں کیا اور قیام جو مسیب ہے اس کو ذکر کرو دیا اور یہ استعمال عام ہے جیسے اذا قرأت القرآن فاستعد بالله۔ اس کا معنی یہی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو یہ اسوز بالله الخ پڑھ لیا کرو۔ بظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا عام معمول یہی تھا لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتنی بار ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا فرمائی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ ہر نماز تازہ وضو سے ادا کی جاتے لیکن کتنی نمازوں کا ایک وضو سے ادا کرنا جائز ہے فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانچوں نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں حضرت عمر بن عرض کی یار رسول اللہ آج تو حضور نے ایسا کام کیا ہے جو حضور نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ جواب ملائم فعلتہ۔ اے گھر بیٹیں نے یہ کام (لیعنی ایک وضو سے پانچ نمازیں) جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا درست ہے۔

۲۴ وضو کے فرائض چار ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں : (۱) مئنہ کا دھونا (۲) ہاتھوں کا کھینیوں سمیت دھونا۔ (۳) سر کا سع کرنا (۴) اور ٹھنڈنے تک پاؤں کا دھونا۔ اس کے علاوہ وضو سے پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے ہاتھ صاف کرنا، کلی کرنا، ہمسو اک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، مسح کے علاوہ ہر کام کو تین تین مرتبہ کرنا و ایسی طرف سے شروع ہونا، کافی مسح کرنا۔ یہ سب اعمال حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں۔ فقہاء نے ان سے بعض کو سُنّت اور بعض کو مستحب فرمایا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وضو کی کیفیت اکثر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہاں وہ تفصیل جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان کی ہے اسی کے لئے تھے پر اکتفا کرتا ہوں یا بودھیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے دیکھا۔ اپنے نے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب پاک صاف کیا۔ پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ پھر تین مرتبہ چہرہ مبارک دھویا پھر بائوں کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا پھر ٹھنڈنے تک پاؤں دھوئے اور اس کے بعد فرمایا احتجت ان اسی کو کیفیت کاں طہورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ترمذی وابن ماجہ) کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ تھا۔

الْهَرَافِقُ وَ اَمْسَحُوا بِرُءُوفٍ وَ سَكُونٍ وَ اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ اَنْ

تک ۲۵ء اور مسح کرو اپنے سروں پر ۴۶ء اور دھولو اپنے پاؤں تک ۴۷ء اور اگر

كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطْهَرُوا طَوَّا وَ اَنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ

ہو تم جبی تو (سارا بدن) پاک کر لو ۲۸ء اور اگر ہو تم بیمار ۴۹ء یا سفر پر یا

۲۵ء کی معنی مع ہے یعنی ہاتھوں کو کہنیوں کے سیت دھوؤ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب وضو فرماتے تو کہنیوں کو بھی دھوتے عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تو ضأا اذا رال ماء على مرافقیه (راقطی) ۴۶ء مسح کرتے ہیں ہاتھ پانی سے ترک کے پھیرنا تمام سر کا مسح مستحب ہے اور سر کے پوچھے حصہ کے برادر مسح کرنا فرض ہے سُنّت نبویؐ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

۲۶ء اس کا عطف ایدیکھو پڑے اور اس کا معنی ہے داغسلوا الرجلكو کہ اپنے پاؤں کو بھی دھوؤ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو پاؤں اچھی طرح دھونے کا حکم فرمایا کرتے حضور نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں تو حضور نے بلند آواز سے فرمایا۔ دلیل للإعاقاب من النار اسبغوا الموضوع۔ خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو تاگ جلاتے گی۔ وضو عمدہ طرتوں سے کیا کرو تو تک کوئی جگہ خشک نہ رہ جاتے۔ حاشیہ ۴۷ء میں حضرت علی کرام اللہ وجہ سے حضور کے وضو کی کیفیت جو بیان تی گئی ہے اس سے بھی ہی معلوم ہو اکہ حضور پاؤں مبارک دھویا کرتے تھے۔

سید شریف رضی نے امیر المؤمنین سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وضو کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے بھی پاؤں کا دھونا ثابت ہے (فتح البلاغہ) اس کے بعد جھگٹے کی لنجاش ہی نہیں رہی۔ (هزیز تحقیق کے لیے روح المعانی کام طالعہ فرمائیں)

کتب شیعہ میں پاؤں دھونے کی متعدد روایات ائمہ مسی متفق ہیں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک عقیدہ نہایت لقطین نے وضو کی تکیب کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ والذی امْرَكَهُ فِي ذلِكَ اَنْ تَمْضِضَ ثلَاثًا وَ تَسْتَنشِقَ ثلَاثًا

و تغسل وجهك ثلاثاً و تخلل شعر لحيتك و تغسل يديك الى المرفقين و تمسح رأسك كلّه و تمسح ظاهراً ذيتك و بالطها

و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثاً و اخالف ذلك الى خبرہ۔ ترجیحہ: اس بالیے میں تھیں یہیم دیتا ہوں کہ تین مرتبہ کرو، یعنی مرتبہ کل

میں پانی ڈالو، تین مرتبہ اپنے چہرہ کو دھوؤ، اپنی ڈاڑھی کے بالوں کا خالاں کرو، دونوں بازوؤں کو کہنیوں تک تین مرتبہ کرو، یعنی مرتبہ کل

سر کا مسح کرو، کافلوں کے ظاہر پاٹن کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو تکین مرتبہ دھوؤ۔ آخرین فرمایاں ہم کی خلاف فرزی کرنا۔ (کشف الغمbla محدث ایران)

۲۸ء پہلے حدیث اصغر سے طہارت کاظمیۃ بتایا اب حدیث اکبر سے طہارت کاظمیۃ سکھایا جا رہا ہے یعنی جب انسان

جبی ہو جاتے تو اس وقت غسل کرے۔ اس کے متعلق حاشیہ سورہ النساء میں گزر چکا ہے۔ آیت ۳۴۷

۲۹ء اس کے متعلق حوشی بھی سورہ النساء میں گزر چکے ہیں۔ آیت ۳۴۸

جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَارِطِ أَوْ لِمَسْتِمِ النِّسَاءَ قَلَمْ تَجْدُفَا

آتے کوئی نہیں سے قضاۓ حاجت کے بعد یا صبحت کی ہوتی نے عورتوں سے پھر نہ پاؤ تم

مَلَأَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِيبًا فَمَسَحُوا بُوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

پان تو تیم کرو پاک مٹی سے یعنی مسح کرو اپنے پھرول اور اپنے بازوؤں پر

مَنْهُ طَمَّا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَاجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ

اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر پکھ تسلی نسلے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے

لِيُطَهَّرُكُمْ وَلِيُتَمَّ نَعِيْتَكُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ۴

کہ خوب پاک صاف کرے تھیں اور پوری کردے اپنی نعمت تم پر ۳۳۷ تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو اور

۳۳۸ فقہ قرآنی کا یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پر اسلامی شریعت کا قصر رفع تعییر ہوتا ہے۔ ان احکام پر یہ نگاہ ڈالیتے۔ حدث اصغر (و ضوکا لوطنا) کے لیے عشن فرض نہیں کیا کیونکہ اس کا وقوع عام ہے اور اس میں دُشواری ہے۔ جنابت جو کبھی کبھی لاحق ہوتی ہے اس کے لیے عشن کو فرض فرمایا کیونکہ ظاہری صفائی اور اعصاب کی افسردگی اور طبیعت کی درماندگی کا اس سے بہتر اور آسان کوئی علاج نہیں۔ اس پر بھی پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو تیم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناتوان بندوں کے لیے عایت پر رعایت، آسانی پر آسانی کو ہر حکم میں پیش نظر رکھا ہے۔ فقہاء کرام نے اس آیت کو یہ سے جتنے منید قاعد اور جزئیات کا استنباط فرمایا ہے وہ فقہ اسلامی کے نکتہ دنوں سے مخفی نہیں۔

۳۳۹ احکام اسلامیہ کی اصلی روذہ تو عبادت ہے یعنی ہم ان کو اس لیے بجالاتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی ہیں اور خداوند عالم کے ہر حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ لیکن قرآن کریم جا بجا ان کے ظاہری و فائدہ اور روحانی منافع کو تبیان فرمائے اس طرف بھی ہماری توجہ مبذوقوں کو ادیتا ہے کہ ان احکام میں سراسر تھاری بہبودی اور ہمتی کو مانظر رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی اشارہ فرمادیا کہ وضو اور عشن و تیم سے مقصود تھاری پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اسلام نے روحانی طہارت کے لیے جسمانی پاکیزگی کو جتنا ضروری فراودیا ہے وہ ظاہر ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ضشوی اور امام گندگی میں اپنی مثال آپ ہوں۔

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الدَّنْيَى وَانْقُلْهُ بِهِ لَا

بیاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے وعدہ کو جو اس نے پختہ لیا تھام سے ۳۴

اذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِذَاتِ

جب کما تھام نے ہم نے سُن لیا اور مان لیا اور ذرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ غُرب جانتے والے اللہ بچ کر جس سینوں

الصُّدُورِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا كُوْنُوا أَقْوَاءَ أَمِينِ اللَّهِ شُكْلَاءَ

میں ہے اے ایمان والو! ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہئے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرْ مَشْكُومَ شَنَاعَ قَوْمٌ عَلَى آلَاتِ عَدْلِ لُواطِ

اصاف کے ساتھ ۳۴ اور ہرگز نہ اگستے تھیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو

۳۴ ہر مسلمان جب دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان فرمایا۔ تھیں ہدایت کاراستہ دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس نعمت کو اور کامل اطاعت کے وعدہ کو ہدیثہ یاد رکھو۔ اور اس یقین کو پختہ سے پختہ تر کرتے رہو کہ مختاری کوئی بات تھمارے ہمہ ہیں اور ہمہ داں رب سے پوشیدہ نہیں۔

۳۵ بعدینہ یہی الفاظ سورہ النساء میں گزر چکے ہیں اور ان کی لغوی تحقیق وہاں ملاحظہ فرمائی جاتے (سورہ النساء آیت ۱۳۵) اس کے دوبارہ نہ نہیں کی وجہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے مسلمانوں کے جان و ایمان کے نہایت خالم اور بے رحم دشمن ان کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے علم بردار جو شیخ غصب میں ان پر زیادتی کرنے لگیں۔ اس لیے اُخیں وقت سے پہلے ہی تنبیہ فرمادی کہ احکام الہی کی اطاعت میں تسابل نہ بڑیں بلکہ قوَّاء اینِ اللَّهِ یعنی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہئے والے بن جائیں۔ کفار مسلمانوں کے شہیدوں کے ناک کاں کاٹ کر مثله کر دیا کرتے تھے مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل سے بھی نہیں شرما تھے۔ مسلمانوں کو ایسی تمام باتوں سے روک دیا گیا۔

إِنَّمَا لَوْا قَفْ وَأَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

عدل کیا کرو ۳۷۳ سے یہ زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے ۳۵ اور ڈلتے رہا کہ اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر دا ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

بوجھ پر تم کرتے ہو دعا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جوابیان لائے اور یہی عمل کرتے رہے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹکا یا ہماری آیتوں کو

وَلِلَّهِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتَ

وہی لوگ دوزخی میں آئے ایمان والوں یاد کرو اللہ کی

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوَا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّرْ

نعمت بحوم پر ہوتی ۳۶۴ سے جب پچھتہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں مختاری طرف اپنے ہاتھ تو اللہ نے روک دیا

۳۶۴ اب کیونکر قوت و اقدار مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا اس لیے انھیں نہایت واضح طور پر حکم دیا کہ خبردار اکسی قیمت پر انصاف کا دامن مختاری سے چھوٹنے نہ پاتے۔ اور حق یہ ہے کہ کوئی قوم حکومت و سلطنت کے تحت کی مشتختی اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک وہ صفت عدل سے منتصف ہو۔ جس قوم نے فلم پر کمر باندھلی وہ آج نہیں توکل ضرور اس نعمت سے محروم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلامی مملکت کے بانیوں کو بھلاکیوں نہ واضح طور پر اور پرور طریقہ سے عدل کرنے کی ہدایت فرماتا۔

۳۶۵ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ہزار سے پچھنے کافر یہی راستہ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کو اپنا شعار بناتے رکھے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ عدل کرنے کا یہ تاکیدی حکم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ عدل کرنے کی اہمیت مختار ج بیان نہیں۔

۳۶۶ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ یہودی نصیر کے پاس تشریف لے گئے اور انھیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے دو آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے اُن کے وارث دیت کا مطالباً ہے کرتے ہیں اس لیے تم لوگ حسب معابده ان کی دیت میں اپنا حصہ دو۔ انھوں نے کہا آپ پڑھیں کچھ کھاپی لیں پھر تعیین حکم کریں گے۔ حضورؐ کو

أَيُّدِيْكُمْ عَنْكُمْ وَأَتْقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيْتُوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ

ان کے ہاتھوں کو تم سے اور ڈرتے رہا کہ والد سے اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیتے ایمان والوں کو

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ

اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اور ہم نے مقرر کیے انہیں سے

إِنَّ عَشَرَ نَقِيبًا طَوَّلَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لِنُ أَقْدِمُ وَالصَّلَاةَ

بارہ گلے سردار اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہیں تھا اسے ساتھ ہوں اگر تم صیحہ صحیح ادا کرتے رہے نماز

وَالْيَتَعَظُّمُ الرِّزْكُوْتَةَ وَأَهْنَمُهُمْ بِرُسْلِي وَعَزَّزَنِي وَهُمْ وَأَقْرَضُهُمْ

اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لاتے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے

بھاکر اخنوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر لٹھ کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے محبوٰب کو ان کے ناپاک ارادہ کی اطلاع دے دی اور حضور فوڑاؑ اپنے کر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلامتی کا احسان قیامت تک آنے والے سب غلامان محفوظ پر ہے۔ اس لیے یہ آیت صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے اور اس نسبت عظیٰ کا عملی اعتراف ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔

۱۳ نقیب اُس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے صحیح حالات سے پوری طرح باخبر ہو اور ان کی بہتری اور برتری کا ذمہ دار ہو۔ القائلو بامورهِ الذی یُنْقِبُ عَنْهَا وَعَنْ مَصَالِحِهِمْ (قرطبی) بنی اسرائیل کے بارہ نقیبیے تھے ہر قبیلہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال پر آگاہ ہو اور ان کو اطاعتِ الہی کی ترغیب دیتا رہے۔ لیلیۃ العقبہ میں جب مدینہ کے شترمروں اور دعورتوں نے حضور کے دستِ مبارک پر اسلام کی بیعت کی تو حضور گئے بھی انہیں سے بارہ آدمی منتخب فرماتے اور انہیں نقیب کا خطاب عطا فرمایا۔ عزِ تقوٰ تعریف کا معنی ہے۔ النصرة مع المتعظیو (مفدوں) عزت و احترام کی وجہ سے کسی کی امداد کرنا۔ مخلص اور جانباز کا رکنوں کے لیے اس آیت میں تین احادیث کا محدثہ جائز ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے شامل ہوئی ہے وہ انسان کتنا خوش بخت ہے جسے یہ سعادت نصیب ہو اور اس کی کامیابی کتنا یقینی ہے جس کے ہر کام میں امدادِ الہی شرکیے ہو۔ دوسری بشارت یہ ہی کہ بشری تقاضوں اور طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں اس سے سزدھو ہاتی ہیں ان کا اثر اس کے دل سے اور ان کا ذکر اس کے نامہ اعمال سے تحریر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی دائمی قدرگاہ

اللَّهُ قَرِضَ حَسَنًا لَا كُفَّارَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاتُكُمْ وَلَا دُخْلَنَّكُمْ

اللَّهُ كُوْرِضَ حَسَنٌ تُوْمِنْ ضُرُورُدُورَ كُرْدُولُونَ كُمَّا تُحَمِّلُنَّ

جَذَّتِ تَجْزِيرُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَرُ فِينَ كُفَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

باغات میں روائیں ہیں جن کے پیچے نہیں تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ^{۱۲} فِيمَا نَقْضَاهُمْ مِنْ شَاقَهُمْ

تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے تو بوجہ ان کی عہدشکنی کے ہم نے

لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قُسْيَةً يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

ما پنی رحمت سے انھیں دُور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت ۳۸ میں وہ بدل دیتے ہیں (اللَّهُ کے) کلام کو اپنی اصلی

جنت ہو گی جہاں بہار ہے خزانہ نہیں۔ جہاں راحت مشادمانی ہے رنج و غم کا گزر نہیں۔ کسی مخلص کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے زیادہ موثر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔

۳۸ باسبیت کے لیے ہے اور مالقطا زائد اور معنا کلام میں وقت و زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لعنت کا معنی ہے در رحمت سے دُور ہٹا دینا واللعن الابعاد والطرد من الرحمة۔ اس حقیقت کو قرآن نے بار بار واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر بھٹکار اور ذلت و رُسوائی کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اپنی کوہاں ایاں اور نافرمانیاں اس کا سبب ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جو مژرے میں گی وہ تو یہ کی لیکن مسلسل ستراہی اور پیغم نافرمانی کی سزا جو اس دُنیا میں ہی ہوتی ہے وہ بھی کچھ کم اہم نہیں۔ اس کی اپنی صلاحیتیں اور محظہ قابلیتیں بے کار اور متعطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس حقیقت کو بار بار منکشت کرنے سے بنی اسرائیل کی تذلیل ہی مطلوب نہیں بلکہ حاملان قرآن کو عبرت دلانا بھی مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے تم بھی اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو۔ تھارے کا ان بھی حق سننے سے بھرے ہو جاتیں۔ تھارے کی آنکھیں بھی ہدایت کی روشنی دیکھنے سے اندر ہی ہو جاتیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلسل نافرمانیوں کے باعث دگاہ رحمت سے دُور ہٹا دیتے جاؤ اور تھارے دل بھی ایسے سخت ہو جاتیں کہ کوئی بندوں و عظمت اور کوئی سرزنش سُود منڈ ثابت نہ ہو بلکہ قرآن جیسی دل ہلا دینے والی کتاب بھی تھارے دلوں میں خوف الہی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے۔ خور کچھ کیس خدا نخواستہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس گرداب میں تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔

مَوَاضِعُهُ وَسُواحَطًا مِنَادِرُ رَأْيِهِ وَلَا تَزَالْ تَطْلُعُ

بھنوں سے ۳۹ اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ۴۰ جس کے ساتھ انھیں بصیرت کی گئی تھی اور سیدہ شریعت آپ آگاہ ہوتے

عَلَى خَلِيلَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُهُ

رہیں گے ان کی خیانت پر ۴۱ بجز بچنڈ آدمیوں کے ان سے ۴۲ تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور رکز ۴۳ فرمائیے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ الدِّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى

بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو اور ان لوگوں سے بھنوں نے کہا ہم نظرانی ہیں ۴۴

۴۵ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ الفاظ میں ہی ردود بال کر دیا۔ اصل عبارت کچھ تھی اس کو بجا کر کر دیا۔ دوسرا یہ کہ الفاظ میں تو قلع و بُریدہ کی لیکن اس کا معنی غلط بیان کر دیا۔ یہود اپنی آسمانی کتاب میں دونوں طرح کی تحریف سے بازنہیں آتے تھے۔

۴۶ حظا کی نظریت کے لیے ہے یعنی اپنی کتاب کا بہت اہم حصہ فراموش کر دیا۔ ان کے انبیاء نے حضور رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا جو بار بار انھیں حکم دیا تھا انہوں نے اُسے بھلا دیا۔ حضور کی تعریف و توصیف سے ان کی کتابوں کے صفات مرثی نہتھ ان کو بھی فراموش کر دیا۔

۴۷ خائنۃ خیانت کے معنی میں مستعمل ہتھیے اور لغت میں اسم فاعل مبنی مصدر استعمال ہوتا رہتا ہے دالخاشنة الخیانۃ وہذا جائز فی اللغة (قرطبی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت ہو۔ اور اس کا مسٹوف طائفہ مذکون ہو مقصدریہ ہے کہ خیانت اور غدر ان کی رُپانی عادت ہے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے دوستی کے جو معابرے کیے ہوئے ہیں ان میں بھی وہ مخاص نہیں اور آپ ان کی غداری اور خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے۔

۴۸ یعنی ان کا بیشتر حصہ تو خیانت سے بازنہیں آتے گا لیکن ان میں مخلصین کی ایسی جماعت بھی ہے جو سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ

۴۹ یعنی دُو ستارے رہیں آپ معاف کرتے رہیں۔ وہ آپ کے خلاف خطناک سازشوں کے جال ہٹنے رہیں آپ نظر انداز کرتے رہیں۔ وہ اپنا کام کریں اور اسے مجموعہ ہر خوبی و در بری آپ اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک تو مکارم اخلاق کی کتنی بے نظری تعلیم دی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا ادبی ربی فاحسن تادیبی یعنی میری تادیب تربیت میرے ربت نے فرمائی اور خوب فرمائی۔

۵۰ جس طرح یہود نے کامل اطاعت کا وعدہ کر کے توڑ دیا اسی طرح بھنوں نے اپنے بنی کی دعوت پر خوشی سے

أَخْذُ نَارِ مِثَاقِهِمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُرَّ وَابْنَهُمْ فَاغْرَيْتَهُمْ

ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی۔ سو انھوں نے بھی بھلا دیا ہے اس حصہ جس کے ساتھ انھیں بصیرت کی گئی تھی تو ہم نے بھڑکا دی

الْعَلَاءُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبَّئُهُمْ

ان کے درمیان عداوت اور بعض (کی آگ) روز قیامت تک ۲۵۲ تک اور آگاہ کر دے گا انھیں

مختن انصار اللہ کہ کر دین الہی کی نصرت و تائید کا پیچوش وعدہ کیا تھا وہ بھی ثابت قدم نہ رہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بجائے تبلیغ کے من گھر طرت عقیدہ کو اپنا لیا حضرت مسیح نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارة دی تھی اور آپ پرمایان لائے کی بار بار دعوت دی تھی اسے بھی یکسر فراموش کر دیا حضرت مسیح دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو شلسی دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”اگر تم محض سے مجتہ رکھتے ہو تو میرے ہمکوں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمھیں دوسرا مدد کار بخشے گا کہ اب تک تھمارے ساتھ رہے گا“ (لو جنا ۱۷: ۱۴)، اب یہ اب تک ساتھ رہئے والا مدد کار بھر خاتم النبیین کے اور کون ہے؟ اسی کی تائید ایک بار پھر حضرت مسیح کی زبان سے ملاحظہ ہوا۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تھارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (وکیل یا شیع) تھارے پاس نہ آتے گا لیکن اگر میں جاؤں کافوٰس سے تھارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آگر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ہٹھراتے گا“ (لو جنا ۱۴: ۷، ۸)

”لیکن جب وہ سچائی کا روح آتے کا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھاتے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گا لیکن جو کچھ سننے کا وہی کہے گا اور تمھیں آئندہ کی خبریں دے گا (لو جنا ۱۷: ۱۳) انجلیں کی یہ آیت تو اس آیت کا بالکل ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔ و مایا نطق عن الھوی ان هو الادھی یو لخی۔

۲۵۲ اغراق کئے ہیں کسی چیز کو کسی پر چسپاں کرنا مسلط کر دینا۔ الاغراء بالشی الا صاق به من جهة التسلیط عليه (قرطبی) یعنی جب انھوں نے بدایت کی سیدھی را چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلیوں میں بھنس گئے اور گمراہی کا اندر ھر اچھا لیا تو اس کا لازمی تیجہ نہیں نکلا کہ اُن کی یہ تھی اور اتحاد ختم ہو گیا۔ باہمی مجتہ و پیار کی جگہ بعض و عناد لئے لی اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے ہوتے۔ ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں اور لوگوں میں بہت گئے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر اور مخدوٰ کہنے لگا اور سیاسی طور پر ان کی رقبتوں نے انسانی خون کے دریا بھا دیتے ان کے سیاسی اختلافات اور قابوں اور عداوتوں کی شدت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت پیش کیا جاتے کہ اس ترقی یافتہ دو دین میں سال کی قلیل مدت میں انھوں نے ساری دنیا کو دو عالمی جنگوں میں بھونک دیا کر دڑوں

اللَّهُمَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ يَا هُلَّ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ

اللَّهُ تَعَالَى جَوَّبَهُ وَهُ كِيَا كَرْتَهُ تَهْتَ أَمَّا إِلَيْهِ شَكٌ آمِيَّهُ بَهْ تَهْتَهُ بَاهْسَ

رَسُولُنَا يَبْيَنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ

ہمارا رسول ﷺ کھوں کر بیان کرتا ہے تھا اسے بہت سی ایسی جیزیں جیسیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبَيِّنٌ ۝

اور دگر زر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے بے شک تشریف لایا ہے تھا اسے پاس اللہ کی طرف کیا کافی اور کافی یا کتاب طے ہر کرنے والی

يَهُدِي رَبَّ اللَّهِ مِنِ الْتَّبَعَ رَضْوَانَهُ سُبْلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ

وکھاتا ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انھیں جو پریروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی ہسلامتی کی راہیں ﷺ اور نکالتے ہے انھیں

کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔

۲۶- یَحْضُور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَيْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ کی نبوت اور علم کامل کی دلیل ہے۔ باوجود امامی ہونے کے آپ تورات اور انجلیل کے ایسے مسائل اور احکام ظاہر فرمادیتے جیسیں علماء یہود و نصاریٰ یہشیہ سے چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رسول تھاری ساری بھی ہوتی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ صرف انھیں امور کا ذکر کرتا ہے جن کے اظہار میں کوئی دینی فائدہ یا مصلحت عامہ ہو تو یہ تھاری دوسری خباشیں جن کے اظہار سے بجز جیسیں رُسوآ کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں اُن سے اغراض فرماتا ہے۔

۲۷- امام المفسرین ابن حجر العسکری رحمۃ اللہ علیہ میں یعنی بالنور حمدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الذی انا رالله به العت واظہریہ الاسلام وحق بہ الشراک فہو نور لمیں استنار بہ الرفسیر ابن حجر عینی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد صطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والثنا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا۔ اسلام کو ظاہر فرمایا شرک کو غست و نابود کیا جحضور نور ہیں مگر اس کے لیے جو اس نور سے ول کی انکھوں کو روشن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور داخشانیوں سے ہمارے آئینہ دل کو منور فرماتے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت لی سعادت سے بہرہ اندو زفرما تے آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نور فرماتا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ کتاب ممبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے دوست نہیں کیونکہ اوّل ماطلق تغایر پر دلالت کرنی ہے۔

۲۸- من اتبع رضوانہ سے اخلاص نیت کی اہمیت کو واضح فرمایا یعنی نور محمدی اور کتاب ممبین سے اللہ تعالیٰ

مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ صَمْرًا إِلَى صَرَاطٍ

تاریکیوں سے ۹۷ءے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے اور دکھانے ہے انھیں راہ

مُسْتَقِيمٌ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيءُ إِبْنُ

راست یقیناً کفر کیا جھنوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن

انھیں کی دشگیری اور رہنمائی فرماتا ہے جن کے دلوں میں اس کی رضاکاری سچی طلب ہے سبل السلام" کا معنی اکثر علماء نے "سلامتی کے راستے" ہے بتایا ہے جن پر جلنے سے انسان دُنیا و آخرت میں ناکامی سے نجح جاتا ہے اور لغزش اور بٹک جانے کا خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن صراط مستقیم جس کا ذکر آیت کے آخرين آرہا ہے وہ بھی توسیماتی کا راستہ ہی ہے ایک چیز کو مکرر ذکر کرنے کا کیا فائدہ۔ اس یہے مجھے تو سبل السلام کا وہی معنی زیادہ پسند ہے جو قطبی نے امام حسن بصریؑ سے سُقُل کیا ہے کہ السلام: اللہ عزوجل اور علامہ بیضاویؑ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اوسبل اللہ (بیضاوی) یعنی معرفت الہی کے دُھنخاص راستے جن پر جلنے سے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دُوری کے حجاب اٹھادیتے جاتے ہیں جو اپنے دل سے تمام خواہشات کو باہر نکال بھینکتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشودی کے حصول کے لیے شب و روز ترتیباً ہتھیا ہے تو آفتاً بحمدیؑ کی شعاعیں اس کے لیے ان راہوں کو منور و روشن کر دیتی ہیں جن پر جلنے سے اسے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دُوری کے حجاب اٹھادیتے جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین جن کو اس کا ذاتی تجربہ ہے ان سے پوچھو دوہ تھیں بتائیں گے کہ مُصطفیٰ کی رہنمائی کے بغیر اللہ تک پہنچانے والی راہ کا سراغ نہیں بلکہ لفظ السلام سے مقصود اگر وہی ہو جو حسن بصریؑ کا خیال ہے تو پھر سبل السلام اگرچہ سالک کی آخری منزل ہے لیکن اسے سب سے پہلے اس یہے ذکر کیا تاکہ سالک کی آزوؤں کا قبلہ اور امیدوں کا قبلہ ہر وقت اس کی نکاحوں کے سامنے رہے اور اس سے کم درجہ پر قناعت نہ اختیار کرے۔

۹۷ تاریکیاں اور اندھیرے کی قسم کے ہیں بُشَرُوكَ وَكُفَّرُوكَ اندھیرا، گناہ و برکشی کا اندھیرا، نفس پرستی اور بدعت کی تاریکی غفلت اور قسستی کی ظلمت اس لیے ظلمات جمع کا لفظ ذکر کیا لیکن نُور صرف ایک ہی ہے اس لیے واحد لفظ ہی استعمال فرمایا۔ صراط مستقیم یعنی شریعتِ محمدیؑ کی اطاعت کی برکت سے انسان مختلف قسم کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آتا ہے۔

مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

مریم ہی ہے نہ (ایے عبید) آپ فرماتے کون قدرت رکھتا ہے اہل اللہ کے حکم میں سے کوئی تجزیہ و کٹیے (یعنی) الگ وہ ارادہ نہ کرہاں

الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا طَوَّلَهُ

کرفے نیسخ بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو (تو اسے کون روک سکتا ہے اور اللہ

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ

ہی کے لیے ہے سلطنت آسماؤں اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے لاهه اور اللہ تعالیٰ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ النَّجَادَةُ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور کہا یہود اور نصاریٰ نے کہ ہم

۵۰۔ عیسیٰ یوں کے عقیدہ تبلیث پر فصل بحث سورہ النساء میں گزر چکی ہے تبلیث کے عنوان پر انسانیکو پیدی یا بریانیکا کی ری عبارت منحصر بھی ہے اور جامع بھی۔

“THE CHRISTIAN DOCTRINE OF THE TRINITY CAN BE BEST EXPRESSED IN THE WORDS, THE FATHER IS GOD, THE SON IS GOD AND THE HOLY GHOST IS GOD, AND YET THEY ARE NOT THREE GODS BUT ONE GOD”

ENCY. BRITANICA 479 VOLUME 22

”مسیحیت کے عقیدہ تبلیث کو نہایت عمدگی سے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے : باب پر بھی خدا ہے بیٹا بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے۔ باب پر ہوہ تین خدا ہیں بلکہ ایک خدا ہے۔“ یہ مفہوم نہ سمجھنے کا نہ سمجھانا کا اہم یہاں سے حضرت عیسیٰ کے اللہ (خدا) ہونے کے عقیدہ کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہوہ سے کارکروہ حضرت میسح، ان کی والدہ بلکہ سب مخلوق کو آن واحد میں موت کی نیند سُلا ناچا ہے تو کوئی دم نہ مار سکے حضرت میسح تو پنیٰ اللہ کی جان نہ بچا سکے اور جب ان کا مقرہ وقت آئے گا تو ہوہ مرتسلیم خم کرتے ہوئے موت کے پیغام کو قبول کر لیں گے جب ان کی یہ حالت ہے تو ہوہ خدا یکسے ہو سکتے ہیں یہ ملک کا معنی قدرت رکھنا ہے یہ ملک بمعنی یقین من قولہم ملکت علی فلاں امرہ ای اقتدرت علیہ (قرطبی)

۵۱۔ ماں باب کے ذریعے، ماں باب دلوں کے بغیر اور باب کے بغیر۔ یہ سب اُسی کی قدرت بے پایاں کی

اَبْنُوا اللَّهُ وَأَجْبَاؤهُ طَفْلٌ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ

اللہ کے بیٹے ہیں ۳۵۶ اور اس کے پارے ہیں آپ فرماتے گا کہ تم سچے ہو تو چھکیوں عذاب دیتا ہے تھیں تھاڑے گناہوں پر بلکہ ۳۵۷ تم

بَشَرٌ مِّنْ خَلْقَ طَيْفٍ لِّمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ

بشر ہو اس کی مخلوق سے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ کے

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ہے باشدہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جوچھوں کے زمیان ہے اور اسی کی طرف (سبنے) لوٹ کر جانا ہے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ

اے اہل کتاب ابے شک آگیا ہے تھاکے پاس ہمارا رسول صاف بیان کرتا ہے تھاکے لیے (احکام الہی) بعد

اعجاز نہیاں ہیں۔ کوئی جیزیس کے لیے مشکل نہیں کوئی صورت اس کے لیے دشوار نہیں۔

۳۵۷ عربی میں بیٹے کے لیے عام طور پر دلفقط استعمال ہوتے ہیں ولد اور ابن لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ولد تو صرف اس لڑکے کو کہتے ہیں جو صلب سے پیدا ہوا ہو اور ابن صلبی بیٹے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے اور جس چیز کا کسی کے ساتھ خصوصی تعلق ہو اس کو بھی ابن کہا دیتے ہیں جیسے مسافر کو ابن السبیل اور جنگجو کو ابن الحرب وغیرہ۔ یہود اور عیسائی اس معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے نہیں کہا کرتے تھے کہ وہ اس کی صلبی اولاد ہیں بلکہ اس وجر سے کہ وہ اس کے مقابلہ اور لاد لے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت و شفقت اس طرح ہے جیسے باپ کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں ان لفظ الابن کما یاطلق علی ابن الصلب فقد یطلق ایضاً علی من یتخذ اباً بمعنی تخصیصہ بمزیی الشفقة والمحبة فالقوم ادّعوا ان عنایة الله به حاشرداً و اکمل من عنایة بكل ماسوا هم (کبیر) یہود و نصاریٰ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ از راه غزوہ کہا کرتے ہیں اس دین کو قبول کرنے اور اس کے بنی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہم تو اللہ کے چمیتے اور محبوب ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ کفر مادیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم پر عذاب المی کے بادل کیوں ہر وقت منڈلا کرتے ہیں۔ کبھی دوستوں اور پیاروں کو بھی ویں ذلیل و قسوٰ کیا جاتا ہے جیسے تھیں کیا جا رہا ہے۔

۳۵۸ فرمادیا کہ تم بھی دوسرا سے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ رحمت اور عذاب کا جو قاعدہ ان کے لیے مقرر ہے فہی تم پر بھی کار فرماتے ہے۔ جو ایمان و اخلاص سے اپنے آپ کو اس کی محضرت کا اہل ثابت کرے گا وہ بخشاجاتے گا۔ اور جو اپنے

مَنْ الرَّسُولُ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ

اس کے کہ ۵۵ رسولوں کا آنامد توں بندرا ہاتھا تک تم یہ نہ کہو کہ نہیں یا تھا بخارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی طلاقے والا

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اب تو آگیا ہے بخارے پاس خوشخبری دینے والا اور درانے والا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے

قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُوا إِذْكُرْ وَإِنْعِمَّةَ اللَّهِ

والا ہے اور جب کما موسیٰ (علیہ السلام) نے ۵۶ اپنی قوم سے آے میری قوم! یاد کرو اللہ کا احسان

عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتُ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلْتُكُمْ مُّلُوْكًا وَأَنْتُمْ كُمْ

بوقت پر ہتوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تھیں حکمران ۵۷ اور عطا فرمایا تھیں

برتری کے نشیں مست رہا اور خاتم الانبیاء کی اطاعت اختیار نہ کی وہ پکڑا جاتے کا۔

۵۵ جب کوئی چیز چلتے چلتے رُک جاتے تو کہتے ہیں فتو الشیعی اور اگر کوئی کام پیدے بڑی سرگرمی سے ہو رہا ہو اور پھر وہ

بند ہو جاتے تو اس کے لیے بھی فرما لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دونیوں کے درمیانی زمانہ کو فرقہ کہا جاتا ہے اور یہاں یہی

معنی مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاظم و قدمی صرف سی شہزادی اور اعلان نبوت مسلمہ میں ہتا۔ گویا ہم نوکر کی تشریف آئی اور یہ

اور حضرت علیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا درمیانی عرصہ چھ سو سال کے قریب ہتا۔ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی

تشریف فرما ہو گیا جس کا تھیں انتظار رکھا۔ اب اگر اس کی اطاعت مدد و را اور اس پر ایمان لا کر اپنی نجات کا سامان نہ

کرو تو تمہاری مرضی کل تھمارا یہ عذر نہ سنانا جائے گا کہ اے رب! ہم کیا کرتے ہیں تو رہ دھانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔

۵۶ اللہ تعالیٰ اپنے جدیض کو بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ ضدا و بہت دھرمی اور کچھ تجھی صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں

یہ اپنے سینمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یونی پیش آیا کرتے تھے چنانچہ مثال کے طور پر ان کی تاریخ قدیم کا ایک ہم

واقعہ بیان فرمایا۔

۵۷ یہاں تک کا لفظ با و شا کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ آزاد اور خود مختار کے معنی میں نہ کوئی ہوتا ہے مقصد افسوس بر جانا

ہے کہ پیدے تم فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے۔ اب وہ کاٹ دی گئیں اور تھیں آزادی اور حریت کی

نعمت سے سفر از فردا یا گیا۔ مفسرین کرام ابن جریر، رازی، قطبی وغیرہم نے اسی معنی کو پسند فرمایا ہے۔ قطبی کے الفاظ

ہیں۔ وَجَعَلُكُمْ مُلُوكًا ای تملکون امر کو لا یغبکم علیہ غالب بعد ان کہ تو ملوکین لفروعن مقهورین

مَالَهُمْ يُؤْتُ أَحَدًا مِنَ الْعَلَيَّينَ ۝ يَقُولُ إِذْ خَلُوا الْأَرْضَ

جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے بھانوں میں ۵۸ آئے میری قوم! داخل ہو جاؤ اس پاک

الْبُقْلَةَ السَّكَّةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَكُ وَاعْلَىً أَدْبَارِكُمْ

زین میں ۵۹ چھے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختارے لیے اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے

حضرت زید بن اسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی روایت فرمایا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے گھروں خدمت کے لیے خادم ہو وہ ملک ہے۔ (ابن جریہ)

۵۸ عقدہ توحید، نبوت، حسینت و آزادی، حکومت، یہ ساری نعمتیں ایسی تھیں جو اس زمانہ میں بنی اسرائیل کے سوا کسی اور قوم کو نصیب نہیں تھیں۔

۵۹ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساڑھے کو مدرسے سے ہجرت کی اور سمندر کو بخیریت عبور کر لیا اور فرعون اپنے نشکر محیت غرق ہو گیا تو آپ وادی سینا میں فروکش ہو گئے۔ ایک سال وہیں قیام فرمایا اسی اثنایم آپ کو تورات عطا ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے آمد کیا۔ چنانچہ وہاں تک کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بارہ نقیب روانہ کیے جو قالیں روزہ ناک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے جب واپس آتے تو موسیٰ علیہ السلام نے انھیں فرمایا کہ قوم کے سامنے بر ملا ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے اُن کے ہو صدی پست ہوں لیکن بارہ میں سے دس نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت و جبروت، ان کے قد و فامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ لیخینا کہ بنی اسرائیل چلا اُٹھے۔ اور انہماں نے باکی سے اپنے بغیر کو کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹھکر لے کر اپنے پوچھ کو قیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا اپنے ان سے جا کر لڑیں۔ ان سے ملک کو پاک کریں تو پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رُخ کریں گے۔ انھوں نے کہا ہم شام کی زنجیر زمینوں، ٹھنڈے پانی کے ابلتے ہوئے چشمیں اور چلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کی عزت کی زندگی سے باز آتے۔ ہم تو واپس مصراجاتے ہیں۔ وہاں اگرچہ غالباً کی ذلت ہے لیکن بوت کا تو انہیشہ نہیں دُوسرے دونقصیوں حضرت یوش بن نون اور کالب نے بہت سمجھایا کہ نامر دن بنز، ذرا ہممت کر کے دشمن رچملہ توکر و پھر دیکھو نصرت الہی کس طرح مختارے دشمنوں کو پچھ کر کھ دیتی ہے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہتا۔ چنانچہ ان کی اس زندگی اور پیغمبر کی زندگی کی وجہ سے اس ملک کا دخلہ ان پر بند کر دیا گیا۔ قالیں برس تک مختلف بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھانتے چھرے جب اس مدت میں غلامی کی گدوں پلے ہوتے اس ارتیٰ لفظہ اجل بن گئے اور آزادی کی فضا میں پیدا ہونے والے بچے پر وان چڑھے تو انھوں نے شام پر حملہ کر کے اُسے فتح کیا۔ اس سے ہمیں بھی یحقیقت تبادی گئی کہ آزادی کی نعمت

فَتَنْقِلِبُوا خَسِيرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قُوَّةً مَّا جَبَارُينَ

ورزہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوتے کہنے لگے آے موسیٰ! اس زمین میں تو بڑی جابر قوم (آباد) ہے

وَإِنَّا لَنَّ نَلْدُ خُلَّهَا حَثَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے اور اگر وہ نکل جائیں اس سے

فَإِنَّا دَأْخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ

تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے (اس وقت) کما داؤ میوں نے جو (اللہ سے) ڈرنے والوں سے تھے انعام فرمایا تھا اللہ

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ

جن پر کہ (بے دھڑک) داخل ہو جاؤ ان پر دروازے اور جب تم داخل ہو گے دروازہ سے تو یقیناً تم

غَلِيُونَ هُدَ وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكِلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا

غالب آجائو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان دار کہنے لگے

يَمُوسَى إِنَّا لَنَلْدُ خُلَّهَا أَبْدًا أَمَادًا مُّوَا فِيهَا قَذْهَبَ أَنْتَ

آئے موسیٰ! ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں پس جاؤ تم

وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَّا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمِلُكُ

اور تھا رب اور دلوں لڑوں ان سے ہم تو ہیاں ہی بیٹھیں گے موسیٰ نے عرض کی کی میرے رب امیں الکریمین ہوں گے

الْأَنْفُسِي وَأَخْرِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ ﴿٢٥﴾

بجز اپنی ذات کے اور لپنے بھائی کے پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان

اسی قوم کو عطا فرماتی جاتی ہے جو اس کے لیے سر دھڑکی بازی لگانے کے لیے تیار ہو۔

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَّهِمُونَ فِي

اللہ نے فرمایا تو یہ سرزین حرام کر دی گئی ہے ان پر چالیس سال تک سرگردان پھریں گے زین

الْأَرْضَ طَفَّلًا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

میں سونہ غمگین ہوں آپ اس نامہ کے اجسام پر اور آپ پڑھتا ہے اخیں تک

نَبَأً أَبْنَى إِدْمَارَ بِالْحَقِّ مَذْقَرَّ بَارِقُوبَانًا فَتُقْتَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا

خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک جب توں نے قربانی دی ۱۴ تو قبول کی گئی ایک سے


وَكَمْ وِتَقْبَلَ مِنَ الْأَخْرِ قَالَ لَا قَتْلَكَ طَبَّاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ

اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے راس دوسرا نے کہا تم ہے میں تھیں قتل کروں الوں گا۔ (یہلے نے کہا تو بلا وجہ نہ راضی فناہ)

۴۰۔ بنی اہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح ولیمیں اور روشن مبحرات دیکھ کر بھی ہیود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے جس سے حصہ مکروہ رنج ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قضیہ سناؤ کر اپنے جدیب کو بتاتے ہیں کہ جسیے قابیل نے محض حسد کی بنا پر اپنے لے گناہ اور پاکیاز بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی اسی حسد کے شکار ہیں۔ اخیں رنج یہ ہے کہ حضرت امیل کی اولاد سے کسی کو نیوں بھی بنا کر بیچاگیا صرف اس لیے یہ لوگ آپ کی اور آپ کے لاتے ہوتے دین کی مخالفت پر کربتہ ہیں۔ قابیل اپنے بھائی ہابیل سے کیوں حسد کرتا تھا۔ اس کے جواب میں مفسرین نے بہت سچھ کھا ہے لیکن کوئی یقینی چیز نہیں جسے پیش کرتے وقت ول میں علش محسوس نہ ہو۔ اس لیے اس سے قطع نظر کر کے صرف وہی صحیح عرض کرنا عبرت پذیری کے لیے کافی ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ بالحق کے لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ قضیہ محض نفرت طبع اور دل بھلانے کے لیے نہیں سنایا جا رہا ہے بلکہ سچ مج بے کم دکاست سنایا جا رہا ہے۔ تاکہ حق واضح ہوا اور نصیحت حاصل ہو۔

۴۱۔ قربان سے مراد کوئی جاؤ نہیں جو ذبح کیا گیا ہو بلکہ محض نذر خداوندی مراد ہے۔ خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو یا کسی جاؤ کی قربانی کی صورت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو توں بیٹوں (قابیل اور ہابیل) نے با رگاہ رب العزت میں نذر رانہ عبودیت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک (ہابیل) کی قربانی کو شریت قبول بخشنا اور دوسرے (قابیل) کا نذر رانہ نامنظور فرمایا۔ قابیل حسد کے مار سے تڑپ اٹھا اور اس میں اپنی تنقیہ اور نذر لیل سمجھی کہ اس کی قربانی منظور ہو گئی اور میری مسترد کرو گئی پسچا پسچا اس نے کہا کہ ہابیل اسیں اس فلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تیری جان لیے بغیر

بی اسکرینل کی میکرو سے بہترت اور حکم لئے سینا میں محکماں زدی



اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ۝ لَئِنْ بَسْطَ إِلَيْيَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا

قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیز کاروں سے لے گا تو اگر تو بڑھاتے ۴۳ میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھ (جب بھی)

أَنَّا بِإِسْطِيدَى إِلَيْكَ لَا قُتْلَكَ إِلَيْكَ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے

الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ أَبِارَاثِمِ وَإِثِيلَكَ فَتَكُونُ مِنْ

سائے جہانوں کا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے میرا گناہ ۴۴ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جاتے

مجھ تکین نہیں ہو سکتی۔

۴۵ ہابیل نے قabil کی دھمکی کا جواب دیا کہ بھائی اس میں میری کیا خطا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اسی کا نذر انہ قبول کیا جاتا ہے جو منفقی اور پرہیز کاروں ہو۔ گویا ہابیل نے اُسے تباہیا کہ اگر تم اپنی سابقہ زندگی میں اپنے رب کے نافرمان اور سرکش بننے لے ہے ہو جس کے باعث تھیں یہ دن دیکھنا پڑا تو اب گزشتہ کر تو توں پر اشک نہامت بھاؤ اور سچے دل سے توہہ کرلو اور آئندہ تقوی کی راہ پر گامزن رہو۔ رحمت خداوندی تھماری قربانی بھی قبول کر لے گی لیکن انسان کی یہ دیرینہ عادت ہے کہہ ایک غلطی پر دوسرا شدید غلطی سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بھی سکھیں گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قabil کے لیے آسان اور سلامتی کا راستہ تو وہی تھا جس کی طرف اس کے بھائی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ لیکن وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔

۴۶ ہابیل نے جب دیکھا کہ قabil میرے قتل کا غرم کرچکا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا تو اس نے کہا قabil! اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو بھی میں تھیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے یہ نہ مجھا جاتے کہ قabil جب قتل کرنے آیا ہابیل مظلوم اور بے بھیر کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی خاطر کے لیے تچھنے کیا نہیں بلکہ ہابیل کا یہ قصد ہے کہ اگرچہ مجھے لیکن ہے کہم میرے قتل کرنے پر ملتے ہوئے ہو پھر بھی میں پہل نہیں کروں گا حضرت ابن عباسؓ سے یہ معنی مروی ہے۔ قال ابن عباس ان المعنی في الآية لئن بسطت إلی يدك على سبيل الظلم والابتداء لقتلنی ما انابا سطیدی الیک على وجه الظلم والابتداء رُدُّوا معانی، شریعت میں اپنے بچاؤ کے لیے حملہ اور کام قابلہ کرنا واجب ہے۔ والا صحو وجوب ذلك لمحافیه من النهي عن المنكر۔ (قرطبی) یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اپنا بچاؤ اور دفاع فرض ہے کیونکہ نبی عن المنکر کے حکم کی تعمیل کی یہی صورت ہے۔

۴۷ باشی کا معنی ہے باشو قتلى یعنی جو گناہ تو نے پیدے کیے ہیں ان کا بار تو تیرے سر پر ہے ہی اب میرے گون ناچ

أَصْحَابُ التَّارِيخِ وَذَلِكَ جَزْءُ الظَّلَمِيِّينَ^{٢٩} فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ

دو زیخوں سے اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی پس آسان بنا دیا اس کے لیے ۴۵

قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَرَهُ مِنَ الْخَسِيرِينَ^{٣٠} فَبَعَثَ اللَّهُ

اُس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل سوقت کر دیا اُسے اور ہو گیا سخت لقمان اُٹھا نہ والوں سے پھر بھیجا اللہ نے

غَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْاةً أَخِيهِ^{٣١}

ایک کوئا کھودتا تھا زین کو تاکہ دکھاتے اُسے کہ کس طرح بچھاتے لاش اپنے بھائی کی

قَالَ يَوْيِلْتَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ فَأَوْارِي

کہنے لگا ہے افسوس ! ۴۴ کیا قاصر ہا میں کہ ہوتا اس کوئے کی مانند تو پچھا دیتا

کا گناہ بھی تیرے سر پر لادا جاتے گا۔ اس کی یہ قفسی بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم جب بارگاہ المی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دادرسی کے لیے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو عطا فرمائیں گے اور اگر اس سے بھی دادرسی میں کسر رہ جائے گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیتے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ بامی سے اس بات کی طرف اشارہ ہو۔

۴۵ طوع کامنی ہے آسان بنا دینا رقبی سکے بھائی کا قتل کوئی آسان بات نہ تھی جب قabil کو اس کا پہلے خیال آیا ہو گا تو بھائی کی محبت، اس کی میکی اور پاکیزگی، باپ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب یہ سب چیزیں راستہ میں پھاڑنے کر کھڑی ہو گئی ہوں گی۔ نہ معلوم قتل کرنے کی خواہش میں اور ان عوامل میں لکھنی دیکشناش جاری رہی ہو گی لیکن آخر حصہ کا جذبہ غالب آگیا اور اس نے بھائی کے قتل کو عین صحت بننا کر پیش کیا۔ اور قabil اس کو خوشنی سے کرنے پر آمادہ ہو گیا پھر جس کے قصور سے اس کے رو نگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ ہر مجرم جرم کرنے سے پہلے ایسی شکش سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر نیکی کی وقت غالب آگئی تو جرم کرنے سے باز آگیا اور گناہ سے بچ گیا۔ اور اگر خدا خواستہ شر کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر حضرت انسان یا یہ بھبھہ دستار بھرہ علم و فرستت چاروں شانے پر چلت زین پر آگرتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس موقع پر شیطان زور دار قمعہ لگا کر لنگہ بلند کرتا ہو گجو ملا کاک زندہ بادا!

۴۶ اصل میں یادیتی ہے لیکن ندا کے وقت یا کوالف سے بدل دیا اور اس کے ماقبل کو فتح دے دیا۔ ویل کامنی بلاکت ہے۔ جب انسان ہلاک ہونے لگے تو اس وقت کہا جاتا ہے یادیتی ہاتے میں برباد ہو گیا۔

سَوَاةً أَخْرِيٌ فَاصْبِرْ مِنَ النُّدُمِينَ ﴿٧﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

لاش اپنے بھائی کی ۴۷ غرض وہ ہو گیا سخت پھیتاناے والوں سے اسی وجہ سے ۴۸

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا لَا يُغَيِّرُ نَفْسًا

(حکم) لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو ۴۹ سواتے قصاص کے

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا قَاتِلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

اور زین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو اور جن نے بچا لیا

فَكَانُوا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو اور بے شک آئے نے ان کے پاس ہمارے رسول و شدن دلیلوں کے ساتھ

۴۶ سوَاةٌ شَرِّمَكَاهُ چھپانے کی چیز یعنی لاش۔ کہتے ہیں کہ ہایل پہلا شخص ہے جس نے موت کا جام پیا۔ اس لیے قابیل ہیران ہو گیا کہ میں اب اس کی لاش کو کھڑکروں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ مکھایا۔ ۴۷ یعنی جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بندور و اوزہ کھول دیا اور ایک خطرناک رسم کی ابتداء کر دی اور اب دوسراے لوگ بھی قتل کرنے لگے اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا تو بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوتی اس میں اس کی صراحت ممانعت کردی گئی۔

۴۸ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ آدمیوں ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب کیا کہ جن نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو ترتیب کر دیا۔ علامہ بیضاویؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جن نے ایک بے گناہ کو مار دا اُس نے خون انسانی کی بے ہرمتی اور تو ہیں کی نیز اس نے قتل کی رسم کا از سرفہ آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بھوم کے ارتکاب کی جرأت دلائی۔ من حیث انہ هن تک حرمة الد ماء و سن القتل و جرأة الناس عليه (بیضاویؒ)

نکھ تو رات میں انھیں قتل ناحی سے باز رکھنے کے لیے احکام قطعیہ نازل ہوتے۔ ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سسلہ جاری رہا جن کے معجزات دیکھ کر ان کی صداقت کا انھیں اعتراف کرنا پڑا۔ لیکن ان کی مسخر شدہ فطرت اور بگڑتے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہوتی۔ یہ رابرآمادہ قتل و فساد رہے جن بیغمروں پر وہ ایمان لاچکے تھے ان کو بھی تنہیہ دلہ پر لٹکانے اور ان کے سر پر آرہ چلانے سے بازنہ آتے۔ تو ان سے یہ توقع کیوں نکر ہو سکتی ہے کہ وہ بنی کریم مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَرْفَوْنَ^(۱) إِنَّا

پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں نیاد تیار کرنے والے ہیں بلاشبہ

جَزْءُ الدِّينِ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ

سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اکٹے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں اکٹے زمین میں

فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَابُوا أَوْ نَقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

فساد برپا کرنے کی یہ ہے کہ انھیں رین پڑنے کر قتل کیا جائے یا سوی دیا جائے یا کافی بھائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں

مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْعَوْا مِنَ الْأَرْضِ طَذِلَكَ لَهُمْ حُزْنٌ فِي الدُّنْيَا

مختلف طوفوں سے یا جلاوطن کر دیتے جاتیں اکٹے یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں

کی اذیت رسانی اور آپ کے خلاف ناپاک سازشیں کرنے سے باز ایں گے۔

اکٹے ملکتِ اسلامیہ کے گوشہ گوشہ میں، امن تمام کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ اے اور اس کے رسول معظم نے دیا ہے جو اس حکم کی خلاف درزی کر کے قتل و غارت اور کوٹ مار کا باذار کرم کرتا ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے اس لیے قرآن کریم نے ملکتِ اسلامیہ کے کسی باشندے پر خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی دست و رازی کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے سے تعییر کیا ہے۔

۴۷۳ وَ اَقْفَسْيْرِ یہ ہے۔ پہلے جملہ میں جس محاربہ کا ذکر ہوا اس کی وضاحت فرمادی۔

۴۷۴ مجاہدین جن کی سزا میں ہیاں بیان کی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جن میں یہ تین شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہیں۔ (۱) وہ بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ تھیاروں سے مسلح ہوں۔ (۲) آبادی سے باہر راستہ یا صحر میں وہ رہنی اور ڈاک کا ارتکاب کریں لیکن امام شافعی اور اعی اور لیث رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر میں ڈال کر لئے والے بھی محارب کہلاتیں گے اور انھیں سزاوں کے مستحق ہوں گے (۳) وہ چھپ کر نہیں بلکہ پر ماحملہ اور ہو کر کوٹ مار کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے چار سزا میں مقرر کی ہیں۔ (۱) انھیں قتل کر دیا جائے باہر قلعیں ہتھیں تشدید اور مبالغہ کے لیے ہے یعنی مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تو بھی انھیں قتل کیا جائے گا کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے۔ یہ مقتول کے وارث کا بھی معاملہ نہیں رہا (۲) انھیں سوی دے دیا جائے۔ (۳) ان کا دایاں ہاتھ اور بیاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ (۴) یا انھیں قید کر دیا جائے۔ بعض علماء کا بیخیاں ہے کہ ان فرقتوں کے درمیان او (یا) کا کلمہ تختیر

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَعَظَّ مِمَّا عَذَابُوا مِنْ قَبْلِ

اور ان کے لیے آخرت میں (اس سے بھی) بڑی سزا ہے لئے مگر وہ جنہوں نے تو پر کر لی ہے اس سے پہلے

أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا إِيمَانَ الَّذِينَ

کرت قابل پا لو ان پر (ان کو معاف کر دیا جاتے گا) اور حرب جان لو کہ لِتَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَشَّرَ بہت بخشے والا نہایت محروم اے الہی یا ایمان والوں

کے لیے ہے یعنی امام وقت کو اختیار ہے کہ ان سزاوں میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ وہ قول سعید ابن المسیب و عمر بن عبد العزیز و مالک و النجاشی کلہو قال الامام مخیری الحکم علی المحاربین و هو مردی عن ابن عباس (قرطبی) لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی۔ عذاب جرم سنگین ہوگا اتنی ہی سزا سخت ہوگی چنانچہ احناٹ نے اس کی تفصیل لوں بیان کی ہے کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جاتے گا اور مقتول کے والشوں کے بخش دینے سے بھی معاف نہ ہوگا۔ اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سوپی دے دیا جاتے گا اور لوگوں کی عبترت پذیری کے لیے شارع عام پرسوپی دے دی جاتے اور ان کی لاشیں لٹکی رہیں اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا صرف مال لوٹا تو ان کا دیاں ہاتھ اور بیاں پاؤں کاٹ دیا جاتے گا۔ اور اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہر اس کیا تو پھر انہیں قید کیا جاتے گا۔ (روح المعانی)

۲۷ کون نہیں جاتا کہ ملک کی ترقی اور غوشائی کا تمام تراخصار اس پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں۔ تجارتی قافلوں اور سامان کے لٹ جانے کا خطرو نہ ہو۔ لوگ طلب معاش اور اپنی دوسرا ریات کے لیے بے ہٹک بہماں چاہیں جاسکیں اور جو فسادی عینصر ملک کے امن کو بر باد کر رہا ہو۔ عام شاہراہوں پر بسوں اور موڑوں کو لوٹنے، ریل کاڑی کی پیڑی کو اکھیر دینا، بھلی یا لیلیگراف کی تاروں کو کاٹ دینا، راہ چلتے نہتے مسافروں کو مارڈانا پنا مشغلہ بنا لے وہ کسی رحم اور فرم دلی کا سخت نہیں اس کو جتنی عبترت ناک سزا دی جاتے اتنا ہی مفید ہے۔ ایسے ہی فتنہ پرداز لوگوں کے لیے یہ سزا میں قرآن نے مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی چیز بھیں ہوتا ہے تو اس کی مرضی لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا اور ان کو ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کا اپنے مانندے والوں کو حکم دیتا ہے مکن ہے سفاکوں اور رہنزوں کے ساتھ نرمی کرنا ہی کسی کے نزدیک رحم ہو لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے نظم کی تواریخیں لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا رحمت ہے۔ نظریات کے لئے میں تقاویت کی موجودگی میں عمل اور طریق کاریں تقاویت یہر ت انگریز چیز نہیں۔

۲۸ اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تاب ہو جاتے اور اپنے آپ کو حکومت کے ہوال کر دے پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے لیکن اگر انہوں نے کسی کامال لوٹا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یادیت

اَمْتُوا اَنْقُوَ اللَّهَ وَابْتَغُوا لَيْلَةَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَيِّلَةٍ لَعَلَّكُمْ

ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ^{۲۴} اور جدوجہد کرو اس کی راہ میں کام تاکہ تم

ادا کرنی ہوگی کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کی سزا بھلکتی ہو گی۔

^{۲۴} ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الوسیلة فی الاصل ما یتوصل به الی الشیعی و یتقرب به الیه (السان العرب) یعنی جس چیز کے ذریعہ کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قریب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ والوسیلة كل ما يتقرب به (رسالت)۔ ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنا یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قریب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں اور مرشد کامل ہو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی آتا رہے۔ دل میں یادِ الہی کی ترڑپ پیدا کر دے اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ کامیں اعتمت نے اسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں، بیڑا روں کو س کی مسافت کو پاسا یادھ طے کیا ہے۔ اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمانِ معرفت و حکمت پر ہمراہ ماہ بن کر چکے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے (قولِ جبیل) اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ اسماعیل صاحب ذہلوی کو بھی لکھنا پڑا۔ اپنے سلوك اسی آیت را اشارت بسلوک میں فہمند و وسیلہ مرشد رامے دانتہ پس تلاش مرشد بنا بر فلاح حقیقی و فوز تحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری ست و سنت اللہ برپیں منوال جاریست لہذا بدُون مرشد را یا بیان نہ دراست۔ (صراطِ مستقیم) یعنی ساکان را وحیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے پس تحقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از بس ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساکان را وحیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔

مولوی ہرگز شنڈ مولائے روم تاغلام شمس تبریزی نشد (رُومی)

دم عارف نیم صحمد م ہے اسی سے ریشمہ معنی میں نم ہے
اگر کوئی شیعہ آتے میسر شبانی سے کھی می دو قدم ہے (راقبال)

لے کے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے تقویٰ اختیار کرنے، وسیلہ تلاش کرنے کے علاوہ ہر دم مصروف بھما رہنا بھی ضروری ہے جماد اصغر بھی اور جماد اکبر بھی۔ کفار سے بھی اور لفیں امارہ سے بھی۔ اور ان تمام نظریات اور افکار سے بھی جو کسی حیثیت سے اسلامی عقائد اور مسلمانات سے ٹکراتے ہیں۔ تب جا کر فلاح دکامانی تنصیب ہو گی۔

چومی گوم مسلمان بلدرزم

کہ دام مشکلاتِ لا الہ را (راقبال)

نَفَّلُوْنَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْا اَنَّ لَهُمْ هَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

فلاح پاؤ بے شک ہجھوں نے ۸ کے کفر اختیار کیا اگر انہی کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُ وَإِبْهَهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تَقْبِلَ

اور اننا اور مجھی اس کے ساتھ تاکہ بطور فرد یہ دیں اسے (اور نجات پائیں) عذاب سے روز قیامت نہ قبول کیا جاتے گا

مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۵﴾ يُرِيدُونَ اَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ

اُن سے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہو گا بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے

وَمَا هُمْ بِمَا رَجَبُوا مِنْهَا نَانِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۶﴾ وَالسَّارِقُ

اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے اور ان کے لیے عذاب ہو گا ہمیشہ ہمنے والا اور چوری کرنے والے

۸ کے لیے یعنی کفار کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم وہاں بھی روپیر وغیرہ سے کام چالائیں گے۔ وہاں توجہات کا ذریعہ ایمان ہے دُنیا بھر کی دولت بھی اگر وہ دے کر جان چھوڑنا چاہیں گے تو ان کے منہ پر مار دی جاتے گی۔

۹ کے اس سے پہلے تھیا رند ڈاکوؤں اور رہنماوں کی سزا تین بتاتی تھیں۔ اب چوروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل عرب کے نزدیک جن کی زبان اور محاورات کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا۔ سارق (چور) کس کو کہتے ہیں۔

السارق عند العرب هو من جاء مستترًا إلى حرثٍ فاخذ منه ما ليس له (قرطبي) یعنی اہل عرب سارق اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں آتے اور وہاں سے ایسا مال لے جاتے جو اس کا اپنا نہیں۔ اس وضاحت کے بعد پڑھیں جاتا ہے کہ قلمہ اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جن شرط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے وہ ان کا اپنا اضافہ نہیں بلکہ لفظ سارق کے لغوی معنوم سے مانوذ ہیں۔ مختصر آن شرط کا ذکر کرتا ہوں قطع یہ کہ لیے جن کا پایا جانا چور، چوری شدہ مال اور چوری کی جگہ میں ضروری ہے۔ چور کے متعلق تو یہ شرطیں ہیں:-

(۱) بالغ ہونا بالغ نہ ہو۔ (۲) عاقل ہو پا گل اور دیوانہ نہ ہو۔ (۳) مال مسروقہ کا مالک نہ ہو سارے کا نہ اُس کے کسی حصہ کا۔ مال مسروقہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی قیمت ایک دینار یادس درہم سے کم نہ ہو۔ اور جہاں سے چوری کی گئی ہے وہ محفوظ جگہ ہو گھر ہو، دکان ہو کوئی اور مکان ہو۔ یا اس مال کی حفاظت کے لیے کوئی پھرے دار مقرر ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تفصیلات ہیں جن کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبَتْ لَا إِنْ

اور چوری کرنے والی (کی سزا یہی) کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدله دینے کے لیے جو انہوں نے کیا تھا (اور) عیناں کے سزا

اللَّهُ طَوَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَكَبَ مِنْ بَعْدِ ظَلِيمٍ وَأَصْلَحَ

اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نام سے حکمت والی ہے اسے پھر جس نے توہیر کر لی اپنے (اس) ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا

۸۰۔ چور کی یہ زرامقر کرنے کی دو وجہیں تباہیں۔ ایک تو یہ کہ جذابہ مالکسیا یہ اس کے اپنے کیسے کیسے کی سزا ہے اب وہ اسے سمجھتے دوسرا یہ وجہ نکلا اہن اللہ نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہے اور یہ دونوں مقصد اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں جیسے قرآن نے حکم دیا۔ آج کتنی لوگ ان سزاوں کو بہت شدید اور سخت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس غیر مدد اور غیر تحدیث سوسائٹی کے لیے تھیں جن میں قرآن نازل ہوا۔ اس زمانہ کے بعض متربجین اور حاشیہ نویسیوں نے اس پر بڑا ذرائع علم صرف کیا ہے کہ یہ زمانہ صرف عادی مجرموں کے لیے ہے جنہیں قید و بند کی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرہ کا ستائش سیاد رکھا ہے جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے۔ رعایا کے ہر فرد کی جان۔ مال اور ابرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جاتے تو یہ زمانہ سخت اور شدید سی لیکن عین حکمت ہیں۔ آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے۔ وہ بیوہ، وہ تیم، وہ پر امن شری جس کی عمر بھر کا اندوختہ راتوں رات لوٹ لیا گیا یا ہٹا کشاپور جب سے مظلوم سے زیادہ ظالم، لٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفت و عنایت کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے اس وقت سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ریا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں ہی دیکھیں۔ پولس ہے ہمسریت ہیں جیل خانے کھپا کچھ بھرے ہوتے ہیں لیکن جرائم میں زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ جس علاج سے بیماری کھٹکنے کے بجا تر طبیتی پلی جا رہی ہو وہ علاج ناکام ہے۔ اگر ہم مریض کو وسائل بھی کرنے کا ہی عزم صشم کر لیکے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ ورنہ مریض اور اس کے سارے کتبہ کی خیرخواہی کا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسرا علاج کیا جاتے۔ بنی امیہ کے ایک خلیفہ ہشام کو بھی تہذیب و شایستگی کا دورہ پڑا تھا اور اس نے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی۔ لیکن جب چوری کی دار داتیں آتے دن بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا حلیم کا رگڑہ ہو سکا تو دوسال کے عرصہ کے بعد پھر اسے قرآنی سزا نافذ کرنا پڑی۔ اس نے تو پھر اپنی غلطی کو بھانپ لیا اور دوسال کے بعد ہی اس کا اذالہ کر دیا لیکن ہم تو حالات کی انتہائی زراحت کے باوجود وہش سے مس نہیں ہوتے۔ اگر ملک بھر میں دس بیس چھوپچاپس ہی چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں اور آپ کا ملک چوری کی لعنت سے بنجات حاصل کر لے اور آپ کی نئی پو دیں یہ محربانہ خیالات سرہی نہ اٹھائیں تو میرے ناقص خیال میں شایستگی کا یہ مظاہرہ اس مظاہرہ سے بدر جہا بہتر ہو گا کہ ہمارے ملک میں کسی کام محفوظ نہ ہو۔ ہماری جیلوں میں سوسائٹی کے ان کرم فرماوں (چوروں) کے لیے

فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ

تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر فرمائے گا ۸۷ اس بچپے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش والا ہت رحم فرمائے والا ہے کیا تو منیں جانتا کہ بلا شہہ

اللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ

اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زین کی سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے رسول ۸۸

لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا

نغمیں کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں ان لوگوں سے جھوٹوں نے کہا

أَمَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا

ہم ایمان لاتے (صرف) اپنے منہ سے حالانکہ نہیں ایمان لاتے تھے ان کے دل اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں

قرمہ اور پلاوپک رہا ہو۔

۸۷ یعنی جس خدالنے چور کی یہی نزاوجی کی ہے وہ عربی بھی ہے یعنی سب پر غالب ہے اور حکیم بھی ہے یعنی اس کا حکم سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہو اکرتا ہے۔ ان دو صفات کے ذکر کرنے سے معتبر ضمین کے تمام شکوک کا جواب بھی آگیا۔

۸۸ امام شافعی اور چنڈا اور علماء کا خیال ہے کہ اگر چور بھی گرفتار ہونے سے پہلے تاسیب پوچھا جائے تو اس پر حد جاری نہیں کی جاتے گی لیکن جموروں علماء اور احباب کا یہی مطلب ہے کہ چوری کے بعد حد تو ضرور لگے اگر اس نے تو بہ کی تو قیامت کا عذاب معاف کر دیا جاتے گا اور تو بہ کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس چوری کا مال موجود ہو تو اس کے مالک کو اپس کرنے سے نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر مالک سے معاف کرائے۔

۸۹ یہود کی خاتمتوں سے حضور کریم کا دل آزدہ ہوتا تھا حضور ان کو قدم قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت مہیا فرماتے یہیں وہ برابر کفر سے چھپے رہنے پر مصروف ہتھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسرہ نہ ہوں۔ یہ اپ کو کوئی گزندہ پھیسا سکتے ہیں اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا افرار کر لے سے ہیں ان کے دل اُسی پر آنے کفر میں مبتلا ہیں۔

سَمْعُونَ لِلَّكَذِبِ سَمِعُونَ لِقَوْمٍ أَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ مُحَرَّفُونَ

جاسوسی ۸۵ کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری ۸۶ قوم کے جو نہیں تھیں اپنے پیاس بدلتے ہیں

الْكَلِمَةُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيْتُمْ هَذَا فَخُلُّوهُ

اللہ کی باقول کو اس کے صحیح موقعوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اُسے

وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ قَاحِذَرُوا طَوْمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ فَتَنَّتَهُ فَلَنْ

اور اگر نہ دیا جاتے تمہیں یہ حکم تو پچھو ۸۷ او جس کو ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ قسمیں ڈالنے کا تو نہیں طاقت

۸۸ سمع کے دو صنی ہیں (۱) سُنْنَا (۲) قُبُولٌ کرنا۔ سمع مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علامہ زمخشیری اور بیضاوی نے دوسرے معنی پسند کیا ہے قابلون لما یافتہ الاحبار و متنہ سمع اللہ لِمَنْ حَمْدٌ (کشاف) یعنی اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے انھیں اپنے پادریوں کی جھوٹی باتیں بڑی پسند ہیں اُنھیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔

۸۹ یہاں بھی سمع کے دونوں معنے مراد ہو سکتے ہیں یعنی وہ آپ کی مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اُسے اپنی قوم کے سرداروں کو جاکر بتائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی سچی باقول کو تو قبول نہیں کرتے لیکن فیض کا راجبار و علماء کی جھوٹی باقول کو دل میں جایا لیتے ہیں۔

۹۰ یہاں ایک خاص و اقتصر کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جس کو تفسیر کشاف سے نقل کرتا ہوں غیرہ کے ایک شادی شدہ یہ ہو دی مرد اور حورت نے زنا کیا۔ دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے اس لیے علماء بیووں نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انھوں نے ان دونوں کو ایک وفاد کے ہمراہ بُنی قرطیہ کے پاس مدینہ طیبہ رہا اُنہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں نیز انھوں نے یہ پہايت کی کہ اگر وہاں سے لگانے اور مرنے کا لکرنے کا حکم دیں تو مان لینا اور اگر رجم کا حکم دیں تو انکار کر دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رجم کا ہی حکم فرمایا۔ انھوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جبریل کے لئے رضھوڑ نے انھیں فرمایا کہ کیا تم نوجوان ابن صوریا کو بچانتے ہوئے کہنے لگے جی ہاں روٹے زین پر یوں دیں اس کا ہم یہ کوئی عالم نہیں۔ چنانچہ اسے حکم مقرر کیا گیا۔ جب وہ آیا تو رضھوڑ نے فرمایا تمہیں اس خدا کا داس طے دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کیا اور تمہیں بخت دی اور فرعون کو عرق کیا اور جس نے تم پر تورات نازل فرمائی تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تواریں میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے یہود اس پُرچھل پڑے لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذابِ اللہ کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ مسجد کے دروازہ کے سامنے انھیں رجم کیا گیا۔ (کشاف)

تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا طَوْلَى كَذَلِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ

رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی یہ فہری لوگ میں ٹھے کہ نہیں اداہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے

فَلَوْبِهِمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَفَ

ان کے دلوں کو ان کے لیے دُنیا میں ڈلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب

عَظِيمٌ ۝ سَمَّاعُونَ لِذَكْرِ بَكَلُونَ لِسُجُوتِ طَقَانِ جَاءُوكَ

بیوں کرنے والے ہیں مجھوں کو بڑے عرام خور ہیں ۷۸ تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس

فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعَرِّضُ عَنْهُمْ فَلَنْ

تو چاہے فیصلہ فرمائے ان کے درمیان یامنہ پھیر لیجئے اُن سے (آپ کو اختیار ہے) اور اگر آپ ہمہ پھیر لیں اُن سے تو نہ

۷۸ اس کی وجہ ان کی اپنی عاقبت نا اندریشی تھی جس قوم کی بدایت کے لیے ایسا مکرم رسول مبعوث کیا جائے، فرآن جیسی روشن اور مدلل کتاب نازل کی جاتے۔ ہر لمحہ ان کو اسلام کی حقانیت کے معجزات کا مشاہدہ کرایا جاتے اور ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی جاتے لیکن وہ قوم پھر بھی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف باطل سے حق کی طرف آنے سے انکار کرتی رہے تو اس قوم کا بچجز اس کے کیا علاج ہے کہ اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ باطل عقائد کی غلط اعمال کی عقوبات سے الوہ رہے اور اسی حالت میں دم توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کو بُرانی پر مجبور نہیں کرتا اسی طرح وہ کسی سے جبراً نیکی بھی نہیں کوتا۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اور انسان کو بوجو شرف تمام کائنات پر عطا فرمایا گیا ہے اُس کے بھی منافی ہے۔

۷۹ ”سُجْنَت“ کا لغوی معنی ہلاکت و بر بادی ہے۔ مال حرام کو اس لیے سُجْنَت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و بر باد کر کے لکھ دیتا ہے مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بارہا منع کیا گیا چنانچہ حنفیوں کیم علیہ الصلوٰۃ والتسیم نے فرمایا کل لحم نبت بالسُّجْنَت فالتار اوی بہ قالوا یا رسول اللہ وما السُّجْنَت ؟ قال الرشوة فی الحکم؛ جو گوشت سُجْنَت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلاتے گی۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول سُجْنَت کے کہتے ہیں ؟ فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اذا ارشی الحاکم الغزل فی الوقت دان لم یعنی کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے خواہ اسے بظاہر معزول نہ بھی کیا جاتے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور ناخن کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دیا جاتے۔ فاما ان ترشی لتفع عن دیناک و دمک و مالاک فليس بحرماً۔ لیکن اپنے

يَضْرُّ وَكَثُرَ شَيْعًا وَإِنْ حَكِيمٌ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ

نقضان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی ۸۹ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرماتے ان میں انصاف سے نہ بشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ وَكَيْفَ يُحِبُّ كَوْنَكَ وَعِنْدَهُمْ

اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے اور کیسے نصف بناتے ہیں آپ کو حالانکہ ان کے پاس

الْتَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا

تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے ۹۰ پھر وہ منہ پھیرتے ہیں (اس سے) اس کے بعد بھی اور نہیں ہیں

دین، جان، اور مال کی خناخت کے لیے دی جاتے تو حرام نہیں۔ یہاں لینے والا گہر ہو گا،
۹۱ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو اہل کتاب کے نماز عات کا فیصلہ فرماؤں اور
چاہیں تو انکار کر دیں لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوتی۔ ان حکم بینہ ہو بیما نزل المخ توبہ اختیار نہ رہا۔
اور ان کے باہمی بھکر ٹوں کا فیصلہ کرنا حضور پر لازمی ہو گیا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ اگر بھکر ٹوں مسلم اور ذمی (یعنی مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا) کے درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر میںوں
کا اپس میں نازع ہو تو پھر دیکھس کے کہ امور متنازع عہد کا تعلق ان کی شخصی اور ذمیتی زندگی سے ہے مثلاً نکاح، طلاق، زنا
وغیرہ تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں۔ وہ ان معاملات میں اپنے علماء کی طرف
رجوع کریں۔ واما الحکم فيما يختص به دینهم من الطلاق والنذري وغيرها وليس يلزمهم ان يتذروا
بدینناوفي الحکم بینہواضرار بحکامهم وتغيير ملتهم (قطبی) لیکن ایسے امور جن کا تعلق ملک کے اخلي
امن و امان یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہے تو ایسے معاملات ہیں مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا کیونکہ اگر معاملات میں تساؤں
او�헛ت روکنی جاتے تو فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے (قطبی)

۹۲ یعنی جب فیصلہ کیا جاتے تو عدل والاصفات کو پیش نظر رکھا جاتے کسی کا ہمودی یا منافق اور دشمن دین ہونا اس پظلم
کرنے اور اس کا حق ضائع کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں آن سکتا۔

۹۳ اپنے تجھب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس دوڑ کر کیوں آتے ہیں۔ اگر آپ سے فرمان خداوندی کے مطابق ہی فیصلہ
کرنا مقصود ہے تو پھر یہاں آنے کی رحمت کیوں اٹھاتے ہیں ان کے پاس تورات ہے۔ اس میں احکام الہی موجود ہیں۔
اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں۔

أَوْلَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ

۹۲۔ ایمان دار ہے شک اُتاری ہم نے تورات اس میں پدایت اور نور ہے ۹۳۔

يَعْلَمُ بِهَا التَّبِيِّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا اللَّهُ دُونَهُ هَادُوا وَ الرَّاجِئُونَ

۹۴۔ حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء ہے (ہمارے) فرمائی دار تھے یہودیوں کو اور (اسی کے طبق) حکم دیتے رہے ایسا کے

وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًا

اور علماء اس واسطے کے محافظت ہیڑتے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ تھے اس پر گواہ

۹۵۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتے ایسے ہی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ صرف اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تورات کا سہارا لیتے ہوتے ہیں۔

۹۶۔ اس رکوع میں دو پیروں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تورات، انجیل اور قرآن مختلف اور متضاد اور ایک دوسرے کی ترمیدی و زکریہ کرنے والی کتابیں نہیں اور نہ یہ کہ جب تک دو کافرانہ کیجا تے قیسی پر ایمان و رُست نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب ایک سرچشمہ فیض کی نہیں ہیں۔ ہر ایک میں نور ہے جو مگر اسی کے اندر ہیوں کے لیے پیغام موت ہے۔ ہر ایک میں ہدایت ہے جو طالبان مولانا کی دستیگیری کر کے شاید مقصود تک پہنچا دینے والی ہے۔ دوسری پیغمبر یہ کہ یہود نے تورات اور نصاریٰ نے انجیل سے فائدہ نہ اٹھایا اور احکام اللہ کی جگہ اپنی ہوا ہوس کے پرستار بن کر رہ گئے۔ اے حمالین قرآن! وہ اپنی چوپی مکاڑ و صرف کریں گے کہ تمہیں بھی اپنی کتاب سے دُور کر دیں۔ بخدا را کہیں تم بھی ان کے دام فریب میں چھپس کر اس سُنہری موقع کو صنائع نہ کر دینا۔

۹۷۔ یہود کو تورات ہیں میں نور و ہدایت حقیقی عطا کی گئی تھی۔ مدت دراز تک ان کے انبیاء اور ان کے علماء اس کے مطابق فصلے کرتے رہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جوان پر عائد کی گئی تھی اس کو ادا کرتے رہے لیکن بعد میں جب یہ ہدایت و نور کا صحیحہ دنیا پرست ملنا اور نفس پرور زاید ہوں کے قبضہ میں آگیا تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور نہ اس کی حفاظت کی۔ استحفوظو کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اولیاء اور علماء کے سپرد کی تھی۔ جب تک وہ اس ذمہ داری کو بجالاتے رہے تورات ہر تحریف اور رد و بدل سے محفوظ رہی۔ جب عبادات گزاروں اور علم و الوں میں اخلاص اور للہیت مذہبی بلکہ جاہ طلبی اور دنیا طلبی کا غلبہ ہو گیا تو یہ ہدایت و نور کا صحیحہ رہیاں و اجرا کی جاہ طلبی اور دنیا پرستی کی نذر ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لیے اس میں رد و بدل کر دیا۔

فَلَا تَخُشُوا النَّاسَ وَاَخْشُونَ وَلَا تَشْتُرُوا بِاِيمَانِكُمْ

پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور نہ بیچا کرو میری آئتوں کو مخواڑی سی

قَلِيلٌ لَّا وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمْ

قیمت سے ۹۵ اور ہو فیصلہ نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق ہے نازل فرمایا اللہ نے تو وہی لوگ

الْكَفَرُونَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لَا

کافر ہیں ۹۶ اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے قوات میں (یہ حکم) کہ جان کے بد لے جان

۹۵ اس میں مسلمانوں کو بھی نسبتیہ ہو رہی ہے کہ علماء یہود کی طرح بادشاہوں اور امیروں سے ڈر کر تم بھی قرآن کے معانی میں تیر پھیر نہ شروع کر دینا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس نے اگر پھر طلبیا تو کوئی چھوڑا نہ سکے گا۔ اگر اس کی نیگاہ اٹھنے و کرم سے محروم کر دیتے گے تو دنیا تنگ ہو جائے گی اور کہیں گوشہ نہ عافیت نہ ملے گا۔

۹۶ یہاں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوتے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اسی روکوں کی آیت نمبر ۵ میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا اور آیت نمبر ۷۴ میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آیات صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوتیں ہیں لیکن یہ درست نہیں یہو نکہ کسی خاص شخص کے متعلق کسی آیت کے نازل ہوتے کا یہ طلب نہیں ہوتا کہ وہ آیت بس اسی سے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ اس کا حکم اب کسی دوسرے شخص پر نہ نہیں ہے گا۔ اس لیے صحیح ہی ہے کہ اسے یہود کے ساختہ مخصوص نہ کیا جاتے بلکہ اس کا مفہوم عام رکھا جائے۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے من لوحیکو بدمانزل اللہ مستہینابہ منکرالہ یعنی بخشش اللہ کے حکم کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ کافر ہو گا۔ کیونکہ احکام شرعی کی توہین اور تحقیر کی صرف وہی جرأت کر سکتا ہے جس کا دل ایمان و لقین کے نور سے خالی ہو۔ علامہ برضاویؒ نے ایشفس کو کافر، ظالم اور فاسق کہنے کی بڑی لطیف وجہ بیان کی ہے فرماتے ہیں فکفہم لانکارہ وظلمہ ہو بالحکوم بخلافہ و فسقہم بالخروج عنہ یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے احکام الہیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ کافر ہی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قانون کو چھوڑ دیا جو عین عدل و انصاف تھا وہ قلم کے مرکب ہوتے اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا وہ فاسق کہلاتے۔ اس کے بعد برضاوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ نیوں لفظ لکھ، قلم اور فسق احکام الہیہ سے سترانی کرنے والوں کے مختلف حالات کے پیش نظر کے گئے ہوں یعنی اگر اس نے یہ سترانی از راہ تمر و تحقیر کی تو وہ کافر ہے اور اگر دل میں انکار تو نہیں بلکہ ویسے حکم عدالتی ہو گئی تو وہ ظالم و فاسق ہو گا۔ ویجوان یکون کل واحدۃ من الصفات الثلاث باعتبار حال

الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَ

آنکھ کے بدے آنکھ، ناک کے بدے ناک، کان کے بدے کان اور
السِّنَنَ بِالسِّنَنِ وَالْجُرُودَةَ قِصَاصٌ طَفَمَ تَصْدِيقَ بِهِ فَهُوَ

دانست کے بدے دانت اور زخموں کے لیے قصاص تو جو شخص ۹۸ معاف کردے بدلا تو یہ معافی کفاراہ

كُفَارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

بن جائے گی اس کے گناہوں کا اور جو فیصلہ نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق ہے اما راللہ نے تو ہی لوگ خالم
الظَّالِمُونَ وَقَفَيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

اور ہم نے یتیجھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو ۹۹

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَاتِّينَهُ الْإِنْجِيلَ

تصدیق کرنے والا جو اس کے ساتھے موجود تھا یعنی تورات اور ہم نے دی اسے ابیل

انضمت الی الامتناع عن الحکومیہ ملائمشہ لها (بپیاوی) سچ تو یہ ہے کہ ان آیات کے بعد کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے، اپنی قوم اور اپنی رعایا کے لیے ایسے وہ اپنی تجویز کرے جو احکام حبذا وندی کے خلاف ہوں۔

۹۷ تورات میں طرح طرح کے رد و بدل کے باوجود آج بھی یہ حکم موجود ہے جو قرآن کی تفہیمت کی تصدیق کرتا ہے "اگر وہ اس صدر مہ سے ہلاک ہو جاتے تو پوچھان کے بدلمیں جان لے اور آنکھ کے بدلم آنکھ، دانت کے بدلم دانت اور ہاتھ کے بدلم ہاتھ، پاؤں کے بدلم پاؤں، جلانے کے بدلم جلانا، زخم کے بدلم زخم اور چوت کے بدلم چوت (تعریف ۲۱: ۳۴-۴۵) ۹۸ خالم کے لیے یہ عترت ناک سزا تجویز فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کو عفو و درگزر کی تلقین کی۔ عدل و انصاف اور حکم و کرم کا کتنا حسین امتراज ہے۔

۹۹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ ان کے تیجھے اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ تشریف لے آتے اخنوں نے تورات کی تصدیق کی۔ انسیں انجیل دی گئی۔ وہ بھی تورات کی طرح سراپا ہدایت و نور رہتی۔

فِيْكُمْ هُدَىٰ وَنُورٌ وَّمُصَدِّقٌ لِّاَبَيْنَ يَدَيْكُمْ مِّنَ التَّوْرِیْتَ

اس میں ہدایت اور نور تھا اور تصدیق کرنے والی حقیقی جو اس سے پہلے تھا یعنی تورات

وَهُدَىٰ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۖ وَلِيَحْکُمُ اَهْلَ الْإِنجِيلِ

اور (یہ انجیل) ہدایت اور نصیحت بھی پرہیز کاروں کے لیے اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق

بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِيْكُمْ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے آتا ہے تو وہی لوگ

هُمُ الْفَسِيْقُونَ ۖ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَةً

فاستن ہیں اور (ایے حبیب) اتری ہم نے آپ کی طرف پر کتاب (قرآن) سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے

لِّاَبَيْنَ يَدَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَبِ وَمَهِمَّنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ

جو اس سے پہلے (آسمانی) کتاب ہے۔ اور (ایے قرآن) حافظ ہے اس پر تو آپ فیصلہ فراہیں ان کے دین میں

۱۰۰۰ تورات و انجیل کے بعد قرآن اور اس کی چنی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہمیں خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا نزول حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ حق کی پوری نشریخ آہ عمران کے حاشیہ نمبر ۳۴ میں گزر چکی ہے۔ علامہ راغب کے اس قول کا اعادہ فائدہ سے غلی نہ ہو گا کہ کوئی فعل یا قول اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جاتے جیسے چاہتے۔ اس اندان سے پایا جاتے جتنا مناسب اور مورۇں ہو اور اس وقت پایا جاتے جب اس کی ضرورت ہو (مفردات) اس فہموم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ بالحق کے لفظ کو پڑھیں تو قرآن کی جلالت شان واضح ہوگی۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ یہی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تیسرا خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ان کتب پر ہمیں بن کر آیا ہے وہیں متعارف و معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مخالف، نگہبان، نگران، شاہد اور امین۔ یہاں ہمیں کے یہ سارے معانی لیے جاسکتے ہیں لیکن دین کے وہ عقائد اور اصول جو سماقہ آسمانی کتب میں بیان کیے گئے تھے جن میں سے بعض فراموش کر دیتے گئے اور بعض میں رد و بدل کر کے اخھیں کچھ کا کچھ بنادیا گیا قرآن اُن کا محافظہ ہے ان کو صحیح زنگ میں پیش کرتا ہے۔ اور اپنے صفات میں ان کی ایسی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ اب وہاں کسی محرفت کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا قرآن آسمانی کتب کا رقیب و نگران بھی ہے کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ موجودہ تحریف شدہ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ط

اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ لئے اور آپ پر بیرونی کر دیں ان کی خواہشات کی ۱۳۰۰۰ اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے میں آیا ہے

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تمیں سے ایک شریعت اور عمل کی رہ ۱۳۰۰۰ اور اگر پڑھتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیا تم (سب کو)

آسمانی کتابوں میں حق کی کتبی مقدار بھوکی مٹوں موجود ہے۔ قرآن اس بات پر کوہا بھی ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انہیاً و رسول پر نازل فرمائی تھیں۔ قرآن ایں بھی ہے۔ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو بھوکیں کا لٹوں پیش کرتا ہے اس میں کتنی قسم کا تصرف اور کمی پیشی نہیں کرتا۔

۱۰۰ قورات کے نزول کی غرض و فایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کمبوہا النبیوں اور انجیل کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ولی حکوم اهل البخیل اور قرآن حکیم کے نازل کرنے کا مدعا بھی یہی بتایا فاحکم بہما النزول الخ ان تمام الفاظ سے یہ بتانا مطلوب ہے کہ ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی نندگی میں اپنے مدنی اور معاشرتی مسائل میں اپنی سیاسی اور اقصادی شکلات میں ان کی روشنی سے ہدایت حاصل کی جلتے اور ان کے بتاتے ہوئے راستہ پر چلا جاتے۔ تب ہی تو وہ فرق معلوم ہو سکتا ہے جو قانون الہی اور انسان کے بناتے ہوئے ناقص قانون میں ہے۔ اور اگر اس پر عمل نہ کیا جاتے اور اس کی واضح ہدایات اور احکام کے ہوتے ہوئے اپنی خواہش کی ہی پیروی کی جاتے تو پھر ان کے نزول کا اصلی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور انسان ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو ان احکام میں ضمیر ہیں۔

۱۰۱ کسی بات سے اگر منع کیا جاتے تو اس کا بھیشہ یہ طلب نہیں ہوتا کہ مخاطب اس کا ارتکاب کرنے والا تھا اور اسے روک دیا گیا بلکہ کبھی منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مخاطب جیسے پہلے اس کام سے محنت اور محنت زدلا آ رہا ہے اُسی طرح ائمہ بھی محنت رہے۔ یہاں حضور حمّت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے روکنے کا مقصد نہیں کہ معاذ اللہ آپ ان کی پیروی کا خیال کرنے لگے تھے اس لیے روکنا پڑا بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ احکام المیہ کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کا وہہ تک بھی خاطر ماطر ہیں لگزتا اسی طرح آئندہ بھی ہمّت واستقلال سے احکام ربیانی کی اطاعت کرتے جائیے۔

۱۰۲ شرعة اور شريعة همّ معنی ہیں ایشريعت لغتہ ہیں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پرانی کی طرف لے جاتا ہو انشريعۃ فی المَّلَکَۃِ: الطَّرِيقُ الَّذِي يَتَوَصَّلُ مِنْهُ إِلَى الْمَاءِ۔ اسی مناسبت سے شرعة اور شريعة اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين او منهاج کہتے ہیں واضح اور

أَمْلَةٌ وَّاًحِدَةٌ وَّلَكُنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَقُوا الْخَيْرَ ط

ایک ہی امت ۲۰۲۱ءے یکن آنما بجا ہتا ہے تھیں اس چیزیں جو اس نے دی ہے تم کو تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کیوں نہ ہے۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَهُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سے ۲۰۲۱ءے پھر وہ آگاہ کرے گا تھیں جن باتوں میں تم جھکڑا کرتے تھے۔

روشن راستہ کو۔ اللہ تعالیٰ راشاد فرماتے ہیں کہ وہ عقائد اور کلیات جن پر انسان کی سنجات کا انحسار ہے وہ تو تمام آسمانی کی تابوں میں یکساں ہیں لیکن شریعت کے احکام اور ان کی تفصیلات، عادات اور ان کی شکل و صورت، حکمت و حرمت کے قواعد ان میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی امتوں کی ذہنی سطح، ان کا خصوص ماحول، ان کے معاشرہ کے تقاضے، ان کی سیاسی اور اقتصادی ضروریات یکوئے مختلف تھیں اس لیے ان فروعات میں اختلاف ناگزیر تھا۔

۲۰۲۱ءے یہاں اس شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اصول و کلیات کی طرح فروعات میں بھی اختلاف نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ دین کے نام پر مختلف قسم کی گروہ بنندیاں ختم ہو جاتیں۔ اس کا ایک بواب تو ہوئی ہے جو لکل جعلنا کے ضمن میں دیا جا چکا ہے کہ بنیادی عقائد و کلیات میں یکسا نیت کے باوجود فروعات میں یہ اختلاف صحن حکمت ہے۔ اور اس کا دوسرا بواب یہ دیا کہ ان کا امتحان بھی مقصود تھا۔ یونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت ختم کر دیا جاتے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو تو کعبہ کو چھوڑ کر ادھر خ کر لیا جاتے۔ اور اگر اسے چھوڑ کر کعبہ کی سمت متہ کرنے کا فرمان صادر ہو تو وہ نماز پڑھتے ہوئے ہی کعبہ کی طرف منہ کر لے اور دل میں کسی قسم کا تردد نہ ہو۔ علامہ بیضاویؒ نے اس کا مفہوم ہی بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جسہ اپنے ایک کو اسلام کا پابند کر دیتا اور کسی کے لیے مجال انکار ہی نہ رہتی۔ لیکن یوں اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جاتے کہ کون اپنے اختیار سے اس دین کی کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اغتر اپنی ترتا ہے۔

۲۵۔ اس مقام پر یہ جملہ لکھنا معنی خیز ہے کہ ان جھکڑوں میں پڑ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو بلکہ اللہ کے اس آخری دین، آخری کتاب اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ اور دوسرے لوگوں سے نیکی کے میدان میں بازی لے جانے کی سر توڑ کو کوشش کرو۔ اہل کتاب کو غیرت دلاتی جا رہی ہے کہ عرب کے مُشرک اور جاہل لوگ تو دھڑا دھڑا اس دین کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رضاکی بجوہیں راہ راست پر تیزی سے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور تم صاحب علم و داشت اور اہل کتاب ہو کر فضول بخشوں اور بے کار محنت بازیوں میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو۔ چھوڑ دان لالیعنی باتوں کو اور ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر حل پڑو۔

۲۶۔ یہ دنیا بس کی دھیپیوں میں تم کھو کر رہ گئے ہو، یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے تھیں ایک دن یہاں سے خستہ

وَأَنَّ الْحُكْمَ بِيَدِنَا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَّرُ أَهْوَاءُهُمْ وَ

او ریک فضیلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نہ پیر وی کریں ان کی خواہشات کی اور
اَحَدُ رُهْمٌ اَنْ يَغْتِنُوكُمْ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ

آپ ہوشیار ہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے چھوڑھندے سے جو اُنرا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کے نے اور گروہ

باندھنا ہے اور اتنے علم و خیر بست کی عدالت میں بیش ہونا ہے اپنی بدلی اور گمراہی پر اب تو تم طرح طرح کے خوبصورت پرے
ڈال کر لوگوں کی سختکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو۔ یہیں اس روز کیا کرو گے جب سب پردے اٹھادیتے جائیں گے۔ اور
حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔

۱۰۷ مسلمانوں کو آکاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الیہ سے منہ موڑ چکے تھے اور اپنی کتابوں سے راشتہ توڑ لجھے
تھے میکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پر چلو اس لیے وہ طرح طرح کے شہمات، قسم قسم کے اختراضات
اور گوتاکوں و سوسوں سے تھیں بھی اپنے دین سے رکشته کرنے کی بھروسہ تو شش کریں گے۔ بخدا را ان کے حال میں
چھنس کر اللہ کے دین قیم کی رشی چھوڑنے دینا۔ آج بھی گم کر دہ را لوگ متباع ایمان لوٹنے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف
کر رہے ہیں۔ یاپنی کی طرح روپیہ بہا بیجا رہا ہے فتنوں اور سازشوں کا ایک ٹھاٹھیں مارنا ہوا اسلامی اقرار اور بہاء
جانے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ کاش ہم قرآن کی اس تنبیہ پر کان دھریں اور ہوشیار ہو جائیں۔ چور نہیں بلکہ وہ ناک
قابل ملامت ہے جو اپنے قیمتی سامان کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اس آیت کا شان نزول یہ بیان
فرمایا ہے کہ جنہیں یہود علماء نے جن میں ابین صوریا، کعب بن اسد اور ابن صلونا ان کے اکابر بھی تھے یہ مشورہ کیا کہ آؤ چلیں
محمد (رداہ اُتی وابی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس اور انھیں کسی یہی سے اپنے دین سے برگشته کریں فانما ہو بشرواہ
بشری تو ہے اسے دھوکا دینا کیا شکل ہے۔ بڑی سوچ بچار سے ایک منصوبہ تجویز کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے اجبار (علماء) ہیں اور اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب یہودی مسلمان
ہو جائیں گے یہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا بعض لوگوں کے ساتھ پچھتانا زدھ ہے۔ ہم اس کے
تصفیہ کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ نے اس کا فضیلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے
اور ہمارے ایمان لا نے سے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ بہت ہی خطرناک لھتی یہ سازش انھیں اچھی طرح
علم تھا کہ کسی کے اسلام قبول کرنے سے جو مسٹر حصہ لو ہوتی تھے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ وہ عقل کے اندر ہے مجھ
لہ ہے تھے کہ بشری تو ہے ہمارے جمال میں چھنس جاتے گا میکن حقائق عالم کو بے محاب و بیکھنے والا، اسرار کائنات کے
رُخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا داعی یہ دشوت کب قبول کر سکتا تھا جس کی فراست نور خداوندی

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِعَضْ ذُنُوبِهِمْ

مئند پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سزا دے انھیں ان کے بعض گناہوں کی لئے

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ^{٤٩} افْعُلُكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ

اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں تو کیا وہ جاہلیت کے زمانہ کے فحصے چاہتے ہیں پتھے

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوَقِّنُونَ^{٥٠} يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ

اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے اے ایمان

أَنْدُوا لَا تَتَخَذُوا إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَرَى أَوْلَيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ

والا نہ بناؤ یہود اور نصاریٰ کو (ایپا) دوست (و مددگار) وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست

سے روشن تھی اس سے ان کی چال کیوں کر مخفی رسمیت تھی۔ فابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ر قطبی حضورؐ نے صفات انکار کر دیا۔ فذلت هذہ الایۃ (قطبی) تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ بیمارے ساری عمر اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ اور ان کی نکاحیں مقامِ محضی کی رفتاروں کو نہ دیکھ سکیں۔ افتادِ صطفوی کی جلوہ سامانیوں کو نہ پاسکیں۔ آج بھی توحید کی اڑلے کر شان رسالت کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بعینہ ہی الفاظ دہراتے سُنا تی دیتے ہیں۔ اس یہودی ذہنیت کو مسلمان کمالانے والوں نے کیوں اور کیسے قبول کر لیا بڑی حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔

١٨ بار بار فہاش کے باوجود دوہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہیں۔ اس سے علوم ہوتا ہے کہ یہ اس سزا کے لیے بہت بتا ہیں جو ایسے سکش مجموعوں کے لیے مقرر ہے۔ چنانچہ وقت آیا جب مدینے کی پاک سرزمین سے ان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ کسی قتل کر دیتے گئے۔ باقی بجزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔

١٩ جاہلیت اس نظامِ حیات کو کہتے ہیں جہاں قانون سازی کا کامل اختصار خالق کائنات کو نہ ہو بلکہ انسانی اغراض اور خواہشات کے باختیں ہو۔ جہاں اقتدار و حکومت کی مسند پر دھی المی کے بجائے انسان کا ناقص اور ناتمام علم قابلِ تنہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان آسمانی کتابوں کی اطاعت کو گراں سمجھ رہے ہو۔ جن میں ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہم دورِ جہالت کے اس ظالمانہ نظام کو اپنا چاہتے ہو جس میں غریب و امیر، کمر و اور طاقتور، حاکم اور حکوم کے لیے الگ الگ قانون تھے۔ ذرا سوچ! اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکام جو عین عدل و

بَعْضٌ طَّوْمَنٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُنْهُمْ مُشْكُرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

ہیں اور جس نے دوست بنایا اخیں تم میں سے سو وہ اخیں میں سے ہے اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّلِيمِ^{۵۱} فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ

خالمِ قوم کو سوآپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے کوہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں

فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَأْرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

یہود و نصاریٰ کی طرف۔ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جاتے اللہ وقت دو رہیں جو اللہ تعالیٰ (تھیں) دیے

انصاف اور جسم رحم و کرم ہیں وہ بہتر ہیں یا تمھارا یہ نظام اسلام نے نظام جہاں خواہشات نفسانی کی برقراری ہے۔ اللہ و شمنار دین کو اپنا ہم راز اور صلاح کا ربانے اور ان پر کامل اعتماد کرنے کی مانعست ہو رہی ہے جس کی توضیح کرتی مرتبہ پہلے گزر جکی ہے مسلمانوں کی صفوں میں ابھی کمی منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی روابط قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ یہود کی طرف بھی دلی میلان رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے راز و فتنہ و فتناً ان کو بتا آیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں کیونکہ بہت خطرناک تھیں اس لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ جو ایسے دلی تعلقات قائم کرے وہ زمرة مشکل ہیں سے نہیں۔

اللہ ہلے تو یہ عام حکم دیا کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ ایسے گھرے یارانے نہ گاٹھو در نہ تمھارا شمار اخیں میں سے ہو گا۔ اب مٹنا ہیں کے ایک خاص گروہ کی روشن کوبے نقاب کیا جا رہا ہے جو دلوں کشیوں میں بیک وقت ہوار ہے کے لیے کوشش تھے۔ اللہ اور اس کے رسول پر وہ دل سے تو ایمان لائے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنی قسمت کو کلیتہ اسلام کے ساتھ واپس تھے کہ دیتے اور مشکلات اور نشانج کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو غالباً و نصویر کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگادیتے۔ وہ تو مصلحت کے پرستار تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر میں کشمکش شروع ہے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ان غیر یقینی حالات میں ان کی عقل مصلحت بین کا فیصلہ یہی تھا کہ کسی ایک فرق کے ساتھ اپنی قسمت والیستہ کر دینا نادانی بلکہ دلیوانگی ہے۔

اس لیے تم مسلمانوں سے بھی راہ و رسم رکھو اور کفار کے ساتھ بھی تمھارے تعلقات دوستانہ رہیں۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو (جس کے وہ دل سے خواہاں تھے) تو اس وقت تم بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جاؤ۔ ان کی اس غلط اندازی پر اخیں سرزنش ہو رہی ہے کہ تم کس اور ہیئت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تعمیر اپنے دین کو فتح میں عطا فرمائے والا ہے اور مسلمانوں کی تقویت اور دین کی اشاعت کے دوسرا سے وسائل بھم پہنچانے والا ہے۔ اس وقت تمھاری

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عَنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا اسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ

فتح کامل یا (ظاہر کردے کامیابی کی) کوئی بات اپنی طرف سے تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں

نَدِمِينَ^{٥٧} وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا

اور (اُس وقت) کہیں گے ایمان والے ۱۱۲ کر کیا ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں

بِاللَّٰهِ جَهْدًا إِيمَانَهُمْ لَا إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حِيطَتْ أَعْمَالَهُمْ فَاصْبِرُوا

اللہ کی سخت سے سخت کر وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اکارت گئے ان کے اعمال اور ہون گئے وہ (سرسر)

خَسِيرَينَ^{٥٨} يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

نقصان اٹھانے والے آئے ایمان والو! جو پھر گیا تم میں سے ۱۱۲ اپنے دین سے

یہ دوغلی پالیسی تمہارے کام نہیں آتے گی۔ داشتہ گردش زمانہ کو کہتے ہیں۔ خخشی ان تصیبنداد اشراف کا یہ طلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بامن فرمائے کے باوجود تم ہیوود سے قطع تعلق کیوں نہیں کرتے تو وہ منافق ان کو جواب دیتے کہ ہیوڈ بڑے تمتوں اور سرمایہ دار ہیں یہم تو فقط اس لیے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں کہ مبادا کہیں قحط پڑ جائے یا کوئی اور ناگہانی مصیبت آجائے تو اُس وقت ہم ان سے روپیہ پلیسی پانچھہ وغیرہ کی امداد لے سکیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرمادیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ دولت و تروت مسلمانوں کی لونہ ڈی بننگی۔ یہ یہودی ہماجع اور ساہو کاریہاں سے جلاوطنی کر دیتے جائیں گے۔ اس وقت حسرت و ندامت کلغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کارہ نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اسلام کا دامن منصبُوطی سے تھام لو۔ اور اس کے دشمنوں سے اپنے تعلفات منقطع کرلو۔

۱۱۲ مسلمان آپس میں کماکرتے کہ کیا وہ لوگ ہیں جو بڑے بوش و خروش سے قیمیں لکھا کر ہیں اپنی اعانت کا یقین لا یا کرتے اور ان کا حال یہ ہے کہ جب دیکھو کسی وغشمن دین تک گود میں بیٹھے اس سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ محبیں لوگ ہیں۔

۱۱۳ ان کی کافر و سوتی اور مُنْكَمَ وَمُنْكَنَ کا تیجہ یہ نکلا کہ جو نیکیاں بظاہر انہوں نے کی تھیں وہ اکارت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کا پردہ چاک کر کے انھیں رُسوا کر دیا اور قیامت کے روز انھیں اپنی بدِ بصیری کا صبح احساس ہو گا۔

۱۱۴ اس ایت کر دیتے ہیں مُخَاصِ مُسْلِمَانُوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلان یہ کفر اختیار کر لیں تو یہی اسلام کا چراغ روشن رہے گا۔ ان کی جگہ ان سے بہتر ذہین، فیض اور خلص لوگ اسلام کو قبول کریں گے اور

فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مُّجْبَرِينَ وَمَيْحَبُونَهُ أَذْلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(تواس کی بقصیبی) سو عنقریبے آتے گا ۵۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم مجت کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور جو جست کرتی ہے اس سے حرم ہوں گے ایمان ادا کیلئے

اس کی عظمت کوچار چاند لگا دینگے نیز اس آیت میں ایک بہت بڑے واقعہ کے تعلق ہیشین گوئی بھی کی گئی ہے کہ بعض بنصیب اس دن سے برگشتہ ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسے جان باز سپاہی اور جوان ہوتے مجاہد عطا فدائے گا جو ان مرتدین کا قیمع قیمع کر کے ملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو ایسا مضبوط اور مستحکم بنادیں گے کہ پھر صدیوں تک اس میں چک پیدا نہ ہو گی۔ پہنچا خواہ قرآن نے حوفہ مایا وہ ہو کر رہا حضور سرور کائنات علیہ اجل التغییات و احسن التسلیمات کے آخری ایام میں اسود عنسی نے یہیں میں نبوت کا دعویٰ کر دیا لیکن فیر وزیلی نے اس رات اس کا کام تمام کر دیا جس کی صبح کو حضور اس دنیا سے شرف لے گئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُسی وقت صحابہؓ کو اس کی اطلاع بھی دے دی جس سے صحابہؓ کو بڑی فرحت ہوئی (بیضادی) قبیلہ بنی عینیہ میں مسلمہ کذاب نے، بنو اسد میں طلیحہ نے اپنے بنی ہرون کا اعلان کر دیا حضور پُر نور کے انتقال کے بعد حالات اور نازک ہو گئے۔ کتنی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ غرضیکہ انہا کی آندھی اس زور سے پلی کہ عرب کے بادیشین قبائل میں سے شاذ و نادر ہی کوئی اپنے ایمان کی شمع روشن رکھ سکا۔ لیکن صد افراد حضرت صدیق کے ایمان و یقین پر، ان کے عزم و استقلال اور ان کے تدریج و فراست پر اور ان جان بازا اور سفر دشمن مسلمان مجاہدین بچبوں نے اس تنہ و تیر طوفان کا منہ پھر دیا اور دوسال سے کم عرصہ میں سارے جہریہ عرب پر پھر تو حید کا پر جم لہ رانے لگا۔ ۵۔ الہ وہ قوم کون ہتھی؟ حضرت صدیق، ان کے رفقاء کار، ان کے شکروں کے جان باز سپاہی، یہیں کے قبائل عرب کے دوسرے لوگ جھبوں نے بڑی بیج گردی سے اس فتنہ کا مقابلہ کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۱۱۶۔ هر فتوٰ اور نخنو کا کام نہیں کہ وہ حواسات کے مہنہ زور دیلے کے سامنے سیدیہ تان کر کھٹا ہو جاتے اور فتنہ و فنا کے بھر کتے ہوئے شکلوں میں کوڈ کر اُخینیں گلزار خلیل بنادے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نازک وقت میں اسلام کی امداد کے لیے سرکفت نکلنے والے صرف فہری لوگ ہوں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے وہ نرم ہشیق اور سر اپا لطف و عنایت ہوں گے اور کافروں کے لیے فولاد کی چنان کی طرح سخت تھیں سچ سے سمجھ کر لالہ میں خندک ہو وہ شہنم

دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں وہ طوفان

ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس دالہانہ سرفوشی اور تن فراوشی کے پس پر وہ کوئی مادی منفعت کا رفرانہ نہیں ہوتی بلکہ ان کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اُنھا تھا ہے۔ چوچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملات سے متاثر نہیں ہوتے۔

آپ نے غور فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے جان باز مجاہدوں کو قرآن کریم کیں الفاظ سے خلیجیں

أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا هُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ

بہت سخت ہوں گے کافروں پر بہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے

لَوْمَةَ لَا يَمِطُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعَتِّيدُ مَنْ يَسْأَلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

کسی طلاقت کرنے والے کی طلاقت ہے یہ (محض) اللہ کا فضل (وکرم) ہے نواز تباہ اس سے جس سے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ طبی کشادہ بت

عَلَيْهِمْ إِيمَانٌ وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ يُقْبِلُونَ

والا سب کچھ جانئے والا ہے مختاراً مگر تو صرف اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول (راپ) ہے اللہ اور ایمان والے میں جو صحیح صحیح نماز ادا

پیش کر رہا ہے جس کے سپاہیوں کی یہ شان ہو جس کے شکری ان اوصاف حمید و مستحبت ہوں جنہیں زبان قدرت ان پاکیزہ جگلوں سے سرفراز فرار ہی ہو اُس خلیفہ رحمت کی شان کتنی رفع اور اُس کا مقام کتنا بلند ہو گا۔ ایسے خلیفہ کی خلافت کی خفاقتیت کے بالے میں کسی ایسے شخص کو تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کو خدا کا کلام اور اپنے خدا کو علیم بنات اصدور یقین کرتا ہو۔

۱۸۱ اللہ مالک حقیقی جسے چاہتا ہے اُسے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کا فضل و کرم بے پایاں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس ذرہ ناچیز کو اپنی رحمت سے رشکِ مهر و رخشان بنانا ہے۔

۱۸۲ اپنے دشمنان اسلام سے دوستی اور محبت کرنے سے روکا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے محبت و پیار کریں کسے اپنا ناصر اور مد و گار بنتا ہیں۔ فرمایا مختاراً دوست اور مد و گار اللہ تعالیٰ، اُس کا رسول اور وہ مونی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن دُنیا کو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ وہم راکعون یعنی نہایت خشوع و خضوع سے عبادتِ اللہ میں مشغول و منہک رہتے ہیں۔ رکع یعنی شش کثیر الاستعمال ہے مثلاً۔

لَا تَهِنِ الْفَقِيرُ عَلَى أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالْمُهْرَقُ عَلَى أَنْ

یعنی کسی فقیر کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ ہو سکتا ہے کہ تو ذیل ہو جاتے اور زمانہ اُس کو سر بلند کر دے۔ اسی طرح وارکعی مع الدلکعین میں بھی رکوع سے عاجزی اور انکساری ہی مُراد ہے۔ کیونکہ یہ رکوع جو ہم نمازیں کرتے ہیں پہلی آٹھوں میں نہیں تھا۔ اس صورت میں یہ جملہ حال ہو گا۔ اور نماز پڑھنے والے، زکاۃ دینے والے ایماندار ذو الحال ہوں گے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوتی ہے ایلوں کہ ایک سائل نے اسکے سوال کیا۔ آپ اُس وقت حالتِ رکوع میں تھے آپ نے اپنی انکو بھی اُمار کر اُسے دی بعض صاحبان نے اس آیت سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت بلافضل پر استدلال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ^{٥٥} وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ

کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور (بہر حال میں) وہ بارگاہِ اللہ میں بھجنے والے ہیں اور (باید رکھو) جس نے نہ کاربنیا

وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ امْتَوَاقَانَ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُونَ^{٥٦}

اللہ کو اور اس کے رسول کو بھی کرم کو اور ایمان والوں کو (تو وہ اللہ کے گروہ سے ہیں اور) بلاشہ اللہ کا گروہ ہی غالب آئے والا ہے

لقطوں سے مُراد یہاں متصرف فی الامور لعینی امام اور خلیفہ ہے اور انہما حصر کا کلمہ ہے تو آیت کا مطلب ہو اکتمال سے انہوں نے تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول پاپ اور وہ مومن ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں خیرات میں ہو۔ اور یہ کام کیونکہ صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ و بھر نے کیا اس حصر کے پیش نظر صرف آپ ہی خلیفہ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا یہ استدلال کتنی وجہ سے توجہ کے لائق نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ولی کامنی یہاں متصرف فی الامور (خلیفہ اور امام) نہیں بلکہ ناصر اور مددگار ہے۔ کیونکہ بعینہ ہی لقط اس آیت میں مذکور ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا بالتجعل وَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ اولیاء رائے ایمان والوں ایہود و نصاریٰ کو ولی نہ بناؤم اور یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایخیں خلیفہ نہیں بنانا تھا بلکہ بعض مُنافق ایخیں اپنا ناصر اور مددگار سمجھتے تھے۔ اس آیت کے بعد والی آیت میں بھی ولی بعینی ناصر ہے تو حس چیز کی لنفی ہو رہی ہے اسی کاہی اثبات ہو رہا ہے لعینی یہودی وغیرہ تھمارے دوست نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول اور مونک تھمارے دوست ہیں۔ دُوسری عرض یہ ہے کہ دوستی عالمہ اور غلافت کبریٰ الگ صرف ان لوگوں میں ہی محصور ہو جن میں وہ حوراکعون کی صفت پاتی جاتی ہو تو پھر حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ بلکہ جملہ گیارہ ائمہ اہل بیت کی امامت کا اصل جرئت کو بھی انکا کرکنا پڑے گا کیونکہ ان میں سے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ اور امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اس لیے ان کے اپنے قائم کردہ قاعدہ کے مطابق ان حضرات میں سے کوئی بھی امام نہیں ہو گا اور شاید اس بات کے لیے تو وہ بھی تیار نہ ہوں تپسیری ہٹلی وجد ہی ہے کہ اگر یہ آیت حضرت سیدنا علیؑ کی امامت بلافضل کی میں ہوتی تو انحضرت اسے ضرور پیش فرماتے۔ اور ان وجہات کے پیش نظر ان صاحبان کا استدلال قابل التفات نہیں۔

نیز یہ وایت بھی توجہ طلب ہے۔ نماز میں سائل کے سوال کی طرف توجہ کرنا، پھر ایک ہاتھ کی انگلی میں جوانگوٹھی ہے اس کو دوسرا ہاتھ سے آٹانا، پھر ہاتھ پڑھا کر سائل کو دینا یہ عمل کثیر اور توجہ الی الغیر حضرت علی مرتضیؑ کی شان سے بہت بعید ہے جن کی حالت استغراق کا یہ عالمہ ہوتا تھا کہ نماز ادا کرتے تھے ہر ٹسے ڈنیا و ما فہما بلکہ اپنے جسم تک کی بہر نہ رہتی تھی۔ ایک بار جناب کے جسم کو حیر کر تیر نکالا گیا لیکن نہ آپ کو ورد ہوا اور نہ تیر نکالنے کا علم ہوا۔ ایسی محیت سے نماز ادا کرنے والا الحال نماز میں کسی غیر کی طرف متوجہ ہو یہ کیسے ممکن ہے۔

نیز یہ امر بھی قابل خور ہے کہ وہ انگوٹھی سونے کی توہر گزندھ تھی کیونکہ سونام درول پر حرام ہے لیکن یا چاندی کی ہو گی زیادہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوًا وَ

آئے ایمان والواں مبت بناؤ ان لوگوں کو جھنوں نے بنار کھا ہے تمہارے دین کو ٹھنڈی اور

لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَئِكَ أَ

کھیل ان سے جھنیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور کفار سے (اپنے) دوست

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمُهُ إِلَى الصَّلَاةِ

اور ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم ایمان دار اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف (یعنی اذان دیتے ہو)

اتَّخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ

تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشہ نہ ہے (حماقت) اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے آپ فرمائیے

سے زیادہ اس کا وزن ایک تو لہو گا جس کی قیمت اس وقت ایک روپیہ سے بھی کم تھی۔ اگر ایک روپیہ صد قدر کرنے سے خلافت کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو جھنوں نے ہزاروں اشرافیاں ایک بارہی نہیں کئی بار بار گاہ رسالت میں پیش کیں اور جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی جھنوںیاں قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں ان کی خلافت کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔

۱۹ یہود اسلامی عبادات کا مذاق اُڑا کرتے تھے اور کفار کا تو شتمہ ہی یہ تھا کہ اسلام کی ہر چیز سے تمہاری کرتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت و دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اُڑاتیں اور آپ ان سے دوستی رکھیں۔ ایسے کفر و ایسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں۔

۲۰ اذان کے متعلق یہود کہا کرتے کہ رکیانی رسم کا کالی ہے جس کا پہلے دینوں میں نام و نشان نہ کیا ہے جس کا پہلے دینوں میں نام و نشان نہ کیا ہے۔ یہ سور و غل ناقابل برداشت ہے۔ یہ جاتے اس کے کہ اپنے چندٹوں اور ناقوسوں کی بیانی چیخ و پکار کے مقابلہ میں اذان کے پیارے پیارے اور معنی خیز جھنوں کی قدر کرتے وہ اُنثا تسویر اُڑاتے۔ یہ اُن کی حماقت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ قطبی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا جب موذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے دلوں افلاطون کہتا تو وہ بدجنت کہا ترنا حرق المکاڑ ب کھجور طباجلایا جاتے۔ چنانچہ ایک رات وہ سورہ تھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ کئی جس میں وہ اور سارا کنبہ جل کر را کھہ ہو گیا۔ گویا اس کو جلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھجور طباجلی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنْ إِلَّا أَنْ أَمْسَأَ لِلَّهُ وَمَا أَنْزَلَ

آئے اہل کتاب! تم کیا ناپسند کرتے ہوئے ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور جو آتا گیا

إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَ كُفَّارٍ فِي قَوْنَ ۝ **فَلَمْ هَلْ**

ہماری طرف اور جو آتا گیا اس سے پہلے اور بلاشبہ بہت سے تم میں سے فاسق ہیں آپ (الخطیب) فرماتے کیا

أَنْبَعْدُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ

میں آکا ہے کروں تھیں کہ کون بُرا ہے ان سے ۱۳۲ باعتبار جبراہ کے اللہ کے نزدیک وہ لوگ (بُرے ہیں) جن پر لعنت کی اللہ نے اور

غَضِيبَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَيْدَ الشَّاغُوتَ

غضب فرمایا ان پر اور بنایا ان میں سے بعض کو بندرا اور بعض کو سور اور (وہ بُرے ہیں) جنہوں نے پوچھا کی شیطان کی

۱۲۱ نعم کرتے ہیں ناپسند کرنے مکروہ و معیوب سمجھنے کو اور انتحار کا معنی بدلمہ لینا، انتقام لینا ہے۔ یقال نعم منه کذا اذا انکرہ وانتقو اذا کافاہ (بیضاوی) حکم ہور ہے کہ یہود سے دریافت کرو کر تم نہ سے ناراض اور کچھ کچھ کیوں رہتے ہو۔ چور ہم نہیں جھوٹ ہم نہیں بولتے کسی پر اظہر و تعدی ہم نہیں کرتے کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوه نہیں۔ پھر اس غصہ و غصب کی آخر کیا وہ بھر ہے؟ ہاں ہم میں ایک بھیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد دین کتنا سمجھتے ہیں، اس کی جو کتاب تم پر نازل ہوئی یا جو کتاب ہم سے پہلے انہیں سابقین پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہوئے ہیں شاید اس وجہ سے تم ہمیں بُرًا سمجھتے ہو۔ اگر ہمیں وجوہ ہے اس بعض و عناد کی تو پھر خود ہی انصاف کرو خطائیں کی ہے ہماری یا تھاری؟

۱۲۲ چند یہودی ہیں میں ابو یاسر بن الخطب اور رافع بن ابی رافع بھی سخت بارگاہ بیوت میں حاضر ہوتے اور پوچھنے لگے کہ آپ کمن کمن رسولوں کو مانتے ہیں جھنور نے جواب میں یہ آیت مبارک پڑھی نوع من باللہ و ما اُنْزَلَ لِيَنَا می قتلہ تعالیٰ و محن لہ مسلمون ان انبیاء کے اسما میں جب حضرت علیہ السلام کا نام لیا گی تو یہودیوں نے ان کی تہذیت کا انکار کرتے ہوئے کہ ما واللہ لانخلع دینا شر امن دینکم: بخدا ہم تھارے دین سے بُرًا کوئی اور دین نہیں جانتے۔ ان کے جواب میں یہ آئیں نازل ہوئیں اور انہیں بتا دیا گیا کہ بُرے اور شریوہ ہیں حضیر اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ رحمت سے دُور کر دیا، حن پر اس کا غصب ہوا اور جن کو ان کی بُرداریوں کی پاداش میں مسخر کر کے بندرا اور خنزیر بنادیا گیا۔ اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کا چند اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ آے ہیود! اگر اپنے اعمال کے آئینے میں غور سے دیکھنے کی تم نے زحمت اٹھائی تو تم پر عیاں ہو جائے گا کہ چشم بد دُور! وہ آپ ہی ہیں۔

أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَ أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَ لَا جَاءَهُوْ كُمْ

وہی لوگ بدترین بیں بمحاط درجہ کے اور دوسروں سے زیادہ بھلکے والے بیں راہ راست سے اور جب آتے بیں تمہارے

قَالُوا أَمَّا فَقَدْ دَخَلُوا إِلَكُفْرٍ وَ هُمْ قُلْ حَرِجوْبَةٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

پاس تو کہتے ہیں تم، ایمان لا پچھے حالانکہ وہ (ہیاں) داخل بھی ہوتے کفر کے ساتھ اور وہ تسلی بھی کفر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ خوب

بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَ تَرَى كَثِيرًا فِتْنَاهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

جاننا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے اور آپ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیرفراں ہیں گناہ

وَ الْعُدُوَانِ وَ أَكْلُهُمُ السُّجُونَ لِمَنْ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا

اور زیادتی کرنے میں ۱۲۳ اور حرام خوری میں بے شک یہ بہت ہی بُرے کام کرتے رہے ہیں کیوں نہیں

يَتَهْمُهُمُ الرَّبَّابَانِيُونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ وَ أَكْلُهُمُ

منع کرتے انہیں ۱۲۴ ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے

۱۲۵ یہ آیت مُنَافِقِینَ یہود کے بارے میں نازل ہوتی۔ اثر: گناہ۔ عدوان: سرسچی بعض علماء نے ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ اتم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو اور عدوان اس کو جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے (بیضاوی)

۱۲۶ ان علماء بیضاوی لکھتے ہیں کہ لو لا اگر ما ضریب دا خل ہو تو زجر و توبیخ کے لیے ہوتا ہے یعنی انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا۔ کیوں اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی۔ اور اگر مضارع پر دا خل ہو تو کسی کام پر انگیخت کرنے اور اگسانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں مضارع پر دا خل ہے اور مقصدریہ ہے کہ ایں کتاب کے علماء اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ لوگوں کو حرام کاری اور حرام خوری سے منع کرنے کے لیے مربط تہو جاتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہی اشد آیۃ فی القرآن (کشافت) یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے۔ اور رضیکار کہتے ہیں ماف القرآن اخوت عندي منہا کشافت) میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں۔ اس میں علماء اسلام کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تی تاکید بلیغ ہے۔ علماء قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فرشتہ کو حکم دیا گیا کہ فلاں گاؤں کو بر باد کر دو۔ اس نے عرض کی کہ اس میں توفالاں عبادات گزار رہتا ہے حکم ہو اکہ ہلاکت کی

السُّجْنَتِ لِبَسْرَ فَاكَانُوا يَصْنَعُونَ^{۶۷} وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ

سے بے شک بہت بڑے بیں وہ کرتوت بجودہ کیا کرتے تھے اور کہا ۱۴۵ میں یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ

مَعْلُولَةٍ عَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا مَاقَلُوا مَبْلُ يَدُهُ مَبْوَطَتِنْ لَا

بجڑا ہڑا ہے بجڑے جائیں ان کے ہاتھ اور بچڑکار ہوان پر بوجہ اس راستاخانہ قول کے ۱۴۶ میں بلکہ اس کے تو دلوں پر بچڑکنے

يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَثِيرًا مِنْهُمْ هَمَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ

ہوتے ہیں خروج کرتا ہے جیسے چاہتا ہے ۱۴۷ اور ضرور بڑھاوے گا اکثر کو ان میں سے بونازل کیا گیا آپ کی طرف

ابتدا اسی سے کرو۔ کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور کبھی اس کے پھرے کا رنگ تک بھی میلانہ ہوا۔

۱۴۸ پہلے تو یہ بتایا کہ یہود اسلامی عبادات، اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اب ان کی بیباکی اور جسارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ و عترت و جلال میں بھی گستاخانہ کلمات زبان پر لانے سے نہیں بشرماتے۔ جب یہود نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کو دیکھا کہ زندگی فتو فاقہ سے کٹ رہی ہے افلاس و تنگیستی کا دور دورہ ہے اور قرآن کی یہ آیت بھی انھوں نے سُنی من یقرض اللہ قرضاحستا تو بڑی بے چیاتی سے کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اخذ افقر ہے اور بخیل ہے۔ اسی لیے تو مسلمان بھوکے مریئے ہیں اگر اس کے پاس کوچھ سوتا یا وہ سخنی ہوتا تو مسلمانوں کا افلاس اور غربت کے مارے یہ حال ہوتا!

۱۴۹ شدت غضب و ناراضی سے بطور بد دعا انھیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں بڑیاں لگیں اور اس گستاخی اور بد زبانی کی بچڈکاری پر پڑے۔ زین و آسمان کے مالک کے خزانے بھی کبھی ختم ہو سکتے ہیں اور اس کا دست بجود و سخا بھی بند ہو سکتا ہے۔ معادہ اللہ۔

۱۵۰ میں بلکہ اس کے ہاتھ تو کشتادہ ہیں اور مصروف بجود و سخا میں جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔ یہود نے اور ساری دنیا کہ اس کا ابر کرم اُس کے محبوب پر اولاً اس کے طفیل اُس کے غلاموں پر جب بر ساتو ساری کائنات میں فصل بہار آگئی۔ جہاں بہالت و وہشت کے انہی سے نیچہ زدن تھے وہاں علم و عرفان کے چڑاغ روشن ہو گئے۔ چند سال بھی نہ گزرنے پاتے تھے کہ قیصر و کسری کے خزل نے ان فقیروں کی مسجدوں میں بانٹے جانے لگے۔ یہ کس کی ذرہ پر وری تھی۔ یہ کس کی بے کس نوازی تھی؟ اللہ تعالیٰ نہیں آسمان عرش و فرش کے خالق و مالک کی! اور کس کے طفیل؟ اس کے طفیل جس کو رحمۃ للعلیینی اوڑھائی گئی تھی جس کے

مِنْ رَبِّكَ طَغَيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَابَيْنَ هُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

آپ کے رب سے سرکشی اور انکار میں۔ اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں ۱۲۸ دشمنی اور بعض

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ تُطْهَى أَوْقَلُ وَانَّا لِلَّهِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَلَا

روزِ قیامت تک جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی بمحاجا دیتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ۱۲۹

وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو

وَلَوْاَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ إِمْنَوْا وَأَتَقَوْا لِكَفَرُنَا أَعْنَهُمْ سَيِّلَاتُهُمْ

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیز کاربنتے تو ہم ضرور دُور کر دیتے ان سے ان کی بُرا بیان

ہر وقت سجدہ نیاز و بندگی میں مجھکے ہوتے سر بر محبوبیت کا تاج رکھا گیا تھا۔ اور جس کے قلب منور کو اس کتاب میں کامال بنادیا گیا جس کے ہر لفظ میں علم و حکمت کے سمندر رہو جیں مار رہے ہیں ۱۳۰

أَمْتَسَّ بُوْدَ كَمَا زَانَ ثُرَّتُهُمْ وَاقْفَتْ أَنْسَرَنَاهُ خَانَةَ قَفْتَ دِرِيشِيمْ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیبہ وسلم کی محب و ربانی ویرضی۔

عربی محاورہ میں جعل کو مغلول الید اور سخن کو باسط الید کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں یہ الفاظ یہاں مستعمل ہوتے ہیں۔

۱۲۸ ہدایت قبول کرنے سے انکار اور نکری سے چمٹے رہنے پر اصرار کا یہ طبعی نتیجہ تھا کہ ان میں اتفاق و محبت کی جگہ ناچاقی اور عداوت رُونما ہو جاتے چنانچہ ندیپی طور پر بھی وہ ان گنت فرقوں میں قسم ہو گئے اور ایک دوسرا کے تکمیر اور تضليل میں لگ گئے اور سیاسی طور پر بھی ایک دوسرا کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔

۱۲۹ اور جب کبھی بھی انہوں نے اسلام اور بنی اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تاکام تھی

اور ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا بعض مفسرین نے کہنا (ہر بار) کو زمانہ نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ اس کو ان کی ساری تاریخ سے متعلق کیا ہے۔ جب کبھی انہوں نے کچھ ہوش سنبھالا اور آنادہ فساد ہوتے تو ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا جابر اور قاهر دشمن مسلط کیا جس نے ان کو پیس کر کر دیا چنانچہ ہمیں بخت نظر نے ان کی اینیث سے اینیث بجادی پھر جب کچھ نسبتے اور نشر اذیں شروع کیں تو فطرس (پیطرس) رومی نے آنکر ان کی سرکوبی کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب کچھ شوکت و قوت حاصل کی اور دنگا فشا شروع کر دیا تو جوں نے آنکر کچھ مرنکاں دیا۔ یہاں تک کہ اسلام نے آنکر ہمیشہ کے لیے

وَلَا دُخُلُنَّهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْدِيْوِ^(۱۵) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ

اور ہم ضرور داخل کرتے انھیں نعمت کے باخوں میں اور اگر وہ نہ ہے قائم کرتے تورات

وَالاِنجِيلَ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَزْقٍ مُّلَاقُوا مِنْ فَوْقِهِمُ

اور انھیل کو (پہنچے عمل سے) اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے دب کی جانب سے (تو فرخ رزق دیا جاتا انھیں جی کر وہ حکایتے

وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ

اوپر سے بھی اور پہنچے سے بھی ۱۳۱ءے ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے ۱۳۲ءے اور اکثر

ان کی خوابوں کی دُنیا پر شان کر دی اور ان کی جھوٹی امیدوں کے چراغ گل کر دیتے (قطبی و بضادی)
۱۳۰ءے تورات اور انھیل کو قام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق ان میں رو بدل کر کے ان کو بجاڑنہ دیا جائے۔ اقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما و عدم تحريفهما
۱۳۱ءے اطماء مبالغہ کے لیے ہے لیعنی تورات و انھیل کی اتباع کی برکت سے انھیں کشادہ، حلال اور پاکینہ روزی دی جاتی
اسی طرح دوسرا آیت ہے۔ ولو ان اهل القرآن امنوا و اتقوا الفتاحنا عليه بركات من السماء والارض
اگر ان گاؤں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول
دیتے۔ اور اس کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان سے ان کے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا
نازل کرتے اور ان کے جسم سے لیے زین میں پچھے ہوئے رزق کے خداوندوں کے منہ کھول دیتے۔ یوں کہ انسان کو جس طرح
جسمانی خوراک کی ضرورت ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ روحانی فدائی ضرورت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی
وارض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پریوی سے فتوتگ وستی نہیں بلکہ فراغی اور وسعت ہوتی ہے و من یقین اللہ
یجعل له هنر جادی رزقه من حیث لا يحتسب۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا
دیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جن کا اسے وہم و مگان بھی نہیں ہوتا۔

۱۳۲ءے سب ایک جیسے نہیں۔ بلکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اعتدال و انصاف سے کام لیتی ہے اور قرآن
کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان بھی لے آتی ہے۔

فَنَهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

ان میں سے بہت بڑا ہے جو کر رہے ہیں اے رسول ! ۱۳۳۷ پہنچا دیجئے جو آتا رہا گیا ہے آپ کی طرف

۱۳۳۸ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میتوث فرمایا گیا ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ میسا رسی طور پر وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار تھے۔ معاشری طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں گذگاہی اُلطی بہرہ ہی بھتی شراب نوشی، جواہر بازی اور بدکاری، سرواری اور دولت ہندی کی علامات تھیں۔ ظلم و قتل کو شجاعت، معصوم بچپوں کو زندہ درگور نے کو تقاضا تھے جمیت وغیرت اور اسراف و فضول خرچ کو سخاوت کے کہا تھا بلکہ تین کیا جاتا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مکہ موبو اللہ وحدۃ الاشیاء کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہاں تین سوسائٹیوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اور یہاں کا دین تھا۔ ان کا عقیدہ تھا۔ اخھیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والمانہ محبت بھی تھی۔ اب جو سہی ایک ہمہ گمراہ اتفاقاب کی داعی بن گر آئی تھی اور جسے زندگی کے پرشعبہ میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محکمات تھے ان پر بھی ضرب کاری لگائے وہ عالم اصر ہجن کی دھاند لیاں دہاں کی معاشری زندگی کو درہم برہم کر رہی تھیں ان کے منہ میں بھی لگام دے وہ خبیث عاویں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب کرے اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن تشنیں کرتے اور ان کی عقیدت کے صنم کدوں میں جتنے بُت تھے پھر کے، تابنے کے، پیش کے، اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، ذاتی اور قبائلی عصیتوں کے ان سارے بُتوں کو إِلَّا اللَّهُ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کرے۔ اس کا عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتخاب پڑی تو اس پر جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کے سر پر بآپ اور دادا کا سایہ نہیں۔ دولت نہیں۔ خدام نہیں۔ اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے۔ یہی اس کی ساری قتوں کا سرخیش ہے اور یہی اس کی ساری قوانین کا معنی ہے۔ اس نازک اور شکل ترین خدمت کے لیے اسے متعین فراہ مکار اس کا راب اسے فرماتا ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے بھیجئے والے کا پیغمبر بے خوف نظر کسی ردودبدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کرم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو اس کی مخلوق تک پہنچا دو۔ اور اگر کسی حکم کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ نے اپنا فرضی پورا کرنے میں غفلت بری ہے اور اس کا ذرا سخت ادا نہیں کیا۔ باقی رہی و فشمتوں کی قوت، اُنقار کے حملے، منافقین کی سازشیں، اور یہود وغیرہ کی ریشم دو ایساں توںؐ اللہ تعالیٰ خود آپ کا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو گزند میں پہنچا سکتا۔ اب آپ خود خور کیجئے کہ اس صریح اور پوجلال حکم کے بعد کوئی یہ بادر کر سکتا ہے کہ حنفیوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کی پاسداری کے لیے یا کسی کے خوف سے پہنچا یا ہو۔ مولانا عثمانی کے یہ اخفاطر بڑے معنی نہیں ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

” نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی آپ نے

مَنْ رَبِّكَ طَوَّانْ لَهُ تَفْعَلُ فَهَا بَلَغَتْ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ

آپ کے پورا دگار کی جانب سے۔ اور اگر آپ نے ایسا نکیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا چائے کا اپ کو

مَنَ النَّاسُ طَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْصِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝٦٧ قُلْ يَا أَهْلَ

لوگوں (کے شر) سے یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو آپ فرماتے آئے

الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْأُنْجِيلَ وَ

اہل کتاب! نہیں ہوتم کسی چیز پر (ہدایت سے) یہاں تک کہ (عمل سے) قائم کرو تو برات اور انجیل کو اور

مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا هُنُّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

جو آنارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اور ضرور بڑھاۓ گا ۱۳۷۲ کثروان میں سے جونازل کیا گیا آپ کی

مَنْ رَبِّكَ طُغِيَّانًا وَكُفَّارًا فَلَا تَأْسُ عَلَى الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝٦٨

طرف آپ کے بت کی جانب سے کرشمی اور انکار میں پس آپ نہ افسوس کریں ۱۳۷۳ قوم کفار پر بے شک

الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرَى مَنْ

جو لوگ ایمان لائے ۱۳۷۴ اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصرانی جو بھی (ان میں سے)

بلکم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی جگت بندوں پر تمام کر دی۔

۱۳۷۵ یعنی جوں جوں آیات قرآنی کا نزول ہوتا ہے ان کا غیظ و غضب بڑھنا جاتا ہے اور ان کے کفر و سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۷۶ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اسے میرے جیبیں! آپ کا دل کیوں رنجیدہ ہو۔ اگر یہ مگر اسی پر جسم ہوتے ہیں تو مجھے ہیں اپنے کیسے کسرا پاتیں گے۔ اسی یاسی اسی اذ احزن (رقبی)

۱۳۷۷ اس آیت کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۴۶ میں گز روچکی ہے۔ اور ایمان باللہ سے مژاد اس کی ذات، اس کی صفات، کمال، اس کی نازل کی ہوئی تباہوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے کیونکہ جو کوئی کسی رسول پر

ایمان نہیں لتا وہ گویا اس کے بھیجنے والے کا انکار کر رہا ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے

أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ

إِيمَانٌ لِلَّهِ يَوْمَ رُوزِيٍّ اور روزِ قیامت پر اور نیک عمل کیے تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور

لَا هُمْ يَحْزُنُونَ^{۴۹} لَقَدْ أَخَذَنَا دِيَثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا

نہ وہ غمگین ہوں گے بے شک ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے تھے

إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ فَوْلَ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا

ان کی طرف رسول جب کبھی آیا اُن کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے^{۱۳۷}

كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتَلُونَ^{۷۶} وَحَسِبُوا الْأَتَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا

تو انہیا کے ایک گروہ کو تو انھوں نے جھٹکایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہو گا (انھیں) (غلب^{۱۳۸} میں تو انہیں

وَصَنُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَنُوا كِثِيرًا مِنْهُمْ

بن گئے اور بہرے بن گئے^{۱۳۹} اپنے ذریمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر^{۱۴۰} اپنے بھروسہ انھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت ان میں سے

مقرر کیے ہوئے حکما کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً اس بادشاہ کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ رسولوں پر ایمان لاتے بغیر بھی بخات ممکن ہے۔

۱۳۸ میں جب کسی اللہ کے بنی اسرائیل کو ان کی عمدشکنیوں اور غلط کاریوں پر ملامت کی اور انھیں کوئی ایسی بات کی جو ان کی طبیعتوں پر اگوار گزروی تو وہ بچر گئے بیوت کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا اور انہیا کی برملائکیب شروع کر دی اور زبانی انکار پر یہی اکتفا نہ کیا بلکہ بعض انہیا موقن کر دیا۔ (ان تمام انور کی تفصیل پیدے گزر چکی ہے)

۱۳۹ میں فتنہ سے مراء از ماش اور ابتلاء ہے یعنی وہ یہ مان کرے ہوئے تھے کہ ہم انہیا سے عجہنا کر رہے ہیں اور بعض کو شہید کر دیا ہے اس کے متعلق ہم سے باز پرس نہ ہو گی اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جاتے گا چنانچہ علامہ قرطبی نے یہی لکھا ہے۔ ابتلاء و اختبار بالشدائد میکن علامہ مختشری اور بیضاوی نے فتنہ کا معنی عذاب کیا ہے یعنی وہ اس

غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرزند اور چھیتے ہیں اس لیے وہ خواہ کچھ کرتے رہیں انھیں عذاب کرنا نہیں ہو گا فتنہ بمعنی عذاب قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے مثلًا ذوق وفات نتکواری عن ابکر۔

۱۴۰ یعنی ہر طرح کی گرفت اور باز پرس سے بالکل مطہر ہو کر ہدایت کا اور دیکھنے سے اور حق کا پیغام سننے سے اپنی انھیں

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ^(٦) لَقَدْ كَفَرَ الظَّاهِرُ

اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے (یہ) کہا کہ اللہ ۱۳۲

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُ وَ

مسیح بن مریم ہی تو ہے حالانکہ کہا تھا خود مسیح نے اے بنی اسرائیل! عبادت کرو

اللَّهُ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ إِنَّكَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ

اللہ کی جو میرابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یقیناً جو بھی شریک بناتے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے

اور کان بند کر کے اندر ہے اور بہرے بن کر رہ گئے

۱۲۰ اس سے مُرَادِ ضُورِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاکِل وَلَمْ کی بیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان میتوشوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھجا یہ بھی گنتی کے چند لوگوں کے سوایہ اندر ہے اور بہرے ہی بننے رہے۔

۱۲۱ یہاں ایک پھر میں طلب ہے۔ تجوہ کا قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو تو خواہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو فعل واحد ذکر کیا جاتا ہے یہاں کثیر فاعل ظاہر ہے۔ اس کے باوجود دعموں اور صیغہ و فعل جمع کیوں ذکر کیا گیا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کثیر فاعل میں بلکہ واو علامت جمع اور ضمیر فاعل ہے اور کثیر اس کا بدل ہے۔ فارتفع کثیر علی البدل من الواو (قرطی) دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عرب کی ایک لغت میں ایسے موقع پر بھی فعل کا جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے جیسے اکلونی البراغیدیت یا جیسے فردوق کا شعر ہے

ولَكُنْ دِيَافِيْ ابُوْ دَامَهْ بِحُورَانِ يَعْصَرِنِ السَّلِيْطَ اقَارِبَهْ (قرطی)

یہاں اقارب فاعل ہے پھر بھی یعصرن جمع متعدد ذکر ہوتا۔

۱۲۲ عیسائی حضرت پیر علیہ السلام کو اے ما نتے ہیں جس کی تفضیل پیدے گز چکی ہے۔ ان کے دعویٰ کا بطلان حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کون اللہ جو میرابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق نفس سے کمال کی طرف، کمزوری سے وقت کی طرف پہنچانے والا۔ توجب وہ مجھے مرتبہ کمال نہ پہنچانے والا ہے تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں، خدا تو وہ ہے جو ہر نفس اور کمی سے پہلے ہی پاک اور منزہ ہو۔ وہ کسی کے پاک کرنے اور منزہ کرنے کا محتاج نہیں ہوتا۔

عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ^(١)

اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا آگ ہے اور نہیں خالموں کا کوئی مدگار ۲۸۳

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ

بے شک کافر ہو گئے وہ جھوول نے (یہ) کما کہ اللہ تیرہ ہے ۲۸۴ تین (خداوں) سے۔ اور نہیں ہے کوئی خدا۔

۲۸۴ یعنی اگر تم مجھے خدا بمحفوظ کو تو شرک کا ارتکاب کرو گے اور جو شرک کرتا ہے وہ علم عظیم کرتا ہے اور اس روز خالم کی امداد نہیں کی جاتے گی اور میں بھی تم سے دست برداز ہو جاؤں گا۔

۲۸۵ ۱۔ عقیدہ تسلیت کی حقیقت کیا ہے؟ عیسائیوں نے اسے کب اور کیوں اختیار کیا؟ کیا حضرت علیسی علیہ السلام کے کسی قول سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ کیا اپنی تین انجلوں میں یہ عقیدہ موجود ہے؟ جب تک ان سوالات کا حقیقت ہجاء نہ دیا جاتے نہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ علی وہ جہا بصیرت مسیحی عقائد کے متعلق لفظوں کو سکتے ہیں آئیے نہایت صبر و سکون اور متناسن و سخیدگی سے ان امور کی تحقیق کریں۔

اس وقت میرے پیش نظر باقیبل کے علاوہ انسانیکو پیڈیا برٹانیکا (مطبوعہ ۱۹۴۶ء) ہے جو دنیا بھر کے فضلاً اور محققین کی کاوشوں کا مجموعہ ہے۔ اور جسے تمام علمی حلقوں میں مستند ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے مسیحیت کے متعلق میں نہ اس میں عیسائی علماء کے مضامین کا مطالعہ کیا ہے ان کے مطالعہ سے میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ ہدایہ ناظرین ہیں۔

مسیحیت (CHRISTIANITY) کے موضوع پر جارج ولیم ناکس (G.W.KNOX) اور سڈنی ہربرٹ میسلون (S.H.MELLONE) نے مل کر جو محققانہ مقابلہ لکھا ہے اس میں وہ رقمطراز ہیں:-

"مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافق الفطرت پھیز ہے بلکہ وہ اس پڑھنے تھے کہ انھیں یہم اور جو زوف کے بیٹے کی حقیقت سے پہچانा جاتے۔" (إِنَّا تَنْكِلُوْنَ بِيَدِيَّا بِرْ تَانِيَكَا جَلْدٌ ۵، صفحہ ۶۶۴)

اس خیال کی تائید میں انہوں نے مرق کی انجیل پاپششم کی آیات نمبر ۲، ۲۷ کا خواہ دیا ہے۔ کیا یہ وہی بڑھتی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب بٹھوکر کھاتی۔ سیوں نے ان سے کہا بھی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔

یوحنائیکی یہ آیت بھی زیر نظر ہے۔ پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ سیوں نے خود گواہی دی کہ بنی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا (۲۸: ۲۲، ۲۳) تو فنا کی یہ آیت بھی توجہ طلب ہے۔

"مگر تمھے آج اور کل اور پسون اپنی راہ پر علنا ضرور ہے یو نکہ مکن نہیں کہ بنی یروشلم سے باہر لاک ہو۔" (۱۳: ۲۸)

انہیل کی ان آیات اور سابقہ تصریح سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو مریم کا بیٹا کھلوایا اور اپنے بنی ہونے کا بار بار اعلان کیا اور بھی بھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا۔
(ان تصریحات سے اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۱۶ اکی تصدیق بھی ہوتی)

جب حقیقت یہ ہے تو پھر تسلیت (تین خدا) اور ابنتیت کاظمیہ اس دین میں کیونکر گھس آیا۔ اس کے متعلق بھی مذکورہ بالا فاضلou کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے:-

”باب، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات کو یہودی ذرائع نے مہیا کیا۔ سیوں نے شاذ و نادر ہی آخری صللاح استعمال کی ہو۔ (سینٹ) پال کے متعلق بھی یہ واضح نہیں کہ اس نے اسے استعمال کیا۔ چنانچہ تسلیت کا مودع یہودی ہے جسے یونانی (فاسفہ کے) اثر در سیوں نے اس قابل میں ڈھالا ہے“، انسانیکو پیدا یا بیٹا کا جلد ہ صفحہ ۴۳۴۔

دینی سیجی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت یوچیز بڑی عجیب و غریب اور انوکھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بنیادی عقائد وہ نہیں جو اس دین کے باñی حضرت مسیح علیہ السلام نے بتاتے ہیں یا جو انہیلou میں نہ کوہ میں بلکہ اس کے بنیادی عقائد وہ ہیں جو پادریوں کی کوئی مختلط حالات میں مقرر کرتی رہی ہیں۔ اور یہ کوئی مجاز ہیں کہ حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے اگر ان کے منظور کردہ عقائد سے اختلاف کریں تو وہ انہیں مرتضی قرار دے کر اس دین سے خارج کر دیں۔ ان کوںلسوں کی داستان بڑی دلچسپ اوہ معلومات افزائے۔

محبے اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب تسلیت کا کوئی سراغ نہیں سیوں مسیح کے کلام میں نہیں ملتا اور انہیلou کی آیات بھی مسیح کی ابنتیت (بیٹا ہونا) کی جاتے ان کی نبوت ثابت کر رہی ہیں تو پھر یہ مشترکانہ نظریہ کیسے اور کب منودار ہواد اس کے متعلق بھی انسانیکو پیدا یا کے حوالہ سے حقیقت حال پیش کرنا ہوں۔

قطلنطیں کے سخت تسلیت ہونے سے پہلے عیسایوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے اور حکومت روم کی گھبیوں میں بھی یعنی مذہب تھے لیکن یہ مذہب اہستہ آہستہ چھپیتا رہا اور تقویت پکڑتا رہا قطنطین جب رومان ایسا پاک فرماز و ابنا تو اس نے ۳۲۴ء میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعہ نہیں آزادی کا اعلان کیا۔ اپنی سیاسی اغراض کی وجہ سے عیسایوں پر عنایات خسر و ان کی بارش شروع کر دی تاکہ ان کی کشیر آبادی کی ہمدردیاں اور فاداریاں حاصل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کرے۔ اور ۳۲۴ء میں جب وہ بستر مگر پر موت رہا تھا تو اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اُسے پسند دیا گیا۔ یہ تو ان کے سیاسی حالات تھے لیکن اس سے پہلے تین صدیوں میں ان کے عقائد میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں ہوتی تھیں۔ اور قطنطین کی سرپرستی میں ان میں کیا قلع و بیداری کی گئی۔ اس کے متعلق تاریخ کلیسیا (CHURCH HISTORY) کے عنوان پر چار مسیحی فضلاء نے جو لکھا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے:-

”تیسرا صدی کھتم ہونے سے پہلے سیوں کو کلام الہی (LOGOS) کا مجسم تسلیم کر لیا گیا تھا لیکن اس کی الہیت کا حاصل طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ اس اثنامیں اریس (ARIUS) کے نازمہ نے چوتھی صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و ہیرت میں مبتلا

کر دیا تھا اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلہ کی طرف مبڑوں کیا۔ نیقیا (NICA EA) کی کوئی جو ۳۲۳ء میں منعقد ہوئی اس میں سرکاری طور پر سیوں کی اوہیت کو تسلیم کر لیا گیا جسے باضابطہ طور پر مرتب کرنے کے بعد (NICENE CREED) کا نام دیا گیا۔ تازعہ کچھ عرصہ جاری رہا لیکن آخر کا مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اسی عقیدہ کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹھ کی اوہیت کے ساتھ روح القدس کی اوہیت بھی تسلیم کر لی گئی نیقیا کے عقیدہ کی فتح نے تسلیت کو عیسائی مذہب کے صحیح عقائد کا جھرو لا نیفک بنادیا۔ بیٹھ کی اوہیت کا منظر سیوں کو قرار دے دینے سے ایک نئی پیچپے گی پیدا ہو گئی جو جو تھی صدی اور اس کے بعد عرصہ تک ماہر المزاج بنی رہی۔ وہ یہ کہ سیوں میں اوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کالسیدن (HALCEDON) کی کوئی جو ۴۵۷ء میں منعقد ہوئی اس میں یقان پایا کہ مسیح کی ذات میں اوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجمع ہیں اور باہمی امتحان کے باوجود دونوں کی تھوڑی سی باتیں جوں کی توں فائم ہیں قسطنطینیہ کی تیسری کوئی جو ۴۵۷ء میں منعقد ہوئی اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان دونماہیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے۔ مسیح دونوں مشیتوں کا الگ ہے مغربی کلیسا نے یقنا، کالسیدن اور قسطنطینیہ کے فضیلوں کو قبول کر لیا اور اس طرح تسلیت اور مسیح کے اندر دو مشیتوں (خداونی اور انسانی) کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساوں نے بھیتیت پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ (انسانیکو پیدا جلد ۵ صفحہ ۲۸-۶۷)

اس طویل اقتباس سے یہ حقیقت روپ روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ تسلیت و انبیت کے عقائد خدا اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے عقائد نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں سال بعد انعقاد پذیر ہوتے والی کوئی شمولیت نے انھیں گھٹا اور عیسائیوں کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم نے بارہا علماء اہل کتاب کے متعلق چویہ اعلان فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے باتیں گھرتے ہیں اور پھر اسے خدا کی طرف اور اس کے سفریوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس کا کتنا واضح ثبوت ان کی پیش تاریخ نے فراہم کر دیا۔

لیکن یہ بحث تنشہ تکمیل رہے گی اگر یہ نہ بتایا جائے کہ نیقیا کی کوئی جو افتراض باندھا گیا اس کے محرکات کیا تھے؟ اور کیا اس کوئی میں شرکت کرنے والے سارے بشپ اس عقیدہ کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے یا نہیں؟

یہ بات سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کا سمجھنا لازمی ہے۔ قسطنطینیہ کی حمایت و سرپرستی میں عیسائیت کو امن و سکون نصیب ہوا تو ان میں نظریاتی خانہ جنگی شروع ہو گئی جس کے باعث ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی اور ان کی سیاسی قوت زوال پذیر ہوتے گی۔ اس طرح قسطنطینیہ نے جس خیال سے ان کی حمایت شروع کی تھی وہ خواب پریشان ثابت ہوتے گا۔ چنانچہ اس داخلی انتشار کو دوڑ کرنے کے لیے اس نے نیقیا میں تمام عیسائی علماء کی کوئی طلب کی جس کے اجلاس ۴۵۷ء میں سے ۴۵-جو ہلائی سال میں تک جاری رہے سب سے اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ سیوں کا متعلق خدا سے کس نویت کا ہے؟

یہ بھی یاد رہے کہ اس کو نسل کا داعی بھی قسطنطین تھا۔ اس کے جملہ مصارف بھی اس نے اپنی گرد سے اوکیے اور اس کے کئی اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور ان کے فضیلوں کو اپنے شاہی اختیارات سے نافذ کیا اور جس نے ماننے سے انکار کیا اس کو سزا ہیں دیں۔ (السانیکلو پیدی یا جلد ۶ صفحہ ۵۸۸)

اس کو نسل کے انعقاد کے محرکات اور پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد مسیح کی الٰہیت کے متعلق جو قرارداد پاس کی گئی اب اس کے متعلق مسیحی فاضلولوں کی آراء سنتے ہیں:-

”یہ دوسرست ہے کہ کثرت آرام سے نیقیکی کو نسل میں اسکندر یہ کے عقیدہ کو منتظر کیا گیا لیکن یقائق قلبی نیقین و ایمان سے روپیزہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شرکت کرنے والے پادریوں کی اکثریت غیر جاذب دار ہتھی۔ انھیں اس سے کوئی ذاتی چیزی نہ تھی۔ دوسرا وجہ شاہی اختیارات اور ان کا دباؤ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس تاریخی شہادت ہو ہو دے ہے وہ یہ کہ ائیوس (ARIUS) کے خلاف یہ فیصلہ اگر پورے غور و فکر کے بعد کامل ایمان و نیقین سے کیا گیا ہوتا تو پھر اس عقیدہ کے حق میں راست دینے والے ائمیں سے کبھی نرم برتاؤ نہ کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عقیدہ فقط ان لوگوں کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا جو اس کو نسل کے بانی تھے (یعنی قسطنطین اور اس کے اعیان حکومت) ان حالات میں ہم نیچیہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کثرت آرام قطعاً اس بات کا معیار نہیں کہ مسیح کی الٰہیت کا جو عقیدہ اس کو نسل میں منتظر ہے اس میں کو نسل کے ارکان کا قبلی نیقین بھی کار فرما تھا۔“

فاضل تعالیٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ نیقیکی کو نسل کے متعلق اپنی نگارشات کا اختتام کرتا ہے:-

”اس مصنوعی اور بناوٹی اتحاد سے جو عقیدہ گھٹا گیا تھا وہ امن برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ اس نے ایسے جھگڑوں کے لیے راہ ہموار کر دی جن کے باعث مملکت کی بنیادیں لرز گئیں۔ نیقیکی کے اس عقیدہ کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پر سمجھ دی سے خور کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ عقیدہ جو کلیسا نے فکر و تدبیر کے بغیر اپنے اور مسلط کر لیا تھا اس کی تشریح و توضیح کرتے وقت کلیسا کو ایسی مذہبی بحثوں میں اُلٹھنا پڑا جن کا راستہ بڑا دشوار اور پُر خار تھا۔ (السانیکلو پیدی یا بریانیکا جلد ۶ صفحہ ۲۱۰)

إن تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان آیات لعدن کفار الذین قالوا إلٰهٗ کو نور سے ٹڑھو۔ آفتاب ختمت کی تابانیاں آپ کی پشم خود کروش کر دیں گی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ کی آیت نمبر ۲۸ میں قرآن کو سابقہ آسمانی کتب کے نہیں اس کے مہیمنا علیہ کا جو لقب عطا فرمایا ہے۔ اس کی صداقت آشکارا ہو جاتے گی۔

خُدا را بتائیے کیا اس دین کو دینِ الہی کہنا بجا ہے جس کے بنیادی عقائد چند آدمیوں نے سیاسی دباؤ اور سیاسی اغرض کی خاطر صد بآسال بعد خود وضع کیے ہوں اور ان میں اپنے پیغمبر کے ارشادات سے واضح اخراج کیا گیا ہو۔ مسیحیت کو اس کی اپنی تاریخ کے آئینہ میں آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کسی مزید تبصرہ کی کنجماش نہیں۔

اَللّٰهُ وَاحْدَىٰ وَلَمْ يَنْتَهِ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَسَ الْجِنَّةَ

مگر ایک اللہ ۲۷۳۸ کے اور اگر باز نہ آئے اس (قول باطل) سے جو وہ کہ رہے ہیں تو ضرور پہنچنے کا جھنوں تھے
كَفَرُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۝ اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلٰى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ۝

کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بشش طلب کرتے

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۝ مَا الْمُسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّ

اس سے اور اللہ بہت سخشنے والا بڑا حرج کرنے والا ہے نہیں سیع بن مریم ۲۷۴ کے مگر ایک رسول - گزر پہنچے ہیں

مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ وَأَمْلَهُ صَلِّيْقَةٌ كَانَ يَا كُلُّ النَّعَامَاطْأَنْظَرُ

اس سے پہلے بھی کتنی کتنی رسول اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں دونوں کھایا کرتے تھے کھانا دیکھو!

كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرُ آنِي بِوَفَّ كُونَ۝ قُلْ

کیسے تم کھوں کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں پھر دیکھو وہ کیسے اٹھے پھر رہے ہیں ۲۷۵ اے آپ فرمائیے

۲۷۵ کے لیعنی اور کوئی خدا ہے ہی نہیں سو اس کے جو صفت و حدائقیت سے متصف ہے۔ اس جملہ میں "ما" استغراق نفی کا فائدہ دیتا ہے لیکن کسی قسم کا تعدد نہیں نہ ذات میں نہ اعتبار میں۔ صرف وہی خدا ہے جو ہر طرح کی کامل فحدائقیت اور یکتا نی سے متصف ہے۔

۲۷۶ کے حضرت مسیح کی الہیت کی نفی کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ہیں کون؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آچکے ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے۔ نہ پہلے رسولوں میں سے کوئی خدا تھا نہ مسیح خدا ہیں اور ان کی والدہ مُحْتَمَلَة مَرْمَلَة اللہ تعالیٰ کی ایک راست باز بندی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کی بقا کے لیے دوسرا سے انسانوں کی طرح طعام کھایا کرتے تھے جب انھیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ بندے ہوتے خدا تو نہ ہوتے۔ اس آیت میں یہ دلویں کی بھی تردید ہو گئی اور عیسیا یوں کا بھی رد آگئا۔

۲۷۷ اے ناظر متصف! ان کے عقیدہ کے بطلان پر کتنے زبردست دلالیں کیے گئے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے آباد اجداد کی اندھی تقلید سے بازنہیں آتے اب اس بہت دھرمی کا کیا علاج!

أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ خَرَّاً وَلَا نَفْعًا طَوَّالَ اللَّهُ

کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تھا اسے نقصان کا اور نہ نفع کا ۲۸۷ اور اللہ تعالیٰ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

ہی سب کچھ سُننے والا سب کچھ جاننے والا ہے آپ فرمائیے اے اہل کتاب! نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں

غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَشْبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قُدْ صَلَوَاتُ مِنْ قَبْلُ وَ

نا حق اور نہ پیرودی کرو ۲۹۸ اس قوم کی غواہشوں کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے اور

أَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ لِعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا

گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو اور بیٹاں چکے ہیں راہ راست سے لعنت کیے گئے وہ جھنوں نے کفر کیا

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسَانَ دَآءَ وَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ مِمَّا

بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ پسر مریم کی زبان پر یہ بوجہ اس کے کہ

۲۸۸ میں حضرت صدر الافق افضل مراد آبادی رقطر از ہیں۔ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مستحب عباد دہی ہو سکتا ہے جو نفع و ضرر وغیرہ برچیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو جو ایسا نہ ہو وہ اللہ مستحب عبادت نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بالذات مالک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوتے۔ تو ان کی نسبت الہیت کا اعتقاد باطل ہے، (خراءۃ العرفان)

۲۹۹ میں اس آیت کریمیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ یوں کو فرماتے ہیں کہ افراط و تفرط سے کام لینا چھوڑ دو اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھو تمہارے عقیدہ تبلیغ کو حضرت مسیح کی تعلیمات سے دُور کا واسطہ بھی نہیں یکلمہ تم نے دوسری گم کردہ راہ و قبوں کے مشکلہ نظریات کو اپنا ناشروع کر دیا ہے اپنے صاف سادہ عقیدہ تو جید کو یو نامی اور رُومی فلسفہ کی چلینٹ چڑھا کر اس کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا چھوڑ دو اس خود ساختہ عقیدہ کو۔ اور حضرت مسیح کے سچے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔

عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَّهَوْنَ عَنْ مُتَكَرِّرَ فَعْلَوْهُ

وہ نافرمانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس براہی سے جوہہ کرتے تھے نہ

لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَُّونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا

بہت بڑا تھا جو وہ کیا کرتے تھے آپ پیھیں گے ہمتوں کو ان میں سے اہل کوہ دوستی رکھتے ہیں لفڑی سے

لَيْسَ مَا قَلَّ مَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

بہت ہی بڑا ہے جو آگے چھجا ان کے پیسے ان کے نفسوں نے یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر اور عذاب

الْعَذَابُ هُمْ خَلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَنَّا

میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اگر وہ ۵۵۷ء میں ایمان لاتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور جو

۵۸ء تھا یہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اتنا ہی معنی انتہی باز آجانا۔ کہ جانا یعنی واعمال بدودہ کیا کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے۔ لامہ سمجھا اور سرکش گھوڑے کی طرح نافرمانی کی راہ پر سرپت دوڑے چلے جاتے تھے۔ ۲۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو براہی سے نہیں روکتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی سن یعنی۔ حضور نے فرمایا کہ یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا ریوں ہوئی کہ جب کوئی آدمی کسی بدکار سے ملتا تو پہلے اُسے اللہ سے ڈرنا اور اس گناہ سے باز آجائے کی ترغیب دیتا۔ پھر دوسرے روز اسی کے ساتھ بلال تابل کھاتا پیتا بیٹھتا احتاج جلبخواں نے ایسا کرن اشروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ٹکرایا پھر حضور نے یہ آیت پڑھی۔ لعن النین الماس کے بعد فرمایا کلا واللہ تامرن بالمعروف ولتهون عن المتكرو لتأخذن علی یہ دی الظالم ولتأطریه علی الحق اطرا ولتقصرنہ علی الحق فصر اولیضر بن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ولیعنتمکم کما لعنهو (ترذی، ابو داؤد)

ترجمہ۔ بخدا ایا تو تم نیکی کا حکم دو گے، براہی سے منع کرو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اسے حق والاصاف کی طرف نہ برسی لوٹا دو گے اور اسے عدل کا چھڑ پاند کرو گے ورنہ تم عار سے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرایا گا۔ اور تم پر بھی ایسی پھٹکارا ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی۔

اہل نہیں عجیب غریب ہیں یہ لوگ اخلاقی توحید کے معنی اور انبیاء و رسول کے پر کار اور دوستی اُن سے جو کھلکھلے بُت پرست ہیں۔

۵۸ء اگر وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہوتے تو بھلا کی ممکن تھا کہ وہ مخلص اہل توحید کے خلاف ہٹکر کوں اور بُت پرستوں

أَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَتَخَذُ وَهُمْ أَوْلَيَاءُ وَلَكُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ ۸۱

اتارا گیا اس پر تو نہ بناتے ان کو (اپنا) دوست یکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں

لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاؤَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ وَدَّ الَّذِينَ لَا يَتَكَبَّرُونَ

ضفر پا ہیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ ڈشمنی رکھنے والے مومنوں سے یہود کو اور مشرکوں کو

وَلَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ وَدَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِلَيْهِمْ نَصَارَى

اور پا ہیں گے آپ سب سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں سے انھیں بخوبی نہ کہا کہ ہم نصاری ہیں

ذَلِكَ يَأْنَتْ هُنَّهُمْ قَسِيسِينَ وَرَهْبَانٌ وَأَنْصَارٌ لَا يَسْتَكِبُرُونَ ۸۲

یہ اس لیے کہ ان میں عالم ۱۵۲ء اور درویش ہیں اور وہ عزور نہیں کرتے

سے یارانے کا نہ ہے۔

۳۴۵ء یہود و مشرکین کی اذیت رسانیوں اور اسلام و شمینیوں کے مقابلہ میں نصاری کا ردیہ بہتر ہے۔ امام ابن حجر العسکری فرماتے ہیں کہ ان عیسیا یتوں سے مُرادِ عام عیسیٰ نہیں بلکہ ان کا دُو خصوصی رُوہ مُراد ہے جو ان عقائد کا پابند تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انھیں سکھاتے تھے۔ اُناسؓ میں اہلِ الْكَتَابَ كَانُوا عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَنْعَمٍ مِنَّا جَاءَ عَلَيْهِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُهُنُّونَ إِلَيْنَا۔ (تفسیر ابن حجری) انھیں میں حتی قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ان کی لگا ہوں ہیں ہی تو رہایت کو دیکھنے کی وقت تھی۔

۳۴۶ء فتنیسین کا واحد قفس اور قسیس ہے وَأَصْنُلُهُ مِنْ قَسَّ إِذَا تَبَعَ الشَّيْعَةَ فَلَطَبَّهُ۔ جب کوئی کسی حیز کا مرتلاشی ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہو تو کہتے ہیں قس الشیعی۔ یہاں فتنیسین سے مُراد ان کے علماء ہیں ممکن ہے کہ یہ لفظ رُومی زبان کا ہے اور تعریف کے بعد لغت عرب میں استعمال کیا جانے لگا ہے۔ رہبان راهب کی جمع ہے۔ راهب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلک خانقاہوں اور جگروں میں صریح ذکر و تحریر ہتا ہے۔ **الرُّهْبَانِيَّةُ وَالرَّهْبَهُ الْتَّعَدُّدُ فِي صَوْمَاعَةٍ**۔ (قرطبی)

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ

اور جب سنتے ہیں (قرآن) جو اتارا گیا رسول کی طرف تو تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہچکا ہی ہوتی ہیں

مِنَ اللَّهِ مُعِرِّمَةً عَرَفَوْا مِنَ الْحَقِيقَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْ كَا فَاكْتَبْنَا

آنسوؤں سے ۱۵۵ اس لیے کہ پہچان لیا انھوں نے حق کو کہتے ہیں اسے ہمارے بے اہم ایمان لے آئے ۱۵۶ پس

مَعَ الشَّهِيدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنْ

تو گھرے ہیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں اور کیا وہ جسم کے تم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو آپ کا ہے ہمارے پاس

الْحَقِيقَ وَنَطَعَهُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ۝

حق حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فرمائے ہیں ہمارا رب نیک گروہ میں ۱۵۷

فَأَكَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَهَنَّمُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ

تو علاقوں میں انھیں اللہ تعالیٰ نے بعض اس قول کے باغات روایاں ہیں ان کے بیچے نہیں

خَلِيلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

وہ ہمیشہ ہیں گے ان میں اور یہی معاوضہ ہے نیکی کرنے والوں کا اور بخوبی نے کفر کیا

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَيْكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور جھٹکا لیا ہماری آئیتوں کو تو وہی دوزخی ہیں اے ایمان والوں

۱۵۸ جب انھیں آنسوؤں سے بہریز ہو کر جھٹکا پڑیں تو عرب کہتے ہیں فَاضْتَعَيْتُ الْعَيْنُ۔ اسی سے تفیض من اللہ مُعِرِّمَہ ماحوذ ہے۔

۱۵۹ شاہدین سے مُراؤ امیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اس آیت سے ابن ہبیری کے قول کی مزید تائید ہوئی ہے کہ یہاں نصاریٰ سے مُراؤہ مخصوص گروہ ہے جو حضرت علیہ السلام کے دین کا پابند تھا۔ اور عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور جب حق اور ہدایت کی روشنی حضور پر نوصلی اللہ تعالیٰ علیہ آمہ وسلم میں دیکھی تو فوراً ایمان لے آیا۔

لَا تَحْرِمُوا صَيْبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَإِنَّ اللَّهَ

نَحْرَامٌ كُوْنَهٗ پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور نہ حد سے بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ

لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِلِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَأَتُمْ قَكْمَهُ اللَّهُ حَلَّا طَيْبَامْ

نہیں وہ ستر کھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور کھاؤ اس سے بوجہ زنق دیا ہے تھیں اللہ تعالیٰ نے حلال (اور) پاکیزہ

۴۵۷ معلوم ہوا کہ نیک اور صالح لوگوں کی سنگت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

۴۵۸ ۱۵۷ چند جلیل القدر صحابہ حنفیں ہیں حضرت صدیق و علی رضی اللہ عنہم بھی شریک تھے حضرت عثمان بن عطیون کے گھر میں بجمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ دہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے بستریوں پر نہیں سوتیں گے گوشت، بھی وغیرہ نہیں کھاتیں گے جو رتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے اونی بیاس پینے کے اور دنیا سے قطع تعلق کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع میں تھوڑوں نے انہیں ملا کر حقیقت افوز ارشاد فرمایا۔ مجھے ان با توں کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان لِاَنْفُسِكُمْ دَعَيْنَكُمْ مُحَقَّقًا مُؤْمِنُوْا فَاطْرُمُوْا وَأَفْطَرُمُوْا نَأْمُوْا فَإِنَّ أَقْوَمُ وَأَنَاهِرُ أَهْمُوْرُ وَأَفْطَرُمُوْرُ وَأَكْلُ الْحَمْرَ وَاللَّدَ سِمْوَ وَآتِيَ النِّسَاءُ خَمْنَ رَبِّخَبَ عَنْ سُنْتِي فلکیں جوئی۔ (کشاٹ وغیرہ)

۱۵۹ اے میرے صحابہ، اتحاد نقصوں کا بھی تم پرست ہے اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ راتوں ہی جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سوچ بھی کیونکہ میں رات کو جانگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ گوشت اور بھی بھی کھانا ہوں۔ اور اپنی ازواج سے بھی مقابbat کرتا ہوں (یہ میراطن تک کارڈینت ہے جس نے میری سعدت سے منہ موزا وہ میری جماعت سے نہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نہ تو یہ دیوں کی طرح لذات دُنیا میں کھو جاؤ اور نہ مسیح راہبوں کی طرح دُنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اور حرام کر دو بلکہ اعتدال اور میامن روایتی اختیار کرو۔ یہی دین اسلام کا طراطہ امتیاز ہے۔ اس آیت میں لاتحرم و ماحمی یہ ہے کہ نہ تو یہ اعتماد رکھو کہ یہ چیز حرام ہیں اور نہ زبان سے ایسا کہوا اور نہ ان کے استعمال کو اس طرح ترک کرو جیسے حرام چیز کو ترک کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نفس رکش کی سرکوبی کے لیے بعض حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ان کی حرمت کے قابل نہیں ہوتے۔ بلکہ جس طرح جسمانی طبیب بعض اشیا کو صحت جسمانی کے لیے ضرر خیال کر کے مرض کو ان کے استعمال سے روک دیتا ہے اسی طرح یہ روحانی معراج بعض روحانی مفاسد کے پیش نظر بعض چیزوں سے وقتی طور پر اجتناب کرتے ہیں لیکن اگر کوئی جاہل اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کرد چیز کو اعتمادی یا قولی طور پر حرام جانتے تو یہ باطل ہے اور مگر اسی ہے۔

۱۶۰ اکل سے مزاد کھانا ہی نہیں بلکہ اکل بقیعی ممکن ہے یعنی فائدہ اٹھانا، استعمال کرنا خواہ کھانے پہنچنے، پہنچنے کی صورت

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

اور ڈرتے رہوں اللہ سے جس پر تم ایمان لاتے ہو نہ باز پُرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ

بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

تمہاری فضول قسموں پر نہ یکین باز پُرس کرے گا تم سے اُن قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو

فَكَفَّارَتُهُ أَطْعَامٌ عَشَرَةً مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

تو اس کے توڑنے کا نہ کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جاتے دس مسکینوں کو درمیانی شم کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے

أَهْلِيَّكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقْبَتِهِ فِيمَا لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُهُ

گھر والوں کو یا کپڑے پہناتے جاتیں انھیں یا آزاد کیا جاتے غلام اور جونہ پاٹے (ان میں سے کوئی جیز تو وہ رہنے

ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا

رکھے تین دن یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ اور سفراحت کیا کرو

میں ہو یا سواری وغیرہ کرنے کی شکل میں۔ **الْأُكْلُ فِي ذِهْنِكُمْ إِلَيْهِ عَبَارَةٌ عَنِ التَّمَثِيلِ بِالْأُكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالسُّكُوبِ وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّكُمْ**

۱۴۰ نہ ایمان جمع ہے میں کی۔ اور یہ میں معنی برکت سے ماخوذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قسم سے بھی حقوق محفوظ ہوتے ہیں معاہدے پر ہے کیے جاتے ہیں اس لیے اسے میں برکت و ای چیز کو مدیا کیا میں لغو وہ ہے جس میں قسم اٹھانے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ اتنا کلام میں واللہ باللہ کے الفاظ بلا سوچ سچھے منہ سے نکل جاتے ہیں ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں لیکن وہ قسمیں جو نیت اور ارادہ سے اٹھاتی گئی ہوں اور پھر انھیں پورا نہ کیا جاتے تو اس قسم کو توڑنے پر باز پُرس ہو گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔

۱۴۱ کفارہ کی تین صورتیں ہیں۔ (۱) دس آدمیوں کو کھانا کھلادے (۲) یا انھیں کپڑے پہنادے جن سے ان کے جسم کا اکثر حصہ ڈھک جاتے مثلًا چادر اور کرٹہ یا چادر اور صاف (۳) یا غلام آزاد کرے۔ اور اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر تینیں دن لگاتا روزہ رکھے۔

اَيُّمَا نَكْمُ طَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اِلْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۝

ایپنی قسموں کی ۱۴۲ اسی طرح کھوں کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم تھارے یہی اپنی آئیتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو ۱۴۳

بِإِيمَانِهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَشْرَامُ

آئے بیان والو ۱۴۴ یہ شراب اور جوڑا اور بُت اور جوڑتے کے تیر ۱۴۵

۱۴۲ یعنی اپنی قسموں کو مذاق نہ بنالو کہ اودھیر قسم اٹھاتی اُدھر توڑ دی۔ بلکہ جب قسم اٹھا تو اُس کی پوری طرح پابندی کرو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زیادہ تھیں نہ اٹھایا کرو ایسا نہ ہو کہ تم ان کی پابندی نہ کر سکو اور ان کو توڑ نے پر مجبوڑ ہو جاؤ۔

۱۴۳ یہ پاک اور حلال لذتوں سے لطف اندوڑ ہونے کی اجازت محنت فرمائی قسم توڑ نے کی صورت میں کفایہ کام ک طریقہ بتایا۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی انعامات اور احسانات کا غیر منقطع سلسلہ جاری ہے جس پر شکریہ بالاتا ہم پر واجب ہے۔

۱۴۴ عرب میں شراب کا عام رواج تھا۔ گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس کے متوا لے تھے شراب جو انگشت جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب، اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی علت ہے اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کمیوں کر گنجائش ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی حرام کر دیا لیکن ہرمت کا حکم اہم ترستہ ہے ستہ اور تدریجیاً نازل ہوتا تکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں تو اتنا کہتے ہیں پر اکتفا کیا گیا کہ **فِيهِمَا لَشَّرُّ** پیکر ذہن افاعٰ للنّاسِ۔ اس کے پھر عمر صد بعده آیت نازل ہوئی **وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ مُسْكَدَّرٌ**۔ کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ یہ آیات اس آخری حکم کا پیش خمیہ تھیں۔ اگرچہ شراب کی حرمت کا صراحتہ ان میں ذکر نہ تھا لیکن کئی سلیمان طبیعتوں نے اس وقت ہی شراب چھوڑ دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہِ الہی میں اس کی قطعی حرمت کے لیے التجاہیں کیا کرتے۔ عرص کرتے۔ **أَلَّا هُوَ بَيِّنٌ لَنَا بَيِّنًا أَشَارِيَّاً**۔ اس اشارہ میں چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس سے شراب پینے کے نفاذ اور نقصانات کا صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ احساس ہونے لگا۔ جب ایمان نہ پختہ ہو گئے تعلیماتِ اسلامیہ قلب و روح کی گہرائیوں میں بس گئیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے تسلیم ختم کرنے کی عادت فطرت ان گئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور رحمت عالیہن عاصی اللہ تعالیٰ علی عویس نے ایک خادم کو حکم دیا کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں پھر کر بلند آوانسے ان آیات کا اعلان کرے۔ جب وہ منادی کرنے والا اعلان کرنے تکلا تو ائمہ شراب کی محظیں آرائستہ تھیں میخوار جمع تھے پیمانے گردش میں تھے۔ جو بنی کان میں ہے ان آٹھ تر مُنْتَهُوْنَ کی آوانی پنچی ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیالے زمین پر پیغ و دیتے گئے ہوئوں سے لے کے ہوئے تھام خود بخود

الگ ہو گتے۔ جام و سبُو توڑ دیتے گتے مشکوں اور مشکوں میں بھری ہوتی متنے ناب انڈیل دی گتی۔ وہ چیز بوانخیں از جم عرب زندگی اب گذرے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ اس کے بعد سسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش کا اعلیٰ اذناں نہ کیا۔ قرآن کی اثر آفرینی ہستھوڑ کے فیض توبت، صحابہ کرام کی کامل تربیت اطاعت و فرمانبرداری اور سلام کی انقلاب آفرین قوت کا یہ وہ عدیم انظیر مظاہر ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ شراب کے زہر یہی اثاثت ویکھ کر یورپ و امریکہ کے ڈاکٹر اور دانسٹور لرزہ برانڈام ہیں۔ اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھکا را دلانے کے لیے بڑی بڑی مخلصانہ اور حکما نے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت امریکہ نے پورے چودہ سال تک شراب کے خلاف زدروزی سے بھاول جاری رکھا۔ اور اس بھاول میں نشر و اشتاعت اور پر پیکنیٹ کے جدید ترین اور قوی ترین فی سائل اختیار کیتے اخبارات، رسائی بیکھر، تصاویر اور فلمیں سبھی شراب سے نفرت دلانے کے لیے پرسپکیار رہے۔ اس عظیم مہم پر حکومت نے تقريباً چھ کروڑ دالر (ساٹھ کروڑ دالر پیہ) خرچ کیا۔ پھیس کروڑ پونڈ کا خسارہ برداشت کیا۔ تین سو افراد کو شختہ دار پر لٹکایا گیا۔ پانچ لاکھ سے زیادہ اشخاص کو قید و بنڈ کی سزا میں دیں۔ جماری جرمانے کیے۔ بڑی بڑی جائدیں ضبط کی گئیں لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوتیں۔ آخر کار حکومت کو اتنی شکست فاش کا اعتراف کرنے پڑا اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف عرصہ دراز تک وہ معکرہ آزاری بھی کو شکست ۱۹۳۷ء میں قانوناً جائز قرار دے دیا۔ "ما خذ از ما خذ از ما خذ اخسر العالم)

والمسیر الخ۔ اسی طرح برطانیہ میں جو اس پر باتے نام پابندی تھی اسے بھی ۱۹۴۱ء میں واپس لے لیا گیا۔

اور اس کی یعنی تحریک کے لیے ساری مساعی کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے بھی قانونی طور پر سنبھال گئی۔ (ریڈر ڈائیٹ میں ۱۹۴۲ء)

لیکن سب بے فائدہ، سب بے اثر، یہ اسلام کی قوت قاہرہ تھی جس نے اپنے ایک فرمان سے ساری قوم کو اس بلاتے بے درماں اسے رہائی دلدادی۔

۱۶۵ یہاں پار بھروسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خمر، میسر، انصاب اور ازالام۔ اگرچنان کے متعلق تو صحنی نوٹ گزر جکے ہیں لیکن مختصر آہیاں بھی کچھ عرض کرنا مناسب ہے۔ خمر، مکشی شراب، مسکرہ و هذہ الشَّمیمَةُ مَعْوِيَّةٌ وَ شَرْعِیَّةٌ ہر دہوشاں کر دینے والی شراب کو خرکتے ہیں۔ عصیر عنب سے اس کی تخصیص تعصیت ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو شراب استعمال ہوتی تھی وہ انگور، گندم، بجھ، بھجو اور شہد سے کشید ہوا کرتی تھی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سسی صحابی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ صرف انگوری شراب ہی حرام ہے حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ میسر مظلعاً خواہ کہتے ہیں خواہ اس کی صورت نیسی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ و بهم سے مردی ہے کہ الشَّرَبُ بَنْجُو مِنَ الْمَيْسِرِ کہ شترنج بھی جو باہے انصاب ان پھروں کو انصاب کہا جاتا تھا جو حرم میں کعبہ کے اردگرد نصب تھے اور کفار ان کے لیے جائز کرتے اور ان کا خون ان پھروں پر پل دیتے۔ ازالام؛ وہ تیرجن کے ذریعہ فالیں نکالی جاتی تھیں نیز وہ تیرجن کے ساتھ جو ا

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا

سب ناپاک بیں ۱۴۴ شیطان کی کارستیاں بیں سوبچوان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ تو

وَيَرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغضَاءَ فِي النَّاسِ

چاہتا ہے شیطان ۱۴۵ کہ ڈال دے تحارے درمیان عداوت اور بعض شراب

کھیلا جاتا تھا۔ اس آیت میں مقصود تو شراب اور جو اکی حرمت قطعی بیان کرنا ہے لیکن انصاب اور ازالام کو ان کے ساتھ ذکر کر کے ان کی قباحت کو اور زیادہ عیاں کر دیا۔ چنانچہ حضرت فاروقؓ اعظمؓ فرمایا۔ آے شراب! تیرا ذکر تو جوئے اور انصاب و ازالام کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے بعْدَ اللَّهِ وَ سُبْحَانَهُ! تیرا استیانا سس ہو۔ تیرا خانہ خراب ہو۔

۱۴۶ بد نو دار، غلیظ اور گندی چیز کو رجس کہتے ہیں۔ يَقَالُ لِلشَّتَنِ وَالْعَنِ رَبَّهُ وَالْأَقْدَادِ رِجْسٌ (قرطبی) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ کہہ کرہے تباہ کہ یہ چیزیں اتنی غلیظ اور ناپاک بیں کہ کوئی سیم الفطرت انسان از خود ان کی طرف تسلی نہیں ہوتا۔ صرف شیطان کی وسوسہ اندازی ہی اسے ان قبیح حرکات کے ارتکاب کی رغبت دلساکتی ہے۔

۱۴۷ شراب اور جو اکو حرام کرنے کی حکمت بیان فرمائی جائز ہی ہے۔ اگرچہ ان کی خرابیاں بے حد و بے شمار ہیں اور وہ قومیں جو اس کو شیر ما د تمحجہ کر سایکرئی تیں وہ بھی الکچہ اس کو چھوڑ دینے سے عاجز ہیں لیکن ان خرابیوں اور لفظانات کا بر ملا اعتراف کرنی ہیں۔ قرآن کریم نے محضسرے الفاظ میں ان کی دو ماضی ترین خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی قباحت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ بتایا کہ شراب اور جو اکی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی ستم ریزی ہوتی ہے۔ گھرے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، سکے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نمازو اور بیادِ الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ موذن اللہ کے حضور میں شرف باریاں حاصل کرنے کی دعوت فرے رہا ہو اور کوئی اس وقت شراب کے نشان مددوں پڑا ہو یا جو اکی بازی ہتھیئے میں لوں کھو یا ہتو ہو کہ اسے خبر نہ کہ رحمت کی گھٹری آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ اور جب شراب اور جو اکی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ وہ یاد خدا سے غفلت کا سبب بنتے ہیں تو سظرِ خج اور تاش وغیرہ جب اپنے کھلیے والوں کو اتنا منہک کر دیں کہ نمازو کی ہوش تک نہ رہے تو یہ کمیں حرام نہ ہوں گے فلان کانَتِ الْخَمْرُ أَثْمًا حُرْمَةً لِأَنَّهَا أَسْكَرٌ فَتَصُدُّ بِالْأَسْكَارِ عَنِ الْعَلَوَةِ فَلَيَحْرَمَ الرَّدُّ وَالشَّطْرُ ۖ

إِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ وَيَلْهُ فَيَصْدُدُ بِدَلِيلَكَ عَنِ الْعَلَوَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ (قرطبی)

وَالْبَيْسِرُ وَيَصِلُّ كُحُورَ عَنْ ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَمَلَّ أَنْتَمْ فَلَتَهُونَ

اور جو تے کے ذریعہ اور روک دے سکھیں یا دالٹی سے اور نماز سے تو کیا تم باز آنے والے ہو؟

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَإِلَّا لَهُمْ

اور اطاعت کر واللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (کرم) کی ۱۴۸ اور مختار ہو اور اگر تم نے رُدگاری کی تو خوب جان لو

أَنْتَمْ أَعْلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ۱۴۹ **لَيْسَ عَلَى الدِّينِ إِمْنُوا وَ**

کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچادنیا ہے کھوں کرو یہاں اسے احمد کو۔ نہیں ان لوگوں پر ۱۴۹ جو ایمان لاتے اور

عَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طِعْمُوا إِذَا اتَّقُوا وَ إِمْنُوا وَ

نیک عمل کیے کوئی گناہ جو (اس حکم سے پہلے) وہ کھاپی چکے جب کہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور ۱۴۸ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نکر کم کی اطاعت کی پھر تاکید کر دی گئی اور نافرمانی سے روک دیا گیا تاکہ کوئی شخص کسی تاویل سے اس کی نافرمانی کی جھات نہ کر سکے۔

۱۴۹ جب شراب و جو اکی حرمت کے احکام نازل ہوتے تو بعض صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس حکم سے پہلے انتقال کر گئے اور مختلف بھگلوں میں شہادت پائی خالانکہ وہ شراب پیا کرتے تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں **إِتَّقُوا وَ إِمْنُوا - إِتَّقُوا وَ إِمْنُوا**۔ اور **إِتَّقُوا وَ أَخْسِنُوا** کے الفاظ کا تکرار بہت خوب طلب اور معنی خیز ہے۔ علامہ برصید ای فرماتے ہیں کہ ان مکرر الفاظ سے صحابہ کرام کی تین جانتوں یا ان کے تین مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے **إِتَّقُوا وَ إِمْنُوا** سے ان کے تقویٰ و ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے قلب و روح کے ساتھ ہے۔ دوسرا **إِتَّقُوا وَ إِمْنُوا** سے ان کے تقویٰ و ایمان کی اس کیفیت کا ذکر ہے جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی۔ اور آخری **إِتَّقُوا وَ أَخْسِنُوا** سے تقویٰ احسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی۔ یا پہلے ان کے ایتدائی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ چھران کی درمیانی حالت کی طرف اور آخری ان کی اعلیٰ ترین کیفیت کی طرف جب کہ عابد و معبود، ساجد و مسجدوں میں دُوری کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور نعمت مشاہدہ سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اسی لیے آخر میں **إِتَّقُوا وَ أَخْسِنُوا** فرمایا جب کہ انسان مقام احسان پر فائز ہوتا ہے۔ اور احسان کا مفہوم حضور نے فرمایا۔ **أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاكَ وَ إِنْ لَعُوتُكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ** یعنی احسان اس کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ تو

عَلَوْا الصِّلَاحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَأَمْنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

نیک عمل کیا کرتے تھے پھر (ان احکام کے بعد بھی) ڈلتے ہیں اور (جو انتہا) اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈلتے ہیں اور ایچہ کام کرتے

الْمُحْسِنِينَ ۝ يَا يَاهَا اللَّهِ دِينَ أَمْنُوا لَيَبْلُو نَكْمَ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِّنْ

ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے نہ اپنے کام کرنے والوں سے۔ اے ایمان والوں ارض رازیتے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ

الصَّيْدِ لِتَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَنْخَافُ بِالغَيْبِ

شکار سے اکے ہیں سکتے ہیں جس تک تم تھارے ہاتھ اور تم تھارے نیزے سے لکھتا کہ پھر ان کو ادئے اللہ تعالیٰ اس کی بودھتی اس سے

فَمَنِ اعْتَدَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَا يَاهَا اللَّهِ دِينَ أَمْنُوا

بن دیکھے لپس جو شخص حد سے بڑھے گا اس (تبیہ) کے بعد تو اس کے لیے درناک عذاب ہے اے ایمان والوں

لَا تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْ كُمْ مُّتَعِمِّدًا

نہ مارو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہوتے ہو اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر لے اے

اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جسے تو اسے دیکھ رہا ہے یا حالتِ عبادت میں تم ایسی چیز ہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

نہ یعنی وہ صحابہ کرام تقویٰ اور ایمان کی منزیلیں طے کرتے کرتے جب مقامِ احسان پر فائز ہو گئے تو وہ خداوندِ عالم کے محبوب بن گئے اب اُن سے ایسی چیزوں کی پیشہ نہ ہو گی جن کی حرمت کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا۔

اکہ عرب کے بادشاہیں جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے گزراؤفات کیا کرتے تھے احرام کی حالت میں ان کا شکار

سے بازہ ہنا کچھ کم صبر آزمانہ تھا خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ قدم قدم پر ہر ہنوں کی ٹولیاں اور پرندوں کے جھنمٹ

دوں کو لیچا رہے ہوں۔ اس کی حقیقت کسی شکاری سے پوچھئے جس کے سامنے سے ہر ہنوں اور نیل گاؤں کا غول گزر رہا ہو اور وہ انھیں آسانی سے نشانہ بھی بناسکتا ہو اور اس وقت اسے شکار کرنے سے روک یا جائے تو اس کی یا حالت ہوتی ہے اس حکم سے مشکلانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو تو کسی جانور یا پرندے کو شکار نہ کرو۔

۴۲۷۴ میں اسیاں، جمال، بتیر، بندوق، شکاری کئے غرضیکہ شکار کا ہر ذریعہ داخل ہے۔

۴۲۷۵ اگر کسی نے شکار پکڑ لیا تو اس سے چھوڑ دے اور اگر اُسے مار دا لاؤ تو پھر اس کی سزا ہے کہ اس طرح کا ایک جانور جس کی قیمت دو معتبر آدمیوں کے فیصلہ کے مطابق اس شکار کردہ جانور کے برابر ہو غریدے اور مکہ میں لا کرا سے ذبح کرے

فَجزِّ أَهْمَشْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعْدُلٍ مِنْكُمْ

تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے فیصلہ کر بن اس کا دو اعتبار آدمی تم میں سے

هُدُّلِيَّاً بِلِغَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مَسِكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا

وہ آن حالیکہ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا نہ یا اس کے بابر روزے رکھے

لِيَذُوقَ وَبَالَّاً أَمْرَهُ طَعَافًا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ طَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ

تماکہ پہنچنے سزا اپنے کام کی - معاف فرمادیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا اور جو (اب) پھر گیا تو انعام لے گا

اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ اِحْلَالُكُمْ صَبَدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

اللہ تعالیٰ اس سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلتے ہیں والا ہے حلال کیا گیا ہے تھا کسے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا

مَنَاعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرْمَةِ عَلَيْكُمْ صَبَدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ

فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرا قافی اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم

حِرَّاً طَ وَ اَنْتَقُوا اللَّهُ الَّذِي لَيْلَهُ تُحْشِرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ

احرام باندھے ہوتے ہو اور ڈلتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیجئے جاؤ گے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ۱۴۳

یا اس جانور کی قیمت کا غلہ لے کر غربیوں میں تقسیم کرو یا جتنے غربیوں میں صدقۃ فطر کی مقدار سے وہ غلہ تقسیم ہو سکتا ہے اتنے روزے رکھے۔ احناٹ کے نزدیک قیمت میں محدثت نہیں ہے اور امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک شکل و صورت اور قدوقامت میں بھی مانعت ضروری ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ساپ بچھو، پوچھا، کوآ اور حداۃ کو مارنے کی اجازت فرمائی ہے۔

۱۴۴ کعب نہاہونے کی وجہ سے اس گھر کو کعبہ کہا گیا۔ حدو دھرم میں شکار کی مانعت کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کعبہ اور اس کی حدود جانوروں کے لیے امن گاہ ہیں اسی طرح کعبہ انسانوں کے حفظ و بقا کا بھی سبب ہے۔ فیما اصل میں قام تھا واد کا ماقبل یک سور تھا اس یہی اسے یا اسے بدل دیا گیا۔ وَ اَنْرُأْذِبْهُ مَا يَقُولُونَ بِهِ اَمْرُ الْنَّاسِ رالمنار (کعبہ مقدسہ تکوینی اور تشریعی) دونوں لحاظ سے لوگوں کے حفظ و بقا کا ذریعہ ہے تکوینی لحاظ سے تو اس طرح کہ

البيت الحرام قيمًا للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد

بوجعزت والاگھر ہے بقا کا باعث لوگوں کے لیے نیز خُرمت والے مہینوں کو ہے اور جرم کی قربانی اور گلے میں پسٹے پڑے

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ

بہوئے جالوزوں کو تاکہ تم خوب جان لو ۲۴۷ کہ لقیناً اللہ تعالیٰ جانا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور یو کچھ زمین میں ہے اور یقیناً

الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَرِيكٌ لِّلْعِقَابِ وَأَنَّ

اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے خوب جان لوکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا (بھی) ہے اور

اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عترت و عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسی سمجھکرم کر دی ہے کہ اس زمانہ میں جب کم جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہ ملتی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی دین نہ تھا اور قتل و غارت کی گرم بازاری بھی اس وقت بھی یہاں کوئی سسی کو چھپر بننی پڑتا تھا۔ باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو اس کی طرف بھی بُری نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ باہو داؤ اس کے کے کردن و نواحی کا علاقہ سب صحراء اور ریاستان تھا لیکن تجارتی قافلوں کی بھی منڈی بھی تھی۔ عرب کے گوشہ گو شہ سے لوگ یہاں ہی جمع ہوتے اور کار و بار کرتے۔ یہ گویا حضرت ابو یہتم کی اس دعا کی برکت بھی۔ فاجعلْ افْعَلْ لَكَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْذِقْهُمْ مِنَ الْأَثْمَرَاتِ۔ اور تشریعی طور پر اس طرح کہ رجوع مردہ کی عبادات یہاں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ ہر سماں دُنیا کے کسی گوشہ میں ہو ماڑ کے وقت کجھ کی طرف ہی رُخ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ رجع کے موقع پر دُنیا کے کونہ کو نہ سے کلمہ گو پچھے چلے آتے ہیں۔ علامہ عثمانی نے یہاں خوب لکھا ہے فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدمہ ہو چکا تھا کہ نوع انسانی کے لیے اسی جگہ سے عالم گیر اور ابدی ہدایت کا پیشہ پھوٹے گا اور صلح اعظم اور یہید کا ثبات خمس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولود و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے چہاں میں سے اسی خاک یاک کو حاصل ہو گا۔

۱۵۔ اہ حرمت والے نہیں بھی لوگوں کے حفظ و لقا کا سبب تھے۔ کیوں کہ انھیں چار مہینوں میں شمارتی قافلے بے خوف و خطر ادھر ادھر جاسکتے تھے۔ لوگ مٹھن ہو کر اپنے مقاصد کے ریلے دور دراز کے سفر کر سکتے تھے۔ خوف فہرنس کے بادل جو ہر وقت اُپن پر منڈلاتے رہتے تھے وہ بھی ان مہینوں میں جھٹ جاتے تھے۔ انھیں دنوں میں لوگ حرج و عمرہ کی سعادت سے بہرہ اندوں زہر ہو سکتے تھے۔ اُنھی وجوہ کے پیش نظر ان حرمت والے مہینوں کو بھی قیامِ اللہ ایس فرمایا۔

44) اے ان پیزروں کو لوگوں کی حفظ و بقا کا باعث بنادینا اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی دلیل ہے۔ کیونکہ عرب لوٹ مار کے عادی تھے۔ حکومت اور قانون وہاں موجود نہ تھا۔ اگر کعبہ اور حرمت والے ہمینے بھی نہ ہوتے تو وہاں کی حالت اور خصیت تو تھی۔

الله عَفْوٌ رَحْمَةٌ^{٩٦} مَا عَلِي الرَّسُول إِلَّا بَلَغَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْرِي

اللّٰهُ تَعَالٰی اعْفُو رَحِيمٌ (بھی) ہے نہیں (بھائے) رسول پر ۷۴۷ کوئی ذمہ داری سواتے پیغام پہنچانے کے اور اللہ جانتا ہے

وَمَا تَكُونُ^{٩٩} قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَيْرُ وَالظَّلَمُ وَلَا أَعْجَبُكَ كُثْرَةً

جو تم طاہر کر رہے ہو اور وہ چھپا لیتے ہو۔ آپ فرمادیکھتے نہیں براہم ہو سکتا ناپاک اور پاک ۱۸۴۶ء اگرچہ ہیرت میں ڈال دے تجھے

الْخَيْرِ شَفَاعَةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَوْلَى الْأَكْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ يَا يَهُا

الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَسْعُلُوْا عَنِ الْشَّيْكَهِ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْعُوكُمْ وَإِنْ

ایمان والو! ۲۹ میں مت پوچھا کر واپسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں متحاب لیے تو پُرمی لگدیں مجھیں اور اگر

۷۴۔ یعنی ہیرے رسول کا کام یہ ہے کہ تھیں میرے احکام ہنچا دے اور خوب کھوں کر سمجھا دے اور وہ فرض اُس نے
بہترہ احسن و خوبی انجام دے دا۔ اب اگر تم ان کی تعصی میں کوتا ہے اکرو گے تو اس کے قم خود ذمہ دار ہو گے۔

۱۷۸ اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو تبادیجھے کہ کفار کی جاہ وحشتمت، مال و دولت اور تعداد کی کثرت اور اپنی غربت اور مکروہی کو دیکھ کر پریشان نہ ہو اگر یہ کیونکہ خبیث اور طیب ایک ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ ملکہ ہر قم ماں ہو خبیث اور طیب سے مراد حرام اور علال، کافر اور مومن، عاصی اور مطعن سب ہو سکتے ہیں۔

۱۷۹ ایشان پر بعضاً بعض لوگوں حضور کریم سے عجیب و غیریق قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے جن میں کوئی دینی اور دُنیوی فائدہ نہیں ہوتا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حصوں ان سوالات سے کیدیہ خاطر ہوتے اور ایک روز منہبہ پر تشریف فراہم کر ارشاد فرمایا۔ لَا

سب صحابہ کرام کے سرچھکے ہوئے تھے اور زار و قطار رواہ ہے تھے اور کسی میں ہمہت نہ تھی کہ کوئی بات کر سکے اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ حنفی کی سب کے متعلقہ لوگ طرح طرح کی جو سکونتیاں کہا کرتے تھے اُنھے اور عرض کی مئن آجی

یا رسم و مسیح اپ کوں ہے چنور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتہ۔ مجھ سے تو کوئی فقہہ کا مستسلہ دریافت کرو بلکہ اپنے خنداد و سیع علم کا اظہار فرماتے ہوئے جواب دیا کہ آبُولَ حَدَّادَ تیراباپ حدا فر ہے۔ ان کی والدہ اپنے لڑکے کے

اس سوال پر کانپ اٹھیں اور کہنے لگیں۔ آئے عبداللہؑ بھر سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو تو مجھے برسر مجلسِ رسم اکرنا چاہتا تھا حضرت عبداللہؑ کو اپنے محبوب بنی کے علم خدا داد پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا۔ اگر حضورؐ مجھے

تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ فَذَلِكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا طَوَّلَ اللَّهُ

پوچھو کے ان کے متعلق جب کہ اُتر رہا ہے قرآن تو ظاہر کردی جاتیں گی تھا۔ یہ میاف کر دیا ہے ایشانے ان کو اور اللہ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَكُمْ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا

بہت سمجھنے والا ہے تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے پھر وہ ہو گئے ان احکام کا

كُفَّارٌ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَ

انکار کرنے والے نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے ۱۸ بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور

کسی جیشی غلام کا ملکیا کہہ دیتے تو مجھے انکار نہ ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ بال کی حالت نکالتے کے عادی تھے۔ جو کی فرضیت حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے عرض کی یادِ رسول اللہ کیا ہے سالِ حضور مسیح موش رہے۔ اس نے مکرر سکر اپنا سوال دیہا۔ حضور نے فرمایا، نہیں۔ اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال سچ فرض ہو جاتا۔ کیونکہ اس فرض کے سوالات مفید ہونے کے بجائے تکلیف اور شفقت کا باعث بن سکتے تھے اس لیے ان سے منع فرمادیا۔ حضور کا یہ ارشاد گرامی بھی بیش نظر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فِرَضَ قَرْأَصَنَ فَلَا تُضِيِّعُوهَا وَ حَرَمَ حَرَمَاتٍ فَلَا تَنْهَكُوهَا وَ حَلَّ حُدُودًا تَعْتَدُ وَهَا

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ مِنْ عَيْرِ لِنْشَيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اللَّهُ تَعَالَى نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کی پرده دری نہ کرو۔ اور بعض حدیں مقرر کردی ہیں ان کو مت توڑو۔ اور بعض چیزوں کے متعلق دائمی سکوت فرمایا ہے ان کے متعلق بحث نہ کرو۔

۱۸۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے یا اس کے اذن سے اس کے رسول مکو۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ تشریع اور قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔ اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان سے خدمت لیتے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لاٹنے کی اجازت بخشی، یہ کفار اپنی من گھر تجویزوں سے ان کو اپنے اور حرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ سرسر چھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ جن جانوروں کو مشترکین اپنے اور مختلف طرقوں سے حرام کر دیا کرتے تھے ان کے نام بمع تشریع درج ذیل ہیں:-

۱۔ بحیرہ۔ اس کا الفوی معنی ہے کان چرا۔ وہ اونٹنی جو پانچ بچے جنتی اور آخری بچپن زہوتا تو کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے۔ اس پر سواری کرنا، اس کا گوشت سب اپنے اور حرام خیال کر لیتے۔

لَا حَامِرٌ وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَالْكُثُرُ هُمْ

ندھام لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تمہت لگاتے ہیں اے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی اور اکثر انہیں سے

لَا يَعْقِلُونَ^{۱۰۰} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

پچھے سمجھتے ہی نہیں ہیں اور جب کہا جاتا ہے اخیں کہ اوس کی طرف ہونا زل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور آؤ اس کے رسول

قَالُوا حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءِنَا أَوْ لَوْكَانَ أَبَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

کی طرف کھتے ہیں کافی ہے یہیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داد کو^{۱۰۱} اگرچہ ان کے باپ داد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اے

۲۔ سائیہتہ۔ اگر کوئی آدمی سفر برچاتا یا پیار ہوتا تو وہ نذر ماننا کم اگر میں نیزیرت سے گھر پہنچ گیا اس بیماری سے صحتیاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی سائیہ ہو گی اور اس کا دودھ، گوشت اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام قصور کرتے۔

۳۔ وصیلۃ۔ ان کی بکری اگر بھی جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے اور بھی جنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا۔ اور اگر ایک شکم سے بچی بچپر دلوں جنتی تو بھی بھی بچی کو بچپر کے ساتھ ملا کر بتوں کی نذر کر دیتے۔ یہ بچی جو اپنے بھاتی کے ساتھ مل کر بتوں کی نذر ہوتی اس کو وصیلۃ کہتے۔ وصیلۃ الاشتی اخاہا۔

۴۔ حامر۔ وہ اونٹ جس کی جنتی سے دس بچے پیدا ہوتے اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اور پر حرام کر دیتے اور اسے حامر کہا جاتا۔ (بیضیادی) یہ سارے جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نذر کرتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اور پر حرام کر دیتے۔

۱۰۱۔ یہ رقصہ بد تو ان کی من گھڑت ہیں لیکن نسبت ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گز جیکم نہیں دیا۔ بلکہ اس نے تو ان جانوروں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ انسان اخیں کھاتے۔ اُن کا دودھ پیتے۔ اُن پر سواری کرے اور اُن پر اپنا سامان وغیرہ لادے۔

۱۰۲۔ اگر ان لوگوں کو ان بھی وہ رسولوں سے بازاںے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہیں تھماری رہنمائی کی صورت نہیں ہم تو صرف اسی راہ پر گامزن رہیں گے جس پر ہمارے باپ داد اچلا کرتے تھے۔

۱۰۳۔ اگرچہ ان کے باپ داد اجاہل اور مگراہ ہی کیوں نہ ہوں یہ ان کی ہی تلقید کریں گے معلوم ہو تو اک ایسے باپ داد کی پیروی سے روکا جا رہا ہے جو جاہل اور مگراہ ہوں۔ اس آیت سے الہمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کی تلقید کی ممانعت نہیں اور اس کی کھلی وجہیہ سے کہ ان کی تلقید عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کیونکہ ان کی زندگیاں اسی اطاعت کا مطلب کی زندہ تصویر ہو اگر تی ہیں۔

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ^{١٠٤} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يُضِرُّكُمْ

اور نہ براست یا قتہ ہوں (کیا بچھ بھی وہ انھیں کی پھری کر سکے) اسے بیان والوں میں ۱۸۴۱ء کی اپنی چالوں کا فکر لازمی ہے۔ نہیں فقصان بہنجا سکے کا

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَى يُتْمَدَّلٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَسِّكُمْ
مکھیں جو مگرہ ہو اجب کہ تم پدراست یافتہ ہو اللہ کی طرف نبی لوت کر جانا ہے تم سب نے پھر وہ آگاہ کرے گا

إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{١٥} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ

مکھیں جو تم راس دُنیا میں کیا کر لے ملتے اسے ایمان والو! آپس میں بختاری کو اہم ۵۸ جب آجائے

۸۲) کفار کاغذ اور کفر پر ان کا اصرار دیکھ کر صحابہ کرام بہت رنجیدہ خاطر ہا کرتے تھے ان کی نسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے ذمہ دار ہو۔ اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی متعین ضرر نہیں پہنچائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتے گا لیکن اس سے کوئی یہ نہ بھجو لے کہ جب ہم خود نیکو کار اور صاحب ہیں تو کسی کو نیک کا حکم کرنا اور بُرانی سے روکنا ہم پر لازم نہیں۔ یہ خیال سراسر غلط ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کا پہنچے ہی ازالہ فرمادیا تھا۔ اپ ایک روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ حمد و شکر کے بعد فرمایا: تم یہ آیت عَلَيْكُمُ الْأَنْفَسُ كُمُ الْمُزِيزُ ہے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو۔ میں نے ہنور کر کم کو یہ فرماتے ہوئے سناؤ: ان

النّاس إِذَا رأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يَعْتَدُوهُ يُوْسَأُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْلَمُهُ فَرِيقَيْهِ (سنن الرّبّي): لوك جس وقت بُراني کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔

۵۸۴ اے ان بین ایتوں کو اعزاب بھعنی اور حکم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات تماری لیا کیا ہے۔ ان کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفرن ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آجائے تو دعویٰ مسلمانوں کو بولا کر پانے والی وصیت کرے اور اگر اس وقت مسلمان نسلکیں تو دو فیصلموں کو بولا کر ہی اس کی وصیت کر دے۔ اور جب وہ وصی اس کے گھوٹچیں اور وارثوں کو شاک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیوں کو بولا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی اور وصیت کو ضریح طور پر بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ ماں، شوہر، اتر، صاحبزادہ، بیوی، بھتیجی، والد، کے اتنے والے، وصیا، کر خالا، نوگا، احمد، عذ بن، بخت ایسا، لرمص، ہونمنگ، قدر

وارت اس سورت یہں مدد کے لئے ان سے پاس ان ویبوں سے علاط و آہ وجود ہے۔ اس یہی دلی جو سرے
ان سے قسم لگتی لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑتی جاتے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جاتے تو پھر وارثوں میں سے دوآمدی
قسم اٹھایں کہ پیدے و صیوں کا بیان غلط تھا اور بوجم کہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فصلہ
کیا جاتے۔ وہ خاص واقعہ جس کے بارے میں یہ احکام نازل ہوتے اس کے ذکر سے مزید وضاحت ہو جاتے گی اس لیے

أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ أَثُنْ ذَوَاعَدُلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ

کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت (یہ ہے کہ) دو معتبر شخص تم میں سے ہوں یا دو اور ۱۸۶

مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبَتُمُ فِي الْأَرْضِ فَاصَابْتُكُمْ مُّصِيبَةٌ

غیروں میں سے اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں پھر پہنچے تھیں موت کی وصیت

الْمَوْتُ تَحِسُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ يَا لِلَّهِ إِنَّ

روکو ان دو گواہوں کو ۱۸۷ نماز پڑھنے کے بعد تو وہ فتح کھاتیں اللہ کی اگر تھیں

اس کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ہمراہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کرو وصیت تی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنپھالا۔ اس میں ایک چاندی کا پایالہ تھا جس پر ستری نقش و تکار تھے۔ وہ ان کو پسند آیا اور اسے نکال دیا۔ مدینہ والیں پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی۔ جب سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا گیا تو پایالہ مفقود تھا۔ ان سے دریافت کیا انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی۔ حضور نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلالیا اور ان سے قسم ملی۔ وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی۔ کچھ عرصہ بعد وہ پایالہ مکہ کے ایک سوار کے پاس پایا گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پایالہ تمیم اور عدی سے ایک بزرگ درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ کچھ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم مل گئی کہ یہ پایالہ بدیل کا ہے اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا۔ اور ان سے ہزار درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا گیا۔

۱۸۶ اس سے بعض فقہاء نے بوقت ضرورت غیر مسلم کی شہادت سلمان کے لیے جائز رکھی ہے۔ امام صاحب جو کے نزدیک ذمی ذمی کے لیے شہادت دے سکتا ہے لیکن مسلمان کے لیے نہیں دے سکتا۔ آیت سے یہ فہم و واضح طور پر مستفادہ نہیں ہوتا۔

۱۸۷ ویسے تو ہر نماز کے بعد جائز ہے لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد بہتر ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے۔

أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثِمَانًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبِي لَا وَلَانَكْتُمْ شَهَادَةَ

شک پڑ جائے (اں الفاظ سے) ۱۸۸ اے کہ تم نہ خردیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال اور اگرچہ قربی رشدہ داری ہو اور تم نہیں چھپاہیں گے اللہ

اللَّهُ أَنَّا إِذَا لَمْنَ الْأَثِيمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَسْتَحْقَقُ أَثْمًا

کی گواہی (اگر تم ایسا کریں تو یقیناً ہم اس وقت نہ گاروں میں (شمار ہوں گے۔ پھر اگر تہہ چلے کر دوہ دلوں گواہ مزدا رہوئے ہیں کسی کافی کی

فَآخَرِنِ يَقُومٌ مَّقَامَهُمَا مِنَ الدِّينِ اسْتَحْقَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ

تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ ان میں سے جن کا حق صانع کیا ہے پہلے گواہوں نے اور یہ نئے

فَيُعِسِّمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَنَا

دو گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ طینک ہے ان دو کی گواہی سے اور تم نے حد سے تجاوز نہیں کیا

إِنَّا إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ آدَنِي أَنْ يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ

اگر تم ایسا کریں تو بے شک سُب قت ہم خالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی ۱۸۹ اے جیسا کہ

وَجْهَهُمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَهْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

چاہیئے یاخوت کریں اس بات کا کہ لوٹانی جائیں گی قسمیں (میت کے دارثوں کی طرف) ان کی شمول کے بعد اور ڈالتے ہو

وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ يَوْمَ يَجْمِعُ اللَّهُ

اللہ سے اور سنوا اس کا حکم اور اللہ تعالیٰ پر ایت نہیں دیتا فاسق قوم کو جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ

۱۸۸ اے شہادت لینے کی ضرورت تب ہو گی جب دارثوں کو شک ہو۔ ورنہ نہ مقدمہ ہو گا نہ شہادت و فتنہ کی ضرورت ہو گی۔

۱۸۹ یوں نماز کے بعد مجمع عام میں جب قسم لینے کا قانون ہو گا تو وصی بھی جھوٹ بولنے سے احتساب کریں گے اور وارث بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے سامنے ناجائز طالبین کریں گے۔ دلوں کو علم ہو گا کہ یہیں قسم اٹھانا ہے۔

الرَّسُولُ قَيْقَوْلُ مَاذَا أَجْبَتْمُ وَطَالُوا لَعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامٌ

تم رسولوں کو پھر پوچھے گا (ان سے) کیا جواب ملائیں گے کوئی علم نہیں ہیں۔ بے شک تو یہی حجوب

الْغَيْوُبُ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ وَنَعْمَتِي عَلَيْكَ وَ

جانئے والا ہے سب غیبوں کا۔ جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم ! ۹۱ء یاد کرو میرا العالم اپنے پر اور

عَلَىٰ وَالدِّيْلَكَ مِذْأَدِيْلَكَ بِرُوْحِ الْقُدُّسِ قَنْكِلِمُ النَّاسِ فِي

اپنی والدہ پر جب میں نے مدوف رحمی تھاری روح القدس سے ۹۲ء باہمیں کرتا تھا ان لوگوں سے (جبکہ

الْمَهْدُ وَكَهْلَاجُ وَذَعَلَهَتِكَ الْكِتَبَ وَالْحَكَمَةَ وَالْتَّوْرَةَ

تو ابھی یہ میں میں تھا اور جب بھی عمر کو پہنچا۔ اور جب سکھانی میں نے تمھیں کتاب اور حکمت اور تورات

۹۳ء بظاہر یہ شبہ گزرتا ہے کہ انبیاء نے جب دین حق کی دعوت دی تو بعض لوگوں نے اُسے قبول کیا بعض نے اُسے رد کر دیا اور اس کی مخالفت پر کمر باندھی۔ ان تمام اتفاقات کا انبیاء نے پچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ پھر ان کے اس جواب کا کیا

مطلوب کہ انھیں تو کچھ خبر نہیں کہ ان کی امتوں نے انھیں کیا جواب دیا۔ امام المفسرین ابن جریر نے اسی توجیہ کو ضیح اور بہترین فرمایا ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور کامل کے سامنے اپنے علم

کو یعنی بختی ہوتے ازراہ ادب و تعظیم اپنے علم کی سرے سے فتنی کردی۔ قَاتُدُلَّيْ الْأَنْقُوَالِ بِالصَّوَابِ قُوْلُ مَنْ

قَالَ مَعْنَاهُ لَا عِلْمَ لَنَا لَا عِلْمَ أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مَنْ لَا آنَهُمْ نَفْوًا أَنِّي كُوْنُ اعْلَمُ مَا شَاهَدْمُ وَأَكَيْفَ

يَجُوْزُ ذَلِكَ وَهُوَ عَالَىٰ ذَكَرِكَ بِخُبُرِ آنَهُمْ مُسِيَّشَهُ دُونَ عَلَىٰ تَبَلِيغِهِمُ الْسَّالَةَ۔ (ابن حجر صفحہ ۸۷ جلد ۴)

۹۴ء پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرماتے گا کہ ان کی امتوں نے انھیں کیا جواب دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کر کے ان کی امتوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کے ط nou ہونے سے پہلے تم اپنی اصلاح کرو اور اس گستاخی سے تائب ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو رو اور بیٹھا ماں کر قتل نہ کی۔

۹۵ء اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ پر اپنے خاص احسانات اور انعامات کا ذکر فرمایا رہے ہیں۔ خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا تاک عیسائیوں کے اس عقیدہ کی جڑ کٹے جو آپ کو ابن اللہ مانتے ہیں ان کی والدہ پر تواہsan یہ ہے کہ پچیں میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے سرفراز ہوتیں۔

وَالْأَنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهْيَئَةً لِّلَّاطِيرِ بِإِذْنِ فَتَنْفِخُ

اور انجلیل اور جب تو بناتا تھا ۱۹۳۴ء کیچھ سے پرندے کی سی صورت میرے اذن سے پھر چھوٹا ماننا تھا

فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ الْأَكْلَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ

اس میں تو وہ مٹی کا بے جان پتہ بن جاتا تھا پرندے میرے اذن سے اور (جب) تو نذرست کر دیا کرتا تھا اور زاد انہی کو اور کوڑھی کو

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَتُ بَنَى إِسْرَاءِيلَ عَنْكَ إِذْ

میرے اذن سے اور جب تو زندہ کر کے بھاگ لاتا تھا ماردوں کو میرے اذن سے اور جب میں نے وکی بنا تھا ۱۹۷۶ء بنی اسرائیل کو تجھ سے جب

جَدَّهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ كُفُّرَ وَإِنْهُمْ لَكُنُوكَ الْأَكْ

تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو کہا جنھوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب (محاجرات) نہیں ہیں مگر

سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ أَمْنُوا بِنِ

کھلہ ہتا جادو ۱۹۵۶ء اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا ۱۹۶۴ء کہ ایمان لا دی میرے ساتھ اور

عبادت کے لیے وقف ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انھیں علیٰ جیسا فرزند عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ اور بے شمار عنایات سے حضرت مريمؑ کو ممتاز کیا گیا۔

۱۹۳۴ء یہاں سے اُن احسانات اور انعامات کا ذکر شروع ہوا ہے جو حضرت علیٰ علیہ السلام پر فرماتے گئے۔ ان تمام

کے متعلق حواشی سورہ آیٰ عمران میں گزر چکے ہیں (ملاحظہ ہوآیت ۲۷۹ آیٰ عمران)

۱۹۶۷ء بارہا یوں دنے کوشش کی کہ حضرت مسیح کو قتل کر دیں لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آخغری مرتبہ جب انھوں نے رومی حاکم سے آپ کو سوئی دے دینے کے احکام بھی لے لیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بجا لایا اور اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ جس کی تفصیلات سورہ النساء میں گزر چکی ہیں۔ (ملاحظہ ہوں آیات نمبر ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷۔ النساء)

۱۹۵۶ء یہودی آپ کے روشن محاجرات دیکھ کر ایمان لانے کے سجائے اُنہاں آپ کو جاؤ دگر اور شعبدہ باز کرنے لگے۔

۱۹۶۷ء وحی کے مختلف معانی کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اگر یہواری انبیاء رہتے جیسے بعض علماء کاغذیاں ہے تو وحی سے مراد وہ وحی ہوگی جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے اور اگر یہ بنی نزہوں تو وحی سے مراد المہام اور القاء ہوگا۔ حواریوں

بِرَسُولِيْ قَالُوا امْنَأْ وَا شَهَدْ بِا نَأ مُسْلِمُونَ ۝ اذْ قَالَ

میرے رسول کے ساتھ اخنوں نے کہا تم ایمان لاتے اور (ای مولا) تو گواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں ۱۹۵ جب کہا تھا

الْحَوَارِيُّونَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ

حوالیوں نے آئے عیسیٰ بن مریم کیا یہ کر سکتا ہے ۱۹۶ تیرارب کہ اُنہارے

عَلَيْنَا مَا إِلَّا مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

هم پر ایک خوان آسمان سے (ان کی اس تجویز پر) عیسیٰ نے کہا ڈروال اللہ سے اگر تم مومن ہو ۱۹۷

قَالُوا إِنِّيْلُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْبَقَنَ قَلْوَبُنَا وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ

حوالیوں نے کہا تم تو (بس) یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتیں اس سے اور طہن ہو جاتیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ آپ نے

جمع حواری کی اس کا الغوی معنی سفید و براق رنگ والا ہے۔ ظاہر اور باطن میں ہو ملخص دوست ہو اس کو بھی حواری کہتے ہیں خصوصاً انہیاں کے ممتاز اور جانشاد و ستوں اور اطاعت گزاروں کو حواری کہا جاتا ہے۔ الْحَوَارِيُّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الْأَبْيَضُ الْتَّقِيُّ الْلَّوْنُ وَيُقَالُ مَنْ أَخْلَصَ سِرَّاً وَجَهَرَ أَنْ مَوْدَتِكَ قَالَ الرَّجَاجُ الْحَوَارِيُّونَ خُلُصَانُ الْأَنْبِيَا وَصَفْوَتُهُمُ

۱۹۸ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انہیاں کا دین جس کی وہ دعوت دیا کرتے تھے وہ اسلام ہی تھا۔ یہ کوئی نیادیں نہیں ہے، جو ہمے دیوں سے الگ ہو بلکہ انہیں تی ایک کامل، توانا اور حسین صورت ہے۔

۱۹۸ کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے انہیں اس میں تو شک نہ تھا کہ مائدہ نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یا نہیں۔ بلکہ وہ دریافت یہ کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور راہ وہ اس بات کا مقاضی ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اُنہارے۔ یعنی کوئی حکمت مائدہ کے نزول میں مافع تو نہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سنتی طبع و بعض یہ طبع ہے۔ یعنی اگر آپ مائدہ کے نزول کی دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرماتے گا۔

۱۹۹ اسی علیہ اسلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے حشم و چراغ تھے۔ نبی نسی تجویزیں بیش کرنا اور انہیں منومنا ان کا آبائی شعار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان جھٹ بازیوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑوں کی طرح تم بھی شکری غمتو سے قاصر ہو اور اس سزا کے مستحق بھیرو جو ناشکدوں کے لیے مقرر ہے۔

صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِيدِينَ ۝ قَالَ عَيسَى ابْنُ مُرْيَمَ

ہم سے رجی کھاتھا اور ہم ہو جائیں اس پر تھے گواہی دینے والوں سے عرض کی عیسیٰ بن مریم نے

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزَلْنَا مَالِكَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا

آئے اللہ ہم سب کے پالنے والے آئا تھم پر خوان اُنہے آسمان سے بن جاتے ہم سب کے لیے خوشی کا دن

لَا وَلِنَا وَأَخْرِنَا وَإِلَيْهِ مِنْكَ حَاجَ وَارْسُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

(الیعنی) ہمارے انکوں کے بھی اور بچپنوں کے لیے بھی اور (ہوجاتے) ایک شاد فیضتی طرف سے اور زندگی دیتے ہو تو سب سے بہتر و ذی فیضتی والا ہے

۳۰۱۔ اپنے اس طالبہ کی تائید میں جو وجہات انکوں نے بیان کیں ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے فہ وجہات یہیں رہا تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کریں۔ (۲) اس محجزہ کے مشاہدہ کے بعد ہمارے دلوں کو اٹھنا نصیب ہو گا (۳) نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی قوی دلیل مل جاتے گی (۴) جب ہم ایسا محجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے شاید ان سے بھی کوئی بدایت قبول کرے۔

۳۰۲۔ الْلَّهُمَّ أَصْلِنِي يَا أَكْلَهَ بَعْدَ حَاجَ وَمِنْ أَغْرِبِنِي ۝ رُحْمَادِيَّتِيَّةً ۝ دُعَا كَه لِيَ هَاتِهِ أُطْهَاتَيَّةً ۝ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک احمد ذاتی اور دوسرا اسم صفاتی ذکر کیا کیونکہ فقط اللہ تعالیٰ صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ رحمت، بخشش، ہمیزی سب اس کے ضمن میں آگئے اور ربنا سے صفتِ ربویت کو توکل کیا گیا کیونکہ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اُس کا اس صفت سے خصوصی تعلق ہے۔ صائِدَةُ اس دستِ خوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا ہوا ہو۔

الْمَائِدَةُ ۝ الْخَوَانُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ (قرطبی) عیدِ مطہر خوشی اور سرور کے دن کو کہتے ہیں۔ لَا وَلِنَا وَأَخْرِنَا سے مراد یہ ہے کہ جو اس مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لا پچے اور جو بعد میں ایمان لائیں گے یہ سب کے لیے فرحت! شادمانی کا دن ہو گا۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرور نے یہاں خوب لکھا ہے فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوئا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوا اس روڑکو عید بنانا اور خوشیاں مناناء عبادتیں کرنا، شکرِ الہی، بجا لانا طریقہ صلاحیں ہے۔ اور کچھ شکر نہیں کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضورؐ کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد تشریف پڑھ کر شکرِ الہی بجا لانا اور اطمینان فرح و سرور کرنا محسنس و حمودا اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ (خرزانِ العرفان)

۳۰۳۔ تیری قدرت کی اور میری بیوتت کی

قَالَ اللَّهُ أَنِي مُنْزَلْهَا عَلَيْكُمْ فَبِنِ يَكْفُرُ بَعْدِ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْذُبُهُ

فرنایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلاشبہ میں اتنے والا ہوں اسے تم پرستے ۲۰۳۔ پھر جس نے کفار اختیار کیا اس کے بعد تم سے تو بے شک میں عذاب

عَذَابًا لَا أَعْذُبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ

دُونِ گا سے ایسا عذاب کرنہیں دُون کا کسی کو بھی ابل جہاں سے اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ آئے عیسیٰ بن

مَرِيمَهُ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوهُنِّي وَأَهْيَ الْهَمَنِ مِنْ دُونِ

مریم ۲۰۴۔ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے ۲۰۵۔ کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو ۲۰۶۔ دو خدا اللہ کے

اللَّهُ قَالَ سُبْدِنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ كَالِيسَ لِي ذِكْرٌ إِنْ كُنْتُ

سو۔ وہ عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شر کیسے ۲۰۷۔ کیا مجال تھی میری کہیں کہوں یہی بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق اگر میں نے

۲۰۸۔ بعض حلیل القدر تابعین، مجاہد اور حسن کی رائے تو یہ ہے کہ جب انہوں نے ناشکری پر بخت ترین عذاب کی حکمی سُنی تو اپنا مطلبہ واپس لے لیا تیکن جمہور عالم۔ کا قول یہ ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا۔ اس میں کون کون سے کھانے تھے؟

۲۰۹۔ کی تفصیل کا نتیجی علم ہے اور نہ اس کے جانے کی ضرورت۔ وَالْمُقْطُوعُ بِهِ أَنَّهَا نَرَكٌ وَكَانَ عَلَيْهَا الطَّعَامُ يُؤْكَلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِتَعْبِينِهِ۔ (قرطبی)

۲۱۰۔ جمہور فسروں کا قول یہ ہے کہ یہ سوال جواب قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلی آیت یوم یوم جمع الخواز اور بعد کی آیت یوم نیفع الخ اس کی مویدہ ہیں۔

۲۱۱۔ سوال ہجتہشادی یہ ہے نہیں کیا جانا کہ سائل کو اس پیش کا علم نہیں اور وہ اس سوال سے غیر معلوم چیز کو جانا چاہتا ہے بلکہ سوال دوسرا فوائد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس استفسار سے قصودیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی کی زبان سے ان کوڑوں آدمیوں کو اپنی محض غلطی پر آگاہ کیا جائے جس میں وہ مبتلا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا شر کیب خدا یا فرزند خدا بناتے ہوئے ہیں۔

۲۱۲۔ میسیحی ڈنیا میں حضرت مریمؑ کی پیشش کوئی پوشیدہ امر نہیں۔ وہ ان کے قدام مجھے بن کر اپنے گرجاوں کی محابوں میں رکھتے ہیں اور تمام رسول میں پیشش بجالاتے ہیں۔

۲۱۳۔ حضرت مسیح کا جواب قابل غور ہے لیزام آپ پر لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسا کما اللہ تعالیٰ کا مقبول بندا اپنی صفائی میں لب کشائی نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی عظمت و پاکی کا اعلان کرتا ہے اور اپنی صفائی اپنے سب کوچھ جانے والے

قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

کہی ہوئی ایسی بات تو تو پڑھ رجانتا اس کو۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيُوبِ ۝ كَأَنْتُ لَهُمُ الْأَمَآءَ أَمْرَتِنِي بِهِ أَنْ

بے شک تو ہی خوب جانے والا ہے تمام غیبوں کا نہیں کہا میں نے انھیں سن لئے مگر وہی کچھ جس کا تو نہیں حکم دیا مجھے کہ

أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّيُّ وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَادْمُتْ فِيهِمْ

عبادات کرو اللہ کی جو میرے بھی پروردگار ہے اور تمھارے بھی پروردگار ہے اور تمھارے ان پر ۴۰۹ کوہ جب تک میں رہا ان میں

خدا کے سپرد کر دیتا ہے یعنی اے میرے رب! تھسے کوئی بات مخفی نہیں۔ زین و آسمان کے سب چھپے ہوتے اسرار بتحے معلوم ہیں میں کیا اپنی صفائی پیش کروں۔ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہے۔ اور تیرا یہ بندہ جس پر ہر خطہ تیرے کرم کی بارش ہو رہی ہے کیا اتنا شکر کزرابن سکتا ہے اور یہ جرأت کر سکتا ہے کہ ایسی بات کا مددی بنے جس کا سے کوئی حق نہیں۔ سبحان اللہ! اکیا شان ہے بارگاہ خداوندی میں ادب و تظییم کی۔

۴۰۸ یعنی میں نے تو انھیں وہی کچھ کہا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم فرمایا۔ میں نے تو انھیں صاف صاف اور بار بار کہا تھا کہ تم صرف اس رب العزت کی عبادات کرنا جو میرے بھی ماں اک اور پروردگار ہے اور تمھارے بھی۔

۴۰۹ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کی نگہبانی کرتا رہا اور جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو وہی ان کا نگہبان تھا۔ یہاں بعض لوگوں نے تو ویشتنی کے لفظ سے حضرت علیؑ کی موت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ توفی کا تحقیقی معنی مارنا نہیں بلکہ کسی چیز کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لے لینا ہے۔ آنکھی قاتل الشیعہ و افیاً: کسی چیز کو کامل طور پر اپنے قبضہ میں لے لینا۔ (بصیادی) وَتَوَفَّاهُ أَمَّنِيَّدُعُ مِنْهُ شَيْئًا رَاجِ العُرُوسِ اور یہ لفظ موت کے معنی میں بطريق مجاز استعمال ہوتا ہے وَمِنَ الْجَازِ أَذْرَكَهُ الْوَفَّاهُ أَمَّنِيَّ الْمَوْتُ رَاجِ العُرُوسِ چنانچہ حضرت حسن ابصرؓ فرماتے ہیں کہ لفظ وفات قرآن میں تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ ۱۔ وفات موت۔ ۲۔ وفات نوم۔

۴۱۰ وفاتِ رفع پہلی و جمکی مثال اَنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتُهَا یعنی اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ دوسرا و جمکی مثال وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي يَتَوَفَّ الْكُمْ بِاللَّيْلِ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کے وقت تمھارے نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے۔ تفسیری و جمکی مثال یا عیسیٰ ایٰ مُتَوَفِّیَ۔ اے عیسیٰ میں تمھیں زین سے اٹھا کر اپنے قبضہ اور حافظت میں لے لوں گا۔ قالَ الْحَسَنُ أَتُوَفَّاهُ مَنْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَدْجَعِهِ وَفَاهُ الْمَوْتُ وَدَفَاهُ الْتَّوْمِ وَدَفَاهُ الرَّفِيعُ وَذِلِّكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ يَتَوَفَّ فِي

فَلَمَّا تَوَفَّيَتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ

پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو توہی نگران تھا ان پر اور توہر پھر جز کا مشاہدہ

شَيْءٍ عَشَيْدٍ^{۱۷} إِنْ تَعْلَمُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ

کرنے والا ہے اگر توہ عذاب دے انھیں تو وہ نالے بندے ہیں تیرے اور اگر تو مجھش دے ان کو

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{۱۸} قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يُنْفَعُ الصَّدِيقِينَ

تو بلا شہش توہی سب پر غالب ہے اور بڑا دن ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ ہنچائے گا پسخون کو

صَدُّ قُوَّمٍ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفَرُ خَلِدُونَ فِيمَا

ان کا سچ ان کے لیے باغات ہیں روائیں ہیں جن کے نیچے نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں

الْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا^{۱۹} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ مَنْ يَتَوَفَّ فَالْمُرْ�َى إِلَيْهِ مُتَوَفِّيَكَ
(قرطبی)

اب جب یلفظ ان متعدد معانی میں مستعمل ہوتا ہے تو اس بات کا لفظ کرنے کے لیے کسی موقع پر ان متعدد معانی سے کوئی معنی مراد ہے دوسرا سے قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ اور اگر حدیث صحیح سے کوئی معنی متعین ہو جاتے تو پھر دوسرے معانی کا اختلال ختم ہو جاتے گا اور صرف وہی معنی لیا جاتے کا جو حضورؐ نے مقرر فرمادیا ہے۔ کیونکہ کتاب کے بیان کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو تفصیل فرمایا ہے اس کے بعد کسی قیل و قال کی کنجائش نہیں رہتی۔ جب احادیث نبوی میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اب آیات قرآنی کو اپنے اغراض و اہم اکالا باس پہنانا سارے سر بے دینی اور بے باکی ہے۔

الله حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور بنی کریمؐ نے یہ آیت پڑھی۔ فَمَنْ يَتَعَنَّ
فَإِنَّهُ مُتَّيٍّ وَمَنْ عَصَمَنِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آے میرے رب! جس نے میری فرمابرداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا اور جس نے نافرمانی کی تو توہی عزت و حکمت والا ہے) اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتی ہے۔ إِنْ تَعْلَمُ بِهِمْ لَا
پھر حضورؐ روا و قرار روپیے اور عرض کی الْأَنْهَرُ أَمْتَقِي۔ اللہ تعالیٰ نے جبریلؐ کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور اس سے روئے کی وجہ پوچھو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جبریلؐ حاضر ہوتے دریافت کیا تو رحمت عالم نے اپنی اُمّت کی خبیثش کے متعلق اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریلؐ کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب کے پاس بھیجا فَقَالَ اللَّهُ يَا

ابدأ رضي الله عنهم ورضوا عنك ذلك الفوز العظيم للله ^{۱۱۹}

ریئن گے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہے بڑی کامیابی اللہ کے لیے ہے
ملك السماوات والارض وما فيهما ط وهو على كل شيء قدير ^{۱۲۰}

بادشاہی سب آسمانوں کی اور جو کچھ ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر ^{۳۱۲} ملک پوری قدرت رکھنے والا ہے

جبریل ادھب الی مُحَمَّدْ تَقْلِیدِ اِنَّاسِ دُرْضِيَّةَ فِي اِمْتَانَکَ وَلَا سُوْءَكَ (صحیح مسلم) کرامے مصطفیٰ آپ رحیمه نہ ہوں لقیناً ہم آپ کی امتت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جن سے آپ خوش ہو جائیں گے اور ان سے ایسا معاشرہ نہ ہو گا جو آپ کو ناگوار کرے۔ الحمد للہ جس نے ہم سیاہ کاروں کو ایسے کریم اور بکیس پر ورنی کی امتت ہونے کا شرف بخشنا۔ صد شکر کہ تسلیم میاں دو کریم۔

^{۱۲۱} ابن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضاہی سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس نعمت عظمی کے سامنے جنت اور نعمت جنت کی کیا وقعت ہے لائق الجنة بِمَدِيفِهَا كَالْعَدُمِ بِالشَّيْبَةِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ۔ (بخاری)

^{۱۲۲} یہ آخری آیت کو یا اس سورہ کرمیہ کے سر بر زریں ناج ہے۔ سب شہادات کا ازالہ، سب گمراہیوں کا رد اور سب حقائق کا حاصل اور خود اس میں بیان فرمادیا۔ فرمایا زمین اور آسمان اور ان میں خاکی، ناری اور نوری، بے حان اور جاندار، بے شعور اور با شعور و کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک کی بلیت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں کوئی عذری میں شریک نہیں۔ کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ سب اس کے بندے اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یادے کر چکیں لے تو کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور اپنے محبوبوں کو شخصو صاحاً اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین کو جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔

تَعْرِفُ سُورَةَ الْأَنْعَامَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس سُورۃ پاک کا نام الْأَنْعَامُ ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد ایک ۱۵ سو پنیسٹھ اور رکو گوں کی تعداد بیس ہے۔ یکونکہ اس میں انعام (موشیوں) کی حللت و حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے۔ اس لیے سُورۃ کا نام الْأَنْعَامُ رکھا گیا۔ اس کے کلمات کی تعداد تین ہزار ایک سو اور حروف بارہ ہزار نو سو سینیس ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیکر صحابہ سے بنندی صحیح ثابت ہے کہ یہ سُورۃ باستثناء پچھڑی آیات بیوقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔

اس کے سال نزول کا تعین مشکل ہے لیکن مختلف قرائت اور شواہد کے پیش نظر بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ حضور بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں زندگی کے آخری حصہ میں ہجرت سے پھر عرصہ پہلے یہ سُورۃ نازل ہوئی۔ مدینہ طیبیہ میں اسلام کو یہودیت اور عیسیٰ نیت سے واسطہ پڑا تھا۔ اس لیے مدینہ سورتوں میں ان کے عقائد کی ترقیہ ان کے اطوار کا محاسبہ اور ان کی اصلاح پر زیادہ توجہ دی گئی لیکن مکہ کا ماحول بالکل انوکھا تھا۔ یہاں کے لوگ نظریاتی اور اعتقادی بحاظت سے مسخر جدا تھے۔ یہاں کی زندگی کی مشکلات اور مسائل زیالی قسم کے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بنی یهودی نازل ہوئی اس میں انھیں مشکلات کا حل اور انھیں مسائل کا جواب پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سُورۃ کریمہ کے مطالعہ سے پہلے اس سُورۃ کریمہ کی مندرجہ ذیل خصوصیات کا دہن شین کر لینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

- ۱۔ مکہ کی تقریباً تمام زیابادی مشرک اور بُت پرست تھی۔ ان پتھر کے بُتوں اور مٹی کی مُورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی اللہ (خدا) ہیں۔ اس بے سروپا بات کے اظہار میں انھیں ذرا تأمل نہ تھا۔ بلکہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انھیں بتایا کہ یہ بے زبان مجسم تھا انھیں خدا توہہ ذات والا صفات ہے بجزین و انسان کا خالق ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تاریک غار میں ندھری رات میں نجھی سی چھوٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سُننا ہے۔ تو یہ سن کر وہ ہیران و ششدہ رہو گئے اور مارے ہجرت کے کہ اُنھے آجَعَ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَ إِحْدًا إِنَّ هُنَّ الْمُشْنَعُونَ عَجَابٌ۔ یہ تو بڑی عجیب

غیر بات ہے۔ جب وہ ان کو خُدما نتے تھے تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ خُدا سمجھتے ہوتے اپنی مشکلات اور نکالیف میں انھیں کی طرف رجوع بھی کیا کرتے۔ اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انھیں کے سامنے دستِ سوال بھی دراز کیا کرتے۔ وہی ان کے میڈن پر سانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، وہی ان کو دشمنوں پر غالب کرنے والے تھے۔ اس سورۃ پاکیں ان کے اس مشکل کا نہ عقیدہ کی تروید کی گئی ہے۔ انھیں بتایا گیا کہ پتھر کے یہ بُت جوشکل و صورت میں کسی سنگ تراش کے مرہونِ منت ہیں وہ خدا یہی ہو سکتے ہیں۔ خُدا تو وہ ذات ہے جس نے کُنْ (ہو جا) فرمایا تو یہ عالمِ رنگ و بوپنی تمام دلائیں دیزیوں اور عظیتوں کے ساتھ موجود ہو گیا جس کا علم اتنا ہم گیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر عیاں ہے جس کے اختیارات غیر محدود ہیں۔ وہ بوجا ہے، جتنا چاہے، جسے چاہے عطا فرمائے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور بوجا ہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ساری کائنات نُری و ناری، آبی اور خاکی سب کی سب بلا استثناء پسے وجود، اپنی لقا، اپنی نشوونما، اپنے تمام شوون حیات میں ہرحظہ، ہرلحظہ اس کی نظر مخت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اس طرح اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ کمال کا ذکر کر کے ان کے مشکل کا نہ عقیدہ کی جسے سروپائی کو شوشت از بام کر دیا اور اس کی بُنیادوں کو اس طرح لمزادیا کہ اگر بے جا چند، باñی اسلام سے بلا وجہ حسد اور عناد کے جذبات اس عمارت کو پچھوڑت تک سہارا نہ دیتے رہتے تو وہ اُسی وقت پوینڈ فاک ہو جاتی۔

۴۔ دلالِ توحید۔ قرآن اپنے پڑھنے اور سُننے والے کو فلسفہ کی بھول بھلیوں میں حواسِ باختہ اور اس کی تعلیل اور غیرِ ما الوہ اصطلاحوں سے مرعوب نہیں کرتا بلکہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں غزو و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کس کی کہربائی کے شاہ کارہیں۔ زمین کی سطح پر لمبھاتے ہوئے شادابِ کھیت، رُنگ رُنگ بچھوں، قسم قسم کے بھل کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ گھنگھوڑھاتیں اور ان سے پٹکنے والے حیات بخش اطراف سے سی رحمت کا نظہر ہیں؛ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے کون انکار کر سکتا ہے اُن حقائق کا۔ یہ وہ نورِ تاباں تھا جس کی تجلیوں کے سامنے گفر و شرک کی ظلمتوں کو کہیں پناہ نہیں۔

۵۔ مشکلین کا رودیہ۔ اسلام، قرآن اور صاحبِ قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله و سلم میں مشکلین کی مخالفت کسی سنجیدگی اور متناسن پر بھی نہ تھی اور نہ قرآنی دلالت کے جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل بھی جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی سخا نت کر سکتے۔ ان کا سارا سر بایہ مذاق، متسخر اور طرح طرح کی جگت بازیاں تھیں۔ فرشتہ بھوڑی لاتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ قرآن ایک مرتب کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہتا۔ اس نتیجہ اور بے بار و مددگار کو رسالت و نبوت کے لیے کیوں تختب کیا گیا۔ لو اور سُنُوت کے بعد نئی زندگی کا پیچار ہو رہا ہے بھلاکی بھی کوئی مانسے کی بات ہے بس اس قسم کے ان کے اعتراضات تھے جھینیں وہ بڑی شد و مد

- سے پیش کیا کرتے۔ اس سورۃ میں ان کا رد گیا گیا ہے۔
- ۲۔ **تسلی و اطمینان**۔ ایک طرف انتہائی خلوص، تہیت اور خیراندیشی کے جذبات کے ساتھ فوریت کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ دوسرا طرف سے صدا و رہبڑ دھرمی کامظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے ہادی بحق کا دلیل بہت رنجیدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار استثنی دیتے ہیں کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے۔ انھیں ستایا گیا۔ اذیتیں پہچانی لیکن انھوں نے صبر کیا۔ یہی قدرت الہی ہے۔ آپ کو بھی صبر سے اس سردمہری اور دل آزاری کا سامنا کرنا ہو گا حق و باطل کی اویزش، بوڑھلات کی شماش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعد نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے لیکن یہ اس کی حجت کے خلاف ہے۔ ورنہ ابراہیم اور مزدود کی پہچان کیسے ہو۔ حسین و وزیر یہ کامتیاز کیونکر ہو۔
- ۵۔ **مشترکانہ رسوم**۔ سورۃ کے آخری حصہ میں مشترکین کی ان جاہالتہ زمبوں کی تزوید کی گئی ہے جو انھوں نے جائز دل کی حلقہ و حرمت وغیرہ کے متعلق مقرر کر کی ہیں۔ اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تھاری من گھڑت باتیں بنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں۔
- ۶۔ رکوع میں مکار م اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور اخلاق رذیلہ سے اپنے حکیمانہ اندازیں منع کیا گیا ہے۔
- ۷۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخری رکوع میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ **قُلْ إِنَّ صَلَوةَ تَوَاتَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا اعْلَانَ كُرَيْسِيْنَ۔** ان دونوں آیتوں کا ترجیح آپ بار بار پڑھیں اور غور کریں۔ آپ کا دل پکار آئٹھے گا کہ بخدا یہی حاصل اسلام ہے، یہی رُوح توحید ہے۔

مُرْسَهٌ وَهِيَ عَدَةٌ
سُوْرَةُ الْغَافِكَيْتَ مَادٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جَمِسٌ وَسْتُوْيَةٌ عَشْرُونَ

سُورَةُ الْعَالَمَيْكَى بَلْسَ كَيْتَيْنِ اللَّدَكَنَامَ سَشُورَعَ كَرْتَاهُوْنَ جَوْبَهْتَهِيْنِ هَمَ فَمَانَوْلَهَيَهَيْنِ ١٤٥
لَأَوْرَكُونَ ٢٠ بَيْنَ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ النَّمَاءَ

سَتْ تَعْرِفُنِي اللَّدَكَ كَيْتَهِيْنَ لَهْجَنَ نَيْپِيَا فَرَمَيَا آسَماَنُوْنَ اَوْرَ زَمِينَ كَوْ اَوْرَ بَنَيَا انْدِهِرُوْنَ كَوْ

وَالْتَّوْرَهَ ثُمَّ الدِّيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ^١ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

اوْرَ نُورَ كَوْ پَهْرِبَھِيْ ٣٠ جَمْخُوْنَ نَيْ کُفَرَ كَيْيَا وَهِيَ اَبَنَيْنَ رَبَ كَسَاتَهِ (اوْرَدِلَ كَوْ) بِمَارِظِيْبَرَهِيْنَ بَيْنَ ۲۰ اللَّهُ وَهِيَ بَيْنَ نَيْ پَيْدِا كَيْيَا

اَهَ هَهْرَطْفَ مَگَرْهِيْ کَابِھِيَا تَكَ انْدِھِرِ اِچْھَا يَا هَتَوا تَخَا۔ اِنسَانَ کَارِشَتَهَ اِپَنَهَ خَالَتِ وَپِرَوَرَدَگَارَسَے بالَّکَ کَٹَ چَکَا تَخَا۔ کَوْنِی سُورَجَ کَاْچُجَارِي، کَوْنِی ستَارَوْنَ کَاْپِرَسَتَارَ، کَوْنِی پِہْمَارَوْنَ کَيْ بِلَندَ چُوْيُوْنَ، بِرَطَسَے بِرَطَسَے درِيَاوْنَ اَوْرَ اُونَچَے اوْنَچَے دَرَخَوْنَ کَاعِبَادَ کَرَا تَخَا۔ یَهِنَدَ وَسَتَانَ مِنْ تَنْتِيسِ کَرَوْرَخُداَوَنَ کَيْ خُدَانِي کَاْذِنَاجَ رَهَا تَخَا۔ اِیرَانَ کَے لَالَّهَزَارَوْنَ بَيْنَ آتَشَ کَدَسَے روْشَ تَخَا۔ رَسْتَمَ وَسَهْرَابَ کَیْ سَرَزِمِنَ کَے بَهَادَرَ اَوْرَ نِدَرَ فَرَزَنَدَگَ اَکَ کَشَعَلُوْنَ کَيْ جَنَابَ مِنْ بَجَدَهِ رِيزَ تَخَتَهِ مَسِيْحِيَّ وَنِيَا مِنْ اِيكَ خَدَائِيَّ بَرَزَ وَدَانِکِيَّ جَمَهَرَ بَآپَ، بِيَثَا اَوْرَ رُوحَ الْقَدْسِ تَيْنَ خَداَوَنَ کَيْ پِسْتَشَ ہُوَرِهِيَّ تَخَتِي۔ اَوْرَ جَزِيرَهِ تَمَّاَتِي عَربَ کَيْ تَوْحَالَتَهِيَّ نَهَ پُوْجَھَسَے۔ رَاهَ چَلَتَهَ کَوْنِی پِتَھَرَ پِنْدَگَارِی۔ اِسَ کَيْ تَرَاشَ خَراَشَ کَيْ اَوْرَ اَسَے اَپَنِي مَحَارِبَ عِبَادَتَ کَيْ زَيَنَتَ بَنَادِيَا۔ اِسَ وَقَتَ اِللَّهِ تَعَالَى کَے رَسُولَ مِنْ اَعْلَانَ کَيَا کَدَ آسَماَنَ (عَالِمَ عَلَوِيَّ) اَوْرَ زَيَنَ (عَالِمَ سَفَلِيَّ) انْدِھِرِاً اَوْرَ نُورِیَّ سَبَ مَخْلُوقَهِيْنَ ہَيْنَ۔ اَوْرَ اَپَنَے وَجْدَوْ، اَپَنَیْ حَيَاتَ، اَپَنَیْ نَشَوَوْنَمَا اَوْرَ اَپَنَیْ تَعَامِيْنَ اِللَّهِ تَعَالَى کَمَحْتَاجَ ہَيْنَ۔ اَسَے شَرَفَ اِشَانِتَ کَے پَاسِبَانَوَا۔ اَسَے بَرَعَلَمَ وَدَانِشَ کَعَوْاصِمَوْ کَتَمَ خُودَهِيَّ تَبَانَوْ کَيْ تَمَّيِّنَیْنَ یَزِیْبَ دِتِیَا ہَے کَ اِپَنَهَ خَالَتِ سَمَنَهَ مُوَرَّکَرَ مَخْلُوقَ کَبَنَیَے بَنَجَوَهَ غَنِيَّ اَوْرَ صَمَدِیَّ جَلَجَهَ مَحْتَاجَ اَوْرَ بَلَسَ کَیْ عِبَادَتَ کَرَنَے لَگَوَ۔ یَهِرِچِرَحِسِینَ وَجَمِيلَ سَمِيَّ، پُرِسَهِیْتَ وَپِرِچِجالَ سَمِيَّ، مُفَنِّدَ اَوْرَ نَفَعَجَشَ سَمِيَّ لَیْکَنَ یَسْنُ وَجَهَالَ، بِیَهِسِیْتَ وَجَهَالَ، یَهِا فَادِیْتَ اَوْرَ نَفَعَ رَسَانِيَّ اِنَّ مِنْ آتَنِیْ کَهَانَ سَے؟ یَهِ اَسِیْ ذَاتَ بِرَتَوَ اَعْلَى کَفَضَلَ وَکَرَمَ کَبِلَوَهَ طَرَازِيَّ ہَے جَسَنَ نَيْ اَنْجِنِنِ نَسِيتَ سَے ہَسْتَ کَیَا۔ عَدَمَ سَے وَجْدَوَ کَیَا تَوْحِيدَ وَسَتَانِشَ اِسِیْ کَتِیْنِ چَاهِیَّتَهَ۔ ہَرَ تَعْرِیْفَ وَتَوْصِیْفَ کَاوِهِیَّ مَسْتَحْتَجَ ہَے۔ اِسَ حَقِیْقَتَ کَيْ دَلَشَ نَظَارَسَوْرَهَ پَاکَ کَا آغاَزَ اِسَ آیَتِ کَرِيمَهَ سَے فَرَمَا گَيَا۔ ذَرَاغُورِیَّ کَبِيْجَيَّ اَنْدَانِ بَيَانَ کَتَنَا صَحَافَهَ اَوْرَ مَشْفَعَتَهَ ہَے کَسِيَّ کَيْ رَجَ رَوِيَّ کَاْذِكَرَ کَيْ یَغِيرَ کَسِيَّ کَانَامَ تَكَ بِیَهِ لَغِيرَ۔ اِسَ مَخْتَصَرَ سَمَجَلَ سَے شَرَکَ کَيْ لَاتَعْدَادَ قَسْمَوْنَ کَابِطَلَانَ کَرَکَے رَکَهَ دِيَا جَوْ مَخْتَلَفَ اَقَامَ مِنْ رَاجَحَ تَخَیِّلَنَ۔

لَلَّهُ شَمَ "سَرْفَ عَطْفَ" ہَے لَیْکَنَ کَوْنِی دُوسَرَ اِحْرَفَ عَطْفَنَ، اِسَ کَقَامَ مَقَامَ نَيْنَ ہُوَسَكَنَتَهِيْ کَيْوَنَدَهِيْ مَعِنَى عَطْفَ پَرَدَالَتَ کَرَنَے کَے سَاتَهُ سَاتَهُ کَفَارَ کَيْ نَادَانِي اَوْرَانَ کَعَقِيدَهَ کَيْ قَبَاحَتَ کَوْبَھِي عَيَانَ کَرَهَهَا ہَے۔ "شَخَ" دَالَّةَ عَلَى قَبَمَ فَعَلَ الْكَافِرِيْنَ

مِنْ طِينٍ شَمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ

تحیین مٹی سے پھر مقرر کی ایک میعاد تھے اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک ہے پھر بھی تم

تَمَثِّلُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سَرَكُودَ

شک کر رہے ہوئے اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں کے وہ جانتا ہے تمہارے بھیدبھی اور

(فقطی) مقصد یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ کائنات کی ہر طبی اور چحوٹی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوتی ہے پھر بھی یہ مخلوق اور مخلائق چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر بھجوڑتے ہیں لکھتے ناد ان اور لکھتے زیاد کارہیں یہ لوگ۔

تمے اس کا معنی ہے ایسی یجعَلُونَ لَهُ عَدِيَّلًا (مفروقات) یعنی اپنے معمود ان باطل کو خداوند تعالیٰ کا ہمسرا وراس کے برابر بناتے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح اخھیں برابر ہمسر بناتے تھے۔ اس کی وضاحت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔ یعدلوں: یجعلون له شريك في عبادتهم ایا کہ فی عبادوں معاہ الالہة والائنا د یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے باطل خداوں کی بھی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اس سے علوم ہو اکسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا صاف طلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور ہمسریقین کیا جا رہا ہے۔

تمے یعنی جس کی قدرت نے ان خاک کے ذرتوں کو زندہ کیا اس کی حکمت جب متعاضی ہو گئی تو غاصر کی یہم آہنگی ختم ہو جاتے گی اور یہ اعذال درہم بہم ہو جاتے گا اور موت کی باہم سووم اس چراغِ زلیست کو بچوادے گی۔ اور اس کے علم ازی میں یہ وقت مقرر ہو چکا ہے۔

تمے موت کا وقت مقرر کرنے کے علاوہ اس نے ایک اور میعاد بھی تنقیح فرمادی ہے یعنی قیامت کا دن۔ اور اس کا لفظ یعنی اسی کے پاس ہے کوئی دوسرا اس کے بتاتے بغیر اپنی عقل و فراست سے یا قیاس اکاریوں سے اس کو نہیں جان سکتا۔

تمے لفظ "شُو" یہاں بھی یعنی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو پہلی آیت میں ادا کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار دلائل دیکھنے کے بعد بھی تنقیح قیامت کا لیقین نہیں۔ انسان اپنی غذا ہی کو دیکھتے کس طرح وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح وہ معدہ میں پہنچ کر رخصم کی مختلف یکفیات سے گزر کر جزو بدن بنتی ہے۔ اسی کا ایک حصہ آنکھ کا ذر، کافوں کی سماحت، زبان کی گویاں اور ایک حصہ مہد یوں کی سختی، اعصاب کی نرمی، دماغ کا اور اک بہانخواں کی گرفت وغیرہ بن جاتا ہے۔ جو ہستی اس با ریک نظام کو چلا رہی ہے اس کے لیے خاک کے منتشر ذرتوں کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی قدرت کے بے شمار دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر قیامت کا انکار کرنا کتنی نادانی اور کتنی قباحت ہے۔

تمے اس کی تزکیب غور طلب ہے۔ ابوعلی نے اس کی تزکیب یہ کی ہے کہ هو ضمیر شان اللہ مبتدا اور فی السموات والارض اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہے (بجز)

جَهَرْ كُمْ وَيَعْلَمْ هَاتَكُسِبُونَ ۝ وَمَاتَأْتِيْمُ مِنْ أَيْتَهِ مِنْ اِيْتَ

نَخَارِيْ لَكُلْ بَاتِيْسِ بَهِيْ أَورْ جَانَتِيْ بَےْ جَوْتِمَ كَارَہِے ہو ۝ اُرْ نَهِيْسِ آتِيْ انِ کے پَاسِ کُوْنِيْ نَشَانِيْ بَسِ کِنِيْ نَشَانِيْوں سے

رَتِيْمَمِ الَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَهَا جَاءَهُمْ

مَگُرُوْہِ ہو جاتے ہیں اس سے مُنْهِ پَھِیرِنے والے ۝ بے شکِ انکھوں نے جھَلَلَا یا حق کو جبڑ ۝ آیا انِ کے پَاسِ

اوْرِ زَجاجِ کی راتے یہ ہے کہ هو بِنَدَارِ اللَّهِ تَبَرِّأَرِ فِي السَّمَوَاتِ إِنَّهُ اللَّهُ مَنْ مَتَعَلِّمٌ
ہے کہ زَيْنِ وَآسَمَانِ کی ہر چیز کا خالق، مَالَكُ، زَنْدَهِ کرنے والا، مَارِنَے والا، رِزْقِ دِينِے والا، تمامِ شَوْقَنِ حَيَاةِ اُور
امُورِ کَانَاتِ کی تَبَرِّيْرِ کرنے والا صَرْفُ اللَّهِ تَعَالَى ہے۔ اگر کوئی ایک صِفَتٍ ذُکر کی جاتی تو دُوسری صِفَاتِ نَگَاهِ ہوں
سے اوْ جَلِيلِ تَبَتِّيْنِ۔ اسِ لَيْسَ بِكُسَيِّ اسَمِ صِفَتٍ کے ذُکر کی بُجاَتِ اللَّهِ بُوْلِمِ ذاتِ ہے اور تمامِ صِفَاتِ مَكَالِيَهِ کا جَامِعٌ ہے
ذُکر کیا تَأَكِّهَ قَارِيِ جَبْ یہ آیت پڑھے تو لفظِ اللَّهِ جَبْ اسِ کی زبانِ سے انکھوں کے تمامِ صِفَاتِ المَبِيهِ اسِ کی آنکھوں کے
سامنے آ جائیں۔ اور ہر صِفَتٍ تو مُخْطَرِ رَحْمَتِ ہوئے وَهُوْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا عَلَمَ الرَّحْمَنُ ظرفٍ اور مُجْرُورِ کَانَتِّلَقْ بِنِ سَكَنَتَ ہے تو اسِ کا جواب یہ ہے کہ عَلَمَ جِنْ مَعَانِي کو تَضَمَّنَ ہے انِ کو پیشِ نظر
رَحْمَتِ ہوئے وَهُوْ مَتَعَلِّمٌ بِنِ سَكَنَتَ ہے۔ دَانِ کَانَ لفظِ اللَّهِ عَلِيَّاً لَانَ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ قدْ يَعْمَلُ فِيهِمَا الْعِلْمُ

بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنِ الْمَعْنَى (بَحْر)

ابن عطیہ نے اسِ توجیہ کو بہت پسند کیا ہے۔ قال ابن عطیہ وَهَذَا عَنْدِيْ اَفْضَلُ الاقوالِ وَالثَّرْهَا
احْرَازُ الْفَصَاحَةِ الْلَّفْظُ وَجَرَالَةُ الْمَعْنَى (بَحْر) یعنی ابن عطیہ کہتے ہیں کہ میرے تَذَكِّرِ یہ بَتَرِینِ قولِ ہے لفظ
کی فصاحت اور معنی کی عَدْگی دَوَلُوں کا جَامِعٌ ہے۔

۷۔ پَہْلَى دَوَلَتِيْوں مِنْ اللَّهِ تَعَالَى کی قدرتِ کَالْمَلَكِ کا بَیَانِ تَخَا۔ اسِ آیتِ مِنْ اسِ کے عَلَمِ حَمِيطِ کَا ذُکرِ ہو رہا ہے یعنی
وَهُوْ اَنْتَاهِهِ دَانِ اور ہمَہِ ہیں ہے کہ کوئی چیز اسِ کے عَلَمِ سے نہماں نہیں۔ ہمارے دلوں کے پُوشیدہ احساساتِ ہماری
زبانِ ہوں سُرِنکَلِ ہوئے کلماتِ اور ہمارے سببِ چھوٹے بڑے نیک و بد عملِ اسِ کے احاطَه عَلَمِ میں ہیں۔ مشکلِ اُوامِ
کو بتایا جا رہا ہے کہ اللَّهُ تَوْهُہُ ہے جس کی قدرتِ یے پایاں اور جس کا عَلَمِ حَمِيط ہو۔ نَخَارِيْ مَعْبُودَنَهْ تَوْقَادِرُوْ تَوَانَا ہیں نہ
عَلِيمُوْ دَانَا۔ تو اے عَقْلِ کے دُشْنِيْوَهْ مَعْبُودُ اور خُدَّا کیوں نکر ہو سکتے ہیں۔

۸۔ هَرِتِمِ کَحْسَنِی اور مَعْنَوِی مَجْرَاتِ جو حَنْوَرِ صَلِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسلام کی صِدَاقَتِ کے لیے ظاہِر فَرماتے انِ میں
وَهُغُور وَفَرِنَیْنِ کیا کرتے تھے جس کی وجہِ یقْنی کہ وَهُوْ اَنَّ مَجْرَاتِ کی اثْرَآفِیْنِ قَوْتِ سے ہر اسالِ تھے۔ اُنھیں یہ سَيِّدِ نَبَاتِ تھا
کہ جس تَائِیْکِی سے اُنِ کی اسْنَکھیں مَالُوسُ ہو چکی ہیں وَهُوْ اُجَالَے سے بدل جاتے۔ انِ میں یہ سَكَتِ بھی نہ ہتھی کہ اُنِ دَلَائلِ کا

فَسَوْفَ يَأْتِي هُمْ أَبْؤُ امَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ الْحَمْرَاءُ ۝

سواب آیا جا ہتی ہیں ان کے پاس خبریں اس چینیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے جس کیا نہیں دیکھا نہ

اَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَثُوهُمْ فِي الارْضِ مَا لَهُمْ نَمَّكُنْ

انخنوں نے کہتی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے قبیل چینیں تم نے (ایسا) تسلط دیا تھا زین میں جو ہم نے تھیں نہیں

لَكُمْ وَآرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَرَ تَجْرِي

دیا اور ہم نے بیسچے بادل ان پر موسلا دھار بر سے والے اور ہم نے بنادیں نہیں جو بھتی تھیں

مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَآشَانَاهُمْ بَعْدِ هِمْ قَرَنَا

ان کے (گھروں اور باغوں کے) بیچے سے پھر ہم نے ہلاک کر دیا انخیں بوجہ ان کے گناہوں کے اور پیدا کردی ہم نے ان کے بعد ایک

جواب پیش کر سکیں اب ان کے پاس باطل سے چھٹے رہنے کا اس کے بغیر اور کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وہ غور و تأمل سے پہلو تھی لیا کریں۔

فِي حق سے مزاد قرآن حکیم یاد ات پائی صطفیٰ علیۃ التحتۃ والثناۃ ہے یعنی القرآن و قیل محمد علیہ السلام (قرطبی) انبعاع جمع ہے نبأ کی۔ اس کا معنی ہے اہم اور اثر انگیز غیر النبأ المخبر بالنذی یعظم و قعده (بجز) یہاں اس سے مزاد عذاب ہے۔ وہ عذاب چوپے در پیشستون اور ناماکیموں کی صورت میں دیا گیا اور وہ عذاب بہترین میں انخیں دیا جائے گا۔ علامہ ابی حیان الاندلسی نے خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں کفار کے تین مدارج کا ذکر ہے۔ جب آیات پیش کی گئیں تو انخنوں نے منہ پھیر لیا۔ اسی پر اتفاقاً نہ کی بلکہ ان کو جھٹلانا شرف کر دیا اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ ان کا مذاق الائے لگ گئے۔

اے ملک کے باشندے تجارت پیشیہ تھے۔ ان کے تجارتی کارروائیں دُور دراز مکون میں جایا کرتے تھے۔ راستہ میں ان کا گزر کتی اُجڑی ہوتی بستیوں، ویران کھنڈ روں اور غیر آباد کنوں اور نہ روں پر ہوتا تھا۔ جب انخنوں نے دلائل توحید میں خود فکر کرنے کے جنے اُن کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پہلی گمراہ قوموں کے ہوتاک انجام کا ذکر کر کے انخیں متینہ لیا جا رہا ہے کہ یہ عاد و ثمود کی ویران بستیاں جن کو تم باہرا دیکھ چکے ہو یہاں کے بنے والے تم سے زیادہ نوشحال تھے۔ مال و دولت کی فراوانی تھی۔ وسیع و عرض خطہ زین ان کے زیر تنگیں تھا۔ ان کے ملک میں مٹنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جا جا بچا ہوا تھا۔ ان کے کھیت سونا مگل رہے تھے اور ان کے گھر رشک اراد بنے ہوتے تھے۔ لیکن جب انخنوں نے لے لایا وہ اسی

أَخْرِينَ٦ وَلَوْنَزَلَنَا عَلَيْكَ كِتَبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُودٌ بَأْيَدِيهِمْ

اور قوم اے اور اگر ہم آتا رتے ہے آپ پر کتاب (کھنچی ہوتی) کاغذ پر اور وہ چھو بھی لینے اس کو اپنے ہاتھوں سے

لَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ كَفَرَ وَإِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِين٧ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ

تب بھی کتنے جھنوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھلنا ہوا اور بولے کیوں نہ اندازایا ہے

عَلَيْكُمْ دَلَك٨ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لِقَضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ٩ وَ

ان پر فرشتہ اور اگر ہم آتا رتے فرشتہ تو نیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا پھر نہ مہلت دی جاتی انھیں اور

اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا شروع کر دیا تو قانونی مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گنجائیوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتے گئے جس نے ان کو نیست و ناولد کر دیا۔

اللہ یہیں ان کی تباہی و بر بادی سے بزم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ ان کا جانشین ہم نے دوسرا قوم کو بنادیا جس نے اپنی راست بازی اور محنت و خلوص سے باز اہستی کی رونق میں کئی گناہ اضافہ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے ہی درس عبرت ہے جب تک ہم احکامِ الہیہ کے پابند رہیں گے جب تک ہماری تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق میں مصروف رہیں گی۔ عزت و اقتدار کی مند کے ہم ماںک ہوں گے اور جب ہم بھی طاؤس و رباب کے دلدادہ بن گئے تو پرمدہ بھوپول کی طرح ہمیں بھی باغ سے باہر بھیتک دیا جاتے گا۔

اللہ کفار کی ہٹ دھرنی اور عناد کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپنی سماں سے مشاہدہ کر لیں کہ قرآن کاغذ میں لکھا کھایا آسمان سے اُتر رہا ہے اور پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے طوول کر تسلی بھی کر لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں الہیں گے بلکہ اپنے انکار کے لیے اگر انھیں کوئی اور بہانہ نہ مل سکا تو یہی کہنے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کو لے نور نہ کر دے۔ ورنہ کوئی دلیں، کوئی مجھہ اور کوئی فہماش اثر نہیں کرتی۔ غوستے بدرا بہانہ ہاں سیار۔

سماں کفار کی ایک اور فرمائش ملاحظہ ہو۔ کھنے لگے کہ ہم اس شرط پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اُتر سے اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب فرمایا کہ اگر تم تھاری یہ شرط پوری کر دی جائے تو تم تھاری ہلاکت یعنی ہے۔ فرشتہ اگر اپنی اصلی صورت میں نہ مارا رہا تو اس کی ہیئت و جلال سے مکارا و مخلک جاتے نیز اگر تھاری یہ فرمائش پوری کر دی گئی۔ اور یہ کھلی دلیں دیکھ کر بھی تم نے ایمان لانے میں پس و پیش کی توقیم پر ایسا عدالت مسلط کیا جاتے گا جو تھاری جڑوں کو بھی اکھیر کو رکھ دے گا اس لیے تھارے لیے تھاری اس فرمائش کو پورا نہ کیا جائے تاکہ مہلت کی ان گھنٹوں میں تھیں غور و فکر کا بیش از بیش موقع مل سکے۔

لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكُبِسْتَنَا عَلَيْهِمْ قَائِيلُسُونَ ۙ

اگر ہم بناتے نی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان (کی شکل میں) تو (لوں) ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں ۱۶۔

وَلَقَدِ اسْتَهْزَرْتُ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْأَنْذِينَ سَخْرَوْا مِنْهُمْ

اور بلاشبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے ۱۵۔ پھر گھیر لیا اُنھیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا

اس پیغیرت جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں ۱۶۔ پھر دیکھو

۱۷۔ منکرین حق کی نکاپیں فقط حصوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت تک ہی محدود تھیں۔ وہ بتوت کے اس آفتاب کو دیکھنے سے قاصر تھے بودل انور کے مطلع پر خوفشاں تھا۔ اس لیے انھوں نے اپنے جیسا باشہر صحجو کر حصوں کی نبوت کو تسليم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ کو نبی بننا کر تھا ری ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو اس کی دو صورتیں تھیں۔ یا تو وہ اپنی نکلی شکل میں جوٹ ہوتا یا انسانی لباس میں پہلی صورت میں اس کی بیعت و جلال کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں پھر وہ اخھیں شہمات میں بنتا ہو جاتے جن میں اب بُنْتَلَا ہیں۔

۱۸۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یعناد، یہ انکار اور یہ مذاق و مسخر جس سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے کوئی نتی پیغیر نہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ منکرین حق کا یہی سلوک رہا ہے۔ وہ بھی ان گستاخیوں اور بے ادبیوں کے باعث بر باد کر دیتے گئے اور ان کا انجام بھی سنتِ الیہ کے مطابق یہی ہو گا کہ نیت نابود کر دیتے جائیں گے۔

۱۹۔ قرآن صحیح نے بارہا بین میں سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے لیکن صرف تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ عبرت پذیری کے لیے ہو و لعب کے لیے نہیں بلکہ علمی مقاصد اور تاریخی تنازع اخذ کرنے کے لیے تاکہ گزری ہوئی قوموں کے مسامارشندہ محلات، باغات، قلعوں اور شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمیں وہ روزیہ نہ دیکھنا پڑے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نیز ایں اُنھیں دیکھنا پڑا تھا۔ اس نیت سے سیر و سیاحت کرنا باعث تواب اور موجب رضام الہی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے صراحت کی ہے کہ ایسا سفر ستحب ہے جو گزری ہوئی امتنوں اور اجرے پر ہوئے شہروں کے آثار اور حضورات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتے۔ **هذا السفر من دوب الیه اذا كان على سبييل الاعتبار بآثار من خلامن الامم و اهلل للديار (القطري)** یہاں بھی کفار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور روشن دلائل کے باوجود قم باطل سے چمٹے رہتے پھر میوڑا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان قوموں کا کتنا دردناک انجام

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْرِرِينَ ۝ قُلْ لِمَنْ قَاتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کیسیا ہوا انجام (رسولوں کو) جھٹلانے والوں کا آپ (ان سے) پوچھتے تکس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔

قُلْ إِنَّ اللَّهَ طَكَبَ عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَةَ لِيَجْعَلَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

آپ ہی انھیں بتاتے (سب کچھ اللہ ہی کہے اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمائے) یقیناً مجھ کرے گا تمہیں قیامِ یوں

لَا رَبِّ يَرِبُّ فِيهِ طَالِبَ الدِّينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَهُ

ذرا شک نہیں اس میں (مگر) بخوبی نے لفظان میں طالِبِ دین ہے آپ کو تو وہ نہیں ایمان لائیں گے ۱۹ اور اسی کا ہے

ہوا بخوبی نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا۔

۲۰ اے قادھیہ یہ ہے کہ جب سوال کا جواب ایک ہی ہو اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اُس کو بھی اس سے انکار نہ ہو تو سائل خود ہی جواب دے دیا کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کفار کو بھی اختلاف نہ تھا اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے جواب دلا دیا گیا۔

۲۱ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ایسے نابکار لوگوں کو زندہ کیوں رہنے دیا جاتا ہے اُنھیں فرائیست و نافوڈ کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے رحمت کو اپنے اور لازم کر لیا ہے۔ لوگ لکھتی ہی ناذر مانیاں کریں۔ اس کے ساتھ شریک بھیڑ ائم، اس کی بہتی کاہی ائمکار کر دیں اُس کی رحمت کا ایلیح دامن ان پرسا یہ فکن رہتا ہے اور ان کی زندگی کی جو میعاد مقرر کی تھی ہے اُس وقت تک انھیں زندہ رہنے کے وسائل بھی پہنچاتے جاتے ہیں۔ سورج، بارش، ہوا وغیرہ مومن و کافر، متقی و فاسق سب کے لیے ایک ہی حیات آفرین تاثیر رکھتے ہیں۔ ان الفاظ سے کفار کو ایمان لانے کی ترغیب دلانا بھی مقصود ہے لیعنی اپنی سابقہ بدائع میوں کی وجہ سے ما یوس نہ ہو جاؤ۔ اگر اب بھی تم سچے دل سے قوبہ کر لو تو تمہیں دامن رحمت میں پناہ مل جائے گی۔

۲۲ یہاں خسارہ سے مُراد اس قیمتی استعداد کو ضائع کرنا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کفار جانے کو بھننے کے باوجود حق کو قبول کرنے سے گریز ان تھے جس سے ان کی وہ استعداد ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔

مَاسَكَنَ فِي الْيَوْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَعْيُدُ

بوس رہا ہے رات میں اور دن میں نہ اور وہی سب کچھ سنے والا جانے والا ہے۔ آپ فرمائی کیا اللہ بغیر

اللَّهُ أَتَخْذُ وَلِيًّا فَإِنَّ طَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مبعود بناؤں (وہ اللہ جو پیدا فرانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ (سب کو) کھلا تاہے اور خود نہیں کھلا جاتا۔

قُلْ إِنِّي أَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ مَنَّ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

فرمائیے بے شک ۲۳ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا ۲۴ (نیز یہ حکم دیا گیا ہے کہ) ہرگز نہ بننا

۲۳ میں اور آسمان خوف مکان ہیں اور رات اور دن ظرف زمان۔ پہلے بتایا کہ بلندی اور پتی میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب بتایا کہ زمانے کے پیمانے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ توجہ سب زمانات اور مکانات اسی کی پیدا کروہ ہیں اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں تو پھر ان میں سے کوئی انسان، کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کیونکر مبعود بن سکتی ہے۔

۲۴ کفار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہنے لگے کہ آپ ہیں نادار اور تنگ دست یا فدویں دست جمع کرنے کے لیے آپ نے بتوت کا سلسلہ چلا رکھا ہے جس سے ہر گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس لیے آپ جتنی دولت مانگیں ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے نئے دین کی تبلیغ بند کر دیجئے اور جس طرح ہمارے اسلاف ان بتوں کی پوچا کرتے چلے آتے ہیں آپ بھی انھیں کی پیش کیا کریں تو یہ کہیت نازل ہوتی یعنی عرب میں ”ولی“ کے لئے شمار معنی ہیں۔ یہاں اس سے مراد مبعود ہے۔ والمراد بالولی المعبد (بھیادی) ولی سے مراد یہاں مبعود ہے جس کی عبادت کی جاتے۔ والمراد بالولی المعبد لانتہ دل من دعاہ صلی اللہ علیہ وسلم (روح المعانی)

۲۵ یعنی مبعود توہہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ محتاج سے یہ بناتے ہوئے مبعود اور خدا تو سراپا احتیاج ہی احتیاج ہیں۔ ہاں میرا مبعود جو زمین دامان کا غالمن ہے وہی وہ مبعود برحق ہے جو ہر محتاج کی حاجت وائی فرماتا ہے ہر چیز کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور خود کسی پیش کا محتاج نہیں۔ نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ نہ کسی اور چیز کا۔ اب تم خود انہماں کرو کہ مبعود حقیقی کون ہے؟

۲۶ آئے کفار! تم مجھے کیا لالج دینے آئے ہو۔ مجھے تو اپنے رب کا یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اُس کی الہیت، اُس کی کبریائی اور اُس کی غنمیت و جلال کے سامنے نہ تسلیم ہم کروں اور شرک کی اُلوگیوں سے اپنا دامن بچانے کی مجھتہ تاکید

الْمُشْرِكُينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

شک کرنے والوں سے آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں ۲۴ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑی دن کے

عَظِيمٌ ۝ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يُوْمٌ يَوْمٌ فَقَدْ رَحِمَكَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ

عذاب سے وہ شخص طال دیا گیا عذاب ۲۵ جس سے اُس روز تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر اور بھی کھنی کامیابی

کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے رب کے حکم سے سرتاہی کر کے کیونکر تھارے کہنے سے ان باطل خداوں کی پیش شروع کر سکتا ہوں۔

۲۶ بس دین کی دعوت دینے کے لیے حضور مسیح ہوتے تھے اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے بھی حضور ہی تھے اس لیے فرمایا کہ تمام امانت سے پہلے مجھے اپنے رب کی وعدائیت اور الوہیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں صاحب روح المعانی کا ایک روح پر اور ایمان افزو اقتباس بعد ترجمہ ہدیۃ ناظرین کرتا ہوں:-

فاول روح رکضت في ميدان الخضوع والانقياد والمحبة روح نبينا صلي الله عليه وسلم وقد اسلم نفسه لモلاه بلا واسطة وكل اخوانه الانبياء عليهم الصلاة والسلام في عالم الارواح انما اسلمو انفسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام فهو صلي الله عليه وسلم المرسل الى الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في عالم الارواح وكلهم امته روح المعانى

ترجمہ:- عاجزی، فربان برداری اور محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تھی۔ اور حضور نے بلا واسطہ اپنے مولا تے کریم کے سامنے سر عبودیت بھکایا۔ اور تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور کے واسطے سے۔ پس حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسول کے بھی رسول ہیں اور سب حضور کے امیتی ہیں۔

۲۷ اگر میں سر مو بھی حکم خداوندی سے اخراج کروں تو مجھے اندر لشہ ہے کہ کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔

۲۸ یعنی مجھے دولت کی آرزو نہیں اور نہ دولت و عزت میرے زدیک کامیابی کا کوئی معیار ہے۔ کامیاب و کامران تو وہ ہے جس کو قیامت کے دن عذابِ الہی سے نجات مل گئی۔ حضور کی امانت کو بھی یقینت ہر جسم پیش نظر رکھنی چاہیے اور قیامت کی کامیابی کے لیے کوشش رہنا چاہیئے۔

الْمُبِينُ^{١٤} وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِحُرْرٍ فَلَا يَأْشِفَ لَهُ الْأَهْوَاطُ

ہے اور اگر پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دکھ تو رکنے والا اس دکھ کو سواتے اس کے لئے اور

إِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٧} وَهُوَ الْقَاهِرُ

اگر پہنچاتے تھے کوئی بھلانی (اس کو کوئی روکنیں سکتا) وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ غالب ہے

فَوْقَ عِبَادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ^{١٨} قُلْ أَئِنْ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً

اپنے بندوں پر ۲۸ اور وہ بڑا نام، ہر چیز سے خبردار ہے آپ پوچھتے کون سی چیز بڑی معتبر ہے کوئی کی حاظہ سے

۲۷ تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، ناکامی اور کامیابی، ذلت اور عزت سب اللہ تعالیٰ وحدہ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فقر، مرض یا قرض میں بنتلا کر دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ان مصائب سے اسے بچاتے دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل و کرم فرماتے اور اسے اپنے العلامات سے سرفراز فرماتے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس سے چھین لے۔ وہی مالک حقیقی ہے۔ وہی قادر مطلق ہے۔ اس کے ذمہ کے بغیر کوئی پتہ، کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ اپنی جگہ سے بچتی نہیں کر سکتا۔ مشکل و مسوں نئی نیکی، بدی، بارش، فتح، دولت اور علم وغیرہ کے لیے الگ الگ خدا بناتے ہوتے تھے ان سب کے خیالاتِ فاسدہ کی تروید فرمادی۔

۲۸ تھر کا معنی غلبہ ہے یعنی وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو اور اس کی مرضی کے خلاف جوچا ہے کرتا پھرے۔ سب بندے اس کے حکم کے سامنے سر اٹکنے ہیں۔ ای ہم سخت سخیر لا فوقیہ مکان (القرطبی) وفیت سے وفیت مکانی مژاد نہیں بلکہ کسی پر غالب آنا، غلبہ پانا۔

۲۹ کفارِ مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیونکر تسلیم کیا جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہ مل سکا۔ آپ اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ ہم نے تو یہود و نصاری سے بھی آپ کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کا ذکر نہ کیا ہے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھیں میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انھیں کہتے کہ میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے۔ کیا اس سے پتا اور زیادہ معتبر کوئی اور گواہ بھی ہو سکتا ہے جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت کیا ہے؟

قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ لِّيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ كُمْ

آپ ہی تباہیے اللہ فہمی گواہ ہے میرے زمیان اور تھارے زمیان اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن نہ ناکریں اور تھیں

بِهِ وَمَنْ يَلْعَظُ بِإِنْكَهْ لَتَشَهَّدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُ أَخْرَى قُلْ

اس کے ساتھ اور (ڈراویں) اسے جن تک پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ اللہ آپ فرماتے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ وَّاَحَدٌ وَّلَا يَشْهَدُ كُوْنَ م١٩

میں تو (ابی جھوپی) گواہی نہیں دیتا آپ فرماتے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان (توں) تھیں تم شریطہ تھے

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنَّا هُمُ الَّذِينَ

تجھیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہنچانے ہیں اس بنی کو جیسے پہنچانے ہیں اپنے بیٹوں کو ۳۳ جھنفوں نے

سلے اصل ہیں ہے مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت و رسالت صرف اس زمانہ کے لوگوں تک محدود نہ تھی بلکہ جب تک اور ہم ان تک قرآن کی آواز پہنچے گی حضور سب کے بھی ہیں سب پر فرض ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا تیں۔

اسے اگر تم اللہ تعالیٰ کے سوا اسی مخصوص کے خدا اور معبد بننے کی گواہی دو تو میں ایسی لچڑا اور بے ہودہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا تو وہی ایک ذات ہے جس کی قدرت، علم، کبریٰی، بے نیازی اور غلبہ کا ذکر تم اتنی دیسے سُن رہے ہو یہی تو صرف اسی ایک خدا کو اپنا معبد اور اللہ یقین کرتا ہوں۔ باقی رہے تھارے بے بس، محتاج اور بے صرف دیوبی دیوتا۔ تعمیر اُن سے کوئی تعلق نہیں۔ کان گھول کر سُن لو میں ان سے بری ہوں۔

سلے اور پرگزرا ہے کہ اہل کہہ تے اہل کتاب سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا تو اُنھوں نے آپ کے متعلق اپنی لامی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ ان کا انکار لامی کی وجہ سے نہیں بلکہ مخفی بہت دھرمی اور عناد کی وجہ سے ہے ورنہ وہ ہمارے بھی کوئی پہنچانے ہیں جیسے وہ اپنے بھوپل کو پہنچانے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت عمر حنفی نے اس آیت کے متعلق حضرت عبد اللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہنچانے تھے تو اُنھوں نے جواب دیا کہ حضور کے اوصاف و مکالات اور علامات و نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں مرقوم ہیں کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بھوپل کو پہچان لیتے ہیں۔ آخر میں حضرت عبد اللہ بن فرمایا کہ جنہاً میں تو اپنے پچھے سے بھی زیادہ حضور کو پہچاننا ہوں۔ کیونکہ مجھے اپنے پچھے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ کی بتائی ہوئی علامات پر ہے۔

خَسْرٌ وَّاَنْفُسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى

نقضان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو تو وہ نہیں ایمان لائیں گے اور کون زیادہ خالی ہے اس سے جس نے بہتان

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّابًا يَأْتِيهِ طَائِهٌ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَوْمَ

لکھا اللہ پر بھوٹا یا بھٹلا یا اس کی آئیتوں کو ۳۳۳ بے شک فالج نہیں پائیں گے خلم کرنے والے اور (یاد کرو) وہ

نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّهِ يُنَّ أَشْرَكُوا إِيْنَ شُرًّا كَوْمُ الدِّينَ

دن ۳۷ جب تم جمع کریں گے سب کو پھر تم کہیں گے اُنھیں بو شرک کیا کرتے تھے کہ کہاں ہیں تھا رے شرکیں جن کے (خداؤ)

كُنْدُمْ تَرْزِعُونَ ﴿٢٦﴾ لَمْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا

ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے پھر نہیں ہو گا کوئی عذر ان کا بجز اس کے کہ کہیں گے کہ اُس اللہ کی فتنہ جو ہمارا رہے،

مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٧﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى النُّفُسِ أُمُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ

نہ تھے ہم شرک کرنے والے ۵۳۳ دیکھو کیسا بھوٹ باندھا اُنھوں نے اپنے فشوں پر اور گم ہو گئیں ان سے

وَايُوَاللَّهُ انا بِمُحَمَّدٍ اشْدُ مَعْرِفَةً مِنِي بِاَبِنِي لَانِ لَا ادْرِي مَا احْدَثَتْ امْهَ رُوحُ الْمَعْانِي
۳۳۳ یہاں کفار کی دو ہری غلطی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بے سر و پایاتیں جن کے متعلق ان کے پاس کوئی
ویل نہیں ان پر تو اخیں ملکم نہیں ہے مثلاً اپنے بُنوں اور بعوْدِ وُلِنَ کو خدا کا شرکیں ماننا۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرنا۔
مادہ رُوح کو قیم تھیں کرنا۔ ازندگی کے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا صبور کرنا اور جن چیزوں کے
متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہیں ان کا انکار اور اس انکار پر اصرار۔ مثلاً توحید، قرآن کریم، رحمتِ عالم،
قیامت وغیرہ۔

۵۳۳ قیامت کے دن ان کی ذلت اور رُسوَانی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ ان سب منکروں، هشرکوں اور سرکشوں کو ہم
اپنے دربار میں لا کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تھا رے نبیوں جن کو تم خدا کا شرکیں بنایا کرتے
تھے۔ آج ان کو بلا و تاکہ وہ ہمارے عذاب سے تھیں نجات دلائیں۔

۵۳۳ فتنہ کا الغوی معنی پر کھانا اور آزمائش کرنا ہے۔ قادة نے کہا کہ یہاں فتنہ سے مُراد عذر اور بہانہ ہے مقصود ہے
کہ جب میدان حشر میں اس مالکِ حقیقی کے دربار میں اُنھیں ملپیں کیا جاتے گا اور وہ غصب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^{٢٤} وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِرُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

جو افترابازیاں کیا کرتے تھے ۲۴ اور کچھ ان میں سے ۳۳ میں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور ہم نے ڈال

قُلُوبُهُمْ أَكِلَّةٌ أَنْ يَفْقِهُوهُ وَفِي أَذْانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا فَلَمْ

دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے تاکہ نہ سمجھیاں وہ اسے اور ان کے کافلوں میں گرانی ہے اور اگر وہ دیکھ لیں ۳۳ ہر ایک

اور ان کے بتوں، معبدوں اور دیلوی دیلویاں کا کہیں نام تک نہ ہو گا۔ تو جب ان سے سابقہ سوال پوچھا جاتے گا تو مارے چیرت و درماندگی کے کوئی جواب نہیں آتے گا۔ اس وقت وہ انکار اور خجوبت کا سہارا لیں گے اور صفات صاف کہہ دیں گے کہ آئے ہمارے معبود بحق! آئے ہمارے پالنہاڑا ہمیں تیری کہریانی کی قسم ہم نے تو بھی شرک کیا ہی نہیں۔ ہم تو تیرے بغیر کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں۔

۳۴ آسے میرے رسول! ملاحظہ ہو ان کی بے بسی کا عالم! ساری عمر جن کو پوچھتے رہے، جن کی بچے بولتے رہے جن کی وجہ سے آپ کوستایا۔ اذیتیں پہنچائیں آج ان سے دست بردار ہو رہے ہیں۔ ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ قیامت میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے حسٹناک انجام کے ذکر سے مطلوب یہ ہے کہ لفڑا آج ہی ان کی نیت حرکات سے باز آ جائیں۔ آج ہی شرک سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے اعتراض کر لیں۔ ورنہ قیامت کے دن پیشان ہوتے تو اس کا کیا فائدہ ہو گا۔

۳۵ یہیں پہلے کہی بار مذکور ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا اور دلستہ اس سے اعراض کرنا رہتا ہے تو اس کا طبعی تجھہ یہ نکلتا ہے کہ (بلور سنزا) نور حق کو دیکھنے والی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے اور از حق کو سنبھلنے والے کان بھرے ہو جاتے ہیں۔ اور حق کو سمجھنے کی وقت سے ول محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے۔ پہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے کافلوں کو بھرہ کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس محرومی کا سبب تو ان کا اعراض اور انکار ہے لیکن سبب پر سبب کا ہوتا پر اثر کا مترتب کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اسی کا فعل ہے۔ اس لیے سبب اور موثر کی بجائے ان کو خود ذات باری کی طرف منسوب کر دیا اور کیونکہ دوسرے متعدد مقامات پر اس کی تصریح ہے اس لیے انسان کا مشتبہ نہیں۔

۳۶ یہ پہلی بات کی توضیح ہے کہ آئے جیبیں! آپ انھیں لاکھ مجھنے دکھائیں۔ روزِ روشن کی طرح حق نمایاں کر دیں یہ ایمان لانے کے نہیں۔ انھوں نے تو اس صلاحیت کو ہی ضائع کر دیا۔ وہ استعداد ہی کھودی بوجتی کو بقول کرنے والی ہوتی ہے۔

أَيَّتِهِ لَا يُؤْمِنُوا هَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ كَيْمَادُونَكَ يَقُولُ إِلَّا نَحْنُ

نشانی بھی تو نہیں عالم لئیں گے ان کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب جا ضریوں ^{۳۷} میں آپ کے پاس بھجوڑتے ہوئے آپ سے سفر کرتے ہیں وہ لوگ

كَفَرُوا إِنْ هُنَّ أَلَا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ^{۲۵} وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ

جھنوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ (قرآن) مگر بھجوڑتے قصے پہلے لوگوں کے اور وہ روتے ہیں نہ اس سے اور

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا نَفْسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^{۲۶} وَلَوْ

دُور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو اور وہ (اتنا بھی) نہیں سمجھتے اور اگر

تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى التَّارِفَةِ لَوَا يَلْيَتْهَا نَرْدٌ وَلَا نَكْنَبَبَ يَلْيَتْ

آپ دیکھیں جب فہرستے یہے جائیں کے آگ پر تو کمیں کے آے کاش! اب کسی طرح ہم اٹما دینے جائیں تو (پھر) بخیں جھٹپٹایں کے

^{۳۹} نے نظریاتی ایک شخص نے ایران کی سیاحت کی۔ وہاں سے رسم و اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لایا۔ اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مرے لے کر انھیں پڑھ کر سنا یا کرتا تھا۔ اسے ڈاہمندیدہ خیال کرتے ہوئے ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سننے کی خواہش کی حضور سرور عالم میں پڑھ کر سنا یا ابو سفیان اور ابو جہل نے نظر سے پوچھا کیسا پایا؟ وہ ناسمجھ کہنے لگا کہ بس یونی ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی افسانے ہیں جیسے میں تھیں سننا یا کرتا تھا۔ چند الفاظ:- ایک نہ اس کا واحد کنان ہے اس کا معنی پرداہ ہے و قرب عین شقل یعنی ساعت کی گرانی۔ اساطیر مجمع ہے لیکن اس میں بہت اختلاف ہے کہ اس کا واحد کیا ہے۔ بیچاج نے اس کا واحد اسطار۔ ابو عدیدہ نے اسطار، اخشش نے اسطورہ بتایا ہے۔ اور بعض ائمہ لغت کی راستے یہے کہ یہ ایسی مجمع ہے جس کا واحد نہیں۔ جیسے مذاکیر۔ اب ابیل وغیرہ (قرطبی)

^{۴۰} نہی کا معنی ہے وہ کہا اور نائی کا معنی ہے دُور کرنا۔ النہی الزجر والنائی البعد یعنی کفار کی یہ حالت ہے کہ خود بھی دعوت حق قبول نہیں کرتے اور دُوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس طریق کار سے وہ اپنی دُنیا و آخرت ہی بر باد کر رہے ہیں دین کی ترقی کو نہیں روک سکتے۔

رَبَّنَا وَنَحْنُ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَ الْهُمَّ قَاتَنُوا يُخْفُونَ

اپنے رب کی نشانیوں کو اور تم ہو جائیں گے ایمانداروں سے بلکہ عیاں ہو گیا ان پر اسے جسے چھپایا کرتے تھے

مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُ وَالْمَانُهُوَاعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِّبُونَ ۝

پہلے اور اگر انھیں واپس بھیجا جاتے (جیسے ان کی خواہش ہے) تو پھر بھی ہی کہیں جس سے وہ گئے تھے اور بے شک وہ

وَقَالُوا إِنَّ هَيَّ إِلَّا حَيَا تُنَا الْدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَعْوِثِينَ ۝ وَلَوْ

جھوٹیں اور کہتے ہیں ۲۳ کوئی زندگی بخوبی ماری اس دنیاوی زندگی کے اور تم نہیں اٹھاتے جائیں گے (قبوں سے) اور اگر

تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا إِلَى الْحَقِّ قَالُوا بَلِّي وَ

آپ ۲۴ دیکھیں جب ہکھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضوریں اللہ فرماتے گا کیا یہ (قبوں سے اٹھنا) حق نہیں وہیں مجھے شک (نہ ہے)

۲۵ پہلی آیت میں بتایا کہ فارکو جہنم کے کنارے ہکھڑے کیا جاتے گا اور اس کے دکھنے ہوتے انگاروں اور پکتے ہوتے شعلوں پر ان کی نظر پڑے گی تو اوسان خطا ہو جائیں گے اور ساری خوت اور غرور کا فور ہو جاتے گا تو انتہائی حسرت سے یہ آرزو کریں گے کہ کاش! انھیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع ملے تو پھر اللہ کے رسول کی ہرگز تکذیب نہ کریں بلکہ سچے دل سے اُس پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں دلوں کے اسرارہماں جانش والاخدا فرماتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریض کاری کی باتیں ہیں۔ ان کی فطرت ایسی مسخر ہو چکی ہے کہ اگر انھیں بفرض محال پھر دنیا میں بھیجا جاتے تب بھی وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اب یہ جو اتنے بخلے مالش بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے راز افشار کر دیتے گئے۔ ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی بھل گئی اب اس کے علاوہ انھیں کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔

۲۶ ان کی کجریوی اور غلط کاری کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انھیں قیامت، بزماء و سزا اور جنت و دوزخ پر امامان نے تھا۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ زندگی میں یہی دُنیوی زندگی ہے۔ اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں جس میں اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوتا ہے اس لیے وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی مگر اہمیوں میں منہماں تھے۔

۲۷ آج تو بے شمار و لائل سُنْنَة اور سُجْنَة کے باوجود یہ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے وہ منظر ان کے لیے کتنا ہونا کہ گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضوریں بیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے گا کہ اب بتاؤ قیامت کے بیان ہوتے کی یو جمیرے رسولوں نے تھیں دی تھی سچی تھی یا نہیں۔ اس وقت تسلیم کریں گے لیکن اس روز کا تسلیم کرنا کچھ غیرینہ ہو گا۔ اس وقت ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جاتے گا اور جہنم میں پھینک دیتے جائیں گے۔

رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

ہمارے بے کی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب سچھو عذاب بسبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے بے شک خسارہ میں رہے گے۔

لَكُمْ وَأُولَئِكُمُ اللَّهُ حَقٌّ إِذَا أَجَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِنُونَا

وہ جھوٹ نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات (کی نہیں) کو۔ یہاں تک کہ جب آگئی ان پر قیامت اچانک بولے ہائے افسوس ہے۔

عَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ الَا

اس کو تماہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں ۶۳ء اور وہ اٹھاتے ہوتے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر ۶۷ء اے

۶۲ء ایک فرض ناشناس طالب علم جو اس غلط فہمی میں بدلنا ہو کہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اور اپنا سارا تعلیمی سال کھیل کوڈ اور عیش و عشرت کی نذر کر دے۔ اچانک جب اسے بتایا جائے کہ میاں صاحبزادے اکل آپ کا امتحان ہے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ بڑا س کے خرمن ہوش بیکھی بن کر کونڈے گی۔ اور وہ سال بھر کی غفلتوں پر اپنے آپ کو سنبھل لے گا۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے اس سرسریگی اور پریشانی کا جس سے ایسا شخص دوچار ہو گا۔ جو یہ سمجھتے ہوتے ساری عصر داد عیش دیتا رہے کہ قیامت کا دن آتے گا ہی نہیں اور پھر اسے اچانک پکڑ کر اپنے گزشتہ اعمال کی حساب دہی کے لیے بارگاہ رب العزت میں کھڑا کر دیا جائے۔

۶۳ء حضرت منادی حقیقی نہیں صرف کثرت حضرت کاظما کے لیے اسے منادی بنا یا گیا جیسے یا للعجب یا للرخاء (قرطبی) ۶۴ء عرب کہتے ہیں فی طفلان الی الماء: فلاش شخص پانی کے گھاٹ یا چمی کی طرف سب سے پہلے چلا گیا۔ اسی سے ہے آنافرطکو علی الحوض: یہ تم سے پہلے وضن کوثر پر پہنچ جاؤں گا۔ (حدیث نبوی) فرط اسی سے باب تقییل اور متعددی ہے۔ اس کا معنی ہے دوسرا کو آگے کر دینا اور خود پیچھے رہ جانا۔ اسی مناسبت سے فرطنا کا مفہوم یہ تو کہ رضاہ الہی کے حصوں میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ اسی لیے یہ لفظ تقصیر اور کوتاہی کرنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

۶۵ء گناہوں کا بوجھاں کی پیٹھ پر لادنے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور انہیں گنگاروں کی پیٹھ پر لاد دیا جائے گا۔ یا یہ بطور مجاز تشبیہ کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ احسان گناہ اور نہامت ان پر مسلط ہو گا اور فرط نہامت سے ان کی یہ حالت ہو گی جیسے کوئی بھاری بھرم بوجھاں پر لاد دیا گیا ہو اور وہ اس کی گرانی کے پیچے دے چلے جا رہے ہوں۔

سَاءَ مَا يَرِزُونَ وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ طَلَّارٌ

کتنا بڑا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے ہو رہیں۔ اور نہیں ہے دُنیا کی زندگی ۴۸ مگر کھیل اور تماشا اور بے شک آنحضرت

الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّٰهِ مَنْ يَتَفَقَّدُ افْلَاتُ عَقْلُونَ قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهٗ لَيَعْرِزُكُمْ

کاگھر بہتر ہے اُن کے لیے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں تو کیا تم (اتنی بات بھی) نہیں سمجھتے رائے حبیب اہم جاننے میں کوئی بھی عکری

الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكِيدُونَ كَمْ وَالَّذِينَ طَلَّمُوا بِأَيْمَانِ اللَّهِ

ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہ رہے ہیں تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو بلکہ یہ ظالم (در اصل) اللہ کی آیتوں کا انکار

يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُلِّ بَنَتْ رَسُولٌ مَنْ قَبْلَكَ فَصَابَرَ وَاعْلَى مَا

کرتے ہیں ۴۹ اور بے شک جھٹلاتے گئے رسول آپ سے پہلے نہ تو انہوں نے صبر کیا اس

۴۸ زندہ دونوں رہتے ہیں مومن بھی اور کافر بھی لیکن ان کی زندگیوں میں زین و آسمان کافر قبیلے اور اسے بڑی عمدگی سے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: هذہ حیاتۃ الکافر لِلّٰهِ یعنی یہاں غرور و باطل

فاما حیاتۃ المؤمن فتنطیوی علی اعمال صالحۃ فلا تکون لهوا و لعبا: ”لہو و لعب کافر کی زندگی کا پچھڑا ہے

کیونکہ وہ قیمتی لمحے غرور و سخوت اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے بُری نیز ہوتی ہے۔

اس یہی وہ لہو و لعب نہیں ۵۰ یہ اور بات ہے کہ آج ایمان کے بشیر و دعوےے داروں کو اس فرق کا احسان ہی ہو۔

۵۱ اس کے دو طلب بیان کیے گئے ہیں جنہوں نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود کچھ نہیں کہا کرتے تھے بلکہ

اللہ تعالیٰ کے رسول اور بنی ہرونے کی حیثیت سے ہی ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اس یہی حضورؐ کی رسالت کا انکار اور تنکیب

گویا آیات الٰہی کا انکار اور تنکیب ہی بھتی۔ دوسرے مطلب یہ ہے کہ وہ حضورؐ کو تو صادق اور راست گفتار یقین کرتے

تھے۔ جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ حضورؐ سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک

مُسلم ہے لیکن یہ پیغام جو لے کر آپ آتے ہیں ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ وکان ابو جہل یقول: مانند بک

لانک عن ناصادق و اندمان کذب ماجھننا بہ (کشاف)

۵۲ سُنْنَتِ الٰہی یہی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے مصائب کے پھاڑھن کے علمداروں پر ٹوٹتے رہیں

اور وہ صبر و اولو العزمی سے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ حادثات کے طوفانوں میں بھی شمع توہید کوہر قیمت پر وہ

روشن رکھیں حضورؐ کیم علیہ الصلوٰۃ والتسیل کو کفار کے کفر و غناد سے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کے رحیم و شفیق دل کو

كُذِّبُوا وَأُوذِّفُوا حَتَّىٰ أَتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر بیان نہ کر آپ پنجی اخیں ہماری مدد اٹھے اور نہیں کوئی بدلتے والا اللہ کی باتوں کو

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ بَيْنِ أَيْمَانِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَيْمَرْ عَلَيْكَ

اور آپ ہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی پچھے خبریں اور اگر گواہ ہے آپ پر ان کا حق سے

إِغْرَاصُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا

روگداہی کرنے ۲۴ تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کرو کوئی سرناگ زمین میں یا کوئی سیڑھی

فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِأَيْمَانِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَمَهُمْ عَلَى الْهُدَى

آسمان میں (تو اس پر چڑھ جاؤ) پھرے آؤ ان کے پاس کوئی بعمرہ (تو بھی وہ ایمان نہیں لاتیں گے) اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیا اخیں میں اسی پر

کو ادا نہ تھا کہ کوئی بھی کفر و گمراہی کے اندر ہیوں میں بھیکتا پھرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے کفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ بھی کفار کی اذیت رسائیوں پر صبر و تحمل سے کام لیا کرکیں۔

اہے جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور صبر کا حق ادا کر دیا اور کفار کی اذیت رسائیوں اور تھبب کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئی جس نے باطل کو سرٹکوں اور ذمیں کر دیا اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ اور کفر کا سارہ اتر کی احتشام خدا کی نصرت کے وعدہ کو پورا ہونے سے نہ رُوک سکا۔ اسی طرح اے میرے عجیب امیں نے آپ سے اسلام کو سرٹکنڈ کرنے کا بھو و عده فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔

۲۵ اس آیت میں دو اہم باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ میراجبوب ان گم کردہ را ہوں کے ہدایت پانے پر اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کا بس چلے تو جس مہجرہ کا وہ مطالبہ کریں وہ پیش کر دے۔ خواہ اس کے لیے زمین میں سرناگ لگانی پڑے یا آسمان پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے۔ والمراد بیان حرصہ علی اسلام قومہ و انہ لو استطاع ان یافت بآیۃ من تحت الارض او من فوق السماء علی بهار جاءے ایمانہم (نیشاپوری کشاف وغیرہ)

دوسرا بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ کسی کو اتنا مجبور و مقہور کر دیا جاتے کہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کارنہ رہے۔ کیونکہ دین صرف چند رسموم کی ادائیگی اور چند کلمات کے تنقظ

فَلَا شَكُونَةَ مِنَ الْجَهَلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الدِّينَ يَسْمَعُونَ

تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ۵۳ صرف وہی قبول کرتے ہیں ۵۴ جو سنتے ہیں

وَالْمَوْتِيْ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ

اور ان مژده (دلوں) کو اٹھاتے گا اللہ تعالیٰ پھر وہ اُسی کی طرف لوٹائے جائیں گے ۵۵ اور بولے کیوں نہیں آثاری کئی

عَلَيْهِ أَيَّهُ مَنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ أَيَّهَا وَ

ان پر کوئی نشانی ان کے بَت کی طرف سے ۵۶ آپ فرمایتے ہے شکل اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہا تھے کوئی نشانی

کا نام نہیں بلکہ یہ وہ ہمگیر القلب ہے جو روح، قلب اور شعور و احساس کی بُرپانی دنیا کو زیر و ذر کر کے نتیٰ دنیا تعمیر کرتا ہے ۵۷ اور یہ انقلاب فقط اُسی وقت روپ زدہ ہو سکتا ہے جب کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس نظریہ حیات کو قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کوئی خاص دین اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر چہاپیں تو سب بودزو بلال ۵۸ جائیں لیکن ایسا کیا نہیں جاتا۔

۵۹ بعض کے نزدیک اس آیت کے مخاطب حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن نبی کامد عیینہ نہیں کہ حضور ایسا کر رہے تھے اور آپ کو منع کر دیا گیا بلکہ کسی چیز سے اجتناب اور پہنیز کی تائید کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا جاتا ہے چنانچہ علامہ نظام الدین نیشاپوری رقم طراز ہیں۔ فہذا النہی لا یقتضی اقدامہ علی مثل هذہ الحالة لکنہ یعنی التغليظ (نیشاپوری) اور بعض علمائی راستے یہ ہے کہ یہاں خطاب اُمّت کے ہر فرد کو ہے اور علامہ الجیان نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں: - والذی اختارہ ان هذہ الخطاب لیس للرسول فانما ذلک للسامع فالخطاب والنهی فی فلاتکوشن للسامع دون الرسول (بجمحیط) یعنی میرے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ یہاں خطاب حضور علیہ السلام کو نہیں بلکہ ہر سُنّۃ والا مخاطب ہے۔

۶۰ اب ان کے ایمان نذلانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو قبول تو اس وقت کریں جب وہ حق کی آواز کو سُنیں لیکن انھوں نے لگاتار انکار سے ان کا نوں کوہی بہ و کر دیا ہے جو حق کی آواز سن سکتے ہیں تو وہ اس حالت میں ایمان کیونکر لاتیں۔

۶۱ کیونکہ ان کے دل مژده تھے اس لیے ان کو مژده کہا گیا۔

۶۲ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے یعنی اس ریگ نامیں دریا بننے لگیں چشم زدن میں یہاں سربز و شاداب بنا

لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^{٣٣} وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيرٌ

لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے اور نہیں کوئی رجائز، چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ

يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْتَلَّا كُمْ فَإِنَّ طَنَافَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے مگر وہ امتیں ہیں تھاری مانند کہے نہیں نظر انداز کیا تم نے کتاب میں کسی چیز کو

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ^{٣٤} وَالَّذِينَ كُلُّ بُوْلَابِيَتْنَا صَمَمْ وَبَكْمَهْ

پھر اپنے رب کی طرف اٹھاتے جائیں گے اور جنہوں نے بھٹلایا ہماری آیتوں کو (توہہ) بہرے اور گونے ہیں

فِي الظَّلَمِ إِنَّمَّا يُشَانِ اللَّهُ بِصُلْلَهُ وَمَنْ يَشَاءْ يَعْلَمُهُ عَلَى صِرَاطِ

اندھیوں میں (سرگردان ہیں) جسے چاہے اللہ تعالیٰ مگراہ کر دے اسے اور جسے چاہے لگا دے اسے سیدھے

مُسْتَقِيمٍ^{٣٥} قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ السَّاعَةُ

راسہتہ پر آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو ۱۵۸ اگر آتے تم پر اللہ کا عذاب یا آجائے تم پر قیامت کیا اس وقت

لہلہہ نے لگیں اور ان میں ندیاں روں ہوں آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی طکڑا اگر دیں وغیرہ وغیرہ اور یہ مطالبے قبول حق کے لیے نہ تھے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعد نہیں کہ جو تھارا مطالبہ ہے اسے پورا کرو یا جانتے لیکن اس کی حجت کے خلاف ہے۔

۱۵۸ اسے ملکرین حق بحق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امہتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے اگر الگ قانون بنادیتے ہیں۔ ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرمادیا ہے۔ ان کی ضروریات کے مطابق انھیں مختلف قسم کے اعضاء مرجمت فرمادیتے ہیں جس خطرہ زمین میں اور جس آب ہو ایں انھیں زندگی بس کرنا ہے ان کی کھال، ان کے بال، ان کے جسم کی ساختت میں ان کی کمال رعایت ٹھوڑا کھی لگتی ہے۔ پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شور اور سمجھ عطا کی جاتی ہے۔

۱۵۸ ارایتکو کا فقط تحقیق طلب ہے جمہور علماء لغت کے نزدیک اس کا معنی ہے اخباروںی (محیجہ بتادو) اور اس کی ترکیب میں متعدد اقوال منقول ہیں میں ان میں سے صرف ایک قول ہی فقل کروں گا جو واضح ترین ہے اور اکثر علماء لغت

أَغْيَرُ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٤﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ

اللَّهُ كَسَاكِسِي أَوْ رُوكَارُوْگَے؟ (بِتَاؤ) اگر تم پسچے ہو بلکہ اسی کو پُکارو گے

فَيَكُشِّفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْوُنَ مَا شَرِّكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ

تو دُور کر دے گا وہ تکلیف پُکارا تھام نے جس کے لیے اگر وہ چاہے گا اور تم بھلا دو گئے ہیں تم نے شر کیٹا رکھا تھا اور بے شک

نے اسے پسند فرمایا ہے۔ ت ضمیر فاعل ہے اس کے بعد جو گہر ہے وہ حرف خطاب ہے اور محض ضمیر فاعل کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ فاعل کے واحد، تثنیہ اور مجمع ہونے کی صورت میں کہ کسی شکل بدلتی رہے گی یعنی واحد کے لیے صرف "ک" تثنیہ کے لیے "کما" اور مجمع کے لیے "کو" ہو جائے گا۔ اور ت بضم ضمیر فاعل ہے وہ تینوں حالتوں میں مفتوح رہے گی۔ اس میں تغیرت ہو گا۔

پہنچنے کیلئے کریم کے بعد اب آیت کے مفہوم میں خوف فرمائیے۔ ارشاد ہے کہ جن بُتوں اور دیلوی دیلوں توں کی تم پوچھائیا کرتے ہو اور جھیں تم نے خدا یقین کیا ہو اے اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو طالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارا کر وجب اللہ تعالیٰ کا عذاب تھیں اپنی گرفت میں لے لے، ماں یوسی کا گھب انہیں اچھا جاتے۔ اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جاتیں۔ اُس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پی ٹھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دُور ہو جاتی ہے۔ اور تم بھی اسی نولائے حقیقی کو پکارتے ہو اور اسی کی باڑگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو۔ توجہ صدیقت کے ان سکینیں محوں میں باطل خداوں کی خدائی کا طلسہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اسی قبلہ ناجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے تو پھر اس سچے اوہ حقیقی خدا و نہ تعالیٰ کو پھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا سلیمان کرنا کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقلمندی ہے۔ پنچا چھاماً المفسرین ابن حجر العسقلانی ہیں:-

وَتَاوِيلُ الْكَلَامِ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُوا عَالِعَادُ لِيَنْ بِاللَّهِ الْوَثَانُ وَالاَصْنَامُ اخْبَرُونِيْ انْ جَاءَكُو اِيَها
الْقَوْمُ عَذَابُ اللَّهِ - اَوْ جَاءَتُكُمُ السَّاعَةُ اَغْيَرُ اللَّهُ هُنَاكَ تَدْعُونَ اَوْ لَيْ غِيرَهُ مِنَ الْهَمَّ تَضَرَّرُونَ -

ترجمہ:- آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مٹھے! آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بُتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ آئے قوم مجھے بتاؤ کہ اگر تم براللہ کا عذاب آجائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اور اپنے خداوں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ آیت مشترکیں کو لا جواب کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں تو بُتوں کی عبادت کیا کرتے اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب طالنے کے لیے دعا میں کرنے لگتے۔ (القرطبی)

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخْدُنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعْلَمُ

بیچھے ہم نے رسول ۵۹ کی طرف آپ سے پہلے (جب بخوبی نے سکرشنی کی) تو ہم نے پکڑ لیا انھیں سختی اور تکلیف سے

يَتَضَرَّرُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَاتِ حَرَقَّةٍ وَلَكِنْ قَسْتُ قُلُوبَهُمْ

تاکہ وہ گرکٹرا تین توکیوں ایسا نہ ہو اک جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو وہ (توہہ کرتے اور گرکٹرا اتنے میکن سخت ہو گئے ان کے دل

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۴۷ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَكَرْ رَوَاهُمْ

اور آگراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کیا کرتے تھے پھر جب بخوبی نے بخلادیں وہ فیجنیں جو انھیں

فَتَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُتْهَمُوا

کی کہی تھیں بخوبی فیتنے ہم نے ان پر دروانے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انھیں

۵۹ ان تین آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو مگر اسی کی دلدل سے نکال کر صراحت سنتیقہم برپا کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور ساختہ ہی بتایا گیا کہ جو قوم کسی طرح قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انھیں آیات الہی سنائی جائیں اور دلالت و برائیں سے ان کو راہ راست پر لایا جائے سلیم الطبع لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے اور جو لوگ اس سے ہدایت پذیر ہیں ہوتے انھیں مصائب اور تنکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں اور نافرمانی اور سکرشنی سے تاب ہو جائیں اور اگر اس طرح بھی وہ بازنہ آئیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے بخوبی دیتے جاتے ہیں۔ ہر چیزی کفر اولی ہو جاتی ہے اور وہ اس غلط فہمی میں بتملا ہو جاتے ہیں کہ عیش و عشرت کا یہ دو رکھنی ختم نہ ہو گا۔ بجاتے اس کے کروہ اپنے مالک حقیقی کے شکر گز اور بندے بن جائیں جس نے ان کی تنگی کو فراخی سے بدل دیا اور ان بے آب و گیاہ ریگاں روں کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا وہ اٹلٹا کھلنے لگتے ہیں۔ اور اس نایا نیدار سرور و نشاط میں وہ سب کچھ بخوبی جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ غصب خداوندی کی بھلی گرتی ہے جو انھیں اور ان کے سارے متاع حیات کو دم بھر میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔

اَخْذَ نَهْمٌ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝ فَقُطِّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

دیا گیا تو ہم نے پکڑ لیا اُنھیں اچاہاں اب وہ نا ایمید ہو کر رہ گئے تو کاٹ کر کھو دی گئی جڑ اس قوم کی بیجیں نے

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قُلْ اَرَعِيهِمْ اِنْ اَخْذَ اللَّهُ

ظلما کیا تھا اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پورا دگار ہے مارے بہمان الوں کا۔ آپ فرمائیے بھلایہ تو بتاؤ کہ اگر اے لے لے اللہ تعالیٰ

سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ

تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگادے تمہارے دلوں پر تو کوئی خدا ہے اللہ کے سوا

يَا تَعَيَّنُكُمْ يَا اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْ فَالْاِلَيْتَ تُمْ هُمْ رَيْصِدُ فُونَ ۝

بولا دے تھیں یہ چیزیں؟ ملا جھٹہ ہو کس کس رنگ سے ۴۱ نہم بیان کرتے ہیں (توحید کی) دلپیش پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں ۴۲

۴۳ خاطم قمیں جن کی چیزہ دستیوں سے اللہ کی مخلوق تنگ اپنی ہوتی ہے جب تباہ و بر باد کردی جاتی ہیں تو ہر طرف اعلیٰ ان اور آرام کا سالش لیا جاتا ہے۔ اور واقعی وہ محمر اس مقابل ہے کہ مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ اپنے رب کیم کی حمد و شنا کے گیت کا ہیں جس نے ان کی بے کسی اور بے بسی پر ترس کھا کر ان کو ان جا بڑا ملول کی قید غلامی سے نجات بخشی ۴۴ نے اللہ تعالیٰ اُن شرکیں کے عقیدہ کی بے سرو بیا کو ایک اور طریقہ سے واضح فرمادی ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کو حکم دیتے ہیں کہ ان بے دقوں سے دریافت فرمائی کے اگر اللہ تعالیٰ تھیں انہا اور بہرہ کر دے اور تمہارے دلوں پر نغلظت کے پر دے ڈال دے اور سمجھنے اور سوچنے کی وقت سلب کر دے تو بھلا بتاؤ تمہارے یہ خواجہن کی قم تو جا کیا کر رہتے ہو ان میں سے کسی میں ہمہت ہے کہ وہ تھیں یہ چیزیں عطا کر دے۔ اور اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر معبوٰ و حقیقت کو چھوڑ کر ان باطل اور عاجز چیزوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقلمندی ہے کہتنی واضح اور ضبط دلیل ہے جس سے ہر دن اور را عالی، عالی اور عارف یکساں طور پر پدراست کی روشنی حاصل کر سکتا ہے۔

۴۵ قرآن کا اسلوب استدلال اُگتا دینے والا نہیں بلکہ اس میں وہ زنگینی اور تنوع ہے کہ طبیعت ہر بار ایک نا لطف محسوس کرنی ہے اور ایک نتی لذت سے سرشار ہوتی ہے کبھی عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں کبھی تاریخی شواہد مذکور ہوتے ہیں کبھی اپنی رحمت کا مژده سُنایا جاتا ہے اور کبھی اپنی ناراضی اور غضب کے انجام سے ڈالایا جاتا ہے۔ و تصریف الایات الاتیان بھا علی جہات من اعذار و اندزاد و ترغیب و ترهیب و نخوذ لک (قرطبی)

۴۶ صدق کا معنی ہے اعراض کرنا ہمہ پھیر لینا۔ شعر یاں بھی استبعاد کے لیے ہے یعنی چاہیئے تو یہ تھا کہ اس طرح کے

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابٌ مِّنْ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ

آپ فرماتے یہ تو تباہ اگر آجائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلّا تو کون

يُهَلَّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ^{٤٧} وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

پلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے اور ہم ہمیں بیمحنت رسولوں کو ۶۲ تک

مُبَشِّرُونَ وَمُنذِرُونَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَأَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ

خوش خبری سنانے کے لیے اور (عذاب) ہم سے فڑانے کے لیے۔ تجویز ایمان ۶۳ لائے اور اپنے آپ کو سواریا تو کوئی خوف نہیں ہو کا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^{٤٨} وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْهُمُونَ الْعَذَابُ

انھیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جھنوں نے بھٹکایا ہماری آئیتوں کو تو پہنچے کا انھیں عذاب

يَمَّا كَانُوا يَفْسُدُونَ^{٤٩} قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَانَةُ اللَّهِ

بوجہ اس کے کوہ حکم عدوی کیا کرتے تھے آپ فرماتے۔ کہ میں ۶۴ نہیں کہتا تم سے کہیر سے پاس اللہ کے خزانے ہیں

روشن دلائل سے متاثر ہو کر وہ دین حق قبول کرتے مگر یہ تو اٹھا اس سے منہ پھیرا رہے ہیں اور روگردانی کر رہے ہیں۔ کیا اٹھی سمجھ کے ہیں یہ لوگ۔

۶۴ میں انبیاء رکرام کی تشریف آوری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہ نئے عجائبات کا مظاہرہ کرتے رہیں اور جیسی کچھ سی نئے فرمائش کی اس کی بجا آؤ ری میں لگے رہیں۔ بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے کہ نیکوں کاروں کو رحمت الہی کا مفرودہ سنائیں اور بد کاروں اور رو سیاہوں کو اس کے عذاب ایم سے ڈرائیں۔ تاکہ نیک اور نیک ہو جائیں اور بد کار اپنی بدی اور گمراہی سے باز آ جائیں۔

۶۵ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اصلاح کا تعلق اعمال سے یعنی جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اعمال بھی نیک ہیں۔ ان کو اندر پیش ہاتے سود و زیاد سے بچاتے ہے دی گئی ہے۔ نہ گزرے ہوتے وقت پر وہ ملوں و غمگین ہوں گے اور نہ آئے والے حالات کے بارے میں انھیں کچھ تشویش ہوگی۔

۶۶ کفار کملہ کے نزدیک زندگی فقط یہی ذنبوی زندگی تھی۔ ان کی ساری کدو کاوش اور وڑپڑھوپ کا تھا عاد و لوت، غرّت اور وقار کا حصوں تھا۔ وہ اسی ادھیطہ بن میں اپنے دن گزارتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کیسے بن جائیں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ اتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى

اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں نہیں پیری کرتا میں تحریکی ہی جو بھی جانتی ہے

ان کی راتیں اسی بیج و تاب کی نذر ہوتیں کہ وہ کس طرح اپنے حریف کی عزت کو خاک میں ملا کر اپنے جاہ وجہاں کا پرچم ہر لئے علاوه اپنی شرف انسانی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔ وہ خود اور ان کے ارادگرد پستے والے انسان سن سے ان کو عمر بھر کا واسطہ پڑا تھا اسی طرح بھی وحشی درندوں سے بسترہ تھے۔ بھلاکہ انسان جس کے ہاتھ غربتوں اور مسکینوں کو لوٹتے وقت نہ رہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے وقت زمان پیسیں جن کے کان زندہ درگور ہوتے والی بچیوں کی جگہ دوز آہ و فناں سن رہے ہوں اور ان کے دلش سے مس نہ ہوں۔ رہنمی اور غارت گری جن کا پیشہ ہو اور جو بازاری اور شراب خوری جن کی تفریخ طبع کا سامان ہو۔ بد کاری اور بد معاشی جن کا روز کا مشغله ہو وہ کوئی شریعت پر ہی نہیں ہے سکتا۔ انسان کے متعلق ایسا تصویر قائم کرنے میں وہ معدود بھی تھے۔ کیونکہ انسان نام کا بوجا لوزار اخیں ادھر ادھر دھکائی دے رہا تھا وہ انہیں لعوبیات اور خرافات کا مجسمہ تھا۔ اس لیے ان کو یہ بات سمجھانا آسان نہ تھا کہ انسان بھی منصب راست پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذہنیت تھی۔ اور اس سے بلند تر فضایں پر واڑ کرنے کی ان کے مرغ فکر میں ہمت ہی نہ تھی۔ جب رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائی ہوئے اور دعوتِ اسلام کا آغاز کیا تو یہ لوگ نادان پھوپھوں کی طرح اپنے ایمان لانے کے لیے ایسی شرطیں لگانے لگے جن سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جاتے۔ کہا کرتے، یہ ہمارے پیتے ہوئے صحرا گشتن و گلزار بنادیجئے۔ ان میں نڈیاں بننے لگیں اور پتے ابلنے لگیں اور سربراہ و شاداب کیست لمبھانے لگیں تو ہم جانیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانے سے بھیں فائدہ ہو اور اگر ہماری معاشری بدحالی جوں کی توں ہی رہے تو پھر آپ کو بنی ماننے سے بھیں کیا فائدہ؟ اور اگر یہ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کیجئے کہ بھیں بتاویا کرو کہ اس سال فلاں جیس کا بھاؤ چڑھ جائے گا تاکہ ہم اس کا ذخیرہ کر لیا کریں اور جب فرخ تیر ہو جائے تو اس کو بچ کر نفع کنائیں۔ یا ہماری پوری ہو جائے تو پور کا سراغ بتائیں لیکن یہ چیزیں بھی آپ نہیں کرتے تو پھر ہم خواہ خواہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر کیوں اپنے آپ کو بدنام اور بے آرام کریں۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ کار و بار بھی کرتے ہیں۔ بال بچے دار بھی ہیں۔ تو وہ کہتے کہ انسان ہیں۔ اور انسان (جن) قسم کے انسان سے وہ واقف تھے۔ بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ کفار کی اس بگڑی ہوئی اور اس پستہ تھیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے یہ اعلان کرایا کہ میں اس بات کا مدعی ہوں کہ نہیں آیا کہ میں تھا رے ان ریتکی شیلوں کو ہوا کر کے رشک ارادم بناؤں گا۔ خشک زمینوں میں دریا ہما دوں گا۔ اور ہر چنان سے چھے ابلنے لگیں گے میں تھا ری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا میں تو تھیں اللہ سے ملا نے آیا ہوں۔ تھا رے ویران دلوں کو بسا نے آیا ہوں۔ میں تو تھا رے گلستان حیات میں نیکی، تقویٰ، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے سداہمار بچوں کھلانے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے تو معموت نہیں کیا گیا کہ میں تھیں چھے اور جو، بھجو را اور

إِنَّ طَقْلَهُ لَمْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ طَافَلًا تَغْرِرُونَ

میری طرف۔ آپ فرمائیے کیا (بھی) برابر ہو سکتا ہے اندھا اور کتنے دیکھنے والا۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور

انگور کے بھاؤ بناوں بلکہ مجھے تو اعمال حسنہ کی عین سختیں آشنا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جن کی قدر و قیمت بازارِ محشر میں اتنی زیادہ ہو گی جس کا تم اب تصویر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ افکار کی لطافت، ارادوں کی پیچنگی اور حوصلوں کی بلندی، یہ اعمال کا حصہ کردار کی رعنائی اور اخلاقی کی پاکیزگی، یعنی کمالات اور دوسرے معجزات جن کا تم بھی میں مشاہدہ کر رہے ہو ان سب کے باوجود میں انسان ہوں فرشتہ نہیں۔ فرشتہ تو انسان کامل کی گرد را کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارے فہلوں میں انسان کا جو ٹھیکیا تصویر ہے وہ انسان کامل کا نہیں بلکہ بھٹکتے ہوئے انسان کا تصویر ہے جو نفس اور شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو کر اور مدت دراز تک اس کا گرفتار رہ کر اپنی مندنی شرف و عزت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے تم انسان کو اتنا ہجتیرہ جانو۔ اپنی قدر پہچانو۔ اور اپنے شرف خدا داد کا احترام کرتے ہوئے شیطان کے جاں سے رستنگاری حاصل کرنے کے لیے کو شش کرو نیز اس آیت سے اس شبہ کا ازالہ بھی کرو دیا جس میں اکثر ضعیف العقل لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذرا کسی میں کمال دیکھا جھٹ اس کے خدا ہونے کا یقین کر لیا۔ وہ ذات پاک اعلان فزار ہی ہے جس کے اشارے سے چاند و ڈھنڈے ہوئے۔ اور ڈوبایا ہوئا سوچ ر پھر لوٹ آیا کہ میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے غرائب یہ رے قبضہ میں ہیں۔ خود بخود جیسے چاہیوں ان میں تصرف کر دیں یا مجھے غیب کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور بغیر اللہ کے بتلاتے اور سکھلاتے میں ہر غیب کو جانتا ہوں۔ میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ کہ ان اتبیع الاما یوحی الی: جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پریزوی کرتا ہوں۔ قول اور فعل میں، علم اور عمل میں۔ والمعنی لا ادعی ان هاتیک الخزانی مفوضة الی التصرف فیها کیف اشاء استقلالاً و استداء (روح المعانی) ولست اقول انی الرب الذی لہ خزانی السموات والارض (ابن جریر) علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سارے خزانے میرے تصرف میں ہیں اور میں خود مستقلان میں جیسے چاہیوں تصرف کر سکتا ہوں۔ بخط کشیدہ و لفظ خصوصی توجہ کے سخت ہیں۔ (روح المعانی) یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں جس کے قبضہ میں آسماؤں اور زمین کے سارے غرائب ہیں۔ (ابن جریر)

اس آیت میں ایک اور نہایت اہم اور بُلْبُلیاً دی پیچنگی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ اسلام کی اشاعت کا احصار للیچ اور شعبدہ بازی پر نہیں بلکہ معرفت حق اور قبول حق پر ہے یعنی کوئی اس لالج میں ایمان نہ لائے کہ اسے فلاں جائیں جائے گی زین میں چھپا ہو اکوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فقط وہی ایمان مقبول ہو گا جو حق کوئی سمجھ کر صرف اس لیے کہ وہ حق ہے قبول کیا جائے۔

۴۷ بعض پریشان خیال لوگ اس آیت کریمہ میں غور کیے بغیر اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضور فخر موجو دات علیہ

أَنْذِرْ بِكُلِ الدِّينِ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

ڈرا نے ۶۸ اس (قرآن) سے انہیں بوجوڑتے ہوں اس سے کہ اُنھیں یا جانے کا انہیں ان کے بیٹے کی طرف اس حالت میں کہنیں

مَنْ دُونَهُ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ ۝ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ

ہو گکا ان کے بیٹے اللہ کے سوا کوئی تھا بنتی اور نہ کوئی سفارشی فتنہ (انہیں فُریٰ یا نکریہ (کامل) پرہنگا ہو جائیں اور نہ دُور ہنگا وہ انہیں بوجوڑ

يَلْعَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَّى يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ هَاءِلَيَادِكَ

جو گکار تے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام نئے طلبگار ہیں (فقط) اس کی رضا کے۔ نہیں آپ پر

فضل التحیات والتسیمات علیم میں، اختیار میں، بشری مکر و ریوں میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔ کاش! اُو، اس آیت کے ان منحصر الفاظ میں بھی تدبیر کرتے۔ قدرت نے پہلے ہی ان کا ازالہ فرمادیا ہے اور بتا دیا کہ تم میں اور میرے محبوب میں اتنا فرق ہے جتنا اندھے اور بینایا میں ہوتا ہے۔ اب خود مجھ لو کہ جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوں اور جو نہ درتے انہیوں میں بھٹک رہا ہو کیا برا برا ہو سکتے ہیں جس کی حیثیم مازاغ مقام دنی پر جو موشاہدہ ہو۔ کیا اس کی تھری دوہ لوگ کر سکتے ہیں بوجوڑ دوڑی کے جوابوں کے تیچھے سرستخ رہے ہوں۔ افلاتینقندون کے الفاظ سے یہ بتایا کہ اس آیت میں جتنا کوئی زیادہ غور و فکر کرے گا اتنی ہی اس کو سمجھ دی جاتے گی اور جو غور و تأمل نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔

۶۸ وہ لوگ جو محض تحصیب و ہبہ دھرمی سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہیں قیامت کے قائم ہونے کا خیال تک نہیں۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑتے اور آپ ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ زیادہ مبذول یکجئے بوقیامت کے آنے پر لقین رکھتے ہیں۔ بہ کام بمع قرآن حکیم ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو اس کے ڈرانے کا یہ فائدہ ہو گا کہ وہ اپنے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا۔ فان کان مسلمان اند ریتک المعاصری وان کان من اهل الکتب اند ریتیع الحق۔

۶۹ شفاعت کا بہت غلط تصویر لوگوں میں راجح تھا بہت پرست یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ بھی ہو تو ان کے بہت انہیں چھوڑالیں گے اور جس کو چاہیں گے بخشواليں گے اور یہود و نصاری اس زخم میں بدلائے ہوئے ابناع اللہ و اجابتہ ہم تو اللہ کے فرزند اور اس کے لادلے ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہی ہوں ہم بخشتے جائیں گے۔ تو اس غلط تصویر کی فقی کردی۔ اس سے انبیاء و کرام کی شفاعت کی نفع نہیں کیونکہ وہ اذنِ اللہ سے ہوگی۔ تو کویا حقیقت اللہ تعالیٰ ہی شفیع ہو گا۔

شفاعة الرسول له معنی تكون باذن الله فهو الشفيع حقیقت اذن (قرطبی)

۷۰ حضرات بلال، یاسر، خلیب وغیرہ غریب و سکین صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت شرع رسالت پر پروانہ والریث از

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ

ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی پیزہ بے
فَتَطَرَّدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ^{۵۰} وَكَنَّ لِكَفَّارَاتَهُمْ بِعَضَهُمْ بِعَضٍ

تو پھر بھی اگر آپ دُور ہیں ایغیں تو ہبہ ایسیں گے آپ بے انصاف کرتے والوں سے اور اسی طرح ہم نے الحدیث میں اسی دیا

لِيَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ نَاسٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ

بعض کو بعض تکارکہ میں راللہ رکا فراز اسلامیوں کو دیکھ کر کیا یہی حسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہم میں سے کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان دیا دہ

ہوتے رہتے تھے کفار جملی برتری کے قابل تھے ایغیں ہر گز یہی کو اڑانہ تھا کہ وہ ان غربیوں کے پاس ملٹھیں۔ پناہ چاہنے والوں نے ایک دفعہ حضور پیر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھلا بھیجا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہونا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے گرد گزاروں اور ناداروں کا ہجوم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری ہٹک ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور کے خاطرمبارک میں خیال گزرا ہی تھا کہ فو راجہ بن عیجم کے کو حاضر ہو گئے۔ اور ساری جنیا کو یہ بتاویا کہ یہ وہ بارگاہ بے کس پناہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے زرق برق لباس اور ان کی دولت و ثروت کی بنار پر نہیں لگایا جاتا بلکہ ایمان و تقویٰ کی بنابر کیا جاتا ہے۔ فتکون من الظالمین کے الفاظ سے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس طرزِ عمل پر ثابت قدم رہنے کی تائید کر دی گئی۔ فان فعلت کنت ظالموا حاشا من و قوع ذلک منه و انما هذل بیان للحاکم ولشایق ع مثل ذلک من غیرہ من اهل الاسلام (القرطبی) اگر آپ ایسا کریں تو آپ خلم کا از تکاب کریں گے۔ پناہ بخدا اکہ ایسا فعل حضور پیر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہو۔ یہ تو محض احکام الہی کا بیان ہے تاکہ حضور کے علاوہ کسی فرزندِ اسلام سے بھی ایسی حرکت صادر نہ ہو۔ ائمہ ابتداء میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غربیوں اور فقیروں کی کثرت تھی دوستمند کفار دل میں یہ سوچتے گئے کہ اگر اسلام واقعی کوئی نعمت اعظم ہے تو کیا اس کے لیے نظر انتخاب ایغیں بحالوں اور فاقد مسٹوں پر ہی پڑی۔ کیا ہم موجود نہ تھے۔ شکل و صورت، حسب و لنسب، مال و جاہ غرضیکہ ہم ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہتر تھے۔ چاہتے تو یہ تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا۔ اس لیے یہ کوئی شرف کی چیز نہیں ورنہ ان ناداروں کو عطا نہ کی جاتی۔

لَا كَمَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَاتَهُ مِنْ كَمِيلٍ اَنْ شَكَرَ گُزَارِ بَنِدُولٍ كَوْثُبَ جَانَتَاهُوْلٍ اَوْرَ مُجَھَهَ خُوبَ مَعْلُومٍ ہے كَلْمَعَتِ ایمان سے کس کو سفر فراز کرنا ہے۔

بِالشَّكِيرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاِتِّنَاقْفُلْ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ كِتَابٌ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَا يَنْهَا مَنْ عَمِلَ مِثْكُومٌ

لَسْوَعَةٌ بِمَجْهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَكَ لَا فَانَّ عَفْوَ رَحِيمٌ ٥٤

بُرَائِي نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے (اپنے آپ کو) تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسا بہت جھیٹ والا

وَكُنْ لِكَ نُقَصِّلُ الْأَيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾

نہایت لمح فرمائے الابے اور اسی طرح ہم کھلوں کر بیان کرتے ہیں آئیتوں کو تاکہ ظاہر ہو جاتے راستہ گنگاروں کا

قُلْ إِنِّي نَهِيٌّتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَلَّعَّثُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَلْ

۳۷۔ وہ مقدس گروہ جن کے شب و روز کا ہر محظی اللہ تعالیٰ کے ذکریں صرف ہوتا ہے اور ان کے دل نور ایمان سے بہرنیں ان کی مرید عزت افرانی کا سامان ہو رہا ہے یعنی کیا ہو کہ وہ پھٹے پڑانے لباس میں مبوس ہیں اور ان جوں کے علاوہ اور کوئی تحریک کھانے کو میسر نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی شان یہ ہے کہ اے مجھوب! اجت وہ تیری خدمت میں حاضر ہوں تو آپ پہنچ اخیں سلام فرمائیے اور اخیں یہ دعا دیجئے کہ تھارادین، تھاری دُنیا ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ أَمَّرَنِي إِنَّهُمْ بِالسَّلَامِ (قرطی) اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے یہی اُمّت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرماتے ہیں جنہیں پہلے سلام کرنے کا بھجے حکم فرمایا گیا ہے۔ نیز یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھولے سے غلطی کو پیٹھتا ہے اور پھر نادم ہو کر تو بکرتا ہے اور اپنے کردال کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے گناہ جائز دن تا سے اور اسی بر رحمت فرماتا ہے۔

۲۷ نادان کفار اس کو شش میں سرگردان رہا کرتے کہ دین توحید کا علم بردار اللہ تعالیٰ کا رسول بحق بھی ان مبعوثان طل
کی پیش کرنے لگے جن کے سامنے یہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کھدا الفاطمی علیہ اعلان

لَا أَتِبْعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَّتْ إِذَا وَمَا آتَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

نبیں پیروی کرتا تھا ری خواہشون کی ایسا کروں تو مگر اہوگیا میں اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں سے

فَلَمَّا نَأْتَ عَلَى بَيْتِنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَلَّ بَعْثَمٍ يَهُ مَا عَنِدِي مَا

آپ فرمائیے بے شک میں قائم ہوں ایک روشن بیل پر پسند رب کی طرف تھے اور جھلک لادیاتم نے اسے نہیں ہے میرے پاس ہے جس

تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُدُ الْحُقْقَ وَهُوَ خَيْرٌ

کی قم جلدی چمار ہے ہو نہیں ہے حکم ۴۷ کسی کام سواتے اللہ کے فرشتے بتاتا ہے حق اور وہ سب سے بہتر

کر دیں کہ میں تھا رے جھوٹ چداوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا اس خیال خام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ کیونکہ نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دو جہاں کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کی جاتے اور نہ توحید کی روشنی میلوں نے اس لغویت کے لیے کوئی گناہش چھوڑ ری ہے۔ اس لیے عقل و نقل کے خلاف ایک صریح باطل کو کیوں کراختیا رکیا جا سکتا ہے۔ آیت میں تدعون کا معنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تربیت میں یہ فرمایا ہے تدعون من دون اللہ شما پستید بجز خدا یعنی خدا کے سوابن کی قم عبادت کرتے ہو۔ آپ کے علاوہ قرطبی، روح المعانی، کشاف، زیشاپوری وغیرہم نے تدعون کا معنی تعبد دون کیا ہے؟ کوئی دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کی عبادت اور شرک ہے؟ اور کوئی دعا عبادت نہیں۔ اس کی تحقیق کسی مناسب مقام پر کی جاتے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۵۷

کے امام رازیؑ فرماتے ہیں کہ حضور اخیں ڈرایا کرتے کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو عذاب اللہ آتے گا اور تمھیں غیبت و نابود کر دے گا۔ وہ بطور مذاق کہتے کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے پھر انہار یہ ہم پر عذاب۔ جلدی کیجئے ویرکیوں کا لیہے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے کہ اے خدا! اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر زہ سرائی کے ردیں اپنے محبوب کو یہ جواب دینے کی ہدایت فرمائے ہیں کہ اے کفار جس عذاب کے لیے تم جلدی اپنی کرو رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جب چاہے گا انہارے گا اور اس وقت اس کے غضب سے تمھیں کوئی نہ بچا سکے گا۔

۴۷ ہرچیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر کام کے لیے اس نے اپنے علم ازیں میں وقت مقرر کر رکھا ہے جو وقت تم پر عذاب نازل کرنے کا اس نے متعین کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یا تیجھے کوئی نہیں کر سکتا۔

الفَاصِلُونَ^{٥٧} قُلْ لَوْأَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَى الْأَمْرُ

فیصلہ کرنے والا ہے آپ فرماتے اگر میرے پاس ہوتی تو وہ پیزیر جس کی تم جلدی کر لے ہے تو وہ بھی کافی صلہ ہو گیا ہوتا

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ^{٥٨} وَعِنْدَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور اللہ خوب جانتا ہے خالموں کو اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ

نہیں جانتا انھیں سوا اس کے ہے اور جانتا ہے جو کچھ نخشی میں اور سمندر میں ہے اسے اور نہیں گرتا کوئی پتہ

۷۷- مَفْتَحُهُمْ كَمَعْنَى خَزَانَهُ بِهِ اور مَفْتَحُهُمْ كَمَعْنَى بَخِي بِهِ۔ اگر مَفَاتِحُهُمْ كَمَعْنَى بَخِي سے۔ اگر مَفَاتِحُهُمْ كَمَعْنَى بَخِي کی جمع تَسْبِيم کیا جاتے تو آیت کامعنی ہو گا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے میں اور اگر مَفْتَحُهُمْ كَمَعْنَى بَخِي جا جاوے تو پھر آیت کامعنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب (کے خزانے) کی کنجیاں ہیں پہلی آیت میں بتایا کہ ہر قسم کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ اس آیت میں تصریح فرمائی گئی کہ علم کامل اور محیط سے بھی فقط وہی متصف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے پایاں قدر است اور بیکار علم کا مالک ہو۔ لیکن اس آیت سے سمجھنا کسی طرح درست نہیں کہ وہ کسی کو علم غیب سکھانا بھی نہیں بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی اس کی بخشش و عطا کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ اور جو کچھ اس نے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ قربیؒ لکھتے ہیں۔ فالله تعالیٰ عندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ بِيَدِهِ الْطَّرِيقُ الْمَوْصَلُ إِلَيْهِ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا هُوَ فَمَنْ شَاءَ اطْلَعَهُ عَلَيْهَا اطْلَعَهُ وَمَنْ شَاءَ جَبَهَهُ عَنْهَا جَبَهَهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَفَاضَةِ الْأَعْلَى رَسُولُهُ: يَسِيْنَ غَيْبَ كَعَلْمَ اللَّهِ تَعَالَى

کے پاس ہے اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اسی کے دست قدرت میں ہیں کوئی ان کا مالک نہیں پس اللہ تعالیٰ جس کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ اور اہمُور غیب پر اگاہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جن پر معلوم غیب کا فیضان فرمایا جاتا ہے۔

۷۸- ہے تو مُطلقاً فرمایا کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ میں ہیں۔ اس کے بعد مزید وضاحت سے اپنے علم و سیع و محیط کو میان فرمایا کہ کائنات جس کے کروڑوں حصے کا بھی متعین علم نہیں لیکن جتنا کچھ بھی تم جانتے ہو اس میں سب سے بڑی پیزیں خشکی اور تری ہیں۔ ان میں زنگار نگ اُن گنت مخلوق چھوٹی اور بڑی ساش لے رہی ہے ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے علم کی ہم سیگری کی یہ کیفیت ہے کہ روزے زین پرے شمار جگلات کے بے حساب درختوں کے گنت پتوں میں سے اگر کوئی پتہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی علم ہے۔ اور شواثیکم نہیں کے اندر ہیوں میں جماں تھاے۔

الْأَعْلَمُ بِهَا وَلَا يَجِدُهُ فِي ظُلْمٍ إِنَّ الْأَرْضَ وَلَا أَنْهَارُ
إِلَّا يَابِسٌ إِلَّا فِي

مگر وہ چانتا ہے اس کو اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندر ھیروں میں اور نہ کوئی ترزا اور نہ کوئی خشکت ہیز فٹکے مگر وہ

كِتَبٌ مُّبِينٌ^{٤٩} وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ

لکھتی ہوئی ہے روشن کتاب نامیں اور وہ وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تھیں رات کو اور جانتا ہے جو مکایا تم نے

بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَعْشَكُمْ فِي لَيْلٍ لِيَقْضِي أَجَلَ مُسَئِّلِيْهِ ثُمَّ إِلَيْهِ هُرِجُوكُمْ

دن کو پھر اٹھاتا ہے تھیں (نیند سے) دن میں تاک پوری کر دی جائے (تھاری غُرگی) میعاد قدرِ الہ پھر اسی کی طرف تھیں لوٹا ہے

تیز بین بر قی آلات بخاری بھر کم اشیا رکا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہیں۔ ان اندھیروں میں رسول کے نجع سے بھی باریک

دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو بھی جانتا ہے۔ توجیس کی بہمہ داتی کی یہ یقینیت ہو اُس کے احاطہ علم

سے بھی کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے؟

نئے ان جزئیات کا ذریعہ اب پھر عمومی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے کلمتی تہمہ کیمی کا ذریعہ ہوا ہے۔
نئے اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں علم الہی منتشر کیا گا جو موجود ہے جس پر بلا کہہ آگاہ ہوتے رہتے ہیں اسی

لہے نیند اور بیداری کا یہ سلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کا سفینہ وقت کے سمندر میں موجود سے کھیلتا، طوفانوں سے لمحت ادا کرنا۔ اس سلسلے کے بعد اپنے انتہا آتے۔ کہ پیغمبر اکابر ائمہ اکابر کو طور کر دے یہاں تک

ے ابھا، بیوووں سے چاہوں کے سامنے پرتمارڈ رہ جاتا ہے۔ اس سے یہی ایسا ہی دیدھری روایتی بھی ہے۔ حال کے ہنگامے ماضی کی گودیں دم توڑ دیتے ہیں۔ ساری والستگیاں اور دلبستگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور زندگی کی صبح

طلوع ہوتی ہے۔ انسان اپنے مالک و خالق کے حضور میں جواب دیتی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ” توفی ” کا لفظ نہ کہ معنے ہے استتا بنتا ہے اس ” الحقيقة معنی ” ہے کہ اُنہاں کو اُنہاں کا انتہا کرنے کا فتنہ کہا جائے۔

یہ مدد سے ہی میں اس بحث کا شکل ہوا ہے۔ اس کا جیسی ہی ہے، جسی پیر و پورا پوڑا سے میا۔ اسی فاعل اسیی حرکتی (یوگم) کے وقت انسان کا عقل و شعور متعطل ہو جاتا ہے۔ چلنے پھرنے، دیکھنے سننے وغیرہ کی قوتیں بے کار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے

اس کے لیے تو شی کا لفظ استعمال ہوا۔ اور موت کے وقت بھی مرنے والا کیونکہ اپنے مقررہ رات دن پورے گزار چکا ہے آت ہے اس لئے ملابھ تھا کافی استعمال ہے آس سے ترقی ادا کرتا استہ دن دار ام عبادہ والذی بنام

کانہ استوفی حرکاتہ (قطبی) تو فن کا یہ فہم خوب ذہن شین رہے تاکہ کوئی یہ بتا کر کہ تو فن کا معنی موت ہے آپ کو

ثُمَّ يُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ

پھر وہ بتائے گا تھیں جو تم کیا کرتے تھے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور

وَرُسْلُهُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدًا كُمُ الْمُوتُ تَوَفَّهُ

بھیجا ہے تم پر نگہبان اللہ یہاں تک کہ جب آجاتے تم میں سے کسی کی موت تو قبضن کر لیتے ہیں

رُسْلَنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا

اُس کی رُوح ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے۔ پھر ٹھانے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو ان کا حقیقی مالک ہے سنتے ہو

لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۝ قُلْ مَنْ يُنْجِيْكُمْ مِّنْ

اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے آپ فرماتے ہیں کون بخات دیتا ہے تھیں

۸۷ حفظۃ بحث ہے حافظ کی مقصد یہ ہے کہ انسان یہ نسبجے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے بے خبر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے تقریباً دیتے ہیں کہ ہر لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور ہر حرکت جو اس سے سزد ہوتی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرموں کو تسلیم کرنے سے الکار کرے گا تو اُس کی زندگی کا صحیفہ اُس کے سامنے رکھ دیا جاتے گا۔ گراموفون کے ریکارڈ کی طرح اُسی کی زبان ہو گی اور اعتراض جرم ہو گا۔

۸۸ اپنے مولائے برحق کی نافرمانی میں سرکش گھوڑے کی طرح سر پیٹ دوڑے چلے جاتے والے انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت جی ایہ تو فرماؤ کہ جب تھیں خشکی یا تری میں مصائب کے بادل چیزیں لیتے ہیں۔ بخات کے راستے مدد و دُبُو جاتے ہیں۔ اندھیری رات ہے۔ کالی گھٹا چارہ ہی ہے۔ طوفان اُمڈ کر آ رہا ہے۔ کشی ہمکو کھارہی ہے اور لگان یہ ہے کہ ابھی ٹوٹی ابھی ڈوبی، اُس وقت تم اُس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو۔ کس کے دامنِ رحمت میں پناہ تلاش کرتے ہو۔ دل کی گھر ایوں سے کس سے پختہ عمد باندھتے ہو کہ اب معاف کردے پھر نافرانی نہیں کریں گے اور عمر بھر ترے اس احسان کے مرہون رہیں گے۔ اور وہ مولائے کریم جب اس وقت بھی تم پر اپنا فضل و کرم فرما کر تھیں ان مصائب اور ماہوسی کے اندھروں سے نکال دیتا ہے تو تم پھر اس کو بھوول جاتے ہو۔ اور اس وحدہ لاشریک کے ساتھ تو ان کو شریک ٹھیرنے لگتے ہو۔ کیا یہی متحاری انسانیت ہے اور یہی متحاری شرافت؟ کچھ سوچو تو کہاں بھٹکتے پھر ہے ہر خلیلت سے مراد مصائب اور مشکلات ہیں۔ اہل عرب تکلیف کے دن کو یوم مظلوم کہتے ہیں۔ کرب کا معنی ہے شدید غم۔

ظَلَمْتَ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَنْجَدْنَا مِنْ

خشی اور سندر کی تاریکیوں میں جسے تم پکارتے ہو گڑا تھے بتوتے اور آہستہ آہستہ (اور کہتے ہو) اگر بخات دی اللہ نے ہمیں

هَذِهِ لَنْكَوْنَةَ مِنَ الشَّكَرِ يَنْ

اس (صیبت) سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے اس کے شکر گزار (بنے) فرمائے اللہ ہی بنجات دیتا ہے تھیں اس سے اور ہر

كَلِّ كَرِبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ

صیبت سے پھر تم شریک ٹھیراتے ہو فرمائے وہ قادر ہے اس پر کہا یہ مجھے تم

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ

پر عذاب تھارے اوپر سے یا تھارے پاؤں کے پنجے سے اور خلاط ملط کر دے

شَيْعَانَ وَيُذَيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ طُوفَانُ نَظَرٍ كَيْفَ نَصَرَفُ

تمھیں مختلف گروہوں میں اور چھاتے تمیں سے بعض کو بشدت دوسروں کی دیکھیوں کر ہم طرح طرح سے بیان کرتیں (تجھیک)

۸۲ اللہ تعالیٰ کی نافذانی اور اس کے احکام سے سرتباً کر کے انسان امن و عافیت کی زندگی بس رہیں کر سکتا۔ کبھی اوپر

سے بھی کوٹک رہی ہے موسلا دھار با راشیں سیالاب کی صورت اختیار کر کے قیامت ڈھارہی ہیں۔ تو پیں آگ اگل رہی ہیں بلنڈر پر واٹیا رے اور راکٹ، بم اور ایٹم بم پر سارے ہیں کبھی بیچے سے بارودی سرنگیں چھٹ رہی ہیں۔ آبد و لشتیاں سمندر

کی گمراہیوں سے ابھر کر جہاری بھر کم جہازوں کو اڑا رہی ہیں کہیں زلزلے آباد شہروں کو ہنڈرات میں بدلتے ہیں اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی دباچھوٹ پڑتی ہے۔ ایک قوم کے فرزند، ایک ملت

کے افراد مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں کہیں نہیں وجہ فساد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست باعث انتشار اپنوں کی عزت کو اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کار نام تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ کوئی نہیں دیکھتے۔ اپنے گھر کا حال دیکھتے جب سے ہم نے صراط مستقیم سے اخراج کیا ہے ہم کن سپتیوں میں دھکیل دیتے گئے ہیں۔ ایک نہدا۔ ایک رسول۔ ایک

کتاب اور ایک کعبہ پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر حرم فرمادے آئیں بجاہ طلاق ویس علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ فرق اور تھت کے جو لفظ آیت میں ہیں ان کی ایک اور تفسیر بھی حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فوق سے مراد خالق مخلوق ہے اور تھت سے مراد مکینے اور بد کار اہل کار ہیں۔ من فو قکم عین

الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَقْبَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمٌ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

ڈیلوں کو تاکہ یہ لوگ (حقیقت کو) سمجھ لیں اور جھٹلایا سے آپ کی قوم نے حالانکہ یہ حق ہے فرمائیے

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوَكِيلٌ طَلَكِنْ بِنَا مُسْتَقْرٌ وَاسْوَفَ تَعْلَمُونَ

نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار ہر ایک خبر (کے ظہور) کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب جان لوگے ۵۷

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِيَ أَيْتَنَا فَاعْرُضْ عَنْهُمْ حَتَّى

اور (اس سُنْنے والے) ۵۸ جب تو دیکھے انہیں کہ بیہودہ بھٹیں کر رہے ہیں ہماری آئتوں میں تو منہ پھیر لے اُن سے یہاں تک کہ

يَخْوُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلَمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ

وہ اُنھنے لگیں کسی اور بات میں اور اگر (کہیں) بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو

بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ

یاد آنے کے بعد نلام قوم کے پاس اور نہیں ہے ان پر جھوٹ نے تقویٰ اختیار کیا ہے

الامراء الظلمة ومن تحت يعني السفلة وعيدين السوء (القرطبی)
۸۵ کفار خیال کیا کرتے کہ عذاب کی جود ہمکیاں ہیں دی جاہی ہیں میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ محض ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یوئی جلدی کر رہے ہو میرے علم انہی میں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو جائے تھی اور تم اُس وقت خود بخود جان لوگے۔

۸۶ صحبت کا اثر مسلم ہے۔ انسان اپنے ہم شیخین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متابعت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے جن کارات دن کا مشغله اسلام ہے یعنی اسلام اور قرآن حکیم رپطعن و شفیع کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی ان کی باتوں سے متاثر ہوئے لگے۔ آج کل کی عامگراہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے اور ان بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی صرف نہیں سمجھتے۔ نتیجہ وہی نہ کلتا ہے کہ متعددی مرض کے مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔

مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذُكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ^{۴۹} وَذَرْ

ان کافروں کے حساب سے پچھو بوجھے ۴۸۔ البتہ پرہیز کاروں پر بصیرت کرنا فرض ہے شاید وہ بازاں جاتیں اور جھوٹ

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَّاً وَلَهُوَ أَوْ غَرَبَةٌ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

دیجھوں نے ۴۸۔ بنایا ہے اپنادین کھیل اور دل لگی اور دھوکہ میں ڈال دیا ہے انھیں دُنیوی زندگی نے اور

ذُكْرِيَّهُ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ إِمَّا كَسْبَتْ قَلْيَسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

بصیرت کر دی ۴۸۔ قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی

وَلَيْ وَلَا شَفِيعَ وَلَمْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا طَأْوَلِيَّكَ

حکایتی اور نہ سفارشی اور اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدله تو نہ قبول کیا جائے گا اس سے یہی وہ لوگ

الَّذِينَ أُبْسِلُوا إِمَّا كَسْبَوْلَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ

ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں بوجھ پسے کرتوں کے ان کے لیے پیسے کو کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے

۴۷۔ پہلے دشمنان دین کی صحبت و ہم شیفی سے روکا گیا۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ اگر مجبوراً تھیں ان کے پاس بیٹھنا پڑے تو ان کے کبواسات اور لغو کوئی کام حاصلہ تم سے نہیں ہو گا وہ خود ہی اس کے ذمہ دار اور اس کے لیے جوابدہ ہوں گے۔ ہاں تھیں پہلے ہی کہ شایستگی اور سلیمانی سے انھیں دعوتِ اسلام دیتے رہو۔ ممکن ہے ان کی راہ یا نبی کی صورت نہل آتے۔

۴۸۔ وہ بدنصیب لوگ دیجھوں نے دین کو کھیل اور دل لگی بنارکھا ہے اور سبجدگی اور مرثانت سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے طلب حق کا شوق ہی دل میں نہیں رکھتے بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں انھیں اپنے حال پر رہنے دو۔ زندگی کی عیش و عشرت اور ساز و سامان نے انھیں بدمست و مدھوش کر دیا ہے۔ ان سے یہ توقع نہیں کہ یہ دعوتِ اسلام قبول کریں جو

۴۹۔ لیکن اس کا یہ طلب نہیں کہ انھیں سمجھانا اور بصیرت کرنا ہی ترک کر دیا جاتے بلکہ انھیں قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کر سماستی۔ شاید غذابِ الہی سے سمجھنے کی کوئی صورت نہل آتے۔ اور جس نے چشم ہوش نہ کھولی اور بالطل کی حمایت میں سرگرم رہا تو قیامت کے دن اس کی نجات کی کوئی شکل نہ ہوگی۔ نہ تو اسے کوئی ایسا حمایت ملے گا جو زبردستی اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچائے اور نہ سفارشی۔ اور نہ اس سے فردیہ قبول کیا جاتے گا۔ الہمال نسلیہ المرع للهلال (قرطبی)

إِنَّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَنْدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا

بوجہ اس کفر کے جوڑہ کرتے رہے تھے آپ فرمائیے کیا تم پوچھیں نفہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو نہ نفع ہے پھر اسکتا ہے جیسا اور

لَا يَصْرِنَا وَنُرْدَعْلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَلَّ نَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَنَّهُ

نہ ہیں نقصان ہے پھر اسکتا ہے اور کیا ہم پھر جاتیں اُسے پاؤں اس کے بعد کہ بدایت دی ہے ہمیں اللہ نے؟ مثل اس شخص کے کہ

الشَّيْطَنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَكُمْ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى

بجھکا دیا ہو اُسے جنوں نے زین میں اور وہ ہیران دپر لیشان ہو۔ اُس کے ساختی ہوں جو اُسے مُلا رہے ہوں بدایت کی

الْهُدَى أَعْتَنَاطْلُقْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرُنَا لِتُسْلِمُ

طرف کہ ہمارے پاس آ جا آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم گزد

لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ

بجھکا دیں سارے ہمانوں کے بچے سامنے اور یہ کمیح صحیح ادا کرونا زار اور ڈرداں سے اور وہی ہے جس کی طرف

٥٩- كَفَّارٍ إِنْ بُلَى كُوشاں رہا کرتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب پھر اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ

اپنے محبوب کیم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم کو تکم فرماتے ہیں کہ آپ انھیں فرمائیے کہ یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دیں کیا

یہ ممکن ہے کہ وہ شاہراہ بدایت پالینے کے بعد جس پر فوری ٹوڑ ہے ہم شرک کفر، فتن و فجور کے بھیانک اندر ہیں کی طرف لوٹ

جائیں۔ ہرگز نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر عماری حالت اُس شخص سے مختلف نہ ہو گی جو اپنی منزل مقضوی کی طرف ایسے ساخیوں

کی رفاقت میں بڑھا چلا جا رہا ہے۔ جو راہ کے بیچ و خم اور نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور پھر راستیں تو کوئی شیطان

اسے بہ کادے اور وہ اپنے ساخیوں کو چھوڑ کر اس کے بیچھے ہو لے۔ اس کے ہمراہی اس کو یہ بھے سے آواز دیں کہ کدر حصر

بھٹک کر جا رہے ہو۔ سیدھی راہ تو ادھر ہے۔ اور وہ ششدرو درمانہ تصویر بیرونیت بنائ کھڑا ہو اور کچھ فیصلہ نہ کر سکے کہ

اُسے کہدھ جانا ہے۔ اُسے کفار تھاری یہ توقع عبیث ہے کہ تم دلوں لیقین سے مالا مال ہونے کے بعد شٹک و مگان کے

بھنور میں کوڈ پڑیں گے۔ آیت میں استھوتہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے زین لہ الشیطان ہوا (قطبی) یعنی

شیطان نے جس تی فسانی خواہش کو مزنی و آراستہ کر دیا ہو اور وہ اس پر فرقہ تھے ہو جکا ہو اور حق کا دام من چھوڑ کر باطل کی پوری

میں ممکن ہو گیا ہو۔

٢٧٣ تَحْشِرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ

تم جمع کیے جاؤ گے اور وہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور جس روز

۱۹۷ عبادت کے لائق تھارے بے بس اور بے کس معنوں ایسا باطن نہیں بلکہ وہ ذات میکتا اور بے ہمتا عبادت کے لائق ہے جو ان صفات کی مالک ہے جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ اس کا کوئی کام عمل و فضول نہیں۔ اس کی کوئی تخلیق یہ مقصد نہیں۔ اس دلیل و عریض کا تناول کی کسی حیرتی پر غور کرو، اس کی افادتیت کا آپ کو احساس ہونے لگے گا۔ یہ یہ طھنگا اور بد و ضع پرند جسے ہم گدھ کہتے ہیں نوع انسانی کا لکھنا بخدمت گزار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا بھر کی میون پل کمیڈیاں اور صحت کے ادارے ان مردہ جا لوزوں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے۔ اور ان کی گلی شری بدوہ ار لاشوں سے زندگی تنخ ہو جاتی۔ غرضیکہ پھیوٹی سے لے کر ہاتھی نک، مولے سے لے کر عقاب نک جدھڑی آپ فکر کی زگاہ ڈالیں آپ کو حکمت ربانی کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہاں میں نیویارک سائنس اکیڈمی کے پرینڈینٹ اے۔ سی موریں کے مضمون کا ایک محض اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے بالحق کا مفہوم نہایت واضح ہو جائے گا۔

”زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار ایک ہزار میل کی بجائے ایک ہو میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھجوں کو رکھ دیتی۔ اور اتنی لمبی اور سرد ہوتیں کہ زندگی کی اگر کچھ مرق سورج کی تپش سے رنج جاتی تو رات کی سردی اسے منجھ کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت بارہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہے۔ لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دُوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا تقدیر ہی پختی ہے جو حیات بخش ہے۔ لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت بارہ ہزار ڈگری کے بجائے چھ ہزار ڈگری ہوتا تو کرہہ زمین برف کے شیخے دب جاتا۔ اور اگر اٹھاڑہ ہزار ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے بدل کر لاکھ ہو جاتی زمین کا تھکا اور جگہ کا زاویہ بناتا ہے اور اسی تھکا و سے ہمارے موجوں دوسرے مناسب و فضول کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ تھکا و نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دُوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی آپ ہے بلکہ صرف پچاس ہزار میل ہوتی تو سمندروں میں مدد جز زمین شدت سے آتا کہ پہاڑوں نک کو بھی بھاکر لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجوں دوسرے صرف دس فٹ زیادہ ہوئی تو یہاں اسکے بعد ہی نہ ہوتی اور کوئی جا لوز نہ مزدہ نہ رہتا۔ اور اگر سمندر چند فٹ اور گھرے ہوتے تو ساری کاروں ڈائی اسکے بعد اسکے بعد صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز تپہ نظر نہ آتا۔ اس حکماں نے نظام پر تخلیق فرمائی ہے ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھا OCT. 1960) (READER'S DIGEST پڑھ لینے کے بعد اب اس آیت کو دوبارہ پڑھئے اور اس کے نازل کرنے والے مولا تے بحق کے حضور میں سرسجود ہو جائیے۔ اور جس

يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ^{٧٣} قَوْلُهُ الْحَقُّ طَلَهُ الْمُلْكٌ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورَ

دُوہ کے گاکہ تو ہو جاتے گا اُسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہو گی جس دن پھونکا جائے گا صورت

عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ طَوْهُ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ وَلَا ذَاقَ إِبْرَاهِيمُ

جانشی واللہ سے ہرچیزی چیز کا اور ہر نظر اپنے کا اور روہی ہے حکمت والا سب کچھ جانے والا اور یاد کرو جب کہاں فہرست ابراہیم

لَا يَمِرُّ أَثْرَارَ أَتَتْخَذُ أَصْنَاعًا لِهَنَاءِ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ

نے اپنے باپ کو آزر سے کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا بے شک میں دیکھتا ہوں تھیں اور تھاری قوم کو کھلی گمراہی

ذاتِ قدس صفات نے اُنی ہوتے ہوئے اس حقیقت پنهان کے رُخ سے ناقاب اٹھا ہے اس پر زبانِ دل و رُوح سے صلوٰۃ و سلام عرض کیجئے ہے اُنتے بُود کہ ما از اثرِ حکمت او واقع انسِ سرپنهان خانہ تقدیر شیم (افتال)

بعض لوگوں نے صور کو صورۃ کی جمع نصوٰر کیا ہے اور معنی یہ کیا ہے کہ صور توں میں جب پھونکا جائے گا تو وہ حقائق میں تبدیل ہو جائیں گی یا بے جا تھیں میں پھونک مارنے سے وہ زندہ ہو جائیں گے لیکن یعنی دوسری آیتوں اور احادیثِ نبویہ سے تبلیق نہیں کھانا۔ حدیث شریف میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے پہلی بار صور پھونکیں گے تو سب زندہ اشیاء موت کی نیند سو جائیں گی۔ اور جب دُوسری بار پھونکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر تو جائے گی۔ اس صور کی حقیقت کیا ہے اس کی شکل و صورت اور طول و عرض کتنا ہے۔ اس کے متعلق نہ قرآن نے بتایا نہ صاحب قرآن نے اور نہ اس کے جانشی کی کوئی ضرورت ہے۔ اس لیے اس بارے میں سکوت ہی اولی ہے۔

عرب کے نُشرک یہودی اور عیسائی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و جلالت شان اور رسالت کے معترض ہے اور اہلِ عرب کو اس پر ناز خنا کہ وہ اس مقدس سہیت کی اولاد ہیں اس لیے حضرت خلیل علیہ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ کے حالات پیش کر کے انھیں بتایا جا رہا ہے کہ تم عجیبِ ظریف ہو کہ جس کے نام سے تھیں یہ ساری عزت اور سُوری تفصیل ہے جس کی نسل سے ہوتے کوئم اپنے لیے وہ بُرَّت و افتخار سمجھتے ہو۔ اس کے دین اور اس کے مقصدِ حیات سے تم بالکل بیکاری اختنوار کر جیے ہو بلکہ اس مگرایی کو تم اپنے دین بنا جائے ہو جس کو مٹانے کے لیے اُنھوں نے عمر بھر جہاد کیا۔ جن بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے اُنھوں نے بھڑکتے ہوئے اُنٹش کدھ میں کو دنا گوار اکیام پھر انھیں بتوں کی پوچھاں مسکرم ہو اور ان کے دینِ حیثیت کی طرف تھیں دعوت دی جاتی ہے تو خشم گئیں اور غضب ناک ہو کر رسولِ برحمت سے لڑنے کے لیے کربستہ ہو جاتے ہو

عجیبِ اُنٹی کھوڑپی کے لوگ ہوتے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا چچا کا، حضرت خلیل علیہ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ تھے یا کافر؟ اس ف GAM

مُؤْمِنٌ وَكَذَّابٌ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ فَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ

میں اور اسی طرح ہم نے دکھادی ۹۵ء ابراہیمؑ کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ۹۶ء تاکہ وہ ہو جائیں

پر علامہ ابویں بقدادیؓ نے اپنی تفسیرِ روح المعانی میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہدایت ناظرین کرتا ہوں اور اس نزاع کا فصلہ انھیں پرچھوتا ہوں۔ علامہ مذکور قم طازیں علماء اہل سنت میں سے ایک جمیع فہری کی راستے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ کے والدہ تھے کیوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء اجداء میں کوئی بھی کافر نہ تھا۔ حضور کا ارشاد ہے۔ لَحُرُ
أَذْلَّ أَنْقُلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِيْنَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ وَالْمُشْرِكُونَ بِخُسْنٍ۔ کہیں ابتداء سے آخر تک پاک لوگوں کی سپتوں سے پاک خواتین کے ہموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں اور مشکل بھیں ہیں۔ اس کے بعد آلوسی فرماتے ہیں کہ امام رازیؒ کا یہ کہنا کہ یہ شیعہ کا نہ ہب ہے درست نہیں۔ امام رازیؒ نے اچھی طرح چجان بین نہیں کی اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چحا کا نام ہے اور اب کا لفظ چحا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اس مسلک کی تائید میں علامہ مذکور نے کہ اشارہ نقل کیے ہیں لیکن یہاں صرف ایک چیز پیش کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک واضح امر ہے کہ جس کی موت کفر و شرک پر ہوا اس کے لیے مغفرت نہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے سالہاں بعد جب بابل سے بھرت کر کے مصر گئے۔ وہاں سے حضرت ہابره رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کر کے شام آتے اور مردت دراز کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی اور حکم ربیانی سے آپ شنے اسماعیلؑ اور اُن کی والدہ ہاجرؑ کو اس لق و دق صحابیں چھوڑتے جہاں کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی۔ اس واقعہ کے رسول بعد جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اُس وقت یہ دعا آپ نے مانگی۔ اس میں یہ افاظ بھی ہیں۔ ربَّنَا أَغْفِرْنِي وَلَوْلَا الدَّىْنَ وَلَمَوْمَنِيْنَ يَوْمَ يَقُولُ الْجِنَّاتُ أَمْسَابُ۔ اے رب! مجھے بھی بخش دے اور ہیرے والدین اور مسلمانوں کو بھی بخش دے۔ اگر حضرت کے والدین کافر ہوتے تو ایک بیغمبر یہ بجائتے ہوتے کہ کافر کی بخشش نہیں ہوتی کبھی اُن کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرتے۔ (روح المعانی) لیکن وہ علماء حنفی تحقیق یہ ہے کہ آزر حضرت کے والد ہی تھے وہ بھی اس بات سے سختی سے منع کرتے ہیں کہ عام مجلس میں ان کے متعلق باتیں کی جائیں۔

حضرت صدر الالفاظ بیان لکھتے ہیں: ”فَمُوسَیْ میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ کے چحا کا نام ہے۔ علام جلال الدین سیوطی نے مسالک الحفایا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چحا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے بالخصوص عرب میں قرآن کریم میں بھی ہے۔ نَعْبُدُ اللَّهُكَ وَاللَّهُكَ أَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْلَمَكَ إِلَهًاً وَاحِدًاً۔ اس میں حضرت اسماعیلؑ کو حضرت یعقوبؑ کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے باوجود دیکھ آپ عم ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؑ کو اب (باپ) فرمایا۔ چنانچہ ارشاد کیا ہڈ داعیٰ اُنی۔ یہاں ابی سے حضرت عباسؑ مراد ہیں۔ (خراءٰن العرفان)

۹۵ء امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ جلال خداوندی کے اوار و تجلیات ہر مجھ مفوضاتیں ہیں لیکن انسانی رُوح کسی نہ کسی جواب

مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧﴾ قَلَّ مَا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَوْمُ رَاكُوكَأَقَالَ هَذَا رَبِّي

کامل بقین کرنے والوں میں پھر جب چھاتی ایں پورات ۷۹ (تو) دیکھا انہوں نے ایک ستاراً بو لے (کیا) یہ میرا رب ہے؟

کے باعث ان کے مشاہد سے محروم رہتی ہے۔ جیسے جساب ہے اور سرکار جاتا ہے ویسے ہی الفار کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے حضرت شیلیں نے جب تمام حجابت کو تاریکر دیا اور انوارِ الہی کے مشاہدہ میں کوئی آڑپا قی نہ ہی تو زین و آسمان کی بے کراں و سعتوں میں قدرتِ خداوندی کے جو اسرار تھے سب ظاہر ہو گئے اور نگاہ ابراہیم پر ہر چیز ملکشنا کر دی گئی فلمازال ذلک الحجاب لا حرجم بخلي له ملکوت السموات بالتمام (تفسیر کبیر)

۹۶ ملکوت میں رحموت اور رہبوت کی طرح ت مبالغہ کے لیے ہے یعنی ملک عظم اور سلطنت ویسح۔ نری معناہ اریناہ (اقطبی) ہم نے دکھادی ہے رؤیت بصر سے بھی یا بصیرت سے؟ یعنی صرف آنکھوں نے دیکھا تھا یادوں کو بھی اس کا علم و عرفان لنصیب ہوا تھا، بعض کا خیال ہے کہ وہ اٹھ گیا تھا اور عرش سے سخت الشراہ تک ہر چیز نظر آنے لگی تھی۔ اور بعض نے فرمایا کہ آسمان اور زین کی تمام اشیاء کی حقیقت پر آگاہی بخش دی کتی تھی تاکہ کائنات کی ان مختلف چیزوں پر مطلع ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدائیت، علم، قدرت اور حکمت کے بارے میں عین العقین کے مرتبہ علیا پر فائز ہو جائیں۔ امام رازیؒ لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام انسان بھی کائنات کے بعض اسرار پر آگاہ ہوتے ہیں لیکن اس عالمِ خلق کی ہر چیز میں خواہ وہ بخش ہو یا نوع یا صنف ہو یا شخص حکمتِ الہی کے جو آثار پاتے جاتے ہیں ان سے بھی طرح اکابر انبیاء آگاہ ہوتے ہیں وہ آگاہی کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ و ان کاں (جمیع الموحدين) یعرفون اصل هذا الدلیل الا ان الاطلاع على آثار حکمة الله في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب اجناسها و انواعها و اصنافها و اشخاصها و احوالها لا يحصل الا للراكبين الانبياء عليهم السلام (کبیر) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائق اشیاء کا اتنا علم ارزانی فرمادیا تھا تو تعجب ہے ان لوگوں کی کم نگاہی پر جو نبی الانبیاء کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ لغوض بالله آپ کو یہ بخوبی نہ بخی کہ نہ بھجو کس طرح باردار ہوتی ہے۔

۹۷ جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اُس کا نام اُس تھا۔ بسویں صدی کے آغاز میں آثار قدیمه کے ماہرین نے کھدائی کر کے اس کو دریافت کر لیا ہے۔ اور اس سے جو تحریریں اور دوسرا اشیاء و مستیاب ہوئی ہیں ان سے آپ تکے زمانہ کے لوگوں کے نہیں، تمند نہیں اور معاشری حالات پر روشنی پڑتی ہے سیرلینارڈ وولی (SIR LEONARD WOLLY) نے اپنی کتاب (ABRAHAM) میں یونان میں ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی ہے ماہرین آثار قدیمہ کے جو تاثرات قلمبند کیے ہیں ذیل میں اُن کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے:-

"اندازہ کیا گیا ہے کہ سلطنتِ بیل سیح کے لگ بھگ زمانہ میں جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلُوُر کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں "شہر اُس" کی آبادی ڈھانی لاکھ کے قریب تھی اور بعدی نہیں کہ پانچ لاکھ ہو۔ بڑا صنعتی اور

فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ^{٧٧} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارَغَاقَالَ هَذَا

پھر جب وہ ڈوب گیا (و) بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ پھر جب بیکھا چاند کو چھکتے ہوتے تو کما (کیم) یہ تجارتی مرکز تھا۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی مشیرت آبادی صنعت و تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو تحریات آثار قدیمہ کے کھنڈروں سے دستیاب ہوئی ہیں ان میں علمون ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص ماہد پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسانش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سودا غوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہو اکرتی تھیں۔ آبادی تین طبقوں پر مشتمل تھی۔ (۱) عیلوں؛ یہ اوسی طبقے کے لوگ تھے جن میں پچاری، حکومت کے عہدہ دار اور فوجی افسوس غیرہ شامل تھے۔ اس طبقہ کو خاص امتیازات حاصل تھے۔ ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے۔ اور ان کے جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ حضرت ابو ہیم کے خاندان کا اسی طبقہ میں شمار ہوتا تھا۔ (۲) مشکلینوں؛ یہ تجارت، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ (۳) آردو یعنی غلام، مردوں پیشہ۔

اُس کے کتبات میں تقریباً پانچ ہزار گداوں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے ہر شہر کا ایک خاص محافظہ تھا۔ تو تھا جو بربت البلد یا جہادی یا سمجھا جاتا تھا۔ اُس کا رب البلد "نَّسَّاسٌ" (چاند دیوتا) تھا۔ دُوسرا رب اشر "لُرَسَه" تھا۔ اس کا رب المَلَد "شَاهِش" (سرورج دیوتا) تھا۔ ان بڑے گداوں کے ماتحت بہت سے چھوٹے گداویں تھے جو بڑی تریخی اور سیاسی گداوں میں سے تھے۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں اور تمام مراسم عبادات انہی کے آگے مجالاتے جاتے تھے۔

نَّسَّاس کا بُت اُس میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں اور ان کی حیثیت دیو دیسیوں (RELIGIOUS PROSTITUTES) کی تھی۔ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو گداو کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ گدا میں کسی اجنبی کے حوالہ کرنا عورت کے لیے ذریعہ سنجات خیال کی جاتا تھا۔

نَّسَّاس مخصوص دیوتا ہی نے تھا۔ بکثرت باغ، مکانات اور زینتیں اس کے مندر کے لیے وقف تھیں۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔

اُس کا شاہی خاندان جو حضرت ابو ہیم علیہ السلام کے زمانیں سمجھا جاتا تھا اس کے بانی اول کا نام اُن شہو تھا جس نے ۴۲۰۰ برس قبل میسح میں ایک ویسیع سلطنت قائم کر لی تھی۔ اسی سے اس خاندان کو نشو کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمروڈ ہو گیا۔ حضرت ابو ہیم علیہ السلام کی بھرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہوئی شروع ہوئی۔ پہلے عیلہ میوں نے اُذ کوتباہ کیا اور نمروڈ کو نثار کے بُت سمیت پکڑ کر لے گئے۔ پھر لرسہ میں ایک عیلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت اُ

رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَّ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّيْ لَا كُوْتَنَّ مِنَ الْقَوْمَ

میر اربب ہے (۶) پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت میتا مجھے میر ارب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس کمرا

الضَّالِّينَ ^{۷۸} فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازْغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيْ هَذَا الْكَبِيرُ فَلَمَّا

قوم سے پھر جب دیکھا سورج کو جگ کتے ہوئے (تو) لوئے (کیا) میر ارب (۷) یہ قوان سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی

أَفَلَّتْ قَالَ يَقُومُ إِنِّي بَرِّي عَرَمَّا تُشْرِكُونَ ^{۷۹} إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي

ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا۔ اے میری قوم! میں بیزار ہوں ان بھیزوں سے محیں مرتزیک تھیز تھیز تھیز تھیز تھیز تھیز میں نے پھر لیا ہے اپنا رخ

کا علاحدہ عالم کی حیثیت سے رہا۔ ان تباہیوں نے نثار کے ساتھ اُر کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا۔ (ماحوذاز تفہیم القرآن)

مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم وطن ستاروں، چاند اور سورج کے پرستار تھے اس لیے حضرت ابراہیم ان کے معبدوں کے حالات سے ہی ان کی خُدا تی پر ضرب کاری لگا رہے ہیں کہ جن کے یہ حالات ہوں۔ جن کو کو

ایک بلکہ قرآن صیب نہ ہو۔ جو کبھی طلوع ہو رہے ہیں اور کبھی غروب ہو رہے ہیں۔ جن کے طلوع و غروب کا وقت بھی ان

کے اختیار میں نہ ہو۔ اور ان کی گردش کا جو راستہ مقرر ہے اس سے بھی باں برا برادر اور ہر نہ ہو سکتے ہوں۔ جو ایک بے اختیار علام کی طرح اتفاق دادا طاعت کا پیٹھ لگائیں ڈالے صبح و شام تعیین حکم میں سرگردان نظر آتے ہوں انھیں معبد بنانا، ان کو خدا سمجھنا لکھتی نہ ادنی اور بے صحیحی ہے۔

۷۸ یہ اصل میں اہنڑی انسٹھیا م انکاری ہے۔ یعنی اے میری قوم کیا یہ میر ارب ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرنا

کہ اُس وقت حضرت ابراہیم کو عرفان تو حید حاصل نہ تھا اس لیے وہ ایک مٹھا تھے تارے کو اپنارب سمجھنے لگے سخت غلطی ہے پسیبہ کا دامن بُوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے پاک ہوتا ہے۔ چاند کے متعلق بھی آپ نے یہی فرمائی تھا

کہ ہنڑا ربی اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ فرماتے ہیں لئن لو یہ دنی ربی اگر میر ارب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو بس گمراہی میں میری ساری قوم گرفتار بختی میں بھی اس سے رنج سکتا۔ ان الفاظ سے اس امر کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل ربی (میر ارب) کے یقین اور ایمان سے منور اور روشن تھا۔ ورنہ اگر یہ فرض کر لیا جاتے کہ ابھی تک حقیقی

رُب کا کوئی تصویر ان کے ذہن میں نہ تھا اور چاند کو آپ نے رب مان لیا تھا تو جب اس کے ڈوب جانے سے اس کی خدائی کا طلس میں ٹوٹ گیا تو آپ کو حیرت کا انتہا رکننا چاہیے تھا کہ لو جسے خدا سمجھ رہے تھے وہ تو فانی نکلا۔ اب کسے خُدا مانا جائے۔ آپ نے اظہار حیرت نہیں کیا بلکہ چاند کے غروب ہونے پر آپ نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو غلط ثابت کرنے

کے بعد فوراً فرمایا۔ لئن لو یہ دنی ربی۔ یعنی وہ رب نہیں جسے تم نے رب سمجھ رکھا ہے بلکہ حقیقی رب تو وہ ہے جو میرا

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرما�ا آسمانوں اور زمین کو، یک سو تو کرو ۹۶ اور نہیں ہوں میں مشکوں میں سے اور

حَاجَةً قَوْمَهٗ قَالَ أَتَحْاجِجُونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَا وَلَا أَخَافُ

مجھکرنے کی ان سے ان کی قوم تھے اب نے کہا کیا تم تھوڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے براحت فرمئی ہے مجھے اور نہیں بتتا

مَا شَرِكُونَ بِهِ إِلَّا آنِ يَشَاءُ رَبِّنَا شَيْغًا وَسَعَ رَبِّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

میں ان سے جھیں تم شریک بنا تھے ہو اس کا مجری کچھ ہے میرا یہی پورا دگار کوئی تبلیغ یہ بخانا کچھ سے ہوتے ہے میراب ہر چیز کو اپنے علم سے

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے اور کیسے ڈرُوں میں اٹھے (ان سے جھیں تم نے شریک تھیں اسکا ہے حالانکہ تم نہیں ڈرتے (اس سے) کہ

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمُّ الْفَرِيقَيْنَ

تم نے شریک بیٹھا اللہ کے ساتھ اسے کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل تو (تم ہی بتاؤ) دونوں فریقوں سے

پورا دگار ہے جو مجھے ہر باطل سے بچا کر راہ حق پر چلا رہا ہے۔

۹۷ سورج، چاند، تارے خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ خدا وہ قدرت والا اور حکمت والا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں جو ہر کو داتا ہے کسی کا محتاج نہیں۔ وہ قدرت والا جس نے آسمانوں کو بھی پیدا فرما�ا اور زمین کو بھی یہیں تو ہر باطل سے مُمْنَةٌ موڑ کر کھینچی ہے اسی طرف دل و جان سے متوجہ ہوں اور کسی طریقے سے بڑی چیز تو بھی اس کا شریک بخیال نہیں کرتا۔

۹۸ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ لا جواب ہو گئے تو چراپ سے جھکڑنے لگے اور کہتے لگے اے ابراہیم تم خداوں کی بنتاک سے باز آجاؤ ورنہ ان کے غصب کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آتے گی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہو اپنے خداوں کو کہہ دو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں۔

مجھے ان سے ذرا اندیشہ نہیں۔ ہاں اگر میرا رب مجھے کسی آزمائش میں بدلنا کر دے تو مجھے مجالِ دم زدن نہیں۔

۹۹ سلسلہ تقریر شروع ہے کہ ڈرنا تو تمھیں چاہئے جو معمود برحق سے مُمْنَةٌ موڑ کر باطل خداوں کی پوکھڑت پر سر انگنہ ہو یہ میں کیوں ڈرُوں جو سیدھے راستہ پر چل رہا ہوں۔

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَنِ الْذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يَلِمُسُوا

کون زیادہ حقدار ہے امن (سلامتی) کا؟ اگر تم (بیکھر) جانتے ہو تو وہ جو ایمان لاتے اور نہ ملایا لئے انہوں نے

إِنَّهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتَلَكَ

اپنے ایمان کو علم (شرک) سے انہیں کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہ

جَعَلْنَا أَتِيَّنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَتَ مَنْ نَشَاءَ مِنْ أَنَّ

ہماری دلیل بھتی سنانہ جو ہم نے دی بھتی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں ہم بلند کرتے ہیں۔ ۱۰۷۴ جس کے پانچتیہ ہیں بشک

رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيهِ وَهَبَنَا لَهُ السَّعْقَ وَيَعْقُوبَ طَلَاهُ دَيْنَاهُ

آپ کا رب بڑا ناس سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسماق اور یعقوبؑ پر ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی

۱۰۶۸ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوتے۔ اور بنی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ ایسا کو نظر میں آیت کو نہ فرمائے جس میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر

ظلہ نہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ لیس ہو کہما

تظنون انہا ہو کما قال لقمان لابنہ یا بنتی لا شرک بالله ان الشرک لظلو عظيم (قرطبی)

۱۰۶۹ اہ کیا لطف ہے اس آیت میں۔ ہماری دلیل بھتی اور ہم ہی نے ابراہیم کو عطا فرمائی تھی۔ وہ دلیل جسے اللہ تعالیٰ اپنی فرمایا ہے میں اس کی عظمت و جلالت کا کیا کہنا! کفر و شرک کی اس اندر ہینگری میں جس سستی کو اس دلیل سے سرفراز فرمایا گیا اس

کی رفتہ شان کی کیا حد! اس مقام پر رب کو کاف خطاب کی طرف مضات کرنے میں بولطف ہے اس سے اہل دل

ہی لطف اندو زہو سنتے ہیں۔ اے مصطفیٰ! ایتیار رب ہے تو وہ سارے جہاں کارت لیکن اس کی ربویت کا بوقت مصطفیٰ

علیہ التحیۃ والثنا سے ہے وہ کسی سے نہیں۔

۱۰۷۰ اہ یعنی ان کفار کی سبتو سے جو ہزار ہزار اخداوں کے چغاری تھے وہ گمراہی کی پستیوں میں گرے پڑے تھے۔ ان میں سے

حضرت ابراہیم کو توحید کا علم بدار بنا دینا اور اس کے سیدنے کو علم و فرم اور دلیل کی روشنی سے منور کر کے دُنیا و آخرت میں اس کا نام اور اس کی شان بلند کر دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت اور طاقت ہے ای بالعلم والفهم والاماۃ والملک (القطبی)

ہے۔ ہم نے ابراہیم پر مزید کرم یہ فرمایا کہ انہیں اسماق جسیا بیٹھا اور یعقوبؑ جیسا پوتا محبت فرمایا جس کی نسل سے ہزاروں انبیاء اور لاکھوں صلحاء پیدا ہوتے معلوم ہوا کہ نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات میں سے ہے۔

وَنُوَحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَأْوَدَ وَسُلَيْمَانَ وَآيُوبَ

اور نوحؑ کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور اس کی اولاد میں ۶۰۰ھ سے داؤدؑ اور سلیمانؑ اور آیوبؑ

وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكُلُّ لَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^{۲۷} وَزَكَرْيَا

اور یوسفؑ اور موسیؑ اور ہارونؑ کو راہ راست (کھاتی) اور اسی طرح ہم پر کلدیتے ہیں نیکو کاروں کو اور ہم نے

وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسَ طُكْلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ^{۲۸} وَالْسَّمِعِيلَ وَالْيَسِعَ

ہدایت می) زکریاؑ اور یحییؑ اور عیسیؑ اور یاسؑ کو (یہ) سب صالحین میں سے تھے اور (ہدایت می) اسماعیلؑ اور یسعؑ

وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ^{۲۹} وَمِنْ أَبْنَاهُمْ وَ

اور یونسؑ اور لوطؑ کو اور ان سب کو ہم نے یعنی ہفتیت دی سائیے جہان والوں پر اور ہدایت می ان کے کچھ بذپبادوں اور

ذُرْيَتِهِمْ وَأَخْوَانَهُمْ وَاجْتَبَيْهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ^{۳۰}

ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو اور ہم نے جن لیا ان (سب) کو اور ہدایت می ان (سب) کو راہ راست کی

ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْلَا شَرَكُوا

یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اگر وہ شرک کرتے

لَجِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{۳۱} وَلَذِكَ الذِّينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

تو ضرور رضاخ ہو جاتا ان سے وہ (عمل) جو وہ کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جھیں کتاب

۶۰۰ھ بعض نے کہا ہے کہ ضمیر کا مرتع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ حضرت نوحؑ ای من ذریۃ ابراہیم و وقیل و من ذریۃ نوح (القرطبی)

۶۰۱ھ کلاہد بینا، کل من الصالحین اور کل افضلنا کے پیارے پیارے ہم جملے پڑھ کر احساس ہونے لگتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں اور برگزیدہ رسولوں کا ذکر آتے ہی رحمت اللہ کے سنبدریں بوش آ رہا ہے۔

۶۰۲ھ یہ ہدایت محض فضل ایزدی کی جلوہ طرازی ہے اور جس پر اس کی نگاہ اُنطف و کرم پڑ گئی وہ ہدایت یافہ تھے ہو گیا۔

وَالْحُكْمُ وَالنِّسْوَةُ فَإِنْ يَكْفُرُهُمَا هُوَ لَا إِقْرَابٌ وَكُلُّنَا بِهَا أَقَوْمًا

اور حکمت اور نبوت تو اگر انکار کریں ۹۷۔ اس کا یہ (کہ والے) قوم نے مقر رکر دیتے ہیں اس کو ماننے کے لیے

لَيْسُوا بِهَا يُكَفِّرُونَ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهْدِي بِهِمْ

یہ لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بدایت دی تھی اللہ نے تو انہیں کے لئے

اقْتِلُهُ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْكُمْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۖ ۹۸

طريقہ کی پیری دی کرو آپ فرمائیے ۹۹۔ میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت نہیں ہے ۱۰۰۔ اس قرآن میں صیحت سالہ ہاؤں کھلیے

۱۰۱۔ اگر کفار کہہ جہاری آیات کو نہ مانیں اور دعوت اسلام کو قبول نہ کریں تو وہ اپنا ہی زیان کریں گے اسلام کو تو کوئی نقصان نہ پہنچ کا سکیوں کہ اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے اس کا پیغام دُنیا کے کوشش گوشہ تک پہنچانے کے لیے اور اس کے پیچ کو ہر قیمت پر سر بلند رکھنے کے لیے ہم نے ایک قوم (یعنی الفصار، مهاجرین اور دُسرے لوگ جنہیں توفیق ایمان فصیب ہوئی ہم قدر کر دی ہے۔

۱۰۲۔ اقتدار کا معنی ہے کسی کے کام کے موافق کوئی کام کرنا علم قطب الدین رازی کتاب کشاف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں اقتدار سے مقصود صرف اخلاق فاضلہ اور صفات کمال میں ان جلیل القدر انبیاء کی موافقت کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ ہر وہ خوبی اور کمال بودھ سرے انبیاء میں متفرق طور پر پایا جاتا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سب مکالات کے جامع ہیں۔ اس لیے سب سے افضل واکمل ہیں۔ (روح المعانی) سے

حُسْنُ يُوسُفٌ، دِمْ عَلِيَّيٌّ، يَدِ يَصِيْنَا دَارِيٌّ آپنے خوبیاں ہمہ دارند تو تنہ داری

۱۰۳۔ بعض کفار اس غلط فہمی میں بُنْدَلَا تھے کہ نبوت کا دعویٰ صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ دعوت اسلام میرا پیشہ نہیں بلکہ مقصد حیات ہے یہی اس کے ذریعہ سے دولت جمع نہیں کرنا چاہتا بلکہ میرا مدعاً فقط یہ ہے کہ تم گمراہی کی دلمل سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر آجائے و تمھارے رب سے تھارا لوطا ہو ارشتہ پھر جوڑ دیا جائے۔

۱۰۴۔ جو کتاب ہیں تھیں پڑھ کر سُننا تو سمجھتا ہیوں اس سے میری ذاتی اغراض و استہ نہیں۔ یہ توہقہ کی اغراض سے بالآخر ہے یہ تو ایک آفاقی دعوت رُشد اور ایک عالمی پیغام ہدایت ہے۔ اس کے پیش نظر کسی شخص، کسی قوم اور کسی ملک کی برتری دُسوں پر قائم کرنا نہیں بلکہ سب کو ایک سطح پر ایک صفت میں کھڑا کرنا اور امن و سلامتی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ عرب اپنی قومی اور انسانی برتری پر حکم یقین رکھتے تھے۔ ان کی عرب قومیت کے جذبات کو مشتعل کر کے اور ان کے

وَمَا قَدَرَ رَوْا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ رَهَادِ الْوَامَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ

اور نہ قادر بیچانی تھے انھوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُبَشِّرُ بھانے کا بھبھ کیا انھوں نے کہ نہیں اُتاری اللہ کے کہی دمی پر

دلوں میں دوسرا سے گماںک پر عربی غلبہ و اقتدار کی ہو سبیدا کر کے اپنی طرف مائل کرنا بہت آسان تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اتنی مشکلات سے بھی دوچار نہ ہونا پڑتا لیکن یہ کامیابی عارضی اور وقتی ہوتی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ایک عالمی دین قوم و دنیا کی تنگ حدود میں بند ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عرب کے لیے ہے بلکہ فرمایا ان ہو لا ذکری للعلمین سب بھانوں کے لیے ہے۔ سب شرقی و غربی، رومی و جبشتی، عربی اور جسمی کے لیے اس کا بیغام پدایت ہے۔

۱۱۳ قدر کا کیا معنی ہے؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ قدر کا اصلی معنی توکسی چیز کی مقدار کو جانا سے لیکن اب اس کا اطلاق کسی چیز کو اس کے تمام پہلوؤں سے بچانے پر ہوتا ہے۔ اب کثرت استعمال سے یہی اس کا معنی حقیقی ہو گیا ہے۔ واصل القدر معرفة المقدار بالسبعين واستعمال في معرفة الشيء على التوالوجة حتى صارحقيقة قيده رفع) انھش کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زبان سے اگلا جملہ نکل رہا ہے انھوں نے گویا اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر بچا ہی نہیں اس کی محکمت اور رحمت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔

۱۱۴ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ بات کی تھی۔ کیونکہ دوسرے سے ہندوستان کے برہمنوں کی طرح وحی اور نبوت کے ہی قاتل نہ تھے لیکن اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ ان کے نظریہ کی تردید حضرت موسیٰ پر نزولؑ رات سے درست نہیں کیوں کہ وہ تموسیٰ کی نبوت کے بھی قاتل نہ تھے۔ اور جہنم کا یہ خیال ہے کہ یہ بات یہود نے کہی تھی لیکن اس پر شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ یہود یکیوں کو کہہ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ حضرت نبوسیٰ اور صد ہادوسرے انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے۔ نیز یہ سورۃ کلیٰ ہے اور مکہ میں یہود موجود ہی نہ تھے۔ تو ان سے یہ مکالمہ لکھیے ہوا۔ اس لیے اس آیت کی وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت یوں معلوم ہوتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت اور نزولؑ وحی کا دعویٰ کیا تو اہل مکہ کے لیے یہ بالکل اونٹھی چیز تھی۔ وہ اس بات کے قاتل ہی نہ تھے کہ کوئی بھی خدا کی طرف سے معمouth ہوتا ہے اور اس پر خدا کی طرف سے وحی بھی آتی ہے۔ پہنچ پہنچ تو انھوں نے صاف انکار ہی کر دیا۔ لیکن جب آیات قرآن کا مجال ان کے دلوں کو لجھانے لگا اور حضورؐ کی رُوح پرور سیرت انھیں اپنی طرف مائل کرنے لگی تو وہ اب مستلمہ کو سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انھوں نے یہود یہ رب کی طرف رجوع کیا۔ ان کو تاہ اندریوں نو حضورؐ کی نبوت میں اپنی خدمتی اور ذلت نظر آرہی تھی۔ انھیں اپنے ہاتھوں اپنا تاج اٹا کر دوسرے کے سر پر رکھنا کب گوارا تھا۔ چنانچہ انھوں نے ازاہ عنادو حصہ اپنے مسلمانوں اور نظریات کے خلاف انھیں کہا۔ بھیجا کر اے اہل حرم! تم اس شخص کو ہرگز نبی زماننا سم کر پس علم کی بنار پر تھیں بتاتے ہیں کہ خدا نے آج تک کسی انسان پر وحی نہیں بھیجی تو یہ انسان ہو کر لیکے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور وحی

شَيْءٌ طُقْلٌ مِّنْ آتَىَ الْكِتَابَ اللَّذِي جَاءَ بِهِ مُوْلَى نُورًا وَ

کوئی تیز رائینی و مچی، آپ پوچھیجئے کس نے اُتاری بھتی جو کتاب بھے لے آئے تھے موسیٰ (جو سراسر) نور بھتی اور (سر اپا)

هُدًى لِّلْبَاسِ تَعْلَمُونَكَيْطَسَ تَذَوَّبُنَا وَتَخْفُونَكَشْرَاجَ

ہدایت بخت، لوگوں کے لئے تم نے سن لیا سے اسے الگ کا فذ ہے خارکرتے ہو اسے اور جھٹا لئے تو دوسرا سکھ، بہت سا (حستہ)

وَمِنْهُ وَلَهُ أَوْيَادٌ وَأَوْهَمٌ وَأَكْأَمٌ عَوْقَبٌ وَطَهْرٌ أَسْلَمٌ وَسَدْرٌ وَفَوْ

وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّمَا يَنْهَا اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ لِئَلَّا يَرَوْهُ

تَوْفِيقٍ وَنَجَادَةٍ ۖ وَأَذْنَانَكَيْهِ وَأَذْنَانَكَيْهِ وَأَذْنَانَكَيْهِ

سچارہ نامہ میں اتنے کھاتا ہے۔ سچارہ کت سے ہم نہ تراست کر لے کر تھے۔ سچارہ کت کو نہ لے۔

سے منصرف ہیں۔ ان یہود کے روئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارا یہ قول درست ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی قو انسان تھے ان پر وحی کیسے نازل ہوتی۔ اور تورات کوں لایا؟ جب تُوسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوتی حالانکہ وہ انسان تھے تو حضور میرزا غفران حنفی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برقرار آن کے نازل ہونے میں کیا شک ہے۔

پروردگاری ملکیت اسلامی یا امپریوں کے انسان ہوتے ہیں یہ ایسا ہے کہ تم تو وہ ناشکرے اور احسان فرماؤش ہالے یہود کے اس قول کی تکذیب کرنے کے بعد ان کی مزید نہ مت کی جا رہی ہے کہ تم تو وہ ناشکرے اور احسان فرماؤش ہو کہ تواریخ بھی سرایا توڑو ہدایت کتاب کو قم لے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس حجۃ کو اپنی خواہشات اور اغراض کے مطابق پایا اسے اپنا لیا اور جس حجۃ کو اپنے دنیاوی مقاصد سے متصادم محسوس کیا اسے چھپا دیا۔ کیا دھی الہی کے اہمیسنوں اور رسالت مُوسوی کے والوں کو مہمات زینتی ہے؟

۱۶۔ آے جبیٹ! ان سے زیادہ بحث مبارکہ کی ضرورت نہیں۔ آپ فرمادیجھے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ مختار اپنے انتہا سے کچھ ذوق نہیں پڑتا رہ کہہ کر انھیں ان کے حال پر جھوٹا دیجھے اللہ تعالیٰ ان کو کیفیت کردا رہتا ہے مختار کے لئے اس کتاب کی متعدد صفات اور خصوصیات بیان ہو رہی ہیں جس کے بازارے میں اہل مکہ اس کشمکش میں بیتلنا تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھی یا نہیں۔ فرمایا ہے مبارک ہے یعنی برکت والی ہے۔ برکت کا معنی ہے الزیادة والقاء کیسی تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ کسی چھوٹی چیز کا بڑا ہو جانا۔ امّتِ اسلامیہ کی ساری تاریخ قرآن کی اس ایک صفت کی جلوہ گاہ ہے۔ عرب کے آن پڑھ ساری بان و سیل ملکوں اور عظیم قوموں کی زمامِ اقتدار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ساری دُنیا عدل و انصاف اور یاکرنسی اور تقویٰ کے نور سے بھگ کا اٹھتی ہے۔ وہ ایک کوڑی کے لیے انسانی جان ضائع کرنے والا

بَيْنَ يَدِيهِ وَلِتُنْزِرَ أُمَّةَ الْقُرْبَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

اس (روجی) کی جو اس سے پہلے (نازل ہوئی) اور اس لیتے تاکہ ذرا تیس آپ مکہ (والوں) کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں

بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَاكِفُطُونَ ۝ وَمَنْ

آخرت کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر (بھی) اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور کون

أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحِي

زیادہ ظالم ہے ۱۸ اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر بھوٹا یا کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حال انہیں وحی

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ هِشْلًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْتَرِيَ إِذْ

کی کئی اُس کی طرف کچھ بھی اور (کون زیادہ ظالم ہے سے) جو کہ میں (بھی) نازل کرنے کا ایمان ہی (کلام) جیسے نازل کیا ہے اللہ کا شتم دیکھو جب

بھوکا بد و انساں ہیرشیم اور اول کاغذی سوچاتا ہے کہ کسری کے محلات کی ثروت اور بیش قیمت ساز و سامان اس کی حفاظت میں مدینہ طلبہ بھیجا جاتا ہے اور اس میں ایک سوئی کی خیانت بھی نہیں ہوتی۔ سنگت ل اعرابی اس کتاب کے اثر سے اتنا یحیم و کریم ہو جاتا ہے کہ وہ اس خمیہ کو اکھاڑا بھی لوگ اپنیں کرتا جس میں ایک فاختہ نے اندھے دے رکھے ہیں اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساقیہ کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کے ماننے والوں اور مخالفین کے ہاتھوں ان میں بورڈ و بدل ہو گیا ہے اس کا پتہ بتاتی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل مکہ اور اس کے شرق و غرب اور جنوب و شمال میں پھیلی ہوئی ساری انسانی دُنیا کو خدا کے عذاب سے اور بد کاریوں کے طبعی نتائج سے ڈراحتی ہے۔ اے مکہ کے دلنشتہ و اتم خود سوچو جو کتاب ان خوبیوں کی حامل ہو۔ اور جس کے پیش نظر سارے عالم انسانیت کی اصلاح ہو اور جس کے اثر سے ان وحشیوں اور درندہ صفت بد و وُل سے ایک ایسی جماعت بھی تیار ہو چکی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہر ہم کی تعمیل میں سرگرم ہو کیا یہ کسی انسان کی بنیانی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کتاب ہے جو اس نے اپنی ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے مصطفیٰ اعلیٰ الخاتمة والثنا برپنازل فرمائی ہے۔

۱۸ اے واقعی اشخاص سے بڑھ کر اور کون ظالم اور لفڑ انسانی کا دشمن ہو سکتا ہے جو اپنی من گھر باتوں کو وحی الہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دے یا یہ دعوے کرے کہ کلام الہی کی طرح میں کلام نازل کر سکتا ہوں۔ بوجلد نصیب ایسے گستاخوں کے جاں میں بھنس جاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ ان کے کلام کی لغوتیت اور بے ہدگی سے تنفس ہو کر وحی الہی سے متنفس ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب بزر القسان اور خسارہ ہے۔

الظَّلِيمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْبَلَّكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا

غلام ۱۹ موت کی سختیوں میں (گرفتار) ہوں اور فرشتے بڑھا لیتے ہوں (ان کی طرف) اپنے ہاتھ (اور انھیں کہیں) نہ

أَنْفَسُكُمْ طَلَيْمَهْ تَبْزُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى

نکلاو پنی جانوں کو۔ آج تھیں دیا جاتے گا ذلت کا عذاب اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ

اللَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ اِيْتَهُ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جَعَلْنَا

پر ناحق اور تم اس کی آیتوں (کے مانے) سے تکبر کیا کرتے تھے اور بے شک آگئے ہو چکا ہمارے پاس ۲۰

فَرَادِيٌّ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَأَءَ ظَهُورَكُمْ

ایکیلے یہیں ہم نے پیدا کیا تھا تھیں پہلی دفعہ اور تم چھوڑ آتے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا تھیں اپنے تیجھے

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءَ كَمَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ ۝

اور تم نہیں بیکھتے تھا لیے ساتھ ان سفالشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تھا لے معاملہ میں (جاہاں) شرکیں ہیں

۲۰ ان گستاخوں اور بیباکوں کے حضرت ناک انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ غمرات کا واحد غمرة ہے۔ غمرة اس کو کہتے ہیں جو کسی پیز کو ڈبو دے اور اس کو ڈھانپ لے و منہ غمرة الامااء۔ یہاں غمرات سے ضعود موت کی سختیاں اور جلیفیں ہیں۔ ۲۱ حضرت ابو ہریرہ رضیہ فرماتے ہیں کہ مرتبے وقت کافی روح کو کما جاتے گا اس کے بعد سے نہ کو اس حال میں کہم خود بھی اس ہمارا قت پر ناراض ہو اور خدا بھی تم پر ناراض ہے۔ نہ کو عذاب الہی کی سختیوں کی طرف۔ ایتها النفس المخیثة اخراجی ساختہ مسخوطة علیکِ الی عذاب الله۔ اگرچہ ہم سے روح کو ملک الموت نکالے گا لیکن نہ برو تو نجح کے لیے انھیں یہ کما جاتے گا۔

۲۲ فزادی کا واحد فردان ہے جیسے سکاری کا سکر ان۔ اور بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ اس کا واحد فرد ہے۔ اس کا معنی ہے ایکلے ایکلے (قطبی) خلقنا ای اعطینا۔ وہ خالم بخود بتوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی وحی تو ہم بھی اُنماں سکتے ہیں ان کی حالت ذرا قیامت کے دن دیکھنے کے قابل ہو گی۔ تن تھنابے یار و مددگار بارگاہ ربت ذوالجلال میں پیش کیے جاتیں گے اور وہ جھوٹے خدا جن کی وہ عمر بھر پرستش کرتے رہے ان کا وہاں نام و لشان تک نہ ہو گا وہ گھر سے تعلقات اور بڑی بڑی توقعات سب ختم ہو کر رہ جاتیں گی۔ شفقاء کو سے مراد

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ فَاكُنْتُمْ تُزَعَّمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ فَلِقٌ

بے شک ٹوٹ گئے تمہارے راستے اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ ہی ۱۲۶

الْحَسَنُ وَالْتَّوَى طُبُّخِرِجُهُ الْحَسَنُ مِنَ الْمَيِّتِ وَهُخْرِجُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَسَنِ

پھاڑنے والا ہے دانے اور گھٹھی کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے ۱۲۷

ذَلِكُمُ اللَّهُ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ ۝ فَالْقُرْبَى الْأَصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

یہ ہے اللہ ۱۲۷ پس کو ہرم بھکے چلے جاتے ہو وہ نکالے والابے صحیح کو رات کی نایکی سے ۱۲۸ اور بنایا ہے اس شرات کو آرام کے لیے

وَهُبُّتْ بِنْ حَنْ كَيْ وَهُبُّ عِبَادَتْ كَيْ كَرْتَ تَكَهْ أَوْ أَخْيَنْ خُدَّا كَاشِرِيْكَ بَنَاتَهْ تَكَهْ - يَرِيدُ الْاَصْنَامَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ
الاصنام شرکاء اللہ و شفعاء ناعندا (القرطبی) مراد بُتْ بِنْ حَنْ کَيْ مشرک کہا کرتے کہ ان کے بُتْ اللہ کے شرکیں اور ان کے شفیع ہیں۔

۱۲۸ اَلْفَلَقُ الْشَّقْ فَلَقْ کا معنی ہے چیننا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کے وہ کرشمے جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں ان کا ذکر کر کے ان میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آئے عقل کے دشمنوایہ بتاؤ کہ عبادت کے لائق وہ ذات و الاصفات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ وہ نشک دانے اور سخت کھلکھل کو چیرکر اس سے سرسبز پوچھے اور بلند و بالا درخت اگاتا ہے۔ یا وہ بے بیس اور بے جان پتھر وغیرہ کے بُتْ جھینیں اپنی بھی خبر نہیں۔ گندم کے دانے کا دل چکر کس طرح گندم کا پودا ازکلتا ہے جس کی کنتی بالیں ہوتی ہیں اور ہربال پر الگ الگ خوشہ ہوتا ہے جس میں سیکڑوں دانتے مضبوط غلافوں میں لپٹتے ہوتے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس چھوٹے سے دانے میں سے کیونکر لکلا۔ اور اب تک اس میں کیونکر سیکڑا ہا۔ آم کی چھوٹی سی کٹلی سے اتنا بڑا درخت لیسے پیدا ہو گی۔ اگر انسان اسی میں تائل کرے تو تحقیقت دشمن ہو جاتی ہے ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا اعجاز۔ بے جان انڈے سے جاندار فرعی اور قطرہ آب سے زندہ انسان۔ یا بد سے نیک اور نیک سے بد۔

۱۳۰ ذَلِكُمْ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ شَرِبَ ہے یعنی اللہ اور مبعود برحق تو وہ ذات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں تعجب ہے تم پر اگر اس کے بعد بھی تم دُوْرِ رسول کو خدا سمجھتے رہو۔

۱۳۱ صبح، صباح اور اصباح تینوں ہم معنی ہیں (قرطبی)، سکنا کا معنی ہے آرام اور راحت کا وقت۔ ای محال للمسکون (قرطبی) حسب اناہی بحساب یتعلق بہ مصالح العباد (قرطبی) یعنی اس حساب اور اندازانے سے سورج اور چاند کی حرکت مقرر فرمادی ہے جس سے دن، مہینے اور سال بنتے ہیں جس سے گرمی، ہر سردی، بہار اور خزان ا کے موسم

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ

اور (نیایا ہے) سورج اور چاند کو حساب کے لیے بیاندازہ ہے (مقرر کیا ہوا) سب سے زبردست، سب کچھ جانے والے کا اور فرمی ہے،

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُ وَابْهَا فِي طُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

جس نے بنایا ہے تھا اے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی را معلوم کر سکو ان سے خشنگی اور سمندر کے اندر ہیروں میں

قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ كُمْمَنْ

بے شک ۱۲۶ آدم نے کھوں کر بیان کر دیئے ہیں لاکل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور فرمی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک

نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَسْتَقْرِرُ وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ

جان سے ۱۲۷ پھر (رمتخارے یے) ایک بڑی نے کی جگہ ہے اور ایک ایانت رکھے جانے کی بے شک آدم نے تفصیل سبیان کر

خلوٰوں پر یہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خلوٰق ہر طرح مستفید ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں دانہ اور گھٹلی جو بظاہر عمومی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں نظام شمسی کے دو اہم ستاروں سورج اور چاند کا ذکر ہوا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ کارخانہ سنتی کی ہر چیزی بڑی چیز اسی کی قدرت کا ملک کا رک्षہ ہے اسی کی حکمت اور علم نے ان کے لیے یہیے اندازے اور ضابطے مقرر کر دیتے ہیں جن کے وہ پابند ہیں اور سب اُس کے حکم کی تعمیل اور اس کے فرمان کی بجا اوری میں سرگرم عمل ہیں۔ اور زندگی کی یہ ہمایہ موجود ہے۔

۱۲۷ یعنی اہل علم و دانش کے لیے کائنات سنتی کی ہر چیزیں توحید کی دلیلیں موجود ہیں۔ چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپ کوئی چولیں اس کی وضع و قطع کی موزوں نیت، اس کی خصوصیات، اس کے آن گنت و آند اور پھر سارے نظام عالم کے ساتھ اس کی وابستگی کو دیکھ کر انسان مجبوراً اکہ اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات بڑی قدرت، علم اور حکمت کی مالک ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اسی مبنی سبیت سے عرفان توحید زیادہ ہوگا۔

۱۲۸ زین و آسمان کی مختلف اشیاء کے ذکر کے بعد قدرت اپنے شاہکار حضرت انسان کا ذکر کر رہی ہے کہ ان سب کا اصل الاصول اور جد اجد ایک آدم ہے علیہ السلام مستقر کا معنی ہے قرار پکڑنے کی جگہ مستودع کرنے ہیں اُس جگہ کو جہاں کوئی چیز بطور ایانت رکھی جاتی ہے۔ آیت میں ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اس کے متعلق علمائے متعدد اقوال ہیں بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد مال کا شکم ہے اور مستودع سے بایپ کی بیچھے بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد نہیں ہے جہاں انسان کی نبوی نہیں بلکہ رہتا ہے اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں مرنے کے بعد حشرت کا درمیانی عرصہ گزارنا ہوتا ہے۔

يَقْتَهُونَ^{٩٩} وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ

دی ہیں دلیل ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں اور وہی ہے جس نے تاریخ اسلام سے پرانی توہم نے نکالی اُس کے فریضے اگئے

كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضْرًا مُخْرِجٌ مِنْهُ حَبَّاً مُنْتَرًا كَبَآ وَ

والی ہر چیز پھر توہم نے نکال لیں اُس سے ہری ہری بالیں نکال لیتے ہیں اس سے (نوشہ جن میں) (انے یاد فرمے پر چڑھتے توہم ہیں اور

مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعَهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنْتٌ مِنْ أَغْنَابٍ

نکالتے ہیں، کچھوں سینی اس کے گابھے سے کچھے پنجھے بھکھے ہوتے اور (ہم نے پیدا کیے) باغات انکوڑ اور

وَالزَّيْتُونَ وَالرِّقَمَانَ مُشْتَبِهَانَ وَغَيْرَ مُتَشَابِهَ طُنْظَرُوا إِلَى ثَمَرَةٍ

زیتون اور انار کے بعض (شکل و ذاتیت میں) ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ دیکھو ہر درخت کے پھیل کی طرف

إِذَا أَشْرَأْ وَيَنْعِلَهُ طَرَقَتِ لَكُمْ لَآتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{١٠٠} وَجَعَلُوا

جب ہ پھل دار ہو اور (دیکھو) اس کے پہنچے کو ۲۹۷ بے شک ان میں نہ نہ شناسیاں ہیں (اس کی قدر کا علم کی) اس قسم کی جیجی بیانات دیں ہے اور بنیا

۲۸ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کی اجرا آفرینیوں کے ذمہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں انسانی بنا کے لیے اس کی خواک کا جو انتظام فرمایا گیا ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ خضر بمعنی اخضر بیجی سرسری ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نہدم ہو، مگر اور چاول کے پودے ہیں جن پر خوشی لگتے ہیں۔ قال ابن عباس یہ ریاض الفتح و الشعید والسلت والذرۃ والارزو سائر الحبوب (قرطبی) قیوأن مجمع ہے۔ قیوأن یاقتو بی اس کا معنی ہے کچھ۔

۲۹ اللہ یہاں دیکھنے سے مراد سرسری دیکھنا ہیں بلکہ غور و تدبیر سے دیکھنا ہے تاکہ قدرت کی کر شہ سازی اور اس کی سمجھت کی پختہ کاری کے جلوے نظر آنے لگیں۔ یعنی مصادر رمضان ہے ضمیر کی طرف اس کا معنی ہے پھل کا پینا۔ قال الجوہری

یعنی الشمیریین وَيَنْعِلَهُ طَرَقَتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ای نضیح (القرطبی)

۳۰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پہچانا مشکل نہیں۔ تھمارے اوپر اور ایسے۔ تھمارے داییں اور بائیں میری مصنوعات اور تخلیقات کا جو بازار سجا ہوا ہے اسی میں خور کرو۔ ہر چیز یہ لکاری ہوئی سنائی دے گی کہ وہ اپنی نیرنگیوں اور بوقلمونیوں سمیت خود بخود نہیں ہو گئی بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے جو سب کچھ جانے والا ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ذرا دیکھو بیج کا دانہ شق ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک نرم و نازک بال مکل آتی ہے۔ اسے آپ کرن ورنہ سمجھتے یہ یومی کی کتنی

لَكُمْ شُرِكَاءُ اجْنَانٌ وَخَلْقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتَتِ بُغَيْرِ عَلَيْهِ

سِيَّاحَةٍ وَتَعْلِي عَبَّا يَصْفُونَ^{٤٠} بَدْ بِعَالْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي

موجہ ہے آسمانوں کے اور زمین کا یکوں کر پیاک ہے وہ اور برتھے اس سے جو دہبیان کرتے ہیں

انجھ مونیٰ تکو چرکر نکلی ہے۔ یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ بال اب ایک نفحے سے تنے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہوا کے پھیپھیوں کو برداشت کرنے کے لیے مناسب فاسلوں نہ اس میں گرہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب اس کے سر پر ایک شہرا نمودار ہو گیا ہے۔ اس کی جیبیں اب دلوں سے بھر گئی ہیں۔ یہ پوادجو پہلے ہر ابھرا اور نرم و نازک تھا اب اپنا رنگ تبدیل کر رہا ہے۔ غور کرنے والی انگلخود فیصلہ کر لے کہ کیا یہ اندھے مادے کی کاریگری ہے یا علم و حکم پر ودگار کی صنعت کا عجائز ہے۔ پھل لگنے سے لے کر پکنے تک اس کی مقدار، اس کی بواؤ اور اس کے ذائقہ میں آہستہ آہستہ موقع بوقوع جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اسی پر انسان غور کرے تو تحقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس آیت میں انظر“ کے معنی سرسری دیکھنے کے نہیں بلکہ غور و فکر سے دیکھنے کے ہیں۔ ای نظر اعتبار لاظر الابصار المجرد عن التفکر (قطی) میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ جس قوم کی آسمانی کتاب نے اُسے کائنات کی ہر چیز میں فکر و تدبیر کرنے کی ترغیب دلائی وہی قوم اس میدان میں سب سے پچھے نظر آ رہی ہے۔ کیا ملت اسلامیہ کے نوجوان اپنا مقام پہنچائیں گے۔ اپنا فرضہ ادا کرنے کے لیے کمہت باندھیں گے۔ اپنے اول العزم اسلام کی طرح لگانا رحمت مسلسل جد و جهد کو اپنا شعار بنایاں گے۔ اس طرح صرف وہ خود ہی شہرت کے آسمان پر ہمراہ بن کر نہیں چکیں گے بلکہ اپنی ملت کا نام بھی روشن کر دیں گے۔ اور انسانیت کی قادات ایک باریک ان ہاتھوں میں آجائے گی جنہیں کتو خیر امامت کا اعزاز بخشائیا ہے۔

اے ان مشرکین کی حماقت کی کوئی حد ہے کہ انھوں نے جھوٹ کو جو ان سبی مخنوٰں ہیں خدا کا شریک بنایا ہوا ہے مزید بآں اس کے لیے بدیتے اور سیلیاں کھڑی ہیں۔ یہ ایسی خرافات تھیں جن میں اہل عرب کے علاوہ اور قومیں بھی بنتا تھیں۔ عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعض یہود و حضرت عزریل علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یقین، کرتے تھے نعمود باللہ۔

یہیں زیرِ نظر میں اس بحث کا سبق ہے کہ اس کی صفت
بیان کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوتی مفہومیت سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت
ہے کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور مفہوم کے تخلیق فرمایا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق
ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے۔ فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن کہ
جس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا اسے اب بیٹوں اور دُوسرے رشتہداروں اور سمازوں کی

يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ

ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔ اور پیدا فرمایا ہے اس نے ہر چیز کو اور وہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ذِلْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

ہر چیز کو ابھی طرح جانے والا ہے یہ اللہ ہے (ج) مختار اپروردگار ہے نہیں کوئی خدا اسوائے اس کے۔ پیدا کرنے والا ہے ہر

شَيْءٍ قَاعِدٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ لَاتُدْرِكُهُ

چیز کا پس عبادت کرو اس کی اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے نہیں کیہر سکتیں اسے ۳۴۳ کے

ضرورت نہیں۔ اور اگر تم اپنے اُحد پنے سے اُس کی اولاد بنانے پر مصروف تو ہم یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے لطف
سے اس کی یہ اولاد ہوئی۔ اور جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کماں سے آگئی۔

اللَّهُمَّ اور اک کا معنی ہے کسی چیز کو یہر لینا اس کا احاطہ کر لینا۔ الادراک بمعنی الاحاطۃ والتحدید (قرطی) اور ظاہر
ہے کہ احاطہ صرف اس چیز کا کیا جاسکتا ہے جو محظوظ ہو اور کسی خاص سمت میں پانی جاتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو محظوظ
ہے اور نہ کسی خاص بھت میں موجود۔ اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہاں دُنیا کی اولاد ہر چیز کی ترقی طبقی سے بڑی کیوں ہو
اس کا کوئی کوشش اللہ تعالیٰ کے علم محظیت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ مفترضہ اور غوارج نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
دیدار اس دُنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے۔ لیکن ان کا یہ استنباط غلط ہے کیونکہ قرآن کی دوسری آیات صاف بتا رہی
ہیں کہ قیامت کے دن نہیں کو دیدارِ الہی ہو گا۔ وجہ اس کی یہ میثن ناضرہ اُن ریتھا ناظرہ (بعض چھرے اس روز
شکفتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے) اور اگر یہ مجال عقلی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیدار کا
سوال نہ کرتے۔ کیونکہ فی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ایسی بات کا سوال کرے جو مجال ہو۔ نیز احادیث صحیحہ اور جیلیان القدر صحابہ
اور علماء اممۃت کے اقوال سے ثابت ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ مرواں نے حضرت ابوہریرہؓ سے پوچھا ہل رای محمد ربه؟ کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کو دیکھا فقل نعم۔ تو حضرت ابوہریرہؓ نے جواب دیا ہاں۔ حضرت ابن عباس کا بھی ہی قول ہے۔ حضرت احمد
بن حنبل سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا۔ انا اقویں بحدیث ابن عباس؛ بعینہ را لادا حتی الفقط نفسہ بیمار
تو وہی قول ہے جو ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی
امام احمدؓ نے اتنی بارہ ہر ایک آپ کا سالش لوث گیا۔ وکان الحسن یخلف باللہ الذی لا الہ الا هو لقدر ای
محمد ربه؛ حضرت سن بصریؓ فرمایا کرتے مجھے اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں حضور علیہ السلام نے اپنے رب

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيْرُ^{١٤} قَدْ

نظریں اور وہ کھیرے ہوتے ہے۔ سب نظروں کو اور وہ بڑا باریکہ بین (اور) پوری طرح باخبر ہے بلکہ

جَاءَكُمْ بَصَارٍ مِّنْ رَّيْكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

سمیں مختالے پاس آئھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے ب کی طرف سے ۲۸۷ سال تجسس نے لکھوں سے بچھا تو اس نے اپنا فائدہ کیا اور جو انہا بنا رہا

فَعَلَيْهَا طَوْمَاً أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ^{١٥} وَكَذِلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ وَ

تو اس نے اپنا نقصان کیا اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں (تو یہی) دلیلوں کو

لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَتُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^{١٦} إِشْبَعْ مَا أُوحِيَ

اور تاکہ بول آئھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھنا یا ہے ۱۳۴ اور تاکہ ہم واضح کریں اس کو اس قسم کیلئے جو علم حکمت ہے، پیری کھجے آپس کی عوامی کی جانب ہے

کا دیدار کیا ہے اگر کوئی شخص مصروف کر آیت ہیں اور اس کا معنی دیکھنا ہی ہے تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ عامن کا ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی وقت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے۔ جیسے حضور کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعنی لا تذر کہ الاصدار المخلوقة فی الدنیا لکنه یخلقن لمن یرید کرامته بصرا وادرا کایرا بہ کہ محمد علیہ السلام (القرطبی)

ہے موسیٰ زہوش رفت زیکر بولاہ صفات تو عین ذات می تکری دربستی

۱۳۴ بصر اور بصیرت کی جماعت ہے جس طرح جسم کے لیے بصر (بینا نی) ہے اسی طرح نفس درود کے لیے بصیرت ہے۔ وہی للنفس کا بصر للبدن (بینا وی) اور یہاں اس سے مزاد روشن دلیلیں ہیں یعنی بالبصر دردعا الحجۃ البینۃ الظاهرة (القرطبی) اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ مختاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشن دلیلیں آگئی ہیں۔ اگر قران کی روشنی میں جلوگے تو اس میں مختاراً ذائق فائدہ ہے یہیوں کہ اس طرح دین اور دنیا کی عزّت و قوی سے سرفراز ہی جاؤ گے۔ اور اگر آئھیں بند رکھو گے تو خود ہی ہلاکت کے گھٹھے میں گرو گئے کسی کا کیا بگڑے گا۔

۱۳۵ درس میں دراستہ میں مشتملت ہے۔ اس کا معنی ہے کسی کو پڑھ کر سُنْنَا (القرآن علی الغیر) مقصداً یہ ہے کہ اگر ہم اپنی توحید کی دلیلیں کو صرف ایک ہی بار بیان کرتے تو کوئی سُنْتَ کوئی نہ سُنْتَ، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا۔ اور اگر ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہوتا تو شاید کوئی اگر کتاب جاتا۔ اس لیے ہم ان دلائل کو مخفیت رنگوں اور متعدد اسلوبوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے مخاطب یہ اعتراف کرنے پر مجبوز ہو جائیں کہ واقعی آپ نے پوری طرح دلیلیں ہمیں پڑھ کر سُنْنَا ہیں اور سمجھانے کا حق ادا کر

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ^(١٧) وَ

آپ کی طرف آپ کے بے کی طرف ہے۔ نہیں کوئی معمود بجز اس کے ^{لئے} اور منہ پھیر لومشکوں کی طرف سے اور

لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا طَوَّافًا مَّا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ

اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شرک نہ کرتے اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر مگہبان اور نہیں بین

عَلَيْهِمْ بُوَكِيلٌ ^(٢٠) **وَلَا تُسْبِّو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ**

آپ ان کے ذمہ دار اور تم نہ بڑا بھلا کو ^{لے} لے اتحیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا

اللَّهُ فَيَسِّبُوا اللَّهَ عَدًّا وَإِنْغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّلَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَّا هُمْ

(الیسان ہو) کہ وہ بھی بڑا بھلا کہنے لیگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوتے ہماس کے یہ نہ رہت کے لیے ان کا عمل

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَنْتَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(١٩) وَ

پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر انہے انہیں بتاتے گا جو وہ کیا کرتے تھے اور

دیا ہے آیت کے اور مطالب بھی بیان کیجئے ہیں لیکن یہ قول سب سے عمدہ ہے۔ قال المخاس قول حسن (قطبی) ^{لئے} آپ تقدیر کی گلائی پر ملؤں اور غلیکن نہ ہوں۔ آپ نے فہماں شناخت کر دیا ہے تم نہ رہت کے لیے ان کا عمل کی طرف دیکھیں۔ ای لاشتعل قلبک و خاطرک بهم بل اشتغل بعبادۃ اللہ (قطبی)

کے مبلغ اگر صحیح تربیت یافتہ ہو تو اپنے نظریات اور عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے جوش میں وہ حد اعتماد سے مجاہد کر جاتا ہے اور معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعین کے دلوں میں نفرت اور تھتب پیدا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات نوبت گالی گلوج ٹک پہنچ جاتی ہے اس آیت سے بغین اسلام کی تربیت مقصود ہے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شاستگی اور ممتازت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں اُنھیں حکم دیا کہ مشرکین کے باطن خداوں کو بڑا بھلا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تھار متعبو و بحق کی جانب یہ کرستاخی کرنے لیکیں۔ اس انداز سے انہیں اسلام کا پیغام پہنچا تو اُن کے عقائد باطلہ کی تردید کرو کہ انہیں تھاری دعوت قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ کاہی نہ ہے۔ عد والای جہلہ اور اعتدال عجمالت اور زیادتی سے علماء اصول نے اس آیت سے سدراائع کا فاعدہ اخذ کیا ہے جس کا خفتر امطلب یہ ہے کہ ہر ملک کام جبکہ میمعیت کا سبب بن جائے تو اس کو توڑک کر دیا جائے گا۔

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ أَيَّةٌ لَّيُؤْمِنُونَ

وہ فتنیں کھاتے ہیں اللہ کی ۳۸ پوری کوشش سے کہ اگر آنکھیں ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لا لیں گے

بِهَا قُلْ إِنَّا إِلَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ

اس کے ساتھ۔ آپ فرماتے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور ان کے مسلمانوں! انکھیں کیا بخوبی جب یہ نشانی آجائے گی تو

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَنُقْلِبُ أَفْدَتْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَالَهُ

(اتب بھی) یہ ایمان نہیں لائیں گے اور تم پھر دیں گے ۳۹ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں

يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ۝

ایمان لاتے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ اور ہم پھر دیں گے انھیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

۴۰ کفار قریش نے ایک باڑھوڑنی کر کم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ اپنا عصا مار کر پھر سے پانی کے پچھے جاری کر دیکرتے تھے۔ عیسیٰ مژدوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور ثود کے پاس ایک اونٹنی بھی۔ آپ بھی ہمیں کوئی نشانی دکھاتے تھے۔ آپ کی تصدیق کریں۔ حضور نے فرمایا کون ہی نشانی چاہتے ہو۔ کہنے لگے کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونابن جاتے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور نے دعا کی تو جب جعلی حاضر ہوتے اور آگر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ابھی سونابن جاتے۔ لیکن جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا اُسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ یا آپ انھیں اپنے حال پر رہنے دیں تاکہ جس قت کوئی چاہتے تاہب ہو جاتے اور اسلام قبول کرے تو حضور نے فرمایا بل یتوب تابعہم یعنی مجھے دُوسری صورت پسند ہے۔

۴۱ یعنی ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ آج تک ہمیں کوئی نشانی اور محجزہ نہیں دکھایا گیا اس لیے ہم ایمان نہیں لائتے بلکہ پیش ازیں بھی انکھوں نے قدرت خداوندی کی نشانیاں اور محجزات دیکھے لیکن محض ہٹ وھری اور عناد کی وجہ سے انھوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی مجرم، انھیں دکھایا جاتے گا تو یہ اپنے سابقہ ستور کے مطابق قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اور ہم بطور مزراں ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھر دیں گے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی وقت پھین لی جاتے گی۔ پھر وہ گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔

وَلَوْ أَنَّا نَرَكُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِكَةَ وَكَلَّهُمُ الْمُوتُ وَحَشَرْنَا

اور اگر تم ۱۳۷۸ء میں اُن کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے (قبوں سے اٹھکر) اور تم جمع کر دیتے

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

ہر چیز کو ان کے رُوبرو تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ اے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدًّا

لیکن اکثر ان میں سے (بالکل) جاہل ہیں۔ اور اسی طرح بنا دیتے ۱۳۷۸ء میں ہر نبی کے لیے دشمن

۱۳۷۸ء کفارت نے مجھ پر فراش کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کی فراشیں پوری کر بھی دی جاتیں فرشتے آسمان سے اُن کران کے پاس اکھڑے ہوں۔ مردے قبوں سے تخل کران سے باتیں کرنے لگیں۔ اور ہر چیزان کے سامنے آئیں جو تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں تلاش حق کا جذبہ ہی نہیں۔ ہدایت کی طلب ہی نہیں ایسے لوگوں کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں۔

۱۳۷۸ء میں ان کے ایمان لانے کی ایک صورت ہے کہ ان سے اختیار اور ارادہ کی قوت سلب کر لی جاتے اور انھیں مجبور حضن بنا کر ایمان لانے کا حکم دیا جاتے لیکن ایسا کرنا منظور نہیں کیونکہ حکمت الہی کا یہ نیشا نہیں کہ انسان بھی توسرے چیزوں کی طرح عقل و خرد، سوچ، چمار، ارادہ و اختیار سے یکسر محروم ہو کر پابند احکام بن جاتے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناداقیت ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انھیں کوئی ایسا مجھ پر دکھایا جاتے جس کو دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار ہو کر اسلام کو قبول کر لیں۔

۱۳۷۸ء شیاطین سے مراد ہر سرکش اور نافرمان خواہ انسان ہو یا جن۔ والشیطان کل عادت متبرد من اللہ و الجبن وہذا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکش انساؤں اور جن کی باہمی و سوسہ اندازی کو دوحی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب باتیں بڑی رازداری سے ہوتی ہیں و سما و حیالانہ انہما یکون خفیۃ (قطبی) زخوف القول کا معنی ہے مفع شدہ باتیں جن کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ لیکن خاہر اتنا دلکش اور نظر فیب ہو کہ انسان خود بخود اس کی طرف چھاپلا جاتے۔ عد (رواد) اعلیٰ عذر (جمع) کے معنی میں ہے۔ اس کی متعدد نظریں قرآن کریم میں نیز ضمایر عرب کے کلام میں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔ اوالطفل الذين لم يظهو واعلى عادات النساء يهان طفل جمع کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اسی طرح ابن الانباری نے ایک شعر پڑھا ہے

اذا انما لرعاف صد يقى بوده فان عدو لى يضرهموا بغضى (رازى)

شَيَاطِينَ الْأَنْسِ وَالْجِنِّ يُوَحِّي بِعُضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُّخْرُفَ

(یعنی) سرکش انسان اور جن جوچکے پیچکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوش نہ باتیں

الْقَوْلُ عَرْوَاتُ وَلَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا

(لوگوں کو) دھوکہ دینے کے لیے اور اگر چاہتا آپ کارب تو وہ یہ نہ کرتے سوچپڑا دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان

يَغْتَرُونَ ۝ وَلَتَصْنَعِ الْيَدِ أَفْدَةُ الدِّينِ لَا يُؤْمِنُونَ

باندھتے ہیں اور (چھوڑتے) تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے

بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضُوهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝ أَفَغَيْرُ

آخرت پر ۱۲۳۴ء اور تاکہ پسند کریں اسے اور کرتے رہیں جوگناہ وہ اب کر رہے ہیں (آپ ان سے پوچھتے) کیا

اللَّهُ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الدِّينُ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَضَّلًا

اللہ کے سوا ۱۲۲ء میں تلاش کروں کوئی اور منصف حالانکہ وہی ہے جس نے آماری ہے تمہاری طرف کتاب مفضل

یہاں عدو یعنی اعدام استعمال ہوا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ عدو شیاطین الانس والجن کی ترکیب کیا ہے بعض نے عدو کو مبدل منہ بنایا ہے شیاطین انہ کو بدل۔ اور بعض علماء کے نزدیک شیاطین الخ جعلنا کا مفعول اول ہے اور عدو امفعول ثانی ہے۔ ایت کرمہ کا مفہوم یہ ہے۔ اے جلیل! اے نابکار جو آپ کو تینگ کرتے ہیں بات بات پر اغراض۔ قدم قدم پرشوارت اور اسلام کو زک پہنچاتے کے لیے سر وقت آپس میں صلاح مشورے کرتے رہتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر ایک دوسرے کو اکساتے رہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ قدیم سے یہی وسیتوں چلا آتھے اس لیے آپ ان سازشوں کو خاطر میں نہ لایتے اور ان سازشوں کے متعلق نکر دیتے رہتے۔

۱۲۳۵ء یہ ہمچلہ یوہی کے ساتھ متعلق ہے یعنی باطل کے سربراہ باطل نظریات کو جس اور گریش اندازیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں قیامت پر ایمان نہیں وہ ان کے دام فریب میں پھنس جائیں اور وہ غلط راستہ جو انکھوں نے اپنے لیے لپسند کر لیا ہے اس پر دوڑتے چلے جائیں۔

۱۲۲۷ء کفار مطابکہ کرتے تھے کہ ہم ایسی نشانیاں دکھاویں سے ہم فیصلہ کو سکیں کہ آپ سچے بنی یہیں جنہوں کو ہم کو حکم نہیں، ہے کہ آپ ان سے پوچھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بظہر کر بھی کوئی سچا فیصلہ کرنے والا ہے جس کی طرف رُجُوع کیا جاتے اور اگر

وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ

اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ (ایجھی طرح) جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) اُتا را گیا ہے آپ کے ب کی طرف سے

بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ^{۱۵} وَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا

حق کے ساتھ تو (اسے سمعنے والا) ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والا سے اور مکمل ہو گئی آپ کے ب کی بات سچتائی

وَعَلَ لَأَطْلَامَبِيلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^{۱۶} وَإِنْ

اور عدل سے ۲۵ لہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا اور وہی ہے سب پچھے سمعنے والا جانتے والا اور (اسے سمعنے والا) ہے

تُمْطِعُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُخْلُقُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ طَرَانَ

اگر قواعد اعتماد کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہ کا دیں گے اللہ کی راہ سے وہ نہیں

يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا مُخْرُصُونَ^{۱۷} إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

پیروی کرتے سواتے گمان کے اور نہیں ہیں وہ منکر محض یعنی لگاتے ہیں لے شکا ک پ کارب خوب

اللہ کا فیصلہ صحیح تسلیم کرتے ہو تو اس نے تو قرآن عجیبی مجرمنا کتاب نازل کر کے میری صداقت کا فیصلہ فرمادیا ہے۔ مزید اطمینان کی ضرورت ہو تو یہود و نصاری سے دریافت کرلو۔ ان کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جگہ جیسا میری نبوت اور قرآن کے کلامِ اللہ ہونے کی شہادتیں موجود ہیں حکم، اور حاکو کا ایک ہی معنی ہے فیصلہ کرنے والا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں صحیح کرے یا غلط۔ لیکن حکم صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔

۲۵ اے کلمہ سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے کیونکہ اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ وہ کلمات کثیرہ ہو ایک مقصد سے متعلق ہوں ان کو بسا اوقات کلمہ (واحد) لہمہ دیجا جاتا ہے جس طرح نہیں کا قصیدہ جو کثیر اشعار کا مجموعہ ہے اسے کلمہ زیر ہمی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں قرآن حکیم کی چند صفات بیان کی گئی ہیں وہ تمام یعنی تمکن ہے۔ اپنے لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے جو زندگی کا ضابطہ اس نے پیش کیا ہے اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں۔ دوسرا صفت یہ ہے کہ وہ سراپا حق و صداقت ہے جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ تجھے ہے۔ تیسرا صفت یہ ہے کہ جو شرعی احکام اور مدد و نوایی قرآن میں ہیں وہ سرتاپا عدل و انصاف ہیں اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

۲۶ اے باطل نظریات کے علمبردار خود نویں نویں سے محروم ہیں۔ ان کا سارا دار و مدار قیاس و مگان پر ہے۔ ان کے پاس

أَعْلَمُ مَنْ يَضْلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ فَكُلُوا

جانتا ہے کہ کون بھکتا ہے اس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو کھاؤ

مِمَّا ذَرَ رَسُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا

اس میں سے لیا گیا ہے نام خدا جس پر اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہوئے اور کیا ہوا

لَكُمُ الَّاتِّاكُلُوا مِمَّا ذَرَ رَسُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ

تحییں کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر ۱۲۷۸ حلال نکہ اللہ تعالیٰ نے فصل بیان کر دیا ہے

شَاهِرَةَ عَلَيْكُمُ الَّا مَا أَضْطَرَرْتُمُ الْيَهُودَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمُونَ

تحابے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر مگروہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف اور بے شک بہت سے لوگ مگراہ کرتے ہیں

بَا هُوَ أَعْلَمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِلِينَ ۝

اپنی خواہشوں سے بے علیٰ کے باعث بے شک آپ کارب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو ۱۲۷۹

کوئی ٹھوس اور علیٰ بیل نہیں۔ اگر تم ان کے بھکانے سے بھک گئے اور قرآن کی ان تینی براہین و دلالل کو نظر انداز کر دیا تو تم مگراہ ہو جاؤ گے۔

۱۲۷۸ نفاذ مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں جس چیز کو اللہ مارنے اسے تو حرام سمجھتے ہیں اور جسے یہ خود ذبح کریں اُسے حلال جانتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ جو چیز خود مرے اُس کو خدا نے مارا اور جس کو ذبح کیا جاتے اس کو ذبح کرنے والے نے مارا۔ ہر چیز کا مارنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس طرح تو پھر کوئی چیز بھی حرام نہ ہوئی چاہئے ایسا نہیں بلکہ حلال و حرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی لازمی ہے۔ اپنے ڈھکو سلوں اور قیاس آرائیوں سے کام لینا ایمان کے خلاف ہے جس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتے وہ حلال ہے اُسے بلا تائل کھاؤ۔

۱۲۷۸ جو چیزیں حرام تھیں ان کے منتعلن اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا اب یکتنی جہالت اور حماقت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اسے حرام سمجھا جائے اور جس جانور کو کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرے اس کو نہ کھایا جائے۔

۱۲۷۹ اس آیت میں وہ لوگ غور کریں جو اس جانور کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جانتا ہے اور اس وقت

وَذُرْ وَأَظَاهِرَ الْأَشْرَمْ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الدِّينَ يَكُسِّبُونَ الْأَشْرَمْ

اور ترک کرد و ظاہری گھٹا کو اور پچھے ہوتے کونھاں بے شک وہ لوگ جو مکاتے ہیں گناہ (تو) جلدی ہی

سَيْجُزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٤﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذِلْ كَرِ

سرزادی جانتے گی انھیں (اس گناہ کی) جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے اہل اور مت کھاؤ اس جا نور سے کہ نہیں لیا گیا

إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَغَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَنَ لَيُوْحُونَ إِلَى

اللہ کا نام اس پر ۱۵۰ اہ اور اس کا گھانا نافرمانی ہے اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے

کسی غیر کا نام نہیں لیا جاتا اور اس سے مقصود محض کسی بزرگ کو الصیال ثواب ہوتا ہے وہ غور کریں کہ کہیں وہ تو اس آیت کا مصداق نہیں؟

۱۵۰ءے ہر ستم تک گناہوں سے بازاںے کا حکم دیا جا رہا ہے خواہ ان کا تعلق اعضا جسمانی سے ہو یا دل سے، خواہ ان کا ارتکاب مجمع عام میں کیا جاتے یا لوگوں سے چھپ کر کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے۔ اور اسلام کسی صورت میں بھی نہ اس کی اجازت فے سکتا ہے اور نہ اسے برداشت کر سکتا ہے۔ ایک پاک معاشرہ

تب ہی عرض وجود میں آسکتا ہے جب اس کے فرد کے ظاہری اعضا بھی کسی پر زیادتی نہ کریں اور ان کے دل بھی بُرے خیالات سے پاک ہوں۔ ان کی جلوت اور غلوت دونوں یکساں طور پر پاکیزہ ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب چھپ کر زنا کرنے کو حلال سمجھتے تھے۔ آج بھی یورپ کا جامیل تمدن گناہ کی اس تفریق کا قانونی طور پر معرفت ہے۔ اسلام حسن معاشرہ کی تشکیل کے لیے کوشش ہے وہاں گناہ کی کوئی بُجانش نہیں۔ جلوت و غلوت یکساں ظاہر، ظاہر و باطن دونوں پاک۔

اہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح بے اختیار و بے ارادہ نہیں۔ بلکہ اس کے افعال اس کے اختیار و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کے اعمال کے متعلق اس سے باز پُرس ہوگی۔ لیکن اس کا یہ اختیار اور ارادہ اسے اللہ تعالیٰ کے قبضۃ قدرت سے باہر نہیں کر دیتا۔ یہ ارادہ اسی کا عطا فرُودہ ہے۔

۱۵۱ءے پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کو۔ اس آیت میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت سمجھو۔ وہ جاؤ رجہ خود مرگیا وہ بھی حرام ہے اور جسے ذبح کیا گیا تین دلستہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔

أَوْ لِيَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشَرِّكُونَ

دوستوں کے دلوں میں (اعترافات) تاکہ وہ تم سے جھکڑیں۔ اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم مشرک ہو جاؤ گے ۱۴۷

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا إِيمَشِي بِهِ فِي

کیا وہ بوجو (پیسے) مردہ تھا ۱۴۸ پھر زندہ کیا ہم نے اُسے اور بنایا اس کے لیے نور پختا ہے جس کے اجھے میں لوگوں

النَّاسُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا طَكَنِ لَكَ

کے درمیان وہ اُس بجیسا ہو سکتا ہے جو اندر ہیں میں پڑا ہو نہیں سکتے والا ان سے۔ یوں نبی

زُينَ لِلّكُفَّارِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذِلِكَ جَعَلْتَ أَفْيَنَ

آزادتہ کر دیتے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر بتی

قَرِيَّةٌ أَكِيرَهُجُرْمِيَّهُ مَالِيَّمَكْرُوْهُ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ

میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم تاکہ وہ بکرو فریب کیا کریں اس میں اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو

۱۴۹ ان اس آیت سے معلوم ہوتا کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی تجزیوں کو حلال لیتیں کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے فدلیلت الایہ علی ان من استحلل شیئاً ماصاحدوم اللہ تعالیٰ صاربہ مشرک (قرطبی) حضرت صدر الالفاظ الشافعی رحمۃ الرانہیں یکیونکہ دین الہی میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرا کے حکم کو مانا اور اللہ کے سواد دوسرے کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ (خبرات انعرفان) ۱۵۰ اس آیت میں موت سے مُراد کفر و جہالت ہے اور زندگی سے مُراد دہالت اور علم ہے اور فوز سے مُراد قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پیسے کفر و جہالت کی موت مر جا ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہدایت اور علم کی زندگی محنت فرماتے اور دنیا کے اس ظلمت کدھ میں اس کے پاس قرآن کی روشن شمع ہو جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھا جلا جا رہا ہو۔ کیا اس خوش نصیب کے ساتھ وہ بد لصیب برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے جو مگر اسی کی تہ دوستہ ظلمتوں میں ہی رہا۔ وہ سرگردان ہو اور ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل رہا ہو۔

۱۵۱ یعنی میها مفعول اول ہے جعلنا کا اور اکابر مفعول ثانی ہے۔ بلکہ کے تریس اور سردار حضور کو یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ نیت شرارت اٹھاتے۔ کبھی کوئی الزام کبھی کوئی بہتان مقصداً یہ ہوتا کہ لوگ اپسے متنقفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا رکو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ شرک کے پودھری اور رئیس اپنے اثر و رسوخ کو

وَمَا يَشْعُرُونَ^{۱۴} وَإِذَا جَاءَهُ تَهْمَةٌ لَّهُ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ

اور وہ (اس بات کو) نہیں سمجھتے اور جب آئے ان کے پاس ۱۵۶ کوئی نشان کھتے ہیں، تم ہرگز ایمان نہ الائین کے جب تک

نُؤْمِنُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ

ہمیں بھی دیساہی نہ دیا جاتے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ بترا جانتا ہے (اس دل کو) ہمارا دُہ رکھتا ہے

رِسْلَتَكَ طَسِيعِيْدُ الدِّيْنَ أَجْرَمُوا صَغَارٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٍ

ایسی رسالت کو عنقریب پہنچنے کی جھنوں نے جرم کیے ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب

شَدِيدٌ لِمَا كَانُوا يَكْرَوْنَ^{۱۵} فِيمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْكُلَ يَهْكُلَ يَهْكُلَ يَهْكُلَ

سخت بوجہ ان مکروہ کے بوجہ کیا کرتے تھے اور جس (خوش نصیب) کے لیے ارادہ فرماتا ہے اللہ کے ہدایت کے اسے تو شادہ کر دیتا،

بحال رکھنے کے لیے مغمیرین کے خلاف الزامات لگاتے جلے آتے ہیں اور لوگوں کو اپنیا سے دُور رکھنے کے لیے سارے جتن کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ اپنی نادانی کے باعث اس چیز کو نہ سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی عاقبت برپا کر رہے ہیں۔

۱۵۶ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکمل کاریں ولید بن معیرہ کہنے لگا۔ لَوْ كَانَتِ النِّبُوٰةُ حَقًّا

لَكُنْهُ أَفْلَى بِهَا مُنْكَرٌ لِأَنَّ أَكْبَرَ مِنْكَ سَنَاً أَكْتُرُ مِنْكَ مَا لَأَرَقْبَى۔ یعنی اگر نبوت کی صحیحیت ہوئی تو یہی آپ سے نبوت کا زیادہ مستحق تھا میں آپ سے بڑا ہوں اور مدارج بھی آپ سے زیادہ ہوں اور ابو جمل وغیرہ متبرک رکنے کے ہم سُنی سنائی بات پر ایمان لانے والے نہیں تم تو بت مانیں گے کہ جس طرح ان پر وحی نازل ہوتی ہے اُسی طرح وحی ہم پر بھی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ردیں فرماتا ہے کہ میں ہی بتھتا ہوں کہ کوئی ناول اس نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے اور کس میں اس بارگواں کے اٹھانے کی ہمت ہے۔ مال و دولت اور جاہ و منزلاں اور کبریٰ نبی بننے کا کوئی معیار نہیں۔

۱۵۷ اہ تاریخ شاہد ہے کہ جن مخروروں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے تو بہ نہ کی ان کی ساری عظمت غاک میں مل گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور قیامت کے دن جو عذاب انہیں دیا جائے گا اس کا تو ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔

صَدَرَةَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُّ أَنْ يُضْلِلَ يَجْعَلُ صَدَرَةَ ضَيْقًا

اس کا سینہ اسلام کے لیے ۱۵۸ اور جس (بد نصیب) کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینہ کو

حَرَجًا كَانَتِيَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذِلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ

تنگ بہت نگاہ گویا وہ زبردستی پڑھ رہا ہے آسمان کی طرف اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی

عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَهُذَا صَرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قُدُّ

ان پر جو ایمان نہیں لاتے ۱۶۰ اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا (بالکل) سیدھا ہم نے

۱۵۸ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرمائے تو اس کے سینہ کو قبول حق کے لیے کشادہ کر دیتا ہے وہ اپنے دل میں حق کی طرف رغبت اور آمادگی محسوس کرتا ہے حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کیف الشرح یا رسول اللہؐ اشرح صدر کی کیفیت ہے تو حضورؐ نے فرمایا اُلُّا نَابَةٌ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالنَّجَافِ عَنْ دَارِ الْعَرُودِ وَالْأَسْتَعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ۔ انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس دُنیا سے اُس کا دل متفرق ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے بکل تیاری کر دیتا ہے۔ (روح)

۱۶۰ حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے فسطح حرجؐ کی تحقیق کے لیے بنی کنانہ کے ایک شخص کو بولایا اور اُس سے پوچھا ہے جوان حرجؐ کس کو کہتے ہیں۔ قالَ الْحَرَجَةُ فِينَا الشَّجَرَةُ تَقُونُ بَيْنَ الْأَشْبَابِ إِلَيْهِ لَا تَنْصِلُ الْيَهَارَاعِيَّةُ وَ لَا وَخْشِيَّةُ وَ لَا شَيْئٌ۔ اس نے کما حرجؐ تہارے ہاں اُس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جنڈیں ہوتا ہے جمال کی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہیں کو حضرت فاروقؐ نے فرمایا۔ كَذِلِكَ قُلْبُ الْمُنَافِقِ لَا يَعْصِمُ إِلَيْهِ شَيْئٌ عَمَّا تَحْيِرُ مُنَافِقُ الْأَوْلَى بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہاں کوئی بھلانی نہیں پہنچ سکتی (روح) حرجؐ کا معنی ہے بہت تنگ قال الزجاج احیق الصیق میقصد یہ ہے کہ جب کسی کی پھر کشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف سے پھر جاتی ہے تو قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے حق کو تسلیم کرنے کا تصور کرتے ہی اس کی حالت ایسی ناگفتہ ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کو آسمان کی طرف پڑھنے پر محبوک کیا جاتے جس طرح اس کا سانس بھپول جاتا ہے۔ اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اسی طرح اس بد نصیب کا حال ہوتا ہے۔

۱۶۱ رجس پلیدی اور ناپاکی۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اطور نہزاد ان پر ناپاکی مسلط کر دی جاتی ہے۔

فَصَلَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَنْكُرُونَ^{١٤٧} لَهُمْ دَارُ السَّلَامٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

کھول کر بیان کر دی ہیں اب لوگوں کے لیے جو صیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا حکم ہے ان کے رب کے ہاتھ

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{١٤٨} وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا

اور وہی ان کا دوست ہے سبب ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے اور جس نے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے کہ

يَعْشَرَ الْجَنَّةَ قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأَنْسَى وَقَالَ أَوْلَيَءِهُمْ

آئے جنوں کے گروہ! بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو اور کہیں گے ان کے دوست

مِنَ الْأَنْسَى رَبَّنَا السَّمَّتْهُ بِعَضْنَا بِعُضْ بَلَغْنَا أَجَلَنَا اللَّذِي

انسانوں میں سے اے ہمارے رب! اے فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ کئے ہم اپنی اس معیاد کو جو

أَجَلْتَ لَنَا طَالَ التَّارِمَثُوكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا لَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَطَ

تو نے ہمارے لیے میر کی بھتی اللہ فرماتے گا اے آگ تھا اٹھکا ہے ہمیشہ ہو گئے اس میں مرحوم اللہ تعالیٰ ۱۴۷ ملے (نجات دینا) چاہے

۱۴۸ جب مجرموں کو اپنے براہم کے انکار کی مجال نہ ہے گی تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جن و انس، ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوتے اور ساری ہمدردی دنافرمانی میں برباد کر کے اب تیری جناب میں حاضر ہوتے ہیں جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ یہ انھیں بہکاتے گئے اور انسان بہکتے گئے۔ وہ دام بچاتے گئے یہ اس میں پھنسنے کرتے۔ اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا، شراب، قتل و فحارت وغیرہ سب گھناؤ نے گناہ ان کی نگاہ میں بہت لکھ بن گئے اور انہوں نے متاع عقل و خرد کو طلاق نہیں پور کھ دیا۔ ہر پندرہ موعدت سے کان بھرے کر دیتے اور خوب داؤ شیش دی۔

۱۴۹ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتم نے ہملت کے قمیتی لمبے میری نافرمانی میں ضائع کر دیتے۔ اب دوزخ تھارے لیے تیار ہے تھیں اس میں ہمیشہ رہنا ہو گا۔

۱۵۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اہل ایمان کے لیے ہے اور مابمعنی ہن ہے و قال ابن عباس الاستثناء لاهل الایمان فمما علی هذَا بمعنى "مَنْ"۔ (قرطبی)

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ

بے شک آپ کا رب بڑا انساب پچھے جانے والا ہے اور یونہی ۱۶۲ ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو

بَعْضًا إِنَّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَعْشَرَ الْجُنُونَ وَالْأَلْسُونَ أَلَمْ

بعض پر پوچھا ان (کتو توں) کے جو وہ کرتے رہتے تھے اے گروہ جنزوں اور انسانوں کے ! کیا نہیں

يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي وَيَنْزِلُونَ كُمْ

آتے تھارے پاس رسول تم ہی میں سے سُناتے تھے تھیں ہماری آئیں اور ڈراتے تھے تھیں نماہی

إِقَاءَ يَوْمَكُمُ الْهُدَى أَقَالُوا شَهَادَةَ عَلَى أَنفُسِهَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ

اس دن کی ملاقات سے ۱۶۵ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف اور دھوکہ میں بنتا کیا تھا انہیں دنیوی

۱۶۶ بعض نے "نُولِي" کا معنی کیا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے ایک رجہ میں اکٹھا کر دیں گے۔ لیکن علامہ قربی نے "نُولِي" کا معنی "نسلط" کیا ہے۔ یہاں دھکی دی جاہی ہے کہ اگر ظالم تاب نہ ہوتے اور ظلم و تعدی سے بازدہ آتے تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیتے جائیں گے جو ان کو ذلیل و غوار اور سباہ و برآمد کر دیں گے۔ نسلط بعض الظلمہ علی بعض فیہلکہ ویدلہ۔ (قربی)

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرا ظالم سے انعام میتا ہو تو ادیکھے تو چھپھیر جاؤ اور تعجب سے یہ تماشا دیکھو۔ حضرت عباسؓ فرماتے ہیں اذ ارضاً اللہ عن قومٍ ولی امر هؤلی خیار هم و لاذ سخط اللہ علی قومٍ ولی امر هؤلی خیار هم۔ حب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنادیتا ہے۔ اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو بُرے لوگوں کو ان کا حاکم بنادیتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ مرن اعنان ظالماً سلط اللہ علیہ۔

۱۶۷ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے جب کفار مونین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت دیکھیں گے تو اپنے کفو و شرک سے ممکن ہو جائیں گے۔ اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے پچھا گا بنے یہ کہیں گے واللہ ربنا ملکنا مشرکین یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے موننوں پر مہریں لگادی جائیں گے اور ان کے اعضاء ان کے کفو و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا و شهد و علی انفسہم انہم کانوا کافرین (خرائن العرفان)

اللَّهُ نِيَّا وَ شَهِدْ وَ اَعْلَى اَنْفُسِهِمْ اَنْفُسُهُمْ كَانُوا كُفَّارِيْنَ ۝ ذَلِكَ

زندگی نے اور گواہی دین گے اپنے خلاف کہ وہ کفر کرتے رہے تھے یہ اس لیے

اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ الْقُرْبَى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غَافِلُوْنَ ۝

کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے ۱۴۴ اس حال میں کہاں کے باشنسے بےخبر ہوں

وَ لِكُلِّ دَرَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَبِّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور ہر لیک کے لیے درجے میں ان کے عمل کے مطابق اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں

وَ رَبِّكَ الْغَنِيٌّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَاءُذْهِبُكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ مِنْ

اوڑاپ کا پروگرام غنی ہے رحمت والا ہے ۱۴۵ اگر چاہے تو لے جائے (تباه کر دے) تھیں اور مختاری جگہ لے آتے

۱۴۶ جب کوئی بستی گمراہ ہو جاتی ہے اور حق و فخر میں منہک ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا بلکہ سُنْتَ اللَّهِ يَعْلَمْ یہ ہے پھرے ان کی طرف اللَّهُ تَعَالَیٰ کا پیغام سُنَّا نے والے بھیجے جاتے ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور اس گمراہی اور بد کاری سے باز آجائے کی بصیرت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور بھروسی پر بضدر ہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے جو انہیں غیت فنا بود کر دیتا ہے۔

۱۴۷ لے شاید کوئی کم فہم اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے کہ اللَّهُ تَعَالَیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے رسول بھیجے جا رہے ہیں۔ کتابیں نازل کی جا رہی ہیں۔ محاجرات کا سلسہ جاری ہے تو شاید اس کی بکریائی کا دار و مدار اور اس کی خدائی اور بادشاہی کا انصصار ہم پر ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنارب تبلیم کر لیا تو اس کی خدائی قائم رہے گی۔ اور اگر اس کو مانتے سے انکار کر دیا تو اس کی عظمت و بکریائی میں فرق آجائے گا پھر انہوں نے اس کا اذالہ کر دیا کہ وہ غنی ہے۔ اسے کسی کی حاجت نہیں۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہاں اس کی رحمت بے پایاں اور اس کی شفقت بے نہایت ہے اس کا تقاضا ہے کہ تھیں ہلاکت کے گڑھے سے بچایا جائے اور تم میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشوونما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان اپنا اصلی مقام پہچان سکے۔

بَعْدِ كُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَ كُمْ مِنْ دُرْرِيَةٍ قَوْمٌ أَخْرَيْنَ ۝ إِنَّ مَا

تَحْلَى بِهِ بَعْدَ حِسْبٍ ۖ ۱۴۸ بَعْسَ پیدا کیا تھیں دوسرا قوم کی اولاد سے بے شک جس کا

ثَوْلُونَ لَاتِ لَمَّا آتَتُمُ بِمُعْجِزِينَ ۝ قُلْ يَقُولُ إِنَّمَا

تَمَ سَعْدَه کیا گیا ہے ۱۴۹ ضرور آنے والا ہے اور نہیں ہوتا (اللہ کو) عاجز کرنے والے۔ آپ فرمائیے اسے میری قوم ابت عمل کیجیا جاؤ

عَلَى مَكَانِتَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمَنْ تَكُونُ لَهُ

ایسی جگہ پر میں اپنا کام کرنے والا ہوں گے تو تم جان لو گے کہ کس کے بیسے ہوتا ہے اچھا انعام اس

عَاقِبَةُ الدَّارِ طَإِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّالِمُونَ ۝ وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنَّا ذَرَّا

دنیا کے گھر کا بے شک فلاح نہیں پاتے خلص کرنے والے اور انہوں نے بنارکا ہے لکھا اللہ کے لیے اس سے

۱۴۸ اور اگر وہ چاہے تو تھیں مٹا دے اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اور جس طرح تمہارے باپ دادا کے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد تھیں ان کا قائم مقام کر دیا اور دنیا کے سارے کار و بار ہوں کے توں چلتے رہے اسی طرح وہ قادر مطلق تھا راجا الشین کسی اور قوم کو بنافے گا اور دنیا کی رفت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ۱۴۹ یعنی قیامت آکر رہے گی۔

۱۴۸ مکے آپ فرمائیے اسے کفار! اگر تم دینِ اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے شرک و کفر سے چھپتے رہتے پڑھد ہو تو تمہاری مرضی۔ تم اپنا کام کرتے رہو میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا اور موت کے تنخ گھونٹ سے جب تمہارا یہ خمار اُترے گا تو تھیں خود ہی معلوم ہو جاتے گا کہ کسی کی فُتویٰ زندگی کا اچھا نتیجہ برآمد ہو گا اور کس کا بُرا۔ حافظۃ الدار کی وضاحت کرتے ہوئے علام رزمخشری لکھتے ہیں کہ تقدیر کلام یوں ہے العاقبة الحسنی التي خلق الله تعالى هذہ الدار لہا۔ (کشافت) اور لفظ دار سے مراد دار دنیا ہے زدار آخرت۔ والمراد بالدار الدنیا الادار الاسلام۔ (رفح)

۱۴۹ یہاں مشرکین عرب کی حماقت اور بھالت کا ایک اور میں ثبوٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کھیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اُگایا ہے اور وہ مولیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے۔ اور اسے غربوں، مسکینوں اور محالوں کے لیے خرچ کرتے اور کچھ بیتوں کے نام کا حصہ نکالتے تھے اور اسے ان کے چواریوں پر صرف کرتے تھے۔ یہ بھی کچھ کم حماقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حصہ کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے ان بے جان بیتوں کا بھی حصہ نہ کمال جاتے لیکن اس سے بھی بڑھ کر حماقت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ کا پھل زیادہ ہوتا یا جانور موتا تازہ ہوتا تو اسے بیتوں

مِنَ الْحُرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ

جو پیدا فرماتا ہے فضلوں اور ملبوشیوں سے مقررہ حصہ اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے خیال میں اور

هَذَا الشَّرُّ كَائِنًا فَمَا كَانَ لِشَرٍ كَائِنَهُمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ

یہ ہمارے شرکیوں کے لیے تو وہ (حصہ) جو ہوان کے شرکیوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو اور

مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شَرٍ كَائِنَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۱۳۵

جو (حصہ) ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکیوں کو۔ کیا ہی بڑا فیصلہ کرتے ہیں

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شَرٌّ كَوْفُودٌ

اور یونی خوش نہ بنا بنا دیا ہے بہت سے مشترکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شرکیوں نے

لِيُرْدُ وَهُمْ وَلِيَلِسُوْأَعْلَيَهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

تاکہ ہلاک کر دیں اخین اور مشتبہ کر دیں اُن پر اُن کا دین^{۲۴} اُنکے لئے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا

کے نام منقول کر دیتے۔ اور اگر یقتوں کا حجہ اپنے ہوتا تو اُسے اللہ تعالیٰ کے نام منقول نہ کرتے۔ ساء ما يحكمون سے یہ بتایا کہ ان کی بجهالت اور حماقت کا کیا تھا کہ اگر ہم عما لاک اور خالق سے اس کے حصے میں تو آتے رہی چیز اور جن کا کوئی عمل دخل نہیں اُن کو ملے گئے اور بہترین چیز۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی ہے۔

۲۴ ایساں شرکیوں سے مراد وہ شیاطین (جن و انس) ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشترکین اللہ تعالیٰ کی نافدی اور اس کی معصیت کو ادا کرتے تھے اور ایسے قبیح افعال اور جاہل نہ اعمال کے مرتكب ہوتے تھے جن کو عقل صبح کبھی گوارا نہ کر سکتے اور جن کی قباحت میں ادنیٰ درجہ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو بہت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں بُنلا ہوتے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے۔ اور اولاد جن کے ساتھ ہر جاندار کو فطرۃ مجتہ ہوتی ہے۔ شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا اُنھوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ (خزانۃ العرفان حضرت صدر الافق افضل)

فَعَلُوهُ فَلَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ آنْعَامٌ وَّ

نذر کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اخیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں اور بولے ۲۴۶ یہ مولیشی اور

حَرْثٍ حَجَرٍ لَا يَطْعَمُهَا الْأَمَمُ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَآنْعَامٌ حُرْمَةٌ

لکھتی رُکی ہوتی ہے کوئی نہیں کھا سکتا اخیں سوات کے جسم چاہیں (ایبیات) اپنے گمان سے (کہتے ہیں) اور بعض مولیشی

ظُهُورُهَا وَآنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ

ہیں، حرام ہیں جن کی پیشیں پسواری کے ریبے اور بعض مولیشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے نما خدا ان (کی فتح پر) (یہ ب محض افترا ہے اللہ پر

سَيَّرَجُزُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهِنَّ

عنقریب سزا فے گا اخیں جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے اور بولے ۲۵۱ جو ان مولیشیوں کے شکموں

الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذِكْرِ كُورِنَا وَهُرَمٌ عَلَى آذُوا جَنَاحَهُ وَإِنْ يَكُنْ

میں ہے وہ زرا ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر اور اگر وہ

سلکے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا۔ لیکن سمجھت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادہ سے حق کو قبول کرے یا اسے رد کرے۔ اسے مجبور شخص بتا کر انسانیت کی مندرجہ فیض سے جمادات کی پستی میں چینک نہ دیا جائے۔

۲۴۷ مشرکین اپنی طرف سے باقیں گھٹتے اور پھر اخیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے اور انہیں گھڑت باقیں پر عمل اس طرح کرتے جیسے یہ کوئی تباہ کار ثواب ہو۔ مثلاً وہ کہتے کہ یہ حصہ جو بتوں کے لیے مخصوص ہے اس کا عالم استعمال عالم ہے۔ اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ مثلاً یہ کہ بخت خانہ کے پچاری یا مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں اور وہ پر اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جانور اخنوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے ان پر سوار ہوتے کو حرام سمجھتے۔ اور جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز نہ سمجھتے۔ اور ان من گھڑت خرافات کے متعلق دعویٰ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے۔

۲۴۸ ان کفالت کی متحملہ بہالتوں میں سے ایک مروجہ جہالت یہ بھی یقینی کہ بعض جانوروں (سامبہر اور بکیرہ) کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں (دودھ یا بچہ) بوجوچھہ ہے اس کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہے اور جانوروں کے لیے

مَيْتَةً فَهُمْ فِيهَا شُرُكَاءٌ وَسَيَجِزُّونَهُمْ وَصُفْحَهُمْ مِنَ اللَّهِ حَكِيمٌ

مراہ تو (پیدا) ہوت پھر وہ سب (مردوزن) اس میں حصہ ارہیں۔ اللہ علی بدل دے گا انھیں ان کے اس بیان کا۔ بے شکوہ تجھش اللہ

عَلِيهِمْ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًاٰ لَغَيْرِ عِلْمٍ

علم و الابد ہے۔ یقیناً نقصان اٹھایا جھنوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے ۱۶۴

وَحَرَّمَ مَا مَارَ زَقْهُمُ اللَّهُ افْتَرَأَهُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا

اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انھیں اللہ نے بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر بے شکوہ گراہ ہو گئے اور نہ تھے دُہ

مَهْتَدِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوفَاتٍ

ہدایت پانے والے اور دُہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں ۱۶۵ ان باغات کچھ چھپر وں پر پڑھاتے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ حَتَّى لَفَّا أَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ فَتَسَابَاهَا

اور بھجوں اور کھیتی الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی اور زیتون اور انار (جو شکل میں) ایک جیسے

حرام اور اگر اسی جا لور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ مرد وہ اور حور توں سب کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقرۃ
انھیں ان خرافات کی سزا دی جائے گی۔

۱۶۵ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ اپنے دہم دگان سے قانون بنانا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام
سمجھنا انسان کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

۱۶۶ اللہ تعالیٰ کی تجھیت بالغہ اور قدورت کاملہ کا اندازہ لگانا چاہو تو عالم نباتات میں ہی غور کرو۔ یہ مختلف قسم کے لذیذ
پھل، یہ اُونچے اُونچے بھجوں کے درخت، یہ لمبھاتے ہوئے تھبیت جن کی اقسام کاشمار نہیں ہو سکتا جو کہیں رنگ اور
شکل میں ایک دوسرا سے ملتے جلتے ہیں تو بُو اور ذائقہ میں الگ الگ ہیں۔ ایک انار کو لجھتے۔ غلاف کے اندر
متعدد خانے ہیں جیسیں ابریشم سے بھی نرم پردوں سے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ ہر خانہ میں عقین سے بھی زیادہ چک دال
وانے بڑی اختیاط سے پیٹ کر رکھ دیتے گئے ہیں۔ ہر دانہ اپنے رنگ، ذائقہ میں ایک مکمل وحدت ہے۔ یہ سب کچھ
غیر معموم انداز میں بیان کر رہا ہے کہ ان کو رنگ و بو اور ذائقہ اور لذت عطا فرمائے والا بہت بڑا حکیم اور قادر فرشتے
ہے۔

وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُّ أَصْنَافِ شَرَرٍ إِذَا آتَهُ رَأْوَاهَقَةٌ يَوْمَ

اور (ذا فقیہ) مختلف - کھاؤ اس کے بچل سے جب وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق ہے جس دن

حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ^{٤٢} وَمِنَ الْأَنْعَامِ

وہ کٹے اور فضول خرچی نہ کرو ^{۲۹} لے بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو اور پیر افراد سے بعض بیشتر

حَمْوَلَةٌ وَفَرِشَانًا كُلُّ وَمَهَارَزَ قَكْمَرُ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا خَطُونَ

بوجھ اٹھانے والے اور بعض زین پر لٹا کر فبح کرنے کے لیے کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تھیں اللہ تعالیٰ نے اور نہ پیروی کرو

۲۸ ان بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مُراد عشرہ ہے یعنی جو کھتی وغیرہ بارش سے سیراب ہو اس کا دسوال حصہ اور جس کی نہ ریکنوئیں وغیرہ سے اپاٹشی ہو اس کا بیسوال حصہ (جس کی قصیل کتب فقیہ مذکور ہے) اور بعض نے فرمایا کہ یہ آیت کہ مکر مہمہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت سے نفعی صدقہ مُراد ہے۔ دیرید بہ ماکان یتصرفت بہ یوم الحصاد لا الزکوة المقدرة لانها فرضت بالمدینہ والایہ مکیۃ وقبل الزکاۃ والایہ مدنیۃ ^(بیضاوی)

۲۹ اسراfat اور فضول خرچی ہر طرح کی منوع ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ فقراء اور مساکین کو دیتے وقت بھی میانہ روی کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور ایسا نہ کرو کہ ہر چیز لٹا کر خود دوسروں کا دست نگر ہو جائے۔ توجب اسلام نے کار خیر میں فضول خرچی سے منع کیا ہے تو دوسروں کاموں میں فضول خرچی کو کب بروادشت کیا جاتے گا۔

۳۰ عالم نباتات میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی آیات بیتاں کا ملاحظہ کرانے کے بعد اب حق کے متلاشی کی توجہ مختلف یہوانات کی طرف مبذُول کرائی جا رہی ہے۔ حمولہ سے مُراد وہ بڑے بڑے جانور ہیں جو سواری اور بوجھ لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاتھی، گھوڑے، اُونٹ وغیرہ اور فرش سے مُراد وہ جانور ہیں جنہیں فرش پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے یا دودھ دوایا جاتا ہے۔ و قال ابن زید الحمولۃ ما يركب والغرض ما يوعک لحمه و يحدب (قطبی) ہر جانور کی شکل و صورت، قد و قامت خوارک اور عادات بالکل جدعاً جدعاً ہیں۔ اپنی لے پناہ وقت اور اجڑپن کے باوجود ادھیں انسان کا مطبع بنادیا گیا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اٹھا کر دُور دراز نئی مسافتیں تک لے جائیں۔ اور اس کی ہر طرح کی غلت بجالا تین۔

الشَّيْطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ^(٤٤) ثَمَنِيَةً أَزْوَاجٍ مِّنَ الظَّانِ

شیطان کے قدموں کی بے شکوہ تھمارا کھلاؤ شمن ہے (پیدا فرمانے) اے آٹھ بوڑے بھیڑ سے

اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ عَالَّٰٰنَ كَرِيْنَ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ

دو (زرو مادہ) اور بکری سے دو (زرو مادہ) آپ پوچھتے کیا دونوں زرے حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں

أَمَا اسْتَمَكْتُ عَلَيْكُ أَرْحَامَ الْأُنْثَيَيْنِ نَسْوَتِيْنِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ يَأْتِيْسَ يَلْيَتْ بِيْتَ بِيْتَ

یا بھسے پلے ہوتے ہیں (اپنے اندر) دو مادائیں کے رحم بناؤ مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم

صَدِّقَيْنَ^(٤٥) وَمِنَ الْأَبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ

پچھے اور اونٹ سے دو (زرو مادہ) اور گائے سے دو (زرو مادہ) آپ پوچھتے

عَالَّٰٰنَ كَرِيْنَ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَكْتُ عَلَيْكُ أَرْحَامَ

کیا دونوں زر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا بھسے یا ہوتے ہیں (اپنے اندر) دو مادائیں

۱۸۴ فعل مضمرا نشا کا مفقول ہے اور اخفش کے نزدیک یہ حمولۃ کا بدل ہے اور اس لیے منصوب ہے اور بعض نے "کلوا" غفرم کا اسے مفقول بنایا ہے (قرطبی) ضان بھیڑ کو کستے ہیں جن پر اون ہوتی ہے۔ ذات الصوف من الغنم یہ جمع ہے اور اس کا واحد ضامن ہے اور موئث ضامنہ ہے اور بعض کے نزدیک الضان ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں اور معز بکری وہی ذات الاشعار من الغافر۔ یہ جمع ہے اور اس کا واحد ماعز ہے۔ اور اس کا موئث ماعزہ ہے۔ (قرطبی)

۱۸۵ جانوروں کی حدت و حرمت کے متعلق کفار اعراب میں یوجاہلۃ طریقہ راجح تھا اس کا بطلان کیا جا رہا ہے اور ان سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے ان میں حرمت آئی کہاں سے؟ کیا اس لیے بغیض حرام سمجھتے ہو کہ وہ نہیں یا اس لیے کہ وہ مادہ ہیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تمام نریاتاں مادائیں حرام ہوئی چاہئیں۔ بعض نزوں کو حلال اور بعض کو حرام بعض مادائیں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے اور یا ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مادوں کے شکمیں میں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر زار مادہ کی تخصیص بھی بیکار ہوتی۔ پھر تو ہر جانور حرام ہونا چاہیے خواہ نہ ہو یا مادہ کیونکہ ان میں سے ہر ایک شکم مادوں میں رہا ہے۔ اور اگر ان کو حرام کرنے کی کوئی دلیل تھا اسے

الْأَنْثِيَّنِ أَمْ كُنْتُمْ شَهِدَآءَ أَذْوَضْكُمُ اللَّهُ هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ

کے رحم - کیا تم تھے موجود جب وصیت کی متعین اللہ نے اس بات کی تو اس شخص سے زیادہ غلام

مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضْلِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ

کون سے جو بتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا تاکہ مگر اہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے بے شک ایسا اللہ تعالیٰ

لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۝ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْرَحَ لِي

ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے آپ فرمائیے میں نہیں پاتا ۱۸۳۴ء اس (کتاب) میں جو وحی کی تھی

حَرَّمَ عَلَى طَاعِمٍ لِطَعْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

ہے میری طرف کوئی پیزیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے مگر یہ کہ مردار ہو یا (لوگوں کا) بتا ہوا خون

پاس نہیں تو پھر یہ لکھنا ظلم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو حرام بناتے ہو۔

۱۸۳۴ء اس آیت کا مضمون بارہا پہلے گزر چکا۔ اس لیے قارئین مزید وضاحت کے لیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۶ ا

کے حاشیہ کی طرف رجوع کریں۔ البتہ یہاں ایک چیز وضاحت طلب ہے۔ وہ یہ کہ ظاہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ

الله تعالیٰ نے صرف ان چار پیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی پیزیز حرام نہیں۔ حالانکہ ان کے علاوہ

کثیر المعدود ایسی پیزوں میں بھی حرام ہیں مثلاً شراب، درندے وغیرہ۔ اس ضمن میں فشرین کرام نے بڑی طویل بخشیں کی

ہیں۔ ان کا حامل یہ ہے کہ یہ آیت جہوڑ کے نزدیک منکری ہے اور دوسرا اشیاء کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تو

اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی ہوتی ہے اس میں صرف ان چار پیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے

اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا اور مناسب اوقات پر حکم اللہ سے اور پیزوں حرام ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دارہ سے چیز کر کھانے والے جانور اور پیجوں سے فوج کر کھانے والے پر نہیں

کو حرام کر دیا۔ واکل کل ذی ناب من السیاع حرام (حدیث) و نہی عن اکل کل ذی مخلب من الطیب

(مسلم) چنانچہ علامہ قطبی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مبنیہ دوسرے اقوال کے یہ بھی لکھتے ہیں:- ای لَا

اجد فی مَا وَحْيَ ای فی هذہ الحال حال الوحی وقت نزولہ ثُرُلَا یمْتَعْ حَدَّ وَحْيَ بعد

ذلک بتحریر اشیاء اخیر۔ (قطبی)

أَوْلَمْ يَرْجُسُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ بِهِ فِينَ

یا سور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گند ہے یا جو نافرمانی کا باعث ہو (یعنی) وہ جاؤ بس بربز کے دفت بلند کیا جائے غیر عاد کا نام ۱۸۷ میں پڑھو

إِنْ هُنَّ أَخْلَقُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَلَا عَادُوا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

شنس لچاہ ہو جائے نہ نادمنی کرنے والا ہو اور نہ تجواد کرنے والا ہو (حدیث رستے) قوبے شکر کی رہ بہت بخشندہ والا ہوتے ہم فرمانے والا ہے اور

الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَ مِنَ الْأَكْلَ ذِي طَفْرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنِمِ

ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے ہم اکر دیا ہر ناخن والا جانور اور گاتے اور بکری سے ہم نے

حَرَمَ مِنَ الْأَكْلِ شُحُومُهُمْ إِلَّا مَا حَمَلُتُ ظُهُورُهُمْ أَوْ الْحَوَابَا

حرام کی ان پر دونوں (گاتے بکری) کی پچری مگر بُوٹھا رکھی ہو ان کی پُشتوں یا آنتوں نے

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزَءٌ يَنْهَا بِغَيْرِهِمْ وَ إِنَّا لَاصِدِّقُونَ

یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ یہم نے سزادی تھی ایکیں بسبب ان کی کرشمی کے ۱۸۵ اور یقیناً ہم سچے ہیں

فَإِنَّ كَلَّ بُوكَ فَقْلُ رَبِّكُمْ ذُرْ رَحْمَةً وَ اسْعَلِي وَ لَا يَرِدْ بَاسَةً

پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو ۱۸۶ تو آپ فرمائیے تمھارا پروردگار کشاہ رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جاسکتا اس کا عذاب

۱۸۷ آیت کے اس حصہ کی مکمل تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے صیام القرآن سورہ الخل کی آیت ۱۱۵

۱۸۷ کسی پیزیر کو حرام کرنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ پیزیر جسمانی یا روධانی طور پر مضر ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کے

اثرات بدستے بجا لئے کے لیے اس کا استعمال منوع فرار دے دیا جاتا ہے جس طرح وہ پیزیریں جن کا ذکر پہلی آیت ہیں گزر یا بطور سزا کی شخص یا قسم کو ایک پیزیر کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے یہاں اسی قسم کی پیزروں کا ذکر ہو رہا ہے جو یہود پر بطور سزا حرام کر دی تھیں چنانچہ آیت کے یہ کلمات ذلیک جزءیہم بیغیرہم و صراحتہ تمارے ہیں۔

۱۸۸ جب نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور متعدد محرمات اور آیات بیانات سے اپنی صداقت کو روز روشن کی طرح ان پر عیاں کر دیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اس کے بعد بونص بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب

پر ایمان نہ لانا اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کے طفیل یہ اب تک محفوظ چلے آتے ہیں اگر انہوں

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦﴾ سَيَقُولُ الدِّينُ أَشْرَكُوا لِوْشَاءَ اللَّهِ

اس قوم سے جو جرم پیشہ ہو اب کہیں گے جھوٹ نے شرک کیا اگر چاہتا تھا اللہ تعالیٰ

مَا أَشْرَكُنَا وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَذَبَ كَذَبَ

تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپاں اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ ایسا ہی بھٹکایا تھا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَاطِ قُلُّ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ

انھوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ چکھا انھوں نے ہمارا عذاب۔ آپ فرماتے ہیں تھامے پاس کوئی

نے ان ہمدرت کے لمحوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور کھروی سے باز نہ آئے تو انجام کار اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اس وقت کوئی ان کو عذاب خداوندی سے بچانے سکے گا۔

۱۸۷ سبقہ آیات میں کفار کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی۔ نیز اشیاء کی حلت و حرمت کے متعلق ان کی جاہلۃ الرسموں کی خرابیوں کو ظاہر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں ان کے ایک شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ ہم اور ہمارے آباء اجداد مدت ہائے دراز سے شرک کرتے چلے آتے ہیں۔ اور جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق اس قانون کے پابند رہتے ہیں۔ اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتیں تو وہ کبھی ایسا نہ کر سکتے۔ ان کا یوں کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے

کہ یہ شرک وغیرہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ان کا یہ شبہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے داذا

فَلَوْاْ حَشَّةً قَالُواْ جَدْ نَاعِلِيَّهُ اَبَاءَ نَادَاهُ اَمْرَنَا بِهَا قَاتَلَ اَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تَقُولُونَ

علی اللہ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۲۷) اللہ تعالیٰ شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے اس کرتے ہیں کہ اگر تھامہ یہ بات درست ہو تو کہ تھامہ سے شرک اور تحلیل و تحریم کے اس رواج کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی سند حاصل ہے تو چاہیے یہ تھا

کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا پیغم لطف و کرم ہوتا۔ حالانکہ تم سے پہلے جھوٹ نے اس گمراہی کو اپنایا ان پر خصیب اللہ ہوا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تم خود غور کرو۔ ایسی سعین سزا مجرموں اور نافرماں کو دی جاتی ہے یا

اطاعت شعاروں اور فرمان برداروں کو۔ بعض علماء نے کفار کے اس شبہ کی تقریر دوسری طرح کی ہے یعنی کفار کہیں گے کہ ہم تو بے اختیار اور جھوکر تھے۔ اللہ کی مشیت ہی یعنی کہ ہم کفر و شرک کے مرتکب ہوں۔ ہماری کیا محال بھی کہ اس کی

مشیت کی خلاف ورزی کرتے۔ چنانچہ سورہ الخل میں انھوں نے اپنے جھوک حضن ہونے کا صراحتہ اعتراف بھی کیا ہے۔ و قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْشَاءَ اللَّهِ مَا عَبَدُوا نَمَنْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ (۱۴: ۳۵) اور سورہ الزخرف میں ہے

وَقَالُوا لِوْشَاءَ الرَّحْمَنَ مَا عَبَدَ نَاهِرٌ۔

عَلِمْ فَتَخْرُجُوهُ لَنَا إِنْ تَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَتْتُمُ إِلَّا

علم ہے تو نکالو اسے ہمارے پیسے ۱۸۸ تم نہیں پیری کرتے مگر نہ سے گمان کی اور نہیں ہو تم مجرم

تَخْرِصُونَ^(۱۹) قُلْ فَلِلَهِ الْحِجَةُ وَالْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدِّكُمْ أَجْمَعِينَ

اٹھکیں مارتے ہو آپ فرمائیے اللہ ہی کے پیسے کامل دلیل ہے ۱۸۹ سوا کروہ چاہتا تو پیدایت فرماتا تم سب کو ۱۹۰

قُلْ هَلَمَ شُهَدَ أَعْلَمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا

آپ فرمائیے لا و اپنے گواہ جو گواہی دیں ۱۹۱ کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے

۱۸۸ اے میرے رسول! آپ ان سے پوچھئے کہ تم جو کچھ کہ رہے ہو اس کے متعلق اگر تمھارے پاس کوئی علمی دلیل یا قابل اعتماد سند ہے تو پیش کرو۔ باری تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں جوان کے خرافات کی اساس ہو۔ ان کے عقائد کا یہ ڈھانچہ صرف وہم و گمان اور ظن و تھیں کی پیداوار ہے۔

۱۸۹ اے یعنی اللہ تعالیٰ تمھیں قبول حق کے لیے مجبور نہیں کرتا بلکہ دلیل و وجہت سے تمھیں دعوت دیتا ہے کہ تم حق اور صداقت کو قبول کرو اور اس نے تمھیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہے تو حق کو قبول کرو چاہے باطل کو اپنالو۔

۱۹۰ اے یعنی اس کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ وہ تم میں بُرا فی اور مگر ابھی کی استعداد ہی نہ رکھتا۔ تم اپنی سرشست کے لحاظ سے فرشتوں کی طرح صرف عبادت اور اطاعت ہی کرتے۔ یا تم ارادہ اور شعور سے محروم پیدا کیے جاتے اور بلا ارادہ اور غیر شعوری طور پر تم سے نیکیاں سرزد ہوتیں لیکن حکمت الہی کا تلقاضا یہ تھا کہ انسان شجو و جوہر کی طرح مجبور شخص بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح فطری اعتبار سے فقط نیک اور پاکباز ہی نہ ہو بلکہ تمام سابقہ تحلیقات سے ایک افسوسی چیز ہو۔ استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے نیکی اور بُرا فی دونوں اس سے سرزد ہو سکتی ہوں اور شعور و ارادہ کے اعتبار سے اسے مکمل آزادی ہو کہ جو راستہ چاہے اسے منتخب کر لے۔

۱۹۱ اے جیسے! انھیں فرماؤ کہ اگر تمھارے پاس اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا کوئی گواہ ہے تو اُسے میدان میں لے آؤ۔ جب تمھارے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے تو پھر ان بے سر و پا خرافات سے چھپتے رہنے پر کیوں بے جا ضذر کر رہے ہو۔ ہم کا لفظ اہل حجاز کے نزدیک واحد، جمع، مذکور اور موئیث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسٹوی فیہ الواحد والجماعۃ والذ کر والانٹی عند اهل الحجاز (قرطبی)

فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبَعَّهُمْ أَهُوَ أَمَّةُ الَّذِينَ كَذَّبُوا

پھر اگر وہ (مجھوں) کو ابھی دے بھی میں ۱۹۲ تا آپ کو ابھی دیجئے ان کے ساتھ اور نہ تم پیری وی کرنا ان کی خواہشوں کی جھنوں نے مجھلا یا

بِأَيْتِنَا وَالَّذِينَ لَا يَوْمَنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ حَمِيمٌ لَوْلَى

ہماری آیتوں کو اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر اور وہ پسند ربت کے ساتھ (دوسریں کو) برابر بھیڑاتے ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ

آپ فرمائے اور ۱۹۳ یہ میں پڑھ ساواں جو کچھ حرام کیا ہے تھا اسے رب نے تم پر (وہ یہ کہ نہ شرکیے بناد اس کے ساتھ کسی حیز کو اور

بِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَنَحُونَ

ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی (کے خوف) سے۔ ہم

نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

رزق دیتے ہیں تھیں بھی اور انھیں بھی اور مت نزدیک جاؤ بے حیان کی بالوں کے ۱۹۴ جو ظاہر ہوں ان سے اور جو

۱۹۴ یعنی ان سے شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دے دیں تو اس کو تسلیم کر لیا جاتے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے انش مندا و دیانت دار طبقہ کو ان کی جاہا لہ رسموں کی بے ہودگی پر آگاہ کیا جاتے کیونکہ جب ان سے ان رسوم کی صداقت کے لیے شہادت طلب کی جاتے گی تو شہادت دینے سے پہلے احسان فتمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ان نوں میں بڑی سختی کے سے غور و فکر کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان پر ان چیزوں کی بے ہودگی آشکار ہو جاتے گی اور وہ ان سے خود بخوبی ادا جائیں گے لیکن اگر انھوں نے نشرافت و دیانت سے اپنا رشتہ توڑھی لیا ہے اور ایک غلط اور باطل حیز کی جان پوچھ کر شہادت دینے پر نہیں ہوتے ہیں تو ان کی شہادت آپ کے لیے صحیح نہیں۔

۱۹۵ ان آیات کے مت لحق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں اور ان میں آسمان ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا اپنی امتیوں کو حکم دیا۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور کو حرام کیا گیا ہے۔ (۱) شرک (۲) ماں باپ سے بدسلوکی (۳) فقر و تغلقی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا (۴) هر قسم کی بے حیانی کے کام خواہ لوگوں کے سامنے کیے جائیں یا پچھپ کر (۵) کسی کو ناجائز قتل کرنا۔

۱۹۶ فواحش اُن اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حدود رجرا فتح ہوں۔ الفاہشة ماعظمه قبحه من الافعال والاقوال (مفروض)

بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ

بچھی ہوئی ہوں اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے بیہیں وہ باتیں

وَلَضْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ^{١٩٦} وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا

حکم دیا ہے تھیں^{١٩٥} اللہ نے جن کا تاکہ تم رحمیت کو سمجھو۔ اور مت قریب جاؤ^{١٩٦} یتیم کے مال کے لکر

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی یوائی کو پہنچ جاتے اور پورا کرو^{١٩٧} ناپ اور توں

بِالْقُسْطِ لَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا

اصفات کے ساتھ ہم نہیں تکیفت دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ اور جب کبھی بات کہوتا انصاف کی کو

یہاں کسی ایک بُرا تی سے منع نہیں کیا گی بلکہ فواحش، جمع کا لفظ ذکر کے لئے ہر قسم کی قولی اور فعلی بُرا یتوں کے لیکھا سے نہیں

بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے منع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہیں

مثلاً فحش کا نہیں، ننگی تصویریں اور غلیظ الطیر سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ماہظہر منہا و مابطن کے

کلمات سے اس حکم کو اور ویسیح کر دیا کہ فاحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت میں منوع ہے۔

^{١٩٥} مذکورہ بالا احکام کی اہمیت کو جانتے کے لیے فرمایا کہ یہ وہ مقتم باشان و ایشان ہیں جن پر عمل پیرا ہوئے کا حکم ہے ان

اور ہمہ بین رب نے تھیں دیا ہے۔

^{١٩٤} ابھی احکامات کا سلسلہ شروع ہے۔ اس آیت میں یتیم کے مال خرُود بُر دکرنے سے منع کیا اور حکم دیا کہ ان کو اس طرح

کاروبار میں لگا وجس یتیم کو فائدہ ہو اور ان کا اس طرح نظم و سبق کر دو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور جب وہ صاحب عقل فرم

ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالہ کرو و "اشد" سے مراد صرف بلوغ نہیں بلکہ بلوغ اور مال کو صحیح استعمال کرنے کی مشجوہ بوجہ

دو نوں مراد ہیں۔ کیونکہ اگر بالغ ہوتے ہیں اس کامال اس کے حوالہ کر دیا تو وہ اپنی نسبتی اور تابعیت کا راستہ کی وجہ سے اس کو

برداور کر دے گا۔ فلومک ایتیم من مالہ قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوۃ لاذ ہبہ فی شہوانۃ

و بقی صعلوکا لاما ل له (قرطبی) اور حضرت امام صاحبیج کے نزدیک اس کی حد پھیس سال ہے۔

^{١٩٧} کاروبار میں انتہائی دیانت داری اور راست بازی کا حکم دیا جا رہا ہے۔

لَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اگرچہ ہو (معاملہ) رشتہ دار کا ۱۹۸۵ء اور اللہ سے کیے ہوتے وعدہ کو پورا کرو ۱۹۹۰ء یہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تھیں تاکہ

تَنْكِرُونَ لَا وَآتَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا

تم تصحیح قبول کرو اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا تھا سواس کی پیری کرو اور نہ پیری کرو

السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذِلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اور راستوں کی (دورنہ) وہ جدا کر دیں گے تعیین اللہ کے راستہ سے۔ یہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تھیں جن کا تاکہ تم

تَتَقْوُنَ ۝ ثُمَّ اتَّبَعْنَا مُؤْمِنَي الْكِتَابَ تَسَاءَلَّمًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ

متقی بن جاؤ پھر ۲۰۱ عطا فرازی، ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب تاکہ پوری کر دیں نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں

۱۹۸ عدل و انصاف کی تائید میں کی جا رہی ہے کہ خواہ بخارے قربی رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو میزان عدل میں
جھکاڑوں مانہ ہو۔

۱۹۹ اسلام قبول کرتے وقت انسان جس کا مل اطاعت خداوندی کا پختہ وعدہ کرتا ہے اس کو پوری طرح بناہئے کا ارشاد ہو
رہا ہے۔ مذکورہ بالادو آیتوں میں زندگی بسر کرنے کے جواز وال اصول بیان ہوتے ہیں مسلمانوں نے جب تک ان اصولوں

کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا اور سچے دل سے ان پر کاربند رہے تو ان کی سرسوری کا ذکر چاروں اہمگ عالم میں بخارا ہے۔ اور جب
سے ہم نے ان حیات بخش اصولوں سے بے اقتنا تی برتنی شروع کی اس وقت سے زوال و ادب کا چکر شروع ہوتا۔ خدا معلوم

کب ہماری حیثیم ہوش کھٹکی۔ اور وہ روزِ سعید کب طلوع ہو گا جب ہم قرآن بدایت پر عمل پر ایک شاہرا و ترقی پوکا مزن ہوں گے۔
۲۰۰ تھوڑوں کی ریم کار استہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس معلوم ہوا کہ حضور پیغمبر ﷺ کو تم کی فرمان برداری ہی وہ اساس محکم ہے
جس پر اتحاد ملت کا ایوان تعمیر ہو سکتا ہے اور جب بھی یہ اساس متزلزل ہوگئی۔ اس کے بعد ملت کے انتشار کو دو رکنے کی

کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ ذرا غور فرمائیتے بلت کے وہ بھی خواہ اور خیر اندیش جن کی ساری علیٰ قوبیں اور عملی کاوشیں
سُنْتَتْ بُوْيٌ كومٹانے پر صرف ہو رہی ہیں وہ دالستہ یانا و النستہ طور پر بلت کی کبنتی بڑی بد خواہی کر رہے ہیں۔

۲۰۱ شرعاً عاطفہ ہے اور اس کا عطف وصالکو پر ہے کیونکہ ان امور کی وصیت ہر امت کو اس کے بنی کے ذریعہ کی
گئی ہے اس لیے یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وصیت تواب کی جا رہی ہے۔ اور توارات کو نازل ہوتے صدیاں گزر چکی
ہیں۔ حالانکہ شعر راخی کے لیے ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اولادِ آدم! اپنے تھیں ان ہدایات پر عمل پر ایہو نے

وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَمَّومٍ بِلِقَاء رَبِّهِمْ

اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی اور (یہ کتاب) باعثِ ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے

يُؤْمِنُونَ^{۵۴} وَهُدًى أَكْتَبَ إِنَّا نَزَّلْنَاهُ مُبَرِّكًا فَاتِّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَذَابَ كُمْ

پر ایمان لاتین ائمہ اور یہ (قرآن) کتاب ہے ۳۰۴۷ ہم نے آتا رہے اسے، بابرکت ہے سو پیروی کرو اس کی اور ڈر و اللہ سے تاکہ

تَرْحُمُونَ^{۵۵} أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ

تم پر حم کیا جائے (ہم نے اسے آتا رہے) تاکہ یہ نہ کوہ کم اتری گئی بھی کتاب تو صرف دو گروہوں پر ہم سے

قَبَلَنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ^{۵۶} أَوْ تَقُولُوا لَوْا أَنَا

پہلے ۲۰۲ اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے یا یہ نہ کوہ ۳۰۴ کہ اگر

کی صحیت کی گئی اور اس پرمذید کرم یہ فرمایا کہ تورات جیسی مفصل کتاب نازل کی تاکہ جادہ حق پر چلنے کا شوق رکھنے والوں پر اپنی نعمت کا انعام کریں۔

۲۰۳ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور سختہ ہو جائے کہ ہمیں ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہیں پیش ہونا ہے جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔

۳۰۴ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔

۲۰۴ یہاں خطابِ مشرکینِ عرب سے ہے۔ انھیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے تظیر کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز میں اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے یہ مذہب نہ پیش کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی بھی جسے پڑھ کر ہم شرک و کفر سے تائب ہوتے اور توحید کو قبول کرتے۔ اور یہ یہود و نصاریٰ پر بے شک کتابیں نازل ہوتیں لیکن یہم ان کو پڑھنے سے قاصر تھے اس لیے اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم معذور تھے۔ طائفین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

۲۰۵ اس کا عطف ساقیہ جملہ پر ہے یعنی اگر قرآن مجید تمہاری طرف نازل نہ کیا جاتا تو تم بڑی شنجی بکھارتے اور کہتے جس طرح یہود و نصاریٰ کو کتابیں دی گئیں اسی طرح اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو دنیا بھی کہم اس کو کس طرح سینہ سے لگاتے۔ کس طرح اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے۔ لوأب وہ کتاب آئتی ہے جو روشن دلائل پر مشتمل ہے۔ جو سراپا ہدایت اور محتمم رحمت ہے۔ اب اس پر عمل کرو کھاؤ۔

أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُمْ بَيِّنَةٌ

آتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ان سے بے شک آگئی ہے تھا اسے پاس روش

مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَنْظَلَهُمْ مِنْ كَذَبٍ بِإِيمَانٍ

دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت تو کون زیادہ خالم ہے اس سے ۲۰۶ جس نے مجھملیا اللہ تعالیٰ

اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا طَسَبَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِرُونَ عَنْ أَيْتَنَا

کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے عنقریب ہم سزادیں گے انھیں جو منہ مورتے ہیں ہماری آیتوں سے

سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِرُونَ ۝ هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ

بڑے عذاب سے اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے ہتھے کس کی انتظار کر رہے ہیں ۲۰۷ بجز اس کے کہ

تَاتِيهِمُ الْمَلِكِ ۝ أَوْيَ أُتِيَ رَبِّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتَ رَبِّكَ يَوْمَ

آنہیں ان کے پاس فرشتے یا خود آتے آپ کا رب یا آتے کوئی نشانی آپ کے رب کی (یہیں) جس روز

۲۰۶ تھا صرف یہی کوتاہی نہیں کہ تم خود اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اُنثام دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہو۔ تم خود ہی بتاؤ تم سے بڑا خالم اور زیاد کار اور کون ہے ؟

۲۰۷ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور گمراہی کے خلقت کردہ سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جلیل القدر رسول صمیعوٹ فرمایا۔ اس پر قرآن یعنی بے مثل کتاب نازل کی۔ طرح طرح کے محاجمات سے اس کی صداقت کو آشکارا کیا۔ اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ موت کا فرشتہ آتے اور ان کی رُوح قبض کرے۔ یا قیامت قائم ہو جائے اور خود اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر تشریف فرمایا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس کے بعد وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر واقعی ان چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا یہ انتظار لغو ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کے ظہور کے بعد وہ ایمان لے بھی آتے تو وہ قابل قبول نہیں ہو گا۔ پھر اگر انھوں نے تو بھی بھی تو وہ منظور نہ ہو گی۔ کیونکہ ایمان تو وہ مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان پر یقین کرتے ہوئے الیا جاتے۔ جب سب پر دے اٹھ جاتیں گے اور غیب شہادت میں بدل جائے گا تو اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہو گا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ اور کان پر تو اعتماد کیا اور اللہ کے رسول کا ارتضاد نہ مانا۔

يَا أَتَيْ بَعْضُ أَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ

آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لا

أَمَّنْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسْبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ

چکا تھا اس سے پہلے یاد کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ آپ (انھیں)

إِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظَرُونَ^(٦٥) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ

فرمایے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں بے شک وہ جنہوں نے تفرقة ڈالا اپنے دین میں ۲۰۸ اور

كَانُوا يُشِيعُونَ لِسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ

ہو گئے کئی گروہ (آے مجبوٹ) نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ۔ ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے

اللَّهُ شَمَّ يُنَزِّلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(٦٦) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

حولے ہے پھر وہ بتائے گا انھیں جو پھر وہ کیا کرتے تھے جو کوئی لائے گا ایک نیکی ۲۰۹

فَلَمَّا عَشْرُ أَمْثَالَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُمْجِزِي إِلَّا

تو اس کے لیے دس ہوں گی اس کی مانند اور جو کوئی کرے گا ایک بُرا نی کوئی توزہ بد لمہ ملے گا اسے مگر اس (ایک بُرا نی)

۲۰۸ اس سے پہلے دین کے غیر متبدل اصولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ و ان هذ اصراطی مستقیماً فاتی بعده

کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو۔ اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ تمہاری بھیختی ختم ہو جاتے گی تھا را

شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اپنی خود پسندی کے باعث دین کی دعائی

کو پارہ پارہ کرنے میں کوشش ہیں۔ انھیں صاف بتا دیا کہ ان سے اللہ کا رسول بُری ہے اور اس کا ان کے

ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہ ہو ان کا اسلام سے کیا تعلق باقی رہے گا۔

۲۰۹ کیا شان بندہ پروردی ہے!

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّنِي هَذِهِنِي رَبِّيَ إِلَى

کے برابر اور ان پر خلم نہ کیا جائے گا۔ آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دِينًا قِيمًا مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ

سیدھی راہ تک ۲۱۰ یعنی دین مستحکم (جو) مت ابراہیم ہے جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَ

اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اللہ اور

حَمِيَّاً وَمَهَّاً تِيَّاً لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ

میرا جینا اور میرا منا (سب) اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ نہیں کوئی شریک اس کا اور

بِذِلِّكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ

مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے ہملا مسلمان ہوں ۲۱۱ آپ فرمائیے کیا اللہ کے سرا

۲۱۰ اے عرب کے بُت پرستو! تم چاہو کسی کو اپنا معبود بناؤ۔ اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاؤ اور فسق و فجور کا بازار گرم کرو۔ میرا قم سے کوئی سروکار نہیں ۲۱۱ میں تو ثابت قدیمی سے توحید اور پاکیازی کی اُسی راہ پر گامزن رہوں گا جو مجھے میرے مالک نے دکھادی ہے۔ اور یہ کوئی نئی راہ نہیں ہے بلکہ اسی موحد اعظم حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی راہ ہے جس کی اولاد ہوئے پر تم فخر کرتے ہو جس کے بناءے ہوئے کعبہ کی خدمت لگداری سے تحراری ساری عظیتیں وابستہ ہیں۔ وہ شرک سے بیزار اور توحید کے پرستار تھے۔ تو میں توحید کو چھوڑ کر شرک لیسے اختیار کر سکتا ہوں۔

۲۱۲ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے جہاں انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میری سجدہ ریزیوں کا مقصد اور میری ہر طرح کی نیازمندیوں اور عبادتوں کا مدد عاصف اللہ تعالیٰ ہے۔ میری زندگی اور میری موت صرف اسی کی رضابوئی کے لیے ہے۔ میں اس کے ہر حکم کے سامنے سر انکنہ ہوں اور اس کے ہر فصلیہ پر راضی اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ النساٹ فی هذہ الآیۃ جمیع اعمال الطاعات (قطبی) آیت میں لفظ نساٹ سے مراد ہر قسم کے نیک اعمال میں۔ قربانی بھی اس میں داخل ہے۔

۲۱۳ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے مسلم ہونے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اپنی اُمّت میں سب سے پہلے

أَبْغِيْ حَرَّيَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ طَّوَّلَاتٌ كُسْبٌ كُلُّ نَفْسٍ

میں تلاش کروں کوئی اور رب - حالانکہ دُو رہب ہے ہر چیز کا ۲۱۷ اور نہیں کہا تاکہ کوئی شخص (کوئی چیز) مگر وہ اسی

إِلَّا عَلَيْهَا أَجَ وَلَا تَنْزُرُ وَإِنَّ رَبَّهُ وَشَرَّ أُخْرَى إِنَّمَا إِلَى رَبِّكُمْ

کے ذمہ ہوتی ہے اور نہ اٹھاتے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ پھر اپنے رب کی طرف ہی تھیں

مَرْجِعُكُمْ فِيْنَ شَكْرُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيْ لَوْ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَهُوَ

لوٹ کر جانا ہے تو وہ بتائے گا تھیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور وہی سے

آپ اللہ تعالیٰ کی وحدائیت پر امیان لاتے اور آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی دعوت سے اس شرف سے مشرف ہوئی اور یا اولیت سے مراد اولیت ہتھیقیہ ہے کہ سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان اتم ہمارے آفاؤ ولا مخلود رسول اللہ کو ہوا کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے حضور نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی۔ قال قاتدہ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت اول الابدیاء فی الخلائق وآخرهم فی البعث (قطبی) یعنی قاتدہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری تخلیق تمام انبیا سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد۔ انه اول الخلائق اجمع (قطبی) یعنی حضور کی پیدائش سب مخلوق سے پہلے ہوئی۔ اور مولا ناعشاں نے بھی اسی قول کو پسند فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں : عموماً مفسرین دانوا اول المسلمين کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمين ہیں لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث کنت بنیا و آدم بین الرزح والجسد زمین اُس وقت بھی بنی تھاجب آدم ابھی رُوح وجسد کی درمیانی منزليں طے کورہ ہے تھے) کے موافق آپ اول الانبیا ہیں تو اول المسلمين ہونے میں کیا تشبیہ ہو سکتا ہے (حاشیہ)

۲۱۷ لفاظ مکملہ تضخیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بارہا کہا کرتے کہ آپ ہمارا دین قبول کریجیتے اور ہمارے خداوں کی پرستش شروع کر دیجیتے اور اگر دنیا و آخرت میں آپ کو کوئی گزند پہنچ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان احمدقوں سے کہیے تم کتنے بے وقوف ہو۔ کیا میں اس پر ورد گار کو چھوڑ کر جو میرا بھی رب ہے اور کائنات کی ہر چیز کا بھی خاقان و مالک ہے کسی اور کو اپنارب بنالوں۔ تھا را یہ شیوال لکنا احتمانہ ہے اور تھا را یہ کہنا بھی لغو ہے کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھان پڑے گا کسی کے بد لے دوسرا نہیں پکڑا جاتے گا۔

الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

بص نے ۲۱۲ بنایا تھیں (اپنا) خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر

دَرَجَتٌ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ

درجوں میں تاکہ آزادتے تھیں اس پیغام میں جو اُس نے تھیں عطا فرمائی ہے بے شک آپ کارب بہت جلد سزا دینے والا ہے

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور بے شک وہ بہت بخششے والا ہمیشہ حم فرمائے والا ہے

۲۱۲ جس رب کے حصوں میں سجدہ رہنے والوں وہ مولائے برحق ہے جس نے تھیں گزری ہوتی اُمّتوں کا قائم مقام بنایا۔ قوت، علم، دولت اور دُوسری باتوں میں بعض کو بعض پر فریقی دی۔ اور ان ساری سرفرازیوں کا مقصد یہ ہے کہ تھماری آزمائش کی جاتے کہ تم اپنے منفعت حلقہ کی کس طرح شکر گزاری کرتے ہو۔ اور بعوقت، بعّت، دولت اور صحت و بیوانی اس نے تھیں عطا فرمائی ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ اگر وہ چاہے تو پشم زدن میں تم کو عذاب میں گرفتار کر دیں لیکن اس کی رحمت اور مغفرت بھی بے انداز ہے۔ اگر تم عمر بھرنافرمائی اور سرکشی کرنے کے بعد لشیان اور نادم ہو کر اس کے درِ رحمت پر حاضر ہو جاؤ تو وہ تھمارے عُمر بھر کے قصور بخش دے گا اور اپنی رحمت سے تھیں مالا مال کرفے گا۔